

تَسْبِيحُ الْحَمْدِ لِلَّهِ

شرح آردو و جلالین شریف



مکاتیب آغا محمد علی

مدرسہ اسلامیہ، لاہور

کتاب خانہ نعیمی دہلی

تسہیل الجلائین

(شرح اردو جلائین)

مولف

حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی

ناشر

مکتبہ ضیاء الکتب، خیر آباد، ضلع منو (یوپی)

پن کوڈ: 276403 موبائل: 9235327576

تفصیلات

نام کتاب	:	تسہیل الجلالین (شرح اردو جلالین)
مؤلف	:	حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی
باہتمام	:	مولانا ضیاء الحق خیر آبادی
صفحات	:	648
طبع اول	:	مئی ۲۰۱۰ء
قیمت	:	500/=

ای میل: zeyaulhaquekd@gmail.com

ملنے کے پتے

- ☆ فریڈ بک ڈپو پٹودی ہاؤس، دریا گنج، نئی دہلی ۲
- ☆ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند
- ☆ مکتبہ الفہیم صدر چوک منو ناتھ بھنجن 9236761926
- ☆ مولانا قاضی حبیب اللہ صاحب، مدرسہ فلاح المسلمین مدهوبنی بہار
- ☆ مولانا ابو عبید صاحب، حیدرآباد 9908614090

فہرستِ مضامین

۸	پیش لفظ (مولانا اعجاز احمد اعظمی)
۱۱	خطبہ الكتاب (علامہ جلال الدین سیوطی)
۱۲	جالین کی خصوصیات
۱۳	قابلِ تنبیہ چند باتیں
۱۳	سورہ سے متعلق بعض اہم تحقیقات
۱۵	آیات کے اختلاف شمار کی وجہ
۱۵	سورہ بقرہ
۱۶	ذٰلِكَ الْكِتَابُ مِنْ قَبْلِ هَذَا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
۱۹	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ عَلِيْهِمْ سَو�
۲۱	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سَوَاءٌ عَلِيْهِمْ سَوَاءٌ عَلِيْهِمْ سَوَاءٌ عَلِيْهِمْ سَوَاءٌ عَلِيْهِمْ سَوَاءٌ عَلِيْهِمْ سَوَاءٌ عَلِيْهِمْ سَوَاءٌ عَلِيْهِمْ سَو�
۲۵	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ سَوَاءٌ عَلِيْهِمْ سَوَاءٌ عَلِيْهِمْ سَوَاءٌ عَلِيْهِمْ سَوَاءٌ عَلِيْهِمْ سَو�
۲۹	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا سَوَاءٌ عَلِيْهِمْ سَو�
۳۱	أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ سَو�
۳۶	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا سَو�
۳۸	وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَّا سَو�
۴۱	حال لازمہ
۴۳	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ سَو�
۵۰	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ سَو�
۵۵	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا سَو�
۶۱	بنی اسرائیل سے خطاب، یٰبَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا سَو�
۶۷	یٰبَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا سَو�
۷۱	وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً سَو�

۷۷	وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ مِنْ ذِي الْحَرْبِ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ تَك
۸۱	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا سَوَاءٌ فِي عَذَابِنَا وَلَا يَحْزَنُونَ تَك
۸۳	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ مِنْكُمْ أَنْ تَقُولُوا لَا نَحْنُ بِمُتَعَذِّبِينَ وَلَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ تَك
۹۱	أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا كَفَرُوا وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ تَك
۹۸	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْكُمْ أَنْ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تَك
۱۰۴	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَقَالَتْ نِسَاءُ الْيَهُودِ لَمَنْ يَنْصُرُ اللَّهَ مِنْ أُمَّةٍ نَحْنُ نَنْصُرُهُ وَرَبُّنَا اللَّهُ تَك
۱۱۴	قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ فِي قُرْآنٍ كَرِيمٍ تَك
۱۲۲	ہاروت ماروت اور ان پر اترنے والے علم (سحر) کی تحقیق
۱۲۷	يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُوا تَك
۱۳۱	نسخ اور اس کی قسمیں
۱۳۴	وَقَالَتِ الْيَهُودُ لِمَنْ يَنْصُرُ اللَّهَ مِنْ أُمَّةٍ نَحْنُ نَنْصُرُهُ وَرَبُّنَا اللَّهُ تَك
۱۴۱	يَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكَرُوا مِنْكُمْ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تَك
۱۴۹	وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالْبَاطِلِ تَك
۱۵۸	پارہ (۲) سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ تَك
۱۶۰	لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ كِي دُفَسِيرِ
۱۶۳	قَدَرِي تَقَلُّبٌ مِنْكُمْ وَلَا تَكْفُرُونَ تَك
۱۷۰	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالْعِزَّةِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ تَك
۱۷۸	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ آيَاتٍ لِلْمُهْتَدِينَ تَك
۱۸۵	يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً مِنْ حَيْثُ وَجَدْتُمْ لَهُ شِقَاقَ بَعِيدٍ تَك
۱۹۰	تنبیہ (متعلق بہ غیر باغ و لا عاد)
۱۹۲	لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ مِنْكُمْ سَوَاءٌ لَكُمْ أَلْتَقُوا تَك
۱۹۵	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ تَك
۱۹۸	كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لَكُمْ تَك
۲۰۲	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ تَك
۲۰۷	أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ تَك
۲۱۲	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ مِنَ الْإِهْلَةِ تَك
۲۱۸	وَأْتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ تَك

۲۲۳	الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ سَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تَك
۲۲۹	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ سَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ تَك
۲۳۲	سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تَك
۲۳۲	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ سَ وَبَيِّنْ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تَك
۲۳۹	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ سَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تَك
۲۵۹	الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ سَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تَك
۲۶۲	وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجْلَهُنَّ سَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ تَك
۲۷۱	لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ سَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تَك
۲۷۷	﴿الْمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ سَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تَك
۲۸۶	فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ سَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ تَك
۲۸۶	پارہ (۳) تِلْكَ الرُّسُلُ
۲۹۰	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تَك
۲۹۵	فضائل آیت الکرسی
۲۹۶	الْمُ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ سَ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تَك
۳۰۲	مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَ لَعَلَّكُمْ تُتَفَكَّرُونَ تَك
۳۰۸	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ سَ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ تَك
۳۱۲	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ تَك
۳۱۹	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ سَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ تَك
۳۲۲	حال مقدرہ
۳۲۶	لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سَ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تَك
۳۳۰	سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کے فضائل
۳۳۲	سورہ آل عمران
۳۳۲	الْمُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ سَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَلِّفُ الْمِيعَادَ تَك
۳۳۶	فاما الذين في قلوبهم زيغ كتحقيق
۳۳۹	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ سَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ تَك
۳۴۸	إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ سَ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ تَك
۳۵۵	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي سَ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْآبْكَارِ تَك

۳۶۱	ما من مولود یولد الا مسه الشیطان کی تحقیق
۳۶۵	وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ سِ وَاللّٰهُ خَيْرٌ الْمَا كَرِيْنَ تِك
۳۷۵	إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰى اِنِّى مُتَوَفِّىْكَ سِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ تِك
۳۸۲	قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سِ وَانْتُمْ تَعْلَمُوْنَ تِك
۳۸۵	وَ قَالَتْ طٰٓاَفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ سِ اَيُّمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ تِك
۳۹۴	وَ اِذَا خَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ سِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ تِك
۴۰۱	پارہ (۴) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ سِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ تِك
۴۰۹	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقٰتِهٖ سِ وَ اِلٰى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ تِك
۴۱۵	كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّٰسِ سِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيطٌ تِك
۴۲۲	وَ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ سِ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رّحِيْمٌ تِك
۴۳۱	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ لَا تَاْكُلُوْا الرِّبُوْا سِ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ تِك
۴۳۵	حال مقدرہ
۴۳۹	وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ سِ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ تِك
۴۴۴	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيعُوْا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ تِك
۴۴۸	منکم من یرید الدنیا کی تشریح اور اس آیت شریفہ میں دنیا کے مصداق کی وضاحت
۴۵۲	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا سِ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ تِك
۴۵۸	صحابہ کرام ﷺ کی دلداری
۴۶۲	الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ سِ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ تِك
۴۶۹	لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ سِ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ تِك
۴۷۵	اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ سِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تِك
۴۸۴	سورہ نساء
۴۸۴	يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ سِ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا تِك
۴۹۴	لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ سِ وَ سَيَصْلُوْنَ سَعِيْرًا تِك
۴۹۷	يُوْصِيْكُمْ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ سِ وَ لَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ تِك
۵۰۴	وَ الَّتِىْ يٰتِيْنَ الْفٰحِشَةَ سِ كَانَتْ فٰحِشَةً وَ مَقْتًا وَ سَاءَ سَبِيْلًا تِك
۵۱۲	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ سِ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رّحِيْمٌ تِك
۵۱۳	پارہ (۵) وَ الْمُحْصَنٰتُ

۵۱۹	افادہ (مفہوم مخالف کے سلسلہ میں احناف کے قول کی تائید)
۵۲۱	يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبينَ لَكُمْ سے إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيَّ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا تک
۵۲۷	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ سے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا تک
۵۳۴	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ سے وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا تک
۵۳۳	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ سے ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا تک
۵۴۸	امانت کی تین قسمیں
۵۵۲	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا سے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا تک
۵۵۸	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذُوا حِذْرَكُمْ سے إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا تک
۵۶۱	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ سے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا تک
۵۷۳	فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ سے وَأَوْلِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا تک
۵۷۸	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا سے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تک
۵۸۲	عاقلہ کون ہیں؟
۵۸۹	إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ سے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تک
۵۹۳	وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ سے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا تک
۵۹۷	صلوٰۃ الخوف کا طریقہ
۵۹۹	إِنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ سے فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا تک
۶۰۳	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ سے وَسَاءَتْ مَصِيرًا تک
۶۰۵	إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ سے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا تک
۶۱۲	يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ سے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا تک
۶۱۸	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ سے وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا تک
۶۲۴	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ سے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تک
۶۲۵	پارہ (۶) لَا يُحِبُّ اللَّهُ
۶۲۷	منافق کی وجہ تسمیہ
۶۳۰	يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ سے أُولَئِكَ سَنُوتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا تک
۶۳۷	إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ سے وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تک
۶۴۶	يَسْتَفْتُونَكَ قُلُوبُ اللَّهِ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ سے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تک



پیش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد! شعبان ۱۳۹۰ء میں مدرسہ کی رسمی طالب علمی سے اس خاکسار کی فراغت ہوئی، فراغت کے بعد ڈیڑھ دو سال گھر رہنے کا اتفاق ہوا۔ قرآن کریم کی تلاوت، حفظ اور تدبر معانی سے قدرے مناسبت زمانہ طالب علمی ہی سے تھی، گھر پر رہ کر حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت نصیب ہوئی، اس کے لئے بکثرت تلاوت کی توفیق ہوئی، تو قرآن سے محبت اور تعلق میں رسوخ پیدا ہوا۔ ایک روز اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ تازنگی قرآن کریم سے اشتغال اور اس کی خدمت کی توفیق عطا ہو، پھر راہ آسان ہوئی، چند ذی استعداد حفظ کو ہلکے پھلکے قواعد کے ساتھ ترجمہ قرآن پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ خدمت سال بھر اپنے وطن اور گاؤں میں چلتی رہی، پھر تدریس کے سلسلے میں باقاعدہ مدرسوں میں آ گیا۔ اللہ کا نہایت فضل و کرم شامل حال رہا کہ کسی نہ کسی عنوان سے قرآن کی خدمت نصیب ہوتی رہی، زیادہ تر تفسیر کی ابتدائی اور مختصر کتاب ”جلالین شریف“ زیر درس رہی۔ اس کے علاوہ مساجد میں بیان تفسیر اور اس کی روشنی میں تذکیر و موعظت کا ایک تسلسل قائم رہا، سا لہا سال تک رمضان شریف میں اپنے گاؤں میں بعد نماز تراویح ایک بڑے مجمع کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کے مضامین کا بیان ہوتا رہا۔ پھر ۱۴۱۰ھ (۱۹۹۰ء) سے اعظم گڑھ شہر کی جامع مسجد میں ہر اتوار کو تفسیر و تذکیر کا سلسلہ شروع ہوا، تو اب تک بغیر کسی انقطاع کے جاری ہے..... خدا کرے یہ سلسلہ قائم رہے..... مجھے قلبی خوشی ہے کہ میری وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کے حضور چالیس سال قبل بارگاہ الہی میں پیش کی گئی تھی، بحمد اللہ اس کی قبولیت کے آثار محسوس ہو رہے ہیں۔

یہ خدمت..... جیسی بھی ایک بے مایہ اور بے بضاعت شخص سے بن پڑتی ہے..... بطور تقریر زبانی کے ہوتی رہی، کبھی تصور نہیں آیا کہ یہ خدمت قلم سے بھی انجام پانی چاہئے۔ مجھے قلم اور تحریر سے کچھ زیادہ مناسبت بھی نہیں ہے، اور یہ بات بھی تھی کہ مجمع میں بیان کرنا آسان ہوتا ہے، قلم کی تحریر علماء کے سامنے پیش ہوتی ہے، یہ اندیشہ ہر آن رہتا ہے کہ اللہ جانے کہاں خطا ہو اور لکھنے والا گرفت میں آجائے، اس لئے قلم اٹھانے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی۔

میری بعض تحریریں جب دوستوں کے سامنے آئیں، تو ان میں سے کسی کو خیال ہوا کہ اس راہ سے بھی قرآن کی خدمت ہوتی تو بہتر ہوتا، اس کا تذکرہ زبانوں پر آیا، جی تو میرا بھی چاہا، براہ راست قرآن کریم کی تفسیر

لکھنے کا حوصلہ نہ ہوا، تو رائے یہ قرار پائی کہ جلالین شریف کی شرح لکھی جائے۔ قرآن کریم کی خدمت میں بالواسطہ سہی، انگلی کٹا کے شہیدوں کی پچھلی صف میں سہی، نام تو آجائے گا، پھر یہ خاص طور سے طالب علموں کے بہت کام آئے گی، عام لوگوں کے لئے بھی اس میں استفادے کا سامان ہوگا۔

چنانچہ اس کام کا آغاز کئی برس پہلے کر دیا تھا، جن حضرات نے دیکھا، تحسین فرمائی، ضرورت بیان کی۔ اس کے نمونے ماہنامہ ضیاء الاسلام، شیخوپور میں چھپے، پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے گئے، پھر تقاضوں کی صدائیں بڑھیں۔ بالآخر تسلسل کے ساتھ تصنیف کا عمل چلا، اور سورہ نساء کی شرح و تفسیر پر پہلی جلد مکمل ہوئی۔

طریقہ عمل: جلالین شریف کی شرح میں شارح کے تین کام ہیں:

(۱) تفسیر کا مع متن قرآنی ترجمہ۔

(۲) تفسیری عبارت کی توضیح و تشریح

(۳) تفسیر جلالین کی روشنی میں آیات کے مضامین کا مختصراً بیان۔

ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے کہ متن قرآن اور تفسیر کا ترجمہ مسلسل ایک عبارت ہو، اور دونوں کے درمیان امتیاز کے لئے متن قرآنی کے ترجمہ کو قوسین میں لکھا جائے، یہ ترجمہ اس انداز سے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف قوسین کی عبارت پڑھے، تو وہ قرآن کریم کا مسلسل ترجمہ ہے، اور پوری عبارت پڑھے تو ترجمہ و تفسیر دونوں ہے۔ ترجمہ مکمل ہو جانے کے بعد ”تشریحات“ کے عنوان سے تفسیری الفاظ کی تشریح و توجیہ کی گئی ہے، پڑھنے کے دور میں اساتذہ نے بتایا تھا کہ جلالین کے حل کرنے کی کنجی، انھیں تفسیری الفاظ کا سمجھنا ہے، ان سے قرآن کی مراد واضح اور متعین ہوتی ہے، قرآن فہمی کی راہیں کھلتی ہیں، اس لئے شرح میں اس کا بطور خاص لحاظ رکھا گیا ہے۔ ”تشریحات“ کی تکمیل کے بعد زیر تفسیر آیات کے مضامین کو اجمالاً آسان عبارت میں لکھ دیا گیا ہے، تاکہ بیک نظر زیر تحریر آیات کا مضمون سامنے آجائے۔ یہ حصہ وہ ہے جس سے عام اردو خواں بھی بطریق معتبر مستفید ہو سکتے ہیں۔

یہ تین کام تو اصل کتاب کی شرح سے متعلق ہیں، کہیں کہیں ضرورت محسوس ہوئی ہے تو مفسر کی تفسیر کے علاوہ دوسرے علماء کی تفسیر و تاویل سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، ایسا بہت کم ہوا ہے۔ تاہم کہیں کہیں ہے، مرکز توجہ تفسیر جلالین ہی کو بنایا گیا ہے۔ غرض کہ یہ شرح مستقل تفسیر نہیں ہے، بلکہ تفسیر جلالین اس کی بنیاد ہے، اور اسی کے محور پر یہ شرح گردش کرتی ہے۔

اس شرح میں زیادہ تر بلکہ تمام تر استفادہ جلالین شریف کی عربی شرح الفتوحات الالہیہ سے کیا گیا ہے، جو ”جمل“ کے نام سے معروف ہے، لیکن اس کے حوالہ اہتمام نہیں کیا گیا ہے۔ کہیں کسی خاص مصلحت کا تقاضا ہوا ہے تو حوالہ بھی دیدیا گیا ہے، لیکن عموماً حوالہ نہیں ہے۔ ہاں کسی اور کتاب سے استفادہ کیا گیا ہے، تو اس کا حوالہ دیدیا گیا ہے۔

شارح نے کوشش کی ہے کہ تفسیر جلالین کی یہ شرح، شرح ہی کے دائرے میں ہی رہے، اسی لئے عموماً دوسری تفاسیر کو زیر بحث نہیں لایا گیا ہے۔ جلالین سے ہٹ کر تحقیقات بھی نہیں کی گئی ہیں، ہاں اگر کسی مقام پر علماء نے جلالین کی تفسیر میں تسامح محسوس کیا ہے، تو اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔

خدا کرے عند اللہ یہ شرح مقبول ہو، اور طلبہ کے لئے نیز تفسیر قرآن کے شائقین کے لئے مفید ثابت ہو۔

شکرے اور دعائیں

(۱) میں لکھ چکا ہوں کہ اس شرح کا انحصار زیادہ تر جلالین کی معروف شرح ”الفتوحات الالہیة“ پر ہے، جو جمل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے ترجمے میں زیادہ تر استفادہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب علیہ الرحمہ کے ترجمہ اور مولانا ابوالکلام آزاد کے ترجمان القرآن سے کیا گیا۔ حق تعالیٰ دونوں بزرگوں کے درجات بلند فرمائیں۔

(۲) سورتوں کی آیات کے شمار میں اختلاف ہے، اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لئے میں نے سید القراء والکجو دین حضرت مولانا قاری محمد اسمعیل صاحب صدر شعبۂ تجوید مدرسہ ریاض العلوم گورینی، جو نیپور سے استفادہ کیا ہے، حضرت قاری صاحب تجوید قرأت کے موضوع پر دور حاضر میں سند ہیں۔

(۳) پروف کی تصحیح کے لئے فرزند ان عزیز مولانا حافظ محمد عابد و مولانا حافظ محمد راشد سلمہما اور عزیزم مولانا حافظ سلمان احمد اعظمی سلمہ نے بہت کاوش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب عزیزوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور علم و عمل کی برکات سے نوازیں۔

(۴) اول و آخر دعائیں بھی، اور بہت سا شکر یہ بھی عزیزم مولانا حافظ ضیاء الحق خیر آبادی سلمہ کے لئے، کہ انھیں کی تحریک، انھیں کے اہتمام، انھیں کے حسن انتظام اور انھیں کی فکر و لگن سے یہ کتاب منصفہ شہود پر آئی۔ ان کے پڑھنے کے زمانے میں اس تحریر کی ابتداء ہوئی، پھر میری کاہلی اور بیماری کی وجہ سے لکھنے کا سلسلہ بند ہو گیا، تو انھوں نے اس کے کچھ اجزاء ضیاء الاسلام میں شائع کئے، کہ مردہ ارادے میں شاید زندگی کی لہر دوڑے، طباعت کے متعلق ناشرین سے رابطہ قائم کرتے رہے، مگر ارادے کی مردنی تھی کہ اس میں کوئی حرارت پیدا ہوتی ہی نہ تھی، بہر حال ان کے ارادے کی پختگی ہے، کہ مردہ ارادہ میں جان پڑی اور سورہ نساء کی تکمیل ہو گئی، انھیں نے کتابت کی، اور انھیں کی کوششوں سے چھپ کر اہل علم کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے، نظر بظاہر اگر ان کا عزم محکم نہ ہوتا، تو میرا حوصلہ نہ تھا کہ یہ کتاب سامنے آتی۔ میں تو خیر دعا گو ہوں ہی، پڑھنے والوں کی طرف سے بھی شکرے اور دعاؤں کے مستحق یہی ہیں۔

اعجاز احمد اعظمی

۲۷ صفر ۱۴۳۱ھ مطابق ۱۱ فروری ۲۰۱۰ء



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبة الكتاب

الحمد لله حمداً موافياً لنعمه مكافياً لمزيدہ و الصلوة والسلام على سيدنا محمد و آله و صحبه و جنوده ، اما بعد! فهذا ما اشتدت اليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذى الفه الامام العلامة المحقق المدقق جلال الدين محمد بن احمد المحلى الشافعى و تتميم ما فاتہ و هو من اول سورة البقرة الى آخرة سورة الاسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى و الاعتماد على ارجح الاقوال و اعراب ما يحتاج اليه و تنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف و تعبير و جيز و ترك التطويل بذكر اقوال غير مرضية و اعراب محلها كتب العربية ، و الله اسأل النفع به فى الدنيا و احسن الجزاء عليه فى العقبى بمنه و كرمه -

سب تعريف اللہ کیلئے ہے، ایسی تعريف جو اس کے احسانات کا حق ادا کرے، اور مزید کیلئے بھی کافی ہو اور درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار محمد ﷺ پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر اور ان کے لشکر پر۔ اب بعد! یہ وہ تامل ہے جس کی ضرورت وہ لوگ شدت سے محسوس کر رہے تھے جنہیں شوق تھا کہ علامہ جلال الدین محلی کی نا تمام تفسیر پوری کی جائے، اور اس میں جو کچھ ان سے باقی رہ گیا ہے، اسے مکمل کر دیا جائے، اور یہ حصہ ابتداء سورہ بقرہ سے آخر سورہ اسراء تک ہے (جسے وہ لکھ نہیں سکے تھے، لوگ چاہتے تھے کہ) تامل انہیں کے طرز پر لکھا جائے، یعنی وہ باتیں تحریر میں لائی جائیں جن سے کلام اللہ کا مفہوم سمجھ میں آجائے، اور راجح قول پر اعتماد کیا جائے، اور ضرورت کے بقدر اعراب کی وضاحت کر دی جائے، اور مختلف مشہور قراءتوں کی جانب بھی اشارہ کر دیا جائے، اور یہ سب بانداز لطیف اور باختصار تعبیر ہو، اور ناپسندیدہ اقوال کو ذکر کر کے کلام کو طویل نہ کیا جائے، اور نہ اعراب کی وہ تفصیلات لکھی جائیں جن کا محل کتب عربیہ ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ دنیا میں اس سے نفع ہو، اور عقبی میں اس کا بہترین صلہ حاصل ہو، بمنہ و کرمہ

تشریح

علامہ جلال الدین محمد بن احمد شافعی محلی المتوفی ۸۶۳ھ نے قرآن کریم کی ایک مختصر تفسیر لکھنے کا آغاز کیا،

اس میں انھوں نے اہتمام کیا کہ کم سے کم الفاظ میں قرآن کریم کی آیات کی ایسی شرح کر دی جائے، جس سے اللہ کے کلام کی مراد واضح ہو جائے، اسی اختصار کے پیش نظر انھوں نے تفسیری اقوال جو کتب تفسیر میں بکثرت منقول ہیں، نقل نہیں کئے بلکہ ان میں راجح قول کو لے لیا، اور جہاں اعراب کو بیان کرنے کی ضرورت تھی، اسے بھی ذکر کر دیا، اختلاف قرأت پر بھی موقع بہ موقع متنبہ کیا، اس طرح یہ کتاب قرآن کریم کی مختصر ترین تفسیر ہے جو اختصار کے باوجود جامع ہے اور سہل بھی، تاکہ قرآن کریم کو سمجھنے کیلئے یہ تفسیر بنیاد کا کام دے، لیکن ابھی شیخ جلال الدین علیہ الرحمۃ اس کی تکمیل نہ کر سکے تھے کہ ان کا وصال ہو گیا، انھوں نے سورہ کہف سے سورہ ناس تک، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی تھی، اور سورہ بقرہ سے سورہ اسراء تک نہیں لکھ سکے تھے، جن لوگوں نے ان کی اس تفسیر کا مطالعہ کیا تھا، ان کی شدید خواہش تھی کہ اسی طرز پر پورے قرآن کی تفسیر تحریر کر دی جاتی تو بڑا کام ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ایک جلال الدین کے بعد دوسرے جلال الدین یعنی علامہ سیوطی کے دل میں اس کا داعیہ پیدا کیا، اور انھوں نے ٹھیک شیخ محلی کے انداز و اسلوب پر اس کی تکمیل کر دی، اس طرح یہ تفسیر دوز بردست علماء کی کاوش کا مجموعہ ہے، اسی لئے اس کا نام عرف عام میں تفسیر الجلالین مشہور ہو گیا۔

جلالین کی خصوصیات

- (۱) مختصر الفاظ میں قرآن کریم کے مراد کی وضاحت
- (۲) بہت سے تفسیری اقوال میں راجح قول کا انتخاب
- (۳) ضروری اعراب کی تشریح
- (۴) مختلف قرأتوں کا اجمالی بیان

یہ خصوصیات تو خود علامہ جلال الدین سیوطی نے تحریر فرمائی ہیں، ان خصوصیات کے اجمال میں کئی اور خصوصیات بھی پنہاں ہیں، انھیں بھی پیش نظر رکھ لینا چاہئے۔

- (۱) کلام کے محذوفات کو بیان کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔
- (۲) کلام اللہ کے اجمال کی تفصیل کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔
- (۳) کہیں کوئی اشکال محسوس ہوا ہے تو اس کے جواب کی جانب اشارہ کر دیا گیا ہے۔
- (۴) حسب ضرورت شان نزول کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔
- (۵) ضمیروں کے مراجع کی تعیین کی گئی ہے۔
- (۶) جہاں کہیں اسناد مجازی ہے، اس کے اسناد حقیقی کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔

- (۷) کہیں کہیں الفاظ کی صرفی تعلیلات بھی بیان کی گئی ہیں۔
 (۸) جہاں کہیں جملہ معترضہ آیا ہے، اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔
 (۹) شرط کی جزا کی تعیین کی گئی ہے۔
 (۱۰) مفسر چونکہ شافعی المذہب ہیں، اس لئے تفسیر کا انداز وہ اختیار کرتے ہیں جس سے ان کا مسلک ثابت ہو۔

قابل تنبیہ چند باتیں

- ان خصوصیات کے ساتھ کچھ اور باتوں کو بھی دھیان میں رکھنا چاہئے۔
 (۱) حضرت مفسر علام نے کہیں کہیں اسرائیلی روایات بھی نقل کی ہیں، جن میں سے بعض بالکل بے سرو پا ہیں۔
 (۲) بعض جگہوں پر اختصار بجا غلاق ہو گیا ہے۔
 (۳) کہیں کہیں متعدد اقوال نقل کر دیئے گئے ہیں، اور ان کی ترجیح کی راہ اختیار نہیں کی ہے، ان مقامات کی نشاندہی متعلقہ جگہوں پر کر دی جائیگی۔ انشاء اللہ

سورۃ البقرۃ مدنیۃ مائتان و ست او سبع و ثمانون آیۃ

سورۃ بقرہ مدنی ہے، اس میں ۲۸۶ یا ۲۸۷ آیتیں ہیں۔

تشریح

سورہ، لفظ سور سے ماخوذ ہے جس کے معنی چہار دیواری کے ہیں، قرآنی اصطلاح میں سورہ وہ ہے جو چند آیات پر مشتمل ہو، جس میں ابتداء اور وسط اور انتہاء ہو، قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ تین آیت پر مشتمل ہے، یعنی سورہ کوثر۔

بقرۃ:۔ اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے، سورتوں کے نام توفیقی ہیں، یعنی منجانب اللہ یہی نام متعین ہیں، اس میں انسانی رائے اور قیاس کا دخل نہیں۔ اکثر سورتوں کا ایک ہی نام ہے، بعض سورتوں کے متعدد نام ہیں، غور کرنے سے ناموں کے وضع میں مختلف حکمتیں محسوس ہوتی ہیں:

- (۱) بعض سورتوں کے نام ان میں آئے ہوئے واقعات و حکایات کی بنیاد پر ہیں، جیسے سورہ بقرہ کہ اس میں گائے سے متعلق ایک عجیب واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اس سورۃ میں بکثرت ہے۔ اور بنی اسرائیل کو گائے اور بچھڑے کے متعلق ایک خاص حادثہ پیش آیا تھا، اس طرح اس نام میں ان کی ایک خاص کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔
 (۲) بعض سورتوں کے نام ان میں آئے ہوئے خاص احکام کی مناسبت سے ہیں، جیسے سورۃ النساء، سورہ انعام،

سورہ طلاق، اور سورہ تحریم وغیرہ۔

(۳) بعض سورتیں انبیاء کے نام سے موسوم ہیں۔

(۴) بعض سورتوں کے نام ان کے ابتدائی الفاظ پر مبنی ہیں، جیسے یس، الصفت، ص، طہ، وغیرہ۔ یہ سورہ مدنی ہے: مقام نزول کے اعتبار سے آیات اور سورتوں کی اجمالاً دو قسمیں کی گئی ہیں: مکی، مدنی۔ مکی وہ سورتیں ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں، اور مدنی وہ سورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔

مائتان و ست او سبع و ثمانون آية : اس میں دو سو چھیاسی یا ستاسی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کے شمار کرنے والے سات مکاتب فکر ہیں، جو سات بزرگوں کی طرف منسوب ہیں۔

(۱) مدنی اول۔ (۲) مدنی اخیر۔ (۳) مکی۔ (۴) شامی۔ (۵) حمصی۔

(۶) بصری۔ (۷) کوفی۔

(۱) مدنی اول وہ شمار ہے جس کو امام نافع اپنے دو استاذوں سے نقل کرتے ہیں، ایک شبیبہ بن نصاح، دوسرے یزید بن قعقاع۔

مدنی اول کی بھی دو قسمیں ہیں۔

(۱) مدنی اول شبیبی کوفی۔ یہ وہ شمار ہے جسے کوفی حضرات مدینہ والوں سے نقل کرتے ہیں اور کسی کے نام کی تعیین نہیں کرتے، یعنی صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ شمار مدینہ والوں سے منقول ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ مدنی حضرات میں کون سے سے شیخ سے منقول ہے، اس شمار میں قرآن کریم کی کل آیات چھ ہزار دو سو ستترہ یا اٹھارہ یا انیس ہیں۔

۲ مدنی اول یزیدی بصری۔ یہ وہ شمار ہے جسے بصرہ والے ورش سے اور وہ نافع سے اور نافع اپنے مذکورہ بالا دونوں استاذوں شبیبہ اور یزید سے نقل کرتے ہیں، اس شمار میں کل آیات چھ ہزار دو سو تیرہ یا چودہ یا پندرہ ہیں۔

(۲) مدنی اخیر: یہ وہ شمار ہے جس کو اسماعیل بن جعفر، سلیمان بن حماد سے اور وہ شبیبہ اور یزید سے نقل کرتے ہیں، اس شمار میں کل آیات چھ ہزار دو سو چودہ (۶۲۱۴) ہیں۔

(۳) مکی شمار وہ ہے، جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دائی نے اپنی سند سے، ابن کثیر قاری سے اور انھوں نے مجاہد بن جبیر سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور انھوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اور ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اس شمار میں قرآن کریم کی کل آیتیں چھ ہزار دو سو اکیس (۶۲۲۱) ہیں۔

(۴) شامی شمار وہ ہے جسے یحییٰ ذماری اور ان کے معاصرین نے ابن عامر سے، اور انھوں نے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ

سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔

(۵) حمصی شمار: حمص والوں کا شمار وہ ہے، جسے انھوں نے مشہور تابعی حضرت خالد بن معدان کے مصحف سے لیا ہے، اس شمار میں کل آیات چھ ہزار دو سو بتیس (۶۲۳۲) ہیں۔

(۶) بصری شمار: یہ وہ شمار ہے جس کو عطاء بن یسار نے بڑے درجہ کے تابعین سے لیا ہے، اور عاصم جحدری نے تابعین کی ایک دوسری جماعت سے نقل کیا ہے۔ اس شمار میں کل آیات چھ ہزار دو سو چار (۶۲۰۴) ہیں۔

(۷) کوفی شمار: یہ شمار حضرت حمزہ بن حبیب زیات نے ابن ابی لیلیٰ سے، انھوں نے ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے اور سلمیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کیا ہے، نیز سفیان نے عبد الاعلیٰ سے، انھوں نے سلمیٰ سے اور سلمیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے۔ اس شمار میں کل آیات چھ ہزار دو سو چھتیس (۶۲۳۶) ہیں۔

اختلاف شمار کی وجہ:

شمار آیات کے ان سات مکاتب فکر میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کسی امام نے کسی خاص کلمہ پر آیت کا اختتام قرار دیا ہے، دوسرے امام نے اس پر آیت کا اختتام نہیں سمجھا۔ اس طرح باہم اختلاف ہوا، یہ مطلب نہیں کہ کسی کے نزدیک قرآن کریم کے کلمات و حروف زائد ہیں اور کسی کے نزدیک کم، ایسا نہیں ہے۔ کلمات و حروف تو سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں، ان کے درمیان اوقاف کی کمی و بیشی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بالاتفاق سات آیتوں پر مشتمل ہے۔ بعض حضرات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک مستقل آیت قرار دیا، تو صراط الذین سے آخر تک کو ایک آیت مانا، اور جن لوگوں نے بسم اللہ کو سورہ فاتحہ سے الگ تسلیم کیا، ان کے لحاظ سے انعمت علیہم پر چھٹی آیت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے باقی سورتوں میں بھی سمجھ لینا چاہئے۔

آیات دو طرح کی ہیں۔ اول اجماعی جن پر ساتوں اماموں نے آیت شمار کی ہے، یہ چھ ہزار نوے (۶۰۹۰) ہیں۔ دوم اختلافی، جن پر بعض نے آیت شمار کی ہے اور بعض نے نہیں کی، اور وہ دو سو تہتر (۲۷۳) ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیات کی تعداد کوفی شمار کے لحاظ سے ۲۸۶ اور بصری شمار کے اعتبار سے ۲۸۷ ہے۔

(۲) سورۃ البقرہ

اس سورہ کے کلمات چھ ہزار ایک بیس (۶۱۲۰) اور حروف پچیس ہزار پانچ سو (۲۵۵۰۰) ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات بصری شمار کے مطابق ۲۸۷ ہیں، اور حجازی و شامی شمار کے لحاظ سے ۲۸۵، اور کوفی شمار میں ۲۸۶ ہیں۔

آیۃ: یہ لفظ اصل میں آیۃ تھا، یا کی تشدید کو تخفیف کی غرض سے الف سے بدل دیا، جیسا کہ امّالکی تشدید کو بدل

دیتے ہیں اور ایما کہتے ہیں، اس کے معنی علامت کے ہیں، آیت کا نام آیت اسی لئے رکھا گیا ہے کہ وہ ایک کلام کے پورا ہونے کی علامت ہے۔ (لسان العرب) (۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ ایک مستقل آیت ہے، اس کے قرآن کے جز ہونے میں کلام نہیں ہے، لیکن یہ بات مختلف فیہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورتوں کا جز ہے یا نہیں؟ اس میں امام شافعی اور بعض دوسرے علماء کا قول ہے کہ یہ سورہ فاتحہ اور قرآن کی ہر سورہ کا جز ہے، بجز سورہ براءۃ، کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، امام شافعی علیہ الرحمۃ کا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صرف سورہ فاتحہ کا جز ہے، امام ابوحنیفہ اور امام مالک نیز امام اوزاعی کا قول یہ ہے کہ یہ کسی سورہ کا جز نہیں ہے۔ بلکہ سورہ کے شروع میں بطور فصل اور تبرک کے لائی گئی ہے، البتہ سورہ نمل میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جز ہے۔

﴿ اَلَمْ اَعْلَم بِمِرَادِهِ بِذَلِكَ ﴾ ذَلِكْ ﴿ اِیْ هَذَا ﴾ الْكِتَابُ ﴿ الَّذِي يَقْرُوهُ مُحَمَّدٌ ﴾ لَا رَيْبَ ﴿ شَكٌّ ﴾ فِيْهِ ﴿ اِنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ جَمَلَةُ النَّفْسِ خَيْرٌ مِّبْتَدُوْهُ ذَلِكْ وَالْاِشَارَةُ بِهِ لِلتَّعْظِيْمِ ﴾ هُدًى ﴿ خَيْرٌ ثَانِ هَادٍ ﴾ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ الصّٰئِرِيْنَ اِلَى التَّقْوَى بِاِمْتِثَالِ الْاَوْامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِي لَا تَقَائِهِمْ بِذَلِكَ النَّارِ ﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ ﴿ يَصْدُقُوْنَ ﴾ بِالْغَيْبِ ﴿ بِمَا غَابَ عَنْهُمْ مِنَ الْبَعْثِ وَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ ﴾ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ ﴿ اِیْ يَاتُوْنَ بِهَا بِحَقْوَقِهَا ﴾ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ﴿ اَعْطَيْنَاهُمْ ﴾ يُنْفِقُوْنَ ﴿ فِی طَاعَةِ اللّٰهِ ﴾ وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ ﴿ اِیْ الْقُرْآنَ ﴾ وَ مَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴿ اِیْ التَّوْرَةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ غَيْرَهُمَا ﴾ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ﴿ يَعْلَمُوْنَ ﴾ اَوْلٰئِكَ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِمَا ذَكَرَ ﴿ عَلٰی هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَ اَوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴾ الْفَائِزُوْنَ بِالْجَنَّةِ النَّاجُوْنَ مِنَ النَّارِ .

﴿ تَرْجُمَهُ ﴾

(الم) اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کلمہ سے ان کی مراد کیا ہے۔ (وہ) یعنی یہ (کتاب) جس کو محمد پڑھتے ہیں (کوئی ریب) یعنی شک (اس میں نہیں ہے) کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، نفی والا جملہ خبر ہے، اس کا مبتدا ذلک ہے، اور ذلک سے اشارہ کرنا برائے تعظیم ہے۔ (ہدایت ہے) یہ دوسری خبر ہے، یعنی ہدایت دینے والی ہے (اہل تقویٰ کیلئے) یعنی ان لوگوں کیلئے جو احکام کی بجا آوری، اور نواہی سے اجتناب کر کے تقویٰ کی راہ اختیار کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے (وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر) یعنی ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں جو ان سے پوشیدہ ہیں، مثلاً دوبارہ زندہ ہونا، اور جنت و جہنم

وغیرہ (اور نماز کو قائم کرتے ہیں) یعنی اسے اس کے حقوق کیساتھ ادا کرتے ہیں (اور جو کچھ ہم نے انھیں روزی دی ہے) یعنی عطا کیا ہے (اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں) اللہ کی اطاعت میں (اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اس چیز پر جو تمہارے پاس نازل کی گئی) یعنی قرآن پر (اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی) یعنی توریت و انجیل وغیرہ پر (اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں) یعنی اسے جانتے ہیں (یہی لوگ) جو مذکورہ صفات کے ساتھ متصف ہیں (اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں) یعنی جنت کو حاصل کرنے والے اور جہنم سے نجات پانے والے ہیں۔

تشریحات

اللہ اعلم بمرادہ بذلک: ضمیر غائب اللہ کی طرف راجع ہے، اور ذلک کا اشارہ الم کی طرف ہے۔
الم اور اس طرح کے دوسرے کلمات جو سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، جنہیں بطور حروف تہجی کے الگ الگ پڑھا جاتا ہے، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یہ ان تشابہات میں ہیں، جن کے نہ لغوی معانی معلوم ہیں، اور نہ ان کی مراد کی خبر ہے۔

بعض تشابہات قرآن میں وہ بھی ہیں جن کا لغوی معنی تو معلوم ہے مگر ان کی کیفیت کا قطعی علم بجز اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے، جیسے ید اللہ، عین اللہ وغیرہ، ید اور عین کا معنی معلوم ہے، مگر حق تعالیٰ کے ید اور عین کی کیا کیفیت ہے یہ مجہول ہے۔

حروف مقطعات کا معنی چونکہ معلوم نہیں ہے، اس لئے اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے۔ کیونکہ محل اعراب کا جاننا معنی کے ادراک پر موقوف ہے، لہذا نہ وہ معرب ہیں، نہ مبنی، اور اس طرح وہ ایک پوری آیت ہے جس پر وقف تام ہوگا۔ (جمل)

حروف مقطعات میں چودہ حروف استعمال کئے گئے ہیں، جو عربی حروف تہجی کے نصف ہیں، وہ چودہ حروف یہ ہیں۔ الف، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ک، ل، م، ن، ہ، ی۔ بعض جگہ ایک ہی حرف استعمال ہوا ہے، جیسے ص، ق، ف، کہیں دو حروف استعمال ہوئے ہیں، جیسے حم، طس، طہ، یس، کہیں تین حروف ہیں، جیسے الم، الر، طسم، کہیں چار حروف ہیں جیسے المر، المص، کہیں پانچ حروف ہیں جیسے کھیعص، حمعسق۔
الف اور لام تیرہ سورتوں کے آغاز میں ہے، حاء اور میم سات سورتوں میں، طاء چار سورتوں میں، کاف، یا، صاد، قاف اور نون ایک ایک سورت میں (جمل)

ای ہذا: ذلک اسم اشارہ بعید کیلئے ہے، لیکن جس کتاب کی طرف اشارہ ہے، وہ قریب ہے، اس لئے مفسر نے فرمایا کہ یہ ہذا کے معنی میں ہے جو کہ قریب کیلئے ہے، اس کی مصلحت آگے آرہی ہے۔

یقرءہ محمد : اس لفظ کو لا کر الکتاب کا مصداق متعین کیا ہے، کیونکہ کتاب کا اطلاق، دوسری آسمانی کتابوں پر بھی ہے۔

أنه من عند الله : قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لاریب فیہ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس اعتبار سے شک کی نفی کی جا رہی ہے، کیا اس اعتبار سے سے کہ خود اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی بات نہیں ہے؟ یا یہ کہ اس کتاب میں کوئی شک اور تردید نہیں ہو سکتا؟ یا اللہ کی طرف سے اس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے؟ مفسر نے بطور مطابقت کے آخری شق متعین کی کہ اس کے خدا کی طرف سے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس شبہ کی نفی سے التزاماً پہلے دونوں شبہات کی نفی ہو گئی جب خدا کی طرف سے اس کا ہونا یقینی ہے تو لازم ہے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی بات نہ ہو، اور پھر اس کے بعد کسی کو شبہ وارد ہو، ایسا بھی ممکن نہیں ہے، اور اگر کسی کو شبہ واقع ہو تو دراصل اس کے فہم کی کمی ہے، قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے۔

وجملة النفی خبر مبتدأه ذلك والاشارة به للتعظیم : اور نفی والا جملہ یعنی لاریب فیہ خبر ہے، اس کا مبتدأ ذلك ہے، ترجمہ یہ ہوگا، یہ کتاب، اس میں کوئی شبہ نہیں

اوپر گذر چکا ہے کہ یہاں اشارہ کیلئے ہذا کا محل تھا جو کہ قریب کیلئے ہے، مگر اشارہ کیلئے بعید کا لفظ لائے، اس میں حکمت یہ ہے کہ اس بعد سے اشارہ بعد مرتبہ کی جانب ہے، یعنی اس کتاب کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ ہم اپنی پستی کی وجہ سے اس سے بہت دور ہیں، اس سے اس کی عظمت کا نشان ملتا ہے۔

هدی . ذلك کی دوسری خبر ہے، ہدی مصدر ہے، اس کا اطلاق ذات پر نہیں ہوتا، اسی لئے اس کی تفسیر ہادی اسم فاعل سے کی، مصدر کا استعمال اسم فاعل یا اسم مفعول کے معنی میں عام ہے۔

الصائرين الى التقوى بامثال الاوامر واجتناب النواهي : اس عبارت سے ایک سرسری اشکال کا جواب دیا ہے، اشکال یہ ہے کہ متقی تو اسی وقت آدمی ہوگا جب وہ ہدایت پاچکا ہو۔ تو متقی ہونے کے بعد اس کیلئے ہدایت کا کیا سوال ہے کہ قرآن کو متقیوں کیلئے ہدایت کہا گیا؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ متقی کا لفظ یہاں مجاز ہے، یہ مجاز ما یكون کے اعتبار سے ہے، یعنی وہ لوگ امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کے واسطے سے تقویٰ کی راہ پر چل رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بالآخر متقی ہو جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کی راہ پر چلنے کی وجہ سے انھیں متقی کہا ہے، جیسے کوئی حج کے مقصد سے گھر سے نکل پڑتا ہے تو گوا بھی اس نے حج نہیں کیا ہے، مگر ما یكون کے اعتبار سے اسے حاجی کہا جاتا ہے۔

لاتقاء هم بذلك النار .: ان کو متقی اس لئے کہا گیا ہے کہ متقی کے معنی ہیں بچ جانے والا۔ یہ تقویٰ کی وجہ سے آگ سے محفوظ رہیں گے، اس لئے یہ متقی کہلائے۔

یصدقون :۔ یومنون کی تفسیر یصدقون سے کی، مطلب یہ ہے کہ ایمان تصدیق قلبی ہی کا نام ہے۔
 بما غاب عنهم : بالغیب کی تفسیر بما غاب سے کر کے مفسر نے بتایا کہ یہاں غیب کو وہ مصدر کے معنی نہیں
 لے رہے ہیں، بلکہ اسم فاعل کے معنی میں لے رہے ہیں، یعنی جو کچھ نظروں سے پوشیدہ ہے، اور اس کے ادراک
 کا ذریعہ بجز وحی الہی کے کوئی نہیں ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، مثلاً بعث، حشر ونشر، جنت و جہنم وغیرہ۔
 یاتون بہا بحقوقہا :۔ یہ اقامتِ صلوٰۃ کی تفسیر ہے، مقصود صرف نماز کا پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ اسے قائم کرنا
 ہے، اور قائم کرنا یہ ہے کہ اس کے تمام حقوق، آداب و مستحبات، خشوع و خضوع کے ساتھ ان کے اوقات پر ادا
 کرنے کا اہتمام کیا جائے۔

فی طاعة الله :۔ انفاق، جس کی مدح کی گئی ہے وہ مطلق انفاق نہیں ہے، ورنہ ہر شخص اپنی ضروریات و حاجات
 دنیوی میں پیسہ خرچ کرتا ہی ہے، اس سے مراد وہ انفاق ہے جو اللہ کی اطاعت میں ہو، جس کا کوئی دنیوی اور
 مادی نفع حاصل نہ ہوتا ہو۔

یعلمون :۔ یوقنون کی تفسیر یعلمون سے کر کے مفسر نے بتایا کہ علم اور یقین دونوں متلازم ہیں، اور جس علم
 میں یقین کی کیفیت نہ ہو، درحقیقت وہ علم ہی نہیں، اور جس یقین کے پیچھے علم کی روشنی نہ ہو اسے یقین کہنا غلط ہے،
 وہ یقین نہیں جہل ہے۔

الفائزون بالجنة :۔ مفلحون یعنی کامیاب اللہ کی نظر میں وہی ہیں، جو جنت کے مستحق ہوں اور جہنم سے نجات
 پالیں۔



﴿ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ﴾ کابی جہل و ابی لہب و نحوہما ﴿ سَوَاءٌ عَلَیْہُمْ اَنْذَرْتَهُمْ ﴾
 بتحقیق الہمزتین و ابدال الثانیۃ الفاء و تسہیلہا و ادخال الف بین المسہلۃ و الاخری و
 ترکہ ﴿ اَمْ لَمْ تُنذِرْہُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴾ لعلم اللہ منہم ذلک فلا تطمع فی ایمانہم و الانذار
 اعلام مع تخویف ﴿ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ ﴾ طبع علیہا و استوثق فلا یدخلہا خیر ﴿ وَ عَلٰی
 سَمْعِہُمْ ﴾ امے مواضعہ فلا ینتفعون بما یسمعونہ من الحق ﴿ وَ عَلٰی اَبْصَارِہُمْ غِشَاوَةٌ ﴾ غطاء
 فلا یبصرون الحق ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ﴾ قوی دائم۔

ترجمہ

(بیشک جن لوگوں نے کفر کیا) جیسے ابو جہل اور ابولہب اور ان جیسے لوگ (ان کے حق میں برابر ہے خواہ
 ان کو تم ڈر سناؤ) دونوں ہمزہ کی تحقیق کے ساتھ، اور دوسرے ہمزہ کو الف سے بدل کر، اور اس کی تسہیل کے
 ساتھ، مسہلہ اور دوسرے ہمزہ کے درمیان الف داخل کر کے، اور بغیر الف کے بھی (یا نہ سناؤ، وہ ایمان نہیں

لائیں گے) کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بات جانتے ہیں..... کہ وہ ایمان نہ لائیں گے..... اس لئے ان کے ایمان لانے کی طمع نہ کرو، اور انذار کا معنی ہے ایسی خبر دینا جس میں خوف کا مضمون شامل ہو (اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے) یعنی ان پر ٹھپہ لگا دیا ہے، اور مضبوط باندھ دیا ہے، اس لئے اس میں کسی خیر کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ (اور ان کے سننے پر) یعنی سننے کی جگہوں پر، اس لئے جو حق بات وہ سنتے ہیں، اس سے انھیں نفع نہیں ہوتا (اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے)، اس لئے وہ حق کو نہیں دیکھ پاتے (اور ان کیلئے بڑا عذاب ہے) یعنی قوی اور دائمی

﴿ تشریحات ﴾

کابی جہل و ابی لہب و نحوہما :- ان الذین کفروا کی تفسیر کے ذیل میں اس مثال کو پیش کرنے کا مقصد ایک سوال کا جواب دینا ہے، سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول اور رسول اللہ ﷺ کی بعثت تو ہوئی ہی ہے، لوگوں کو ڈر سنانے کیلئے، اور اس کے پہلے مخاطب کفار ہی ہیں، پھر اس کا کیا مطلب کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے؟ اس کا جواب دیا کہ ان الذین کفروا سے مراد مطلق کفار نہیں ہیں، بلکہ وہ کفار ہیں جو ابو جہل اور ابو لہب کے مثل ہیں، یعنی جن کا کفر پر مرنا مقدر ہے، اور ان کے حق میں ان کے عناد و سرکشی کی وجہ سے ایمان سے محرومی لکھی جا چکی ہے۔

بتحقیق الہمزتین الخ یہاں مفسر اُنذرتہم میں مختلف قرأتیں بیان کر رہے ہیں، اس لفظ میں پانچ قرأتیں ہیں، لیکن مفسر کی عبارت میں اختصار مخل ہے، اس کی وجہ سے چار ہی قرأتیں معلوم ہوتی ہیں، ہم یہاں پانچوں قرأتوں کو بالترتیب بیان کرتے ہیں۔

- (۱) دونوں ہمزوں کی تحقیق ان کے درمیان الف لائے بغیر اُنذرتہم
- (۲) دونوں ہمزوں کی تحقیق، ان کے درمیان الف داخل کر کے اُنذرتہم (الف بغیر مد کے)
- (۳) دوسرے ہمزہ کو الف سے بدل کر اُنذرتہم (ہمزہ ممدودہ)
- (۴) دوسرے ہمزہ کی تسہیل اور دونوں کے درمیان الف لائے بغیر۔
- (۵) دوسرے ہمزہ کی تسہیل ان کے درمیان الف لا کر۔

ہمزہ کی تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے، اور تسہیل کا مطلب یہ ہے کہ ہمزہ کو اس کے مخرج سے مکمل ادا نہ کیا جائے، بلکہ ہمزہ کی حرکت کے مناسب جو حرف علت ہو، اس کے مخرج اور ہمزہ کے مخرج کے درمیان سے ادا کیا جائے، مثلاً یہاں ہمزہ پر فتح ہے، اس لئے ہمزہ اور الف کے درمیان پڑھا جائے، اس صورت میں ہمزہ کا ضغط ختم ہو جائے گا۔

لعلم اللہ منهم ذلك فلا تطمع في ايمانهم : چونکہ اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لئے نہ ان کے ایمان لانے کی امید رکھو، اور نہ اس کی پرواہ کرو، اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ اُنذرتہم ام لم تنذرہم، کہہ کر رسول اللہ ﷺ کو انذار و تبلیغ سے روکنا مقصود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا بے فائدہ ثابت کرنا منظور ہے، جیسا کہ بظاہر نظر شبہہ ہوتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان ازلی کافروں کے ایمان لانے کی توقع آپ ختم کر کے ان کے پیچھے اپنے وقت عزیز اور خاطر عاطر کو نہ لگائیں، بلکہ دوسری سعید روحوں پر توجہ مبذول فرمائیں۔

امے مواضعہ : سمع مصدر ہے، اس کے معنی سننے کے ہیں، مہر اور بندش کسی جگہ پر لگائی جاتی ہے، معنی مصدری پر نہیں، مفسر نے اس کی توجیہ مواضعہ کہہ کر کی یعنی سننے کی جگہوں پر، یعنی کانوں پر، پس جب دل پر مہر لگ گئی، تو وہ بند ہو گیا، اب اس میں کسی خیر کی گنجائش نہیں، کانوں پر مہر لگ گئی، تو کسی حق بات کے سننے سے انھیں نفع نہیں ہو سکتا، آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تو حق سچائی نہیں دے گا، یہ ایمان سے حرمان نصیبی کی تعبیر بلیغ ہے۔

قوی دائم : یہ عذاب عظیم کی تفسیر ہے، عظیم کا اطلاق عموماً اجسام پر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی معانی کو بھی اس سے موصوف کیا جاتا ہے، چنانچہ عذاب کی صفت میں عظیم کو لانا اسی قبیل سے ہے، اور اسی لئے اس کی تفسیر قوی دائم سے کی گئی ہے جو کہ خاص معانی کے اوصاف ہیں۔



ونزل في المنافقين : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ امے يوم القيامة لانه آخر الايام ﴿ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ روعی فیہ معنی مَنْ و فی ضمیر یقول لفظها ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ باظہار خلاف ما ابطنوه من الكفر لی دفعوا عنهم احكامه الدنیویة ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ ﴾ لان وبال خداعهم راجع اليهم فیفتضحون فی الدنيا باطلاع الله نبيه على ما ابطنوه و يعاقبون فی الآخرة ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ يعلمون ان خداعهم لانفسهم والمخادعة هنا من واحد كعاقبت اللص وذكر الله فيها تحسین و فی قرأة وَمَا يَخْدَعُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ شك و نفاق فهو يمرض قلوبهم امے يضعفها ﴿ فزادهم الله مرضاً ﴾ بما انزله من القرآن لكفرهم به ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴾ مؤلم ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ بالتشديد امے نبي الله و بالتخفيف امے فی قولهم آمنا۔

ترجمہ

اور منافقین کے بارے میں درج ذیل آیات نازل ہوئیں (اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، جو کہتے ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر) یعنی قیامت کے دن پر، کیونکہ وہی آخری دن ہے۔ (اور وہ ہرگز

مومن نہیں ہیں) ہُم اور مومنین کا لفظ لانے میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ اور یقول کی ضمیر میں اس کے لفظ کی (دعا بازی کرتے ہیں، اللہ سے اور ایمان والوں سے) اس طرح سے کہ دل میں جو کفر وہ چھپائے ہوئے ہیں، اس کے خلاف ظاہر کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے اوپر سے کفر کے دنیوی احکام کو دور رکھ سکیں (اور نہیں دعا بازی کرتے مگر اپنے آپ سے) کیونکہ ان کی اس دعا بازی کا وبال انھیں پر پلٹے گا، چنانچہ وہ دنیا میں رسوا ہوں گے، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس بات پر مطلع کر دیں گے، جس کو وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں، اور آخرت میں سزا اور عذاب میں گرفتار ہوں گے (اور وہ نہیں سمجھتے) کہ ان کا یہ دھوکا خود انھیں کے حق میں ہے، اور مخادعہ اس جگہ ایک ہی طرف سے ہے، جیسے عاقبت اللص، اور اللہ کا ذکر اس میں تحسین ہے، اور ایک قرأت میں وما یخدعون ہے (ان کے دلوں میں بیماری ہے) یعنی شک و نفاق ہے، جو ان کے دلوں کو بیمار بناتا یعنی کمزور کرتا ہے (پھر بڑھادی اللہ نے ان کی بیماری) قرآن کے واسطے سے، جسے اللہ نے اتارا ہے، کیونکہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں (اور ان کیلئے دردناک عذاب ہے) یعنی آفت رسیدہ (اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے تھے) يُكذِّبُونَ تشدید کے ساتھ باب تفعیل سے، یعنی اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے اور یہ کذبون تخفیف کے ساتھ باب ضرب سے یعنی اس لئے کہ وہ اپنے قول آمنہ میں جھوٹے ہیں۔

﴿ تشریحات ﴾

لانه آخر الايام : قیامت کا دن ہماری دنیا کا آخری دن ہے، اس لئے اسے الیوم الآخر کہا جاتا ہے۔
 روعی فیہ معنی من : اس جگہ ایک لفظی اشکال ہے، جسے مفسر نے حل کیا ہے، اشکال یہ ہے کہ یقول میں ضمیر فاعل من موصولہ کی جانب راجع ہے، اور وما ہم بمؤمنین کی ضمیر جمع بھی اسی کی طرف لوٹی ہے، سوال یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ضمیر جمع اور ضمیر واحد دونوں کا مرجع کیسے بن سکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ کلمہ من لفظ کے اعتبار سے تو واحد ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے اس کا اطلاق جمع پر بھی ہوتا ہے، تو ضمیر واحد میں اس کے لفظ کی رعایت ہے، اور ضمیر جمع میں اس کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔
 باظہار ما ابطنوہ الخ منافقین اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کا بیان ہے، یعنی ان کے دل میں تو کفر چھپا ہوا ہے، لیکن زبان سے ایمان ظاہر کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں رلے ملے رہیں، اور کافروں کے ساتھ دنیا میں جو برتاؤ گیا جاتا ہے، اس سے بچے رہیں اور اس طرح اہل ایمان ان کی طرف سے دھوکہ میں پڑے رہیں۔

لان وبال خدا عہم لانفسہم : قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وہ خود اپنے آپ سے دعا بازی کرتے ہیں، یہ بات بظاہر محال ہے کہ اپنے آپ سے آدمی دعا بازی کرے، اس کی توجیہ یہ ہے کہ ان کی دعا بازی کا وبال چونکہ انھیں پر پڑے گا، اور اس کی وجہ سے وہ مصیبت میں گرفتار ہوں گے، حالانکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خود کو محفوظ

کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ چالاکی ان پر الٹ جائیگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلی بھیدوں پر نبی ﷺ کو مطلع کر دیں گے، اور اس کے نتیجے میں علی الاعلان ان کی رسوائی ہوگی، اور آخرت میں اس طرح کہ وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور وہاں ذلیل و خوار ہوں گے، تو سوچا تھا کیا؟ اور ہو گیا کیا؟ اس پورے انجام کو اللہ تعالیٰ نے وما یخادعون الا انفسہم سے تعبیر فرمایا ہے۔

یعلمون ان خداعہم لانفسہم :- یشعرون شعور سے مشتق ہے، بمعنی علم ہے، اس کا مفعول ان خداعہم لانفسہم ہے جو کہ محذوف ہے، یعنی انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کی دغا بازی خود انہیں کے حق میں ہے، اس حذف کو حذف اختصار کہتے ہیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ یہاں کوئی مفعول مقدر نہ مانا جائے، کیونکہ یہاں مقصد یہ ہے کہ ان کے شعور و ادراک کی مطلقاً نفی کی جائے، اس کے کسی خاص متعلق اور مفعول کے لحاظ سے نہیں، یعنی انہیں سرے سے شعور ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ خاص اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ ان کی دغا بازی خود انہیں کی ذات پر پڑ رہی ہے، بلکہ وہ شعور و فہم سے اصلاً خالی ہیں۔

والمخادعة هنا من واحد :- آیت کریمہ پر غور کرنے والے کو خلجان ہوگا کہ مخادعت باب مفاعلت سے ہے، اس میں مشارکت ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے باہم دغا بازی ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے کو دھوکا دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دھوکا دینا ایک مکرو فریب ہے، تو اس کی نسبت اللہ کی جانب تو محال ہے، اور اہل ایمان کی جانب خلاف واقعہ، تو اس مقام پر یخادعون کا محل بظاہر نہیں؟

اس کا جواب مفسر نے دیا ہے کہ باب مفاعلة کبھی شرکت سے خالی ہوتا ہے، چنانچہ کہتے ہیں عاقبت اللص میں نے چور کو سزا دی، یہ نہیں کہ میں اور چور نے باہم ایک دوسرے کو سزا دی، اس طرح یہاں بھی باب مفاعلت شرکت سے خالی ہے دغا بازی ایک ہی طرف سے ہے۔

سوال: جب دغا ایک ہی طرف سے تو یخادعون فرماتے، باب مفاعلت لانے میں کیا مصلحت ہے؟

جواب: اس کی حکمت غالباً یہ ہے کہ اس ایک لفظ میں ان کی دغا بازی کا تو صراحتاً ذکر ہے، لیکن اشارۃً اس کے نتیجے میں خدائی پکڑ بھی سمجھ میں آرہی ہے۔ کیونکہ باب مفاعلت میں شرکت کی جو خاصیت ہے اس کا ظہور کسی نہ کسی درجے میں ہوگا۔ اور اس شرکت کی صورت یہی ہے کہ ایک طرف سے دغا ہو، اور دوسری طرف سے خلاف توقع سزا ہو۔ چنانچہ اس خلاف توقع سزا کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اسی لفظ خداع سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ہے: اِنَّ الْمُنَافِقِیْنَ یُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اس سے معلوم ہوا کہ باب مفاعلت میں مشارکت کے معنی کو الگ کر دیا جائے جب بھی اس کی خوب باقی رہتی ہے، اسی طرح کی تقریر عاقبت اللص میں بھی کی جاسکتی ہے۔ واللہ اعلم

و ذکر اللہ فیہا تحسین :- یہ ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ فرمایا گیا ہے، یخادعون اللہ۔ یہ لوگ اللہ سے دعا بازی کرتے ہیں، اسے دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ تو اسے دیا جاسکتا ہے، جو ناواقف ہو، اور اللہ تعالیٰ تو دل کی باتوں سے واقف ہیں، انہیں کیسے دھوکہ دیا جاسکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا ذکر بطور تحسین کے ہے، یعنی اس میں علم بیان کی ایک خاص صنعت کا استعمال ہوا ہے، اور وہ یہ کہ یہ استعارہ تمثیلیہ کی قبیل سے ہے، یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے دھوکہ سے تشبیہ دی ہے، جو ایک دعا باز دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، یعنی جیسے وہ دھوکہ برا ہے، اسی طرح اللہ کے ساتھ ان کا یہ معاملہ بھی برا ہے، استعارہ تمثیلیہ کا مطلب یہ ہے کہ کلام اپنے موضوع لہ میں نہ استعمال کیا گیا ہو، بلکہ دوسرے معنی میں مشابہت کے علاقہ کی وجہ سے استعمال ہوا ہو، یہاں مخادعت اپنے اصل معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایسے معنی کیلئے استعمال ہوا ہے، جو مخادعت کے مشابہ ہے یا یہ کہ وقوع فعل میں اسے مجاز عقلی قرار دیا جائے، یعنی یخادعون کا جو اصل مفعول ہے، اسے مفعول نہ بنا کر کسی قرینہ کے باعث دوسرے کو مفعول بنا دیا جائے۔ یہاں اصل عبارت یہ ہوگی کہ یخادعون رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن رسول کو دھوکہ دینا ایک طرح سے اللہ ہی کو دھوکہ دینا ہے، اس لئے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی۔ یا یہ کہ اسے تو یہ مانا جائے، تو یہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں، ایک قریب اور دوسرا بعید، اور قریبی معنی مراد نہ ہو، بلکہ بعید معنی مراد ہو، یہاں یخادعون کا قریبی معنی تو دھوکہ کا ہے، لیکن اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ دعا بازی جیسا معاملہ کرتے ہیں، یہاں یہی مراد ہے۔

و فی قرأۃ و ما یخادعون :۔ مفسر نے جو تفسیر کی ہے، وما یخادعون کی قرأت پڑنی ہے، جو کہ باب مفاعلت سے ہے، ایک قرأت میں باب فتح سے وما یخادعون ہے۔

شک و نفاق :۔ یہ فی قلوبہم مرض کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ اس مرض سے کوئی جسمانی مرض مراد نہیں ہے۔ بلکہ روحانی اور معنوی مرض مراد ہے، یعنی شک و شبہ اور منافقت! عدم یقین اور منافقت کی وجہ سے دل مریض ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔

فزادہم اللہ مرضا بما انزلہ من القرآن لکفرہم بہ :۔ ان کے دلوں میں شک کا مرض تو تھا ہی، پھر جوں جوں قرآن کا نزول ہوتا جا رہا تھا، اسی لحاظ سے ان کے کفر میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ اگر پہلے وہ پانچ سورۃ کے منکر تھے تو چھٹی سورۃ کے نزول کے بعد اس کے بھی منکر ہو گئے، اسی طرح نزول قرآن کے ساتھ ساتھ ان کے مرض میں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ ان کا کفر اور شک بڑھتا ہی چلا گیا۔

مؤلم :۔ اسم مفعول ہے ایلام سے، یہ الیم کی تفسیر ہے، اس کے معنی ہے دکھ دیا ہوا، عذاب کی طرف مؤلم کی

نسبت مجاز عقلی ہے، کیونکہ مؤلم کا اسناد مفعول کی طرف ہونا چاہئے، یعنی معذب کی جانب، لیکن اس کا اسناد فاعل یعنی عذاب کی طرف کر دیا گیا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے سیل مفعم۔

مجاز عقلی لانے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے عذاب کی شدت کا پتہ چلتا ہے، یعنی وہ عذاب اس درجہ موذی اور تکلیف دہ ہے کہ گویا خود وہی تکلیف میں ہے۔

(یکذبون) بالتشدید، اے نبی اللہ.. یکذبون میں دو قرأتیں ہیں، ایک تشدید کے ساتھ باب تفعیل سے، اس صورت میں اس کا مفعول نبی اللہ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کو وہ لوگ جھٹلاتے ہیں، اور دوسری قرأت یکذبون بالتحفیف ہے، باب ضرب سے، اس کے معنی جھوٹ بولنے کے ہیں، یعنی یہ دردناک عذاب ان کو اس لئے ہوگا کہ وہ اپنے قول آمانا میں جھوٹے ہیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

قرآن کریم نے جب اپنی دعوت پیش کی، تو سب سے پہلے مخاطب کے دل و دماغ کو مطمئن کیا کہ جو بات پیش کی جا رہی ہے، وہ ہر قسم کے شک و شبہ اور ریب و تردد سے پاک ہے، اور یہ کہ وہ قطعی طور پر خالق کائنات کی طرف سے ہے، اور اس کے نزول کی غرض یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے اور اس کے عذاب سے جو لوگ بچنے کا قصد رکھتے ہیں، ان کیلئے رہنما اور دستور العمل ہو۔

پھر یہ بتایا کہ یہ کتاب جب بندوں کے درمیان، ان کے ہاتھوں میں پہنچی ہے تو لوگ تین گروہوں میں منقسم ہو گئے، ایک گروہ وہ ہے، جس نے اس کو اپنا رہنما اور دستور العمل تسلیم کیا، یہ متقین کا گروہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بنیادی اوصاف و خصائص کا ذکر فرما کر انھیں ہدایت یابی اور فلاح کی بشارت سنائی۔

دوسرا گروہ وہ ہے، جس نے کھلم کھلا اس کا انکار کیا، اور وہ اپنے انکار پر اس طرح جمار ہا کہ ہر خیر کی صلاحیت سے ان کے قلوب بند ہو گئے، اور ان پر اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی، ان کیلئے مسلسل عذاب ہے۔

تیسرا گروہ، جو زبان سے اقرار اور دل سے انکار کرتا ہے، اس کی خاص خصوصیت دل کا شک اور ارتیاب اور زبان کا جھوٹ ہے، یہ لوگ چھپے ہوئے دشمن ہیں، ان کیلئے دردناک عذاب کی وعید ہے۔

قرآن نے ایک آئینہ پیش کر دیا، پڑھنے والا دیکھ لے کہ اس آئینہ میں اس کی کونسی تصویر نظر آتی ہے۔



﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴿ اے لہولاء ﴿ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ بِالْكَفْرِ وَالْتَعْوِيقِ عَنِ الْإِيمَانِ ﴾ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ وَلَيْسَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ بِفُسَادٍ، قَالَ اللَّهُ رَدًّا عَلَيْهِمْ (الْأَلَا) لَلْتَنبِيهِ ﴿ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بِذَلِكَ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ

النَّاسُ ﴿ اصحاب النبی ﷺ ﴾ قَالُوا اَنْوَمِنُ كَمَا اَمَنَ السُّفَهَاءُ ﴿ الجہال ای لانفعل کفعلہم
 قال تعالیٰ رداً علیہم ﴿ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ ذلک ﴿ وَاِذَا لَقُوا ﴿ اصلہ
 لقیوا حذف الضمۃ للاستثقال ثم الیاء لالتقائها ساکنۃ، مع الواو ﴿ الَّذِینَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا
 وَاِذَا خَلَوْا ﴿ منهم ورجعوا ﴿ اِلٰی شَیَاطِیْنِهِمْ ﴿ رُوْسَائِهِمْ ﴿ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ ﴿ فی الدین ﴿ اِنَّمَا
 نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ ﴿ بہم باظهار الایمان ﴿ اَللّٰهُ یَسْتَهْزِئُ بِہِمَّ ﴿ یجازیہم باستہزائہم
 ﴿ وِیْمُدُّہُمْ ﴿ یمہلہم ﴿ فِی طُغْیَانِہِمَّ ﴿ تجاوزہم الحد بالکفر ﴿ یعمہون ﴿ یترددون تحیراً
 ﴿ اَوْلٰئِكَ الَّذِیْنَ اشْتَرَوْا الضَّلٰلَةَ بِالْہُدٰی ﴿ ای استبدلوہا بہ ﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ﴿
 ای ما ربحوا فیہا بل خسروا لمصیرہم الی النار الموبدۃ علیہم ﴿ وَمَا كَانُوْا مُہْتَدِیْنَ ﴿
 فیما فعلوا ۔

ترجمہ

(اور جب ان سے کہا جاتا ہے) یعنی ان منافقین سے (کہ فساد نہ ڈالو ملک میں) کفر کر کے اور ایمان
 کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر کے (تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں) اور جس حال میں ہم ہیں وہ فساد
 نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کرتے ہوئے فرمایا کہ (جان لو) الا تنبیہ کیلئے ہے (وہی ہیں خرابی کرنے
 والے، لیکن نہیں سمجھتے) اس کو (اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ) یعنی
 نبی ﷺ کے اصحاب (تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، جس طرح ایمان لائے بیوقوف) جاہل، یعنی جیسا انہوں
 نے کیا ہم ویسا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ (جان لو وہی ہیں بیوقوف، لیکن) اس
 کو (نہیں جانتے، اور جب ملاقات کرتے ہیں) لقوا اصل میں لقیوا ہے ضمہ ثقیل تھا، اسے حذف کر دیا، پھر
 یاء کو حذف کر دیا، کیونکہ واو کیساتھ اجتماع ساکنین ہو گیا تھا (مسلمانوں سے، تو کہتے ہیں، ہم ایمان لے آئے
 ہیں، اور جب) ان سے (تنہا ہوتے ہیں) اور لوٹتے ہیں (اپنے شیطانوں کے پاس) یعنی اپنے سرداروں کے
 پاس (تو کہتے ہیں کہ بیشک ہم تمہارے ساتھ ہیں) دین میں (ہم تو) ایمان کا اظہار کر کے ان کے ساتھ (ہنسی
 کرتے ہیں، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے) یعنی ان کو ان کے استہزاء کی سزا دیگا، (اور مہلت دیتا ہے ان کو ان کی
 سرکشی میں) یعنی کفر کے باعث حد سے تجاوز کرنے میں، حالت یہ ہے کہ (وہ حیران ہو کر بھٹک رہے ہیں) یہ
 حال ہے (یہ وہی ہیں جنہوں نے مولیٰ گمراہی ہدایت کے بدلے) یعنی ہدایت کے بدلے میں گمراہی لی، (سو
 نافع نہ ہوئی ان کی سوداگری) یعنی اس تجارت میں وہ نفع نہ حاصل کر سکے، بلکہ خسارہ میں پڑے کیونکہ وہ اس کی
 وجہ سے جہنم میں پہنچیں گے، جو ان پر ہمیشہ قائم رہے گی (اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے) اپنے کاموں میں۔

نشریحات

بالکفر والتعویق عن الایمان : یہ فساد کی شرح ہے، فساد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نامناسب حالت پیدا ہو، زمین کا فساد یہ ہے کہ لڑائیاں برپا ہوں، فتنے ابھریں، لوگوں کے احوال خراب ہو جائیں، اور ان سب کا سرچشمہ یہ ہے کہ دنیا میں کفر کا غلبہ ہو، اور جو لوگ ایمان لانا چاہیں، ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، یہاں فساد فی الأرض سے یہی آخری نقطہ عروج مراد ہے۔

لیس ما نحن علیہ بفساد : ان منافقین کا خیال یہ تھا ہم جو دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان ظاہر کرتے ہیں، اور اس طرح مسلمانوں اور کافروں دونوں کے درمیان سرخرو بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی خرابی اور برائی نہیں ہے، بلکہ یہی عین اصلاح ہے کہ اس طرز عمل سے ہم مسلمانوں اور کافروں کے درمیان واسطہ کا کام دیتے ہیں، اور اس طرح ہم دونوں کو جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اسے اصلاح سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ محض فساد ہے۔

بذلک : یشعرون کا مفعول باء وصلہ کے ساتھ آتا ہے۔

اصحاب النبی : یہ کما آمن الناس میں ناس کے مصداق کا بیان ہے، یعنی جیسا کہ صحابہ کرام کا ایمان ہے، اسی جیسا تم بھی ایمان لاؤ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کیلئے معیار ہیں، ان جیسے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مطلوب قرار دیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں۔

الجهال : سفہاء کی تفسیر جاہل سے کی، حالانکہ عام طور سے اس کے معنی کم عقل کے آتے ہیں، لیکن یہاں اس کا ترجمہ جہل سے اس لئے کیا کہ اللہ نے آگے اس کے مقابلے میں علم کو ذکر کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے: الا انہم ہم السفہاء ولكن لا یعلمون اور معلوم ہے کہ علم کے مقابلے میں جہل ہے، اس سے ثابت ہوا کہ جہل اور سفہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم ہیں اور اس لفظ کے لانے میں حکمت یہ ہے کہ سفہ کیلئے جہالت لازم ہے، تو گویا ان لوگوں میں حماقت بھی ہے اور جہالت بھی۔

اصلہ لقیو : اس عبارت میں لقوا کی صرفی تعلیل بیان کی ہے، لیکن عبارت قاصر ہے، مفسر نے فرمایا کہ ضمہ ثقیل ہونے کی بنا پر حذف کر دیا گیا ہے، اس کے بعد یاء اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دی گئی، مناسب عبارت یہ ہے کہ یا پر ضمہ کسرہ کے بعد دشوار ہے، اس لئے قاف کے کسرہ کو ہٹا کر اس کی جگہ پر یاء کے ضمہ کو منتقل کر دیا، اب یا بھی ساکن اور واو بھی ساکن! اس لئے یا کو حذف کر دیا۔ لقوا ہو گیا۔

واذا خلوا منهم ورجعوا الی شیاطینہم : خلا کا صلہ الی نہیں آتا بلکہ من یا عن آتا ہے، یہاں اس کے صلہ میں الی کا لانا اس بات کا قرینہ ہے، اس میں کسی ایسے معنی کی تضمین ہے، جس کا صلہ الی آتا ہے، وہ

یہاں کے مناسب رجوع کا لفظ ہے۔

اب عبارت وہ ہوگی جو اوپر لکھی گئی، یعنی یہ منافقین جب مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں، اور اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں۔

انما نحن مستهزئون بہم باظهار الایمان : منافقین کے شیاطین اور سرداران پر اعتراض کرتے تھے کہ تم مسلمانوں کے پاس جا کر ان کے سامنے کیوں اظہار ایمان کرتے ہو، اس کا وہ جواب دیتے کہ ہم صرف اوپر سے ایمان ظاہر کرتے ہیں، اور یہ درحقیقت ان کے ساتھ ہمارا مذاق ہے، وہ غریب اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ ہم ان کا مذاق بنا رہے ہیں۔

یجازیہم باستہزائہم : منافقین کے قول انما نحن مستهزئون کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یستہزی بہم، اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے، اس پر اشکال ہوتا ہے کہ استہزاء تو ایک بری چیز ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کیونکر ہو سکتی ہے، اس کا جواب مفسر نے یہ دیا ہے کہ یہاں استہزاء سے مراد ان کے استہزاء کا بدلہ اور اس کی سزا ہے، جیسے فرمایا گیا ہے کہ جزاء سیئة سیئة مثلھا، اس میں دوسرا سیئہ درحقیقت پہلے سیئہ کا بدلہ ہے، لیکن چونکہ وہ بدلہ اصل برائی کا ہم شکل ہے، اس لئے اسے بھی مشاکلتہ سیئہ کہا گیا۔ اسی طرح یہاں بھی استہزاء کے بدلہ کو بطور مشاکلت کے استہزاء کہا گیا۔

یمہلہم: یمد کی تفسیر امہال کی سی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدد سے ماخوذ ہے، یعنی ان کی عمر کو بڑھاتے ہیں، تاکہ وہ مزید سرکشی کریں۔

فی طغیانہم تجاوزہم الحد بالکفر : طغیان کے معنی ہیں حد سے آگے بڑھنا، کفر کرنا، بھی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ یہاں طغیان سے مراد کفر ہے۔

یعمہون یترددون : عمہ یعمہ باب سمع سے، متحیر ہونا اور متردد ہونا، اس کا معنی اور عمی یعمی کا معنی قریب قریب ہے، عمی یعنی عام ہے، آنکھ کا اندھا ہونا، اور رائے اور عقل کا اندھا ہونا بھی، اور عمہ کا معنی رائے کا اندھا ہونا، آنکھ کا نہیں۔ (جمل)

اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدی: امے استبدالوہا بہ ، اولئک کا اشارہ ان منافقین کی جانب ہے، جن کا ذکر ومن الناس سے اب تک ہوا ہے، اشتراء کی تفسیر استبدال سے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجاز ہے اور چونکہ حقیقت و مجاز کے درمیان علاقہ مشابہت کا ہے کہ استبدال کو اشتراء کے مشابہ قرار دیا ہے، اس لئے استعارہ ہے، اور چونکہ مشبہ لفظوں میں مذکور ہے، اس لئے استعارہ تصریحیہ ہے، اور مشبہ بہ کے مناسب معنی ربح کا اس میں تذکرہ ہے، اس لئے استعارہ مرثعہ ہے۔

ماربحو افیہا: فما ربحت تجارتہم میں اسناد مجازی ہے، ربح کا اسناد تا جبر کی طرف ہوتا ہے، تجارت کی طرف نہیں، کیونکہ تجارت مصدر ہے یا معنی مصدر ہے، اسے نفع نہیں حاصل ہوتا، اس کی طرف اسناد کرنا مجاز عقلی و اسناد مجازی ہے۔



﴿مَثَلُهُمْ﴾ صفتہم فی نفاقہم ﴿کَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ﴾ او قد ﴿نَارًا﴾ فی ظلمة ﴿فَلَمَّا اَضَاءَتْ﴾ انارت ﴿مَا حَوْلَهُ﴾ فأبصر واستدفاً وأمن ما يخافه ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ اطفأه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذى ﴿وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين فكذلك هولاء، آمنوا باظهار كلمة الايمان، فاذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب هم ﴿صُمُّ﴾ عن الحق فلا يسمعون سمع قبول ﴿بُكْمٌ﴾ خرس عن الخير فلا يقولونه ﴿عُمَى﴾ عن طريق الهدى فلا يرونه ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ عن الضلالة۔

ترجمہ: (ان کی مثال) یعنی ان کے نفاق میں ان کی حالت (اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی) اندھیرے میں (پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو) پس اسے چیزیں سجھائی دیں، اور اس نے گرمی حاصل کی، اور جس کا خوف ہو سکتا تھا، اس سے مطمئن ہوا (تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی) یعنی اسے بجھا دیا، اور الذی کے معنی کی رعایت میں ضمیر کو جمع لایا گیا ہے (اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے) اپنے آس پاس کو، راستے سے بھٹک کر حیران ہیں، خوف میں مبتلا ہیں، یہی حال ان منافقین کا بھی ہے کہ کلمہ ایمان کا اظہار کر کے قدرے مطمئن ہوئے، پھر جب مرجائیں گے، تو ان پر خوف اور عذاب مسلط ہوگا، یہ حق سے (بہرے ہیں) اسے بطور قبولیت کے نہیں سنتے (گو نگے ہیں) خیر سے، اس کا تکلم نہیں کرتے، (اندھے ہیں) راہ ہدایت سے اسے نہیں دیکھتے (سو وہ نہیں لوٹیں گے) گمراہی سے۔

﴿تشریحات﴾

مثالہم صفتہم: مثل کا ترجمہ صفت سے کر کے اشارہ کیا ہے کہ اس کے بعد جو کاف حرف جر ہے، وہ اپنے حقیقی معنی میں ہے، یعنی تشبیہ کیلئے ہے، اس طرح ترجمہ یہ ہوگا، ان کی صفت، اس شخص کی حالت اور صفت کی طرح الخ، اور اگر مثل کو تشبیہ کے معنی میں قرار دیا جائے تو کاف کو مجاز زیادہ ماننا پڑے گا، کیونکہ اس صورت میں کاف اور مثل دونوں کا ایک ہی معنی ہوگا۔ تو لامحالہ کاف کو زائد ماننا ہوگا۔

فی ظلمة: آیت کے اگلے الفاظ فی ظلمات لا یبصرون سے سمجھ میں آیا کہ آگ جلانے کا یہ کام اندھیرے میں ہوا تا کہ اندھیری دور ہو۔

فابصر واستدفاً: دف کے معنی گرمی، استدفاً کے معنی گرمی حاصل کی، یعنی آگ کی روشنی میں اسے آس پاس کی چیزیں دکھائی دینے لگیں، اور گرمی بھی حاصل ہوئی، نیز اندھیرے میں بہت سے خطرے اور اندیشے ہوتے ہیں، ان سے بھی نجات حاصل ہوگئی، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش سے مطمئن ہو گیا تھا۔

ذهب اللہ بنورہم اطفأہ: ناگاہ اللہ نے اس روشنی کو بجھا دیا، اللہ کا بجھانا یہ ہے کہ مثلاً آندھی چلی اور آگ بجھ گئی، یا کسی اور آفت سماوی کی وجہ سے آگ ٹھنڈی ہوگئی۔

بنورہم:۔ میں حرف جر تعدیہ کیلئے ہے، اذہبہ اور ذہب بہ دونوں کا مفہوم ایک ہے، جمع کی ضمیر الذی کی طرف راجع ہے، جو لفظاً تو واحد ہے، مگر معنی جمع ہے۔

وترکہم فی ظلمات لا یبصرون ظلمات کا صیغہ جمع لانے میں اشارہ ہے کہ آگ کے بجھنے کے بعد کئی اندھیریاں اکٹھی ہو گئیں، ایک تو رات کی ظلمت، دوسرے گھنی بدلیوں کی ظلمت، تیسرے آگ بجھنے سے ظلمت، کیونکہ اجالے کے بعد اور تیز روشنی کے بعد جب اچانک اندھیرا ہوتا ہے تو کچھ زیادہ شدید ہوتا ہے اور ایسی حالت میں آدمی کی حیرانی پریشانی میں اور خوف و ہراس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

فکذلک ہؤلاء آمنوا۔ منافقین کا حال اسی آگ جلانے والے کے مثل ہے، جیسے اندھیرے میں آگ جلانے والے نے آگ روشن کر کے قدرے روشنی حاصل کی، اسی طرح منافقین نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت دیکھی تو اپنے اوپر، اپنی جان و مال کے اوپر خوف و ہراس کی تاریکی محسوس کی، انھیں اس سے کوئی مفر نہیں ملا، تو زبان سے کلمہ ایمان کا اقرار کر لیا، اس طرح انھوں نے اپنی جان اور اپنے مال کے بچاؤ کا انتظام کر لیا، مسلمانوں میں رلے ملے رہے، اور مطمئن رہے کہ اب انھیں کوئی اندیشہ نہیں۔ لیکن کلمہ ایمان کی روشنی اوپر ہی اوپر رہی، پھر جب موت نے آن پکڑا تو زبان کے اقرار سے جو ظاہری روشنی انھوں نے جلائی تھی، وہ ختم ہوگئی اور پھر خوف اور عذاب کی مزید گہری تاریکی میں وہ گرفتار ہو گئے۔

ہم (صم):۔ صم خبر ہے اور مبتدأ ہم محذوف ہے، اسی ایک مبتدأ کی خبر صم، بکم، عمی، تینوں لفظ ہیں، یہ تینوں الفاظ معنی کے لحاظ سے تو الگ الگ ہیں، لیکن ان کے مجموعہ سے ایک معنی حاصل ہوتا ہے کہ ان میں قبول حق کی صلاحیت نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کے حواس ظاہری سامعہ، باصرہ اور ناطقہ کی نفی نہیں مقصود ہے، بلکہ صلاحیت کا فقدان ظاہر کرنا ہے، اسی لئے مفسر نے فرمایا کہ یہ لوگ نہ تو حق کو قبولیت کے واسطے سنتے ہیں، نہ خیر کی بات بولتے ہیں، اور نہ ہدایت کی راہ دیکھتے ہیں، یعنی حواس ظاہرہ تو سب موجود ہیں، مگر حق اور خیر کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔

فہم لا یرجعون من الضلالة:۔ حق کی راہ پانے کے یہ تین ذرائع تھے، کسی رہنما سے سنتے، یا کسی سے پوچھتے، اور پھر خود راہ کو دیکھتے، جب تینوں باتیں مفقود ہیں تو کوئی صورت نہیں ہے کہ جس راہ سے بھٹک چکے ہیں، اس

پر پھر لوٹ سکیں۔



﴿اَوْ﴾ مثلہم ﴿كَصَيْبٍ﴾ اے کاصحابِ مطر و اصلہ صَيُوبٌ من صابِ يصوب
 اے ينزل ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ السحاب ﴿فِيهِ﴾ اى السحاب ﴿ظُلُمَاتٌ﴾ متکاثفة ﴿وَرَعْدٌ﴾
 هو الملك الموكل به و قيل صوته ﴿وَبُرُقٌ﴾ لمعان سوطه الذى يزره به ﴿يَجْعَلُونَ﴾
 اے اصحاب الصيب ﴿اَصَابِعَهُمْ﴾ اى اناملها ﴿فِي آذَانِهِمْ مِنْ﴾ اجل ﴿الصَّوَاعِقِ﴾ شدة
 صوت الرعد لئلا يسمعوها ﴿حَذَرَ﴾ خوف ﴿الْمَوْتِ﴾ من سماعها كذلك هولاء اذا
 نزل القرآن و فيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات و الوعيد عليه المشبه بالرعد و الحجج البينة
 المشبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعوها فيميلوا الى الايمان و ترك دينهم و هو عندهم
 موت ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ علماً و قدرة فلا يفوتونه ﴿يَكَادُ﴾ يقرب ﴿الْبُرْقُ يَخطفُ﴾
 أَبْصَارَهُمْ ﴿ياخذها بسرعة﴾ كَلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ﴿اى فى ضوءه﴾ وَاذَا أَظْلَمَ
 عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴿وقفوا تمثيل لزعاج ما فى القرآن من الحجج قلوبهم و تصديقهم بما سمعوا﴾
 فيه مما يحبون ووقفهم عما يكرهون ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ﴾ بمعنى اسماعهم
 ﴿وَأَبْصَارِهِمْ﴾ الظاهرة كما ذهب بالباطنة ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ شاءه ﴿قَدِيرٌ﴾ و
 منه اذهاب ما ذُكِرَ۔

ترجمہ

(یا) ان کی مثال ایسی ہے (جیسے زور کی بارش) یعنی جیسے بارش میں پھنسے ہوئے لوگ، صیب اصل
 صَيُوبٌ ہے، جو اتر رہی ہے (آسمان سے) یعنی بادل سے (اس میں) یعنی بادل میں (اندھیرے ہیں) گھنے
 (اور رعد ہے) وہ فرشتہ جو بادلوں پر متعین ہے یا یہ کہ رعد اسی فرشتے کی آواز ہے (اور بجلی) اس کے کوڑے کی چمک
 جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے (دے لیتے ہیں) بارش میں پھنسے ہوئے لوگ (اپنی انگلیاں) یعنی ان کے
 پورے (اپنے کانوں میں مارے کڑک کے) صواعق: رعد کی شدید آواز ہے، تاکہ اس کو نہ سنیں (موت کے ڈر
 سے) اس کے سننے سے انھیں موت کا خوف ہوتا ہے، ایسے ہی یہ منافقین بھی ہیں کہ جب قرآن کا نزول ہوتا ہے
 اور اس میں کفر کا جو کہ ظلمات کے مشابہ ہے، اور اس پر وعید کا جو کہ رعد کے مانند ہے، اور واضح دلائل کا جو کہ بجلی کے
 مثل ہیں، ان سب کا ذکر اس میں ہوتا ہے، تو یہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، تاکہ اسے نہ سنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ
 اسے سن کر ان کا رجحان ایمان کی جانب اور اپنے دین کے ترک کر دینے کی جانب ہو جائے، اور یہ ان کے

نزدیک موت ہے (اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا) علم اور قدرت کے لحاظ سے، لہذا وہ لوگ اس سے بچ کر نکل نہیں سکتے (قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں) خطف کے معنی ہیں تیزی سے کسی چیز کو لے لینا (جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں) یہ ان کی اس کیفیت کی تمثیل ہے کہ قرآن کے دلائل سن کر ان کے قلوب کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور جو چیزیں اس میں ان کی پسندیدہ ہوتی ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، جو چیزیں ناپسند ہوتی ہیں وہاں یہ ٹھہر جاتے ہیں، اس کیفیت کو اس مثال میں ذکر کیا ہے (اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کی شنوائی کو) یعنی کانوں کو (اور ان کی) ظاہری (نگاہوں کو) جیسا کہ لے جا چکا ہے ان کی باطنی نگاہوں کو (بیشک اللہ ہر شے پر) جس کو وہ چاہتا ہے (قادر ہے) اور اسی قبیل سے مذکورہ چیزوں کو ختم کرنا بھی ہے۔

﴿ تشریحات ﴾

او: یہ او تفصیل کیلئے ہے، یعنی منافقین کے حال کی مثال وہ بھی ہے جو پہلے بیان ہوئی اور یہ بھی ہے جو اب بیان ہو رہی ہے۔

کاصحاب صیب: صیب کیلئے مضاف اصحاب کو اس لئے مقدر مانا کہ آگے چل کر یجعلون جمع کا صیغہ آ رہا ہے، اس کی ضمیر جمع کا مرجع جمع ہی ہونا چاہئے۔ اور اس لئے بھی کہ منافقین کو تشبیہ بارش سے نہیں بلکہ بارش میں پھنسے ہوئے لوگوں سے دی گئی ہے، اس لئے یہاں اصحاب کا لفظ ذکر کر دیا گیا۔

اصلہ صیوب: صیب اصل میں صیوب ہے، جیسے سید اصل میں سیود ہے، واو اور یاء ایک کلمہ میں جمع ہوئے، اور ان میں پہلا ساکن ہے، اس لئے واو کو یاء سے بدل کر یا کا اس میں ادغام کر دیا، قاعدہ یہ ہے کہ واو اور یاء غیر مبدل، غیر ملحق میں ایک کلمہ میں جمع ہوں اور دونوں میں پہلا حرف ساکن ہو تو واو کو یاء سے بدل کر یاء میں ادغام کر دیتے ہیں، یہ لفظ صاب یصوب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی اترنے اور برسنے کے ہیں، صیب کے معنی زور کی بارش کے ہیں۔

من السماء السحاب: عربی زبان میں السماء ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سر کے اوپر ہو، مثلاً چھت وغیرہ، یہ سمو سے مشتق ہے، جس کے معنی بلندی کے ہیں، یہ اصل میں سماو ہے، واو کو ہمزہ سے بدل دیا، یہاں السماء سے مراد بادل ہے۔

فیہ ای فی السحاب ظلمات: السماء چونکہ مونث ہے، اس لئے ضمیر کا مرجع وہ نہیں ہو سکتا، اس کا مدلول سحاب ہے، وہ مذکر ہے، مفسر نے سحاب کی طرف ضمیر کو راجع قرار دیا ہے، مگر مرجع کی یہ تعیین خلاف ظاہر ہے، ظاہر یہ ہے کہ یہ ضمیر صیب کی جانب لوٹی ہے۔

ظلمات متکاٹفة : گھنی تاریکیاں، بادل کی تاریکی، بارش کی تاریکی، اور رات کی تاریکی، تینوں کا مجموعہ۔

رعد: اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر متعین ہے، یا یہ کہ اس کی شدید آواز کو رعد کہتے ہیں

برق : یہ بادلوں کے فرشتے کی کوڑے کی چمک ہے، جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔

برق اپنے ظاہر کے اعتبار سے وہ بجلی ہے، جو پانی کے مخصوص تصادم سے پیدا ہوتی ہے، لیکن یہی اس کی کل حقیقت نہیں ہے، اہل سائنس کی پہونچ یہیں تک ہے، دنیا کی ہر تدبیر و انتظام کیلئے غیبی امور کا ایک لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بادل اٹھتے ہیں، تہ بہ تہ جمع ہوتے ہیں، گر جتے ہیں، ان میں بجلی کوندتی ہے، پانی کے قطرے گرتے ہیں، پھر ان میں تیزی آتی ہے، اور موسلا دھار بارش ہونے لگتی ہے، پھر بادل سمٹنے لگتے ہیں، بارش کا سلسلہ مدہم ہوتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے، یہ سب مشاہدہ ہے، لیکن یہ پوری حقیقت نہیں ہے، وحی الہی بتاتی ہے بارش کی تدبیر و انتظام کرنے والی غیبی مخلوق فرشتوں کی ہے، یہ فرشتے اللہ کے حکم سے بادلوں کو ہانکتے ہیں، ان سے بارش برساتے ہیں، انھیں فرشتوں کی ہماہمی گرج اور کڑک کی شکل میں سنائی دیتی ہے۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں آتشیں کوڑے ہوتے ہیں، جنہیں اہل سائنس بجلی کا نام دیتے ہیں، اگر ظاہر میں نگاہوں کو ان غیبی حقائق کا ادراک نہیں ہے، تو ان کے انکار میں عجلت نہ کریں، کیونکہ ان کے انکار کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے۔

يجعلون اى اصحاب الصيب : پیچھے لفظ صیب آیا تھا، يجعلون کا فاعل ضمیر جمع ہے، بظاہر اس کا مرجع موجود نہیں ہے، مفسر نے اشارہ کیا کہ گزر چکا ہے کہ صیب سے مراد اصحاب صیب ہیں، اور وہی ضمیر کا مرجع ہے۔

اصابعهم اى اناملهم : اصابع سے مراد انامل ہے کیونکہ پوری انگلی کان میں نہیں ڈالی جاسکتی، اس کا ایک جز انملہ (پورا) ہی کان میں ڈالا جاسکتا ہے، یہ مجاز مرسل ہے، اور علاقہ جزئیت کا ہے کیونکہ انملہ اصبع کا جز ہے۔

من اجل الصواعق : من کی تفسیر اجل سے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ من تعلیلیہ ہے۔

لئلا يسمعوها : یہ يجعلون کی تعلیل ہے، اور حذر الموت، يجعلون کا مفعول لہ ہے۔

كذلك هولاء الخ: یہاں مفسر نے تشبیہ کو مشبہ پر منطبق کیا ہے، اس کی تقریر یہ ہے کہ جیسے زوروں کی بارش ہو رہی ہو، اور گپ اندھیرا اچھایا ہوا ہو، بادل گرج رہے ہوں، بجلی چمک رہی ہو، اس میں پھنسا ہوا آدمی گھبرا یا ہوا ہو، موت سے ڈر رہا ہو، جب کڑک کی آواز سنتا ہے، تو کانوں میں انگلیاں دے لیتا ہے، بجلی چمکتی ہے، اور کچھ روشنی ہوتی ہے، تو چند قدم آگے چلتا ہے، پھر جب وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے، تو اندھیرے میں ہکا بکا رہ جاتا ہے، یہی حال ان منافقین کا ہے کہ نزول قرآن کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ اس میں گھرے ہوئے ہیں، اس قرآن میں اس کفر کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کے دل میں ہے۔ اور یہ مشابہ ہے ظلمات کے اور اس پر وعیدیں ہیں، جن کو رعد (گرج) سے تشبیہ دی گئی ہے، اور روشن دلائل ہیں جن کو برق سے تشبیہ دی گئی ہے، تو جب قرآن کی آیات اترتی

ہیں، جن میں مذکورہ مضامین کا بیان ہوتا ہے، تو وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باتیں ان کے کان میں پڑ جائیں اور ان کا رجحان ایمان کی جانب ہو جائے، اور انھیں اپنا دین چھوڑنا پڑے، اور یہ بات ان کے حق میں..... ان کے نزدیک..... موت ہے۔

تشبیہ کی یہ وضاحت جو حضرت مفسر نے کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تشبیہ مفرد بالمفرد ہے، جیسا کہ ان کے بیان سے ظاہر ہے، مگر قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے اسے تشبیہ مرکب قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرکب شے کی مجموعی ہیئت کو دوسرے مرکب کی مجموعی ہیئت سے تشبیہ دی جائے، اور تشبیہ میں اس کے اجزاء علیحدہ علیحدہ مقصود نہ ہوں، اس طرح مذکورہ دو تشبیہوں میں منافقین کے مجموعی حال کو آگ روشن کرنے والے اور بارش میں پھنسے ہوئے شخص سے تشبیہ دینا مقصود ہے۔

واللہ محیط بالكفرین علماً و قدراً : احاطہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی شے اپنے سے کسی چھوٹی چیز کو ہر طرف سے گھیر لے، خدا تعالیٰ نے کافروں کا احاطہ کر رکھا ہے، اس احاطہ کی کیا کیفیت ہے، یہ معلوم نہیں، لیکن علم اور قدرت کے لحاظ سے احاطہ معلوم ہے۔ یعنی کفار خدا تعالیٰ کے علم اور قدرت کے احاطہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام احوال اور حرکات و سکنات کو ہر وقت جانتے ہیں، وہ مکمل طور پر ان کی قدرت میں ہیں، اس لئے اگر وہ حق تعالیٰ کی پکڑ سے کہیں بھاگنا بھی چاہیں تو ہرگز نہیں بھاگ سکتے۔

مشوا فیہ ای فی ضوء ہ : فیہ کی ضمیر برق کی جانب راجع ہے، اور اس سے مراد اس کی روشنی ہے۔ لیکن مفسر نے اوپر برق کی تفسیر لمعان سوطہ (فرشتے کے کوڑے کی چمک) سے کی ہے۔ اس صورت میں مضاف ضوء کو مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔

تمثیل لازعاج ما فی القرآن یکاد البرق یخطف ابصارہم الخ : سے منافقین کے حال کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جب قرآن کے دلائل و براہین کو سنتے ہیں، تو ان کے قلوب، کفر و انکار سے ڈگمگا جاتے ہیں، اور اس میں جو ایسی باتیں ہوتی ہیں، جو ان کے مطلب کے موافق ہوتی ہیں، مثلاً ایمان کی وجہ سے جان و مال کا محفوظ رہنا، اور جہاد میں مال غنیمت کا حاصل ہونا، تو وہ تصدیق کی جانب چل پڑتے ہیں، اور جب وہ باتیں سنتے ہیں جو ان کے نفس پر گراں ہوتی ہیں جیسے نماز، روزہ، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ تو بس ٹھہر جاتے ہیں، اور ان کی تصدیق و تعمیل سے جان چراتے ہیں۔

بسمعہم بمعنی اسماعہم : سمع واحد ہے، لیکن معنی میں جمع کے ہے، کیونکہ ابصار ہم جمع کا لفظ آیا ہے، اس کے قرینے سے یہ بھی جمع کے معنی میں ہے۔

الظاہرۃ کما ذهب بالباطنۃ : ابصار باطنہ سے مراد دل ہیں، یعنی جس طرح دل اندھا ہے، اللہ تعالیٰ

چاہیں تو ان کی ظاہری آنکھیں بھی ختم کر دیں۔ یہ وعید منافقین کے حق میں ہے، جو کہ مشبہ ہیں۔ اصحاب صیب کے حق میں نہیں ہے۔

ان اللہ علی کل شیء قدير : اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر یہاں مفسر نے شئی کے ساتھ شاء ہ کی شرط لگائی ہے، یعنی ہر وہ چیز جسے اللہ چاہے، اس پر قادر ہے، اس قید کو لگا کر ایک سوال کا جواب دیا ہے۔

سوال یہ ہے کہ شے تو اللہ کی ذات و صفات بھی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے ابقاء و افناء پر بھی قادر ہیں؟
اس کا جواب مفسر نے یہ دیا کہ شے سے مراد وہ ہے جو مشیت کے تحت آئے، اور بعض امور وہ ہیں جو از قبیل محالات ہیں، جیسے ذات و صفات باری تعالیٰ کا افناء و اعدام۔ تو یہ امور ایسے ہیں، جن سے مشیت متعلق ہی نہیں ہوتی، اور نہ یہ تحت القدرہ ہیں، جو اب کی یہ تقریر علامہ سلیمان بن عمر العجلی الشافعی المعروف بالجمل نے اپنی مشہور شرح الفتوحات الالہیہ میں ذکر کی ہے۔

لیکن اس جواب کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ شے کی تفسیر میں شاء ہ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ شے، مشیت سے ماخوذ ہے، اس لئے شے کہلانے کی مستحق وہی چیز ہے، جو مشیت کے تحت ہو، واجب الوجود چونکہ تحت المشیت ہے ہی نہیں، اس لئے اس پر شے کا اطلاق نہیں ہوگا، اللہ کو موجود تو کہا جائیگا، مگر شے نہیں، اس لحاظ سے موجود اور شے میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، کہ ہر شے موجود تو ہے لیکن ہر موجود شے نہیں ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے شے پر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے، ہر موجود پر نہیں، لہذا کوئی اشکال نہیں ہوتا۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال قدرے تفصیل سے ذکر کئے ہیں، کیونکہ یہ فرقہ اسلام کا چھپا ہوا دشمن ہے، بزدلی کی وجہ سے علی الاعلان اسے نہ موافقت کرنے کی ہمت ہے، نہ مخالفت کرنے کی، یہ لوگ دور نئے ہوتے ہیں، جدھر طاقت دیکھی، ادھر کی بات کرنے لگے، ایسا کرنے کی ضرورت اسی وقت ہوتی ہے، جب دل میں موافقت نہ ہو، چنانچہ منافقین، دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے، مگر طاقت کے آثار کو دیکھ کر اہل اسلام سے بھی اپنی بات بنائے رکھنا چاہتے تھے، اور ادھر کی ادھر کرتے رہتے تھے، یہ لوگ اسلام کی راہ میں خطرناک رکاوٹ تھے، ان کا سارا عمل فساد کا اور خرابی کا تھا، مگر منافقین یہ سمجھتے تھے کہ وہ بناؤ اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ان سے کہا جاتا کہ سچے مسلمان کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ انھیں بیوقوف کہتے اور خود کو چالاک قرار دیتے، لیکن جس چالاک کی انجام رسوائی ہو وہ کیا چالاک ہوئی؟ ایمان والوں سے ایمان کی بات، اور کفر والوں سے کفر کی بات! یہی ان کی چالاک تھی، انھیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چالاک کو ان پر الٹ دینے والے ہیں، ان کے سامنے ہدایت تھی، مگر اسے چھوڑ کر انھوں نے گمراہی اختیار کی، یہ تجارت، خسارے کی تجارت ہے، یہ زبان سے کلمہ ایمان کا اقرار

کر کے دنیا میں کچھ روشنی ضرور حاصل کر لیتے ہیں، اور بظاہر مومن شمار ہو جاتے ہیں، لیکن جب موت کا اندھیرا چھائے گا، تو پھر کچھ نظر نہ آئیگا، قرآن کے ذریعے ہدایت کی بارش ہو رہی ہے، مگر یہ محروم قسمت اس بارش کو اپنے لئے بجائے رحمت کے مصیبت بنائے ہوئے ہیں، امید کی کوئی کرن دکھائی دیتی ہے، مطلب کے موافق کوئی بات ہوتی ہے تو تصدیق کا خیال پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اپنے نفس پر کوئی گراں بات دیکھتے ہیں تو بدک جاتے ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں، انھیں نہیں معلوم کہ وہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت میں ہیں، نہ بھاگ کر کہیں جاسکتے ہیں اور نہ عذاب سے بچ سکتے ہیں۔



﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ اے اہل مکہ ﴿اعْبُدُوا﴾ و حدوا ﴿رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ انشأكم ولم تكونوا شيئاً ﴿وَ﴾ خلق ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ بعبادته عقابه ولعل في الاصل للترجي و في كلامه تعالى للتحقيق ﴿الَّذِي جَعَلَ﴾ خلق ﴿لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ حال بساطاً يفترش لا غاية لها في الصلابة او الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها ﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ سقفاً ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ﴾ انواع ﴿الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ تاكلونه و تعلفون به دوابكم ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ شركاء في العبادة ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ انه الخالق ولا يخلقون ولا يكون لها الا من يخلق .

﴿ترجمہ﴾

(اے لوگو) یعنی اہل مکہ (بندگی کرو) تو حید اختیار کرو (اپنے رب کی، جس نے پیدا کیا تم کو) یعنی وجود بخشنا، حالانکہ تم کچھ نہ تھے (اور) پیدا کیا (ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے شاید تم) اس کی عبادت کی وجہ سے اس کے عقاب سے (بچو) اور لعل اصل میں ترجی کیلئے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ تحقیق کیلئے ہے (جس نے بنایا) یعنی پیدا کیا (تمہارے واسطے زمین کو بچھونا) یہ حال ہے، فراش بمعنی بساط، یعنی بچھونا جسے بچھایا جائے، نہ وہ انتہائی سخت ہے اور نہ بالکل نرم کہ اس پر رہائش اور ٹھہراؤ ممکن نہ ہو (اور آسمان کو چھت اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے) جنھیں تم کھاؤ اور اپنے جانوروں کو کھلاؤ (سونہ ٹھہراؤ اللہ کے مقابل کسی کو) یعنی عبادت میں شرکت دار (اور تم جانتے ہو) کہ وہی خالق ہے اور دوسرے شرکاء کچھ پیدا نہیں کر سکتے، اور معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو پیدا کرتا ہے۔

﴿تشریحات﴾

اے اہل مکہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ یا ایہا الناس کا خطاب اہل مکہ سے ہے، اور

یا ایہا الذین آمنوا کا خطاب اہل مدینہ سے ہے، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ الرحمۃ نے اس کی توجیہ لکھی ہے کہ چونکہ اہل مکہ زمان نزول قرآن میں زیادہ تر کافر تھے، اور اہل ایمان کم تھے، اس لئے ایسے لفظ سے خطاب کیا، جو دونوں فریق کو اپنے احاطہ میں لے لے، اور مدینہ میں چونکہ اہل ایمان زیادہ تھے، اس لئے ان کے عز و شرف کے اظہار کے واسطے ایمان کے عنوان سے خطاب کیا۔ (تفسیر مظہری ص: ۳۵، ج: ۱)

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن میں جہاں یا ایہا الناس آیا ہے، وہ آیت مکی ہے، اور جہاں یا ایہا الذین آمنوا آیا ہے، وہ آیت مدنی ہے۔ لیکن اس پر اعتراض ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ حجرات تو بالاتفاق مدنی ہے اور ان میں یا ایہا الناس آیا ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ قاعدہ اکثری ہے، کلی نہیں ہے۔ (جمل) لیکن اگر اس کی وہ توجیہ کی جائے جو ابھی تفسیر مظہری کے حوالے سے گزری، تو اس اعتراض کی گنجائش نہ ہوگی، کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آیت مکی ہے جس میں یا ایہا الناس آیا ہے، بلکہ آیت نزول کے اعتبار سے کہیں کی ہو، اس میں خطاب اہل مکہ سے ہے، کیونکہ وہی مخاطب اول ہیں، اور پھر ان کے بعد سارے جہان کے لوگ ہیں۔

اعبدوا: وَّحَدُوا: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ ما ورد فی القرآن من العبادۃ فمعناہ التوحید، قرآن میں جہاں کہیں عبادت کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی توحید کے ہیں، کفار تو توحید پر ایمان لانے کے مکلف ہیں، اور اہل ایمان اس پر قائم و دائم رہنے کے مکلف ہیں۔ (تفسیر مظہری) کیونکہ اصل عبادت توحید ہی ہے۔

انشأکم: یہ خلقکم کی تفسیر ہے، اس کا معنی ہے ایجاد الشی علی غیر مثال سبق، کسی نمونہ کے بغیر کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا۔

لعلکم تتقون بعبادتہ عقابہ: شاید تم اس کی توحید کی بدولت اس کے عذاب سے بچو، تفسیری الفاظ کے اضافہ سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر تقویٰ اپنے اصطلاحی اور شرعی معنی میں نہیں ہے۔ بلکہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی بچاؤ۔

ولعل فی الاصل الخ: لعل اصل میں توجیہ یعنی توقع اور اظہار امید کیلئے ہے، لیکن اللہ کے کلام میں جب یہ لفظ آئے، تو اس کے معنی تحقیق کے ہیں، پس یہاں اظہار امید کا معنی نہیں ہے کہ شاید تم توحید کے اختیار کرنے سے، اس کے عذاب سے محفوظ رہو، بلکہ معنی یہ ہے کہ توحید اختیار کرو گے تو اس کے عذاب سے محفوظ رہو گے، اس لحاظ سے یہ لفظ اپنے اصل معنی کے بجائے فاء سیبیہ (جزاسیہ) کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی توحید کا اختیار کرنا عذاب سے بچنے کا سبب ہے۔

سوال: جب یہاں ترجی کا معنی مقصود نہیں ہے، تو حرف ترجی لانے میں کیا حکمت ہے؟

جواب: بڑے لوگوں کے کلام میں جب غور کیا جاتا ہے، تو وہ اپنے چھوٹوں سے بسا اوقات کوئی محکم وعدہ بھی کرتے ہیں، تو یقین کے الفاظ سے نہیں کرتے، بلکہ توقع دلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو حکم الحاکمین ہیں، ان کی شان کے عین مناسب ہے کہ وہ اپنے بندوں سے وعدہ کریں، تو توقع اور امید کے الفاظ سے کریں، اور اس میں راز یہ ہے کہ بندے امید و خوف کے درمیان رہیں گے، اور عبادت و نیاز مندی میں زیادہ کوشش کریں گے، اور قطعی الفاظ میں جب وعدہ ہوگا تو مطمئن ہو کر بیٹھ رہیں گے۔ یہ طرز تکلم طبائع انسانی کے لحاظ سے بہت بلیغ اور پرتاثر ہے، غور کرنے سے یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ واللہ اعلم (کذا افادنی بعض اساتذتی)

اردو کے علماء مترجمین نے لعل کو لگئی کے معنی میں قرار دیا ہے، اس لحاظ سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ”تا کہ تم متقی ہو، یا عذاب سے بچ جاؤ، لیکن راقم حروف نے ترجمہ میں ترجی کو باقی رکھا ہے۔“

(الَّذِي جَعَلَ) خَلَقَ (لَكُمْ الْأَرْضَ) : جَعَلَ کے اصل معنی تصویر کے ہیں، یعنی کسی موجود شے کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنا، اس طرح یہ لفظ متعدی بد و مفعول ہے، لیکن حضرت مفسر نے اسے خَلَقَ کے معنی میں قرار دیا ہے، خَلَقَ کا معنی اوپر گزر چکا ہے، خَلَقَ متعدی بیک مفعول ہے، اس صورت میں فراشاً اور ببناء بجائے مفعول ثانی بننے کے حال بن جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زمین کو پیدا فرمایا اس حال میں کہ وہ بچھونا ہے۔

أَنذَادًا: نِدُّ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے ہمسر، ضد، اور خلاف، الند: المقاوم المضاهی سواء كان مثلاً او ضداً او خلافاً. ند برابر کا مقابل، خواہ وہ مثل ہو، یا ضد ہو، یا مخالف ہو۔



﴿وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾ شك ﴿مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ محمد من القرآن انه من عند الله ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ﴾ امے المنزل ومن للبيان ای ہی مثلہ فی البلاغۃ وحسن النظم والاخبار عن الغیب، والسورة قطعة لها اول و آخر و اقلها ثلاث آیات ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ﴾ آلهتکم التي تعبدونها ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ای غیرہ لتعینکم ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فی ان محمداً قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك فانکم عربیون فصحاء مثلہ ولما عجزوا عن ذلك قال تعالیٰ ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا﴾ ما ذکر لعجزکم ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ ذلك ابدأ لظهور اعجازہ، اعتراض ﴿فَاتَّقُوا﴾ بالایمان بالله وانه لیس من کلام البشر ﴿النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ﴾

الكفار ﴿وَالْحَجَارَةُ﴾ كاصنامهم منها يعنى انها مفردة الحرارة تتقد بما ذكر لا كَنَارِ الدُّنْيَا تتقد بالحطب ونحوه ﴿أَعَدَّتْ﴾ هيئت ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ يعذبون بها جملة مستانفة او حال لازمة ﴿وَبَشِّرِ﴾ اخبر ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ صدقوا بالله ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ من الفروض والنوافل ﴿أَنَّ﴾ امے بان ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ﴾ حدائق ذات أشجار ومساكن ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا﴾ امے تحت اشجارها وقصورها ﴿الْأَنْهَارُ﴾ امے المياہ فيها، والنهر الموضع الذى يجرى فيه الماء لان الماء ينهره امے يحفره واسناد الجرى اليه مجاز ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا﴾ اطعموا من تلك الجنات ﴿مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ امے قبله فى الجنة لتشابه ثمارها بقرينة ﴿وَأُوتُوا بِهِ﴾ امے جيئوا بالرزق ﴿مُتَشَابِهًا﴾ يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعماً ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ﴾ من الحور وغيرها ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ من الحيض وكل قدر ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ما كئون ابداً لا يفنون ولا يخرجون۔

ترجمہ

(اور گرم لوگ تردد میں) یعنی شک میں (ہو اس چیز کے متعلق جسے ہم نے اپنے بندے) محمد (پر اتارا ہے) یعنی قرآن کے متعلق کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں؟ (تو اس جیسی ایک سورت لاؤ) یعنی جو کچھ اتارا گیا ہے، اس کے مثل، اور من بیانہ ہے، یعنی ہی مثلہ فى البلاغة کہ وہ بلاغت، حسن عبارت اور مغیبات کی خبریں بتانے میں، اسی کے مثل ہو، اور سورۃ کلام کا وہ حصہ ہے، جس کیلئے اول و آخر ہو، چھوٹی سے چھوٹی سورہ تین آیت کی ہوگی۔ (اور اللہ کے ماسوا اپنے شہداء کو) یعنی ان معبودوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو، (بلاو) تا کہ وہ تمہاری مدد کریں (اگر تم) اس سلسلے میں (سچے ہو) کہ محمد نے یہ سب کچھ خود سے کہہ لیا ہے، اگر ایسا ہے تو تم اسے کر ڈالو، اس لئے کہ تم بھی تو انہیں کی طرح فصیح عربی ہو، لیکن جب وہ اس سے عاجز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (پس اگر تم) اس کام کو جسے ذکر کیا گیا، اپنے عجز کی وجہ سے (نہ کر سکو اور) اس کو (ہرگز) کبھی (نہیں کر سکو گے) کیونکہ اس کا معجزہ ہونا بالکل ظاہر ہے، ولن تفعلوا کا جملہ، جملہ معترضہ ہے (تو) اللہ پر ایمان لا کر اور اس بات پر ایمان لا کر کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے (اس آگ سے بچو جس کے جلاون آدمی) یعنی کفار (اور پتھر ہیں) جیسا کہ ان کے بت جو ان پتھروں کے بنے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی تیز آگ ہے، جس میں جلانے کی یہ چیزیں وہ ہیں، جنہیں اوپر ذکر کیا گیا، دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، جو کلکڑی وغیرہ سے جلائی جاتی ہے (وہ کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے) کہ اس سے ان کو عذاب ہوگا۔ یہ جملہ مستانفہ، یا حال لازمہ ہے (اور

بشارت) یعنی خبر دید تجھے (ان لوگوں کو جو ایمان لائے) یعنی اللہ کی تصدیق کی (اور جنہوں نے) فرائض اور نوافل کے (اچھے اعمال کئے کہ ان کیلئے ایسے باغات ہیں) جو درختوں اور مکانات پر مشتمل ہیں (جن کے درختوں اور مکانات) (کے نیچے نہریں بہتی ہیں) یعنی ان نہروں میں پانی بہتا ہے، نہر اس جگہ کا نام ہے جس میں پانی بہتا ہے، اس کو نہر اس لئے کہتے ہیں، پانی زمین کو کھود دیتا ہے، نہر کے معنی کھودنے کے ہیں، بہنے کی نسبت نہر کی طرف اسناد مجازی ہے (جب بھی ان کو دیا جائیگا ان میں سے) یعنی ان باغوں میں سے (پھلوں کا رزق تو کہیں گے یہ تو وہی ہے) یعنی اسی کے مانند ہے (جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا) یعنی اس سے پہلے جنت میں دیا گیا تھا کیونکہ جنت کے پھل آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، اس کا قرینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (انہیں وہ) یعنی رزق (ملتا جلتا دیا جائیگا) رنگ میں تو باہم مشابہ ہوں گے، اور لذت میں مختلف ہوں گے (اور ان کیلئے ان میں) حور اور غیر حور کی جنس سے (ایسی بیویاں ہوں گی) جو حیض اور گندگی سے (پاک صاف ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے) نہ کبھی فنا ہوں گے، اور نہ انہیں نکالا جائے گا۔

تشریحات

من مثله امی المنزل : منزل کا لفظ لا کر مفسر نے مثله کی ضمیر کا مرجع بتایا ہے کہ وہ ما نزلنا ہے، جو المنزل کا ہم معنی ہے۔

ومن للبیان : من کا اصل معنی تبعیض کا ہے، یعنی وہ شے کے کچھ حصے کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہاں من مثله میں من تبعیضیہ نہیں ہے، بلکہ من بیانہ ہے، یعنی پچھلے لفظ کی ترجمانی کرتا ہے، اسی لئے مفسر نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ فاتوا بسورۃ ہی مثله ایک ایسی سورہ لا وجوہ ہو بہو اس کے مشابہ ہو، بلاغت میں بھی، حسن عبارت والفاظ میں بھی، اور پھر اس میں مغیبات کی ایسی ہی سچی اور واضح اطلاعات ہوں جیسی کہ قرآن میں ہیں۔

والسورۃ قطعۃ : سورت کلام کا وہ حصہ ہے جس میں ایک ابتداء ہو، اور ایک خاتمہ ہو اور درمیان میں بھی کچھ ہو، اس لحاظ سے سورہ کم از کم تین آیات پر مشتمل ہوگی۔ ایسی سورہ قرآن پاک میں سورہ کوثر ہے۔

آلہتکم : شہداء کی تفسیر آلہ سے کی ہے، شہداء، شاہد کی جمع ہے، اس کے معنی گواہ، حاضر، اور مددگار کے ہیں، چونکہ کفار اپنے معبودان باطلہ کے حق میں اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے پاس ان کی نجات و بخشش کیلئے گواہی دیں گے، اور یہ کہ وہ ہمہ وقت اور ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور ان کی مدد کرتے ہیں، اس لئے انہیں ان کے گمان و خیال کے مطابق شہداء کہا گیا۔

فاعملوا ذلک : اس جملہ کو یہاں مفسر نے ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ ان کنتم صادقین، جو کہ شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے، اور وہ یہی مذکورہ بالا جملہ ہے، اور اس کے حذف کا قرینہ اس سے ما قبل والی عبارت ہے یعنی

فاتو بسورة من مثله۔

اعتراض: فان لم تفعلوا کے بعد جزا آنے سے پہلے ولن تفعلوا، جملہ معترضہ ہے، اور فاتقوا النار، فان لم تفعلوا کی جزا ہے۔ جملہ معترضہ وہ جملہ ہے جو دو باہم مربوط جملوں کے درمیان لایا جائے کہ لفظوں کی ترکیب کے لحاظ سے ان دو جملوں سے وہ علیحدہ ہو، لیکن معنی کے لحاظ سے اسے ان سے مناسبت حاصل ہو۔

جملہ مستانفہ او حال لازمہ: اعدت للكافرين والا جملہ، دو احتمال رکھتا ہے، اول یہ کہ وہ جملہ مستانفہ ہو یعنی وہ ایک مستقل جملہ ہے جو ترکیب کے لحاظ سے کسی ماقبل کے لفظ کے تحت نہیں ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ حال لازمہ ہے، اور ذوالحال فاتقوا النار میں لفظ النار ہو۔

حال لازمہ عموماً حال اپنے ذوالحال کیلئے لازم نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ بدلتا رہتا ہے، مثلاً اگر کسی نے کہا کتب زید قائماً تو قیام زید کیلئے کوئی صفت دوامی نہیں ہے، اس کے برخلاف کبھی کبھی حال ایسا ہوتا ہے، جو اپنے ذوالحال کی لازمی صفت ہوتا ہے، اسی کو حال لازم کہتے ہیں، یہاں غور کیجئے اعدت للكافرين، اگر النار کا حال ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں بدل جائے بلکہ اس کا کافروں کیلئے تیار کیا گیا ہونا دائمی اور لازمی بات ہے، اس لئے یہ حال لازمہ ہے۔

وبشر اخبر: بشر بشارۃ سے ماخوذ ہے، اور وہ بشرۃ سے ماخوذ ہے، بشرۃ انسان کی اوپری جلد کو کہتے ہیں، بشارۃ ایسی خبر کو کہتے ہیں جس سے فوری طور پر انسان کا ظاہری بدن متاثر ہو، خواہ وہ خیر کی خبر ہو یا شر کی خبر، اس کو سنتے ہی انسان کی ظاہری جلد متاثر ہو جاتی ہے، لیکن اس کا زیادہ تر استعمال خیر کیلئے ہوتا ہے، یہ علامہ سید بویہ کی رائے ہے، لیکن علامہ زنجشیری کے نزدیک بشارۃ صرف خبر خیر کو کہتے ہیں اور شر کیلئے بشارۃ کا لفظ بطور طنز کے استعمال ہوتا ہے۔ (جمل)

ان اے بأن: بشارۃ کیلئے بطور وصلہ کے باء استعمال ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہاں لفظ باء ہونا چاہئے۔ اسی لئے مفسرین نے بأن کہہ کر اس کی وضاحت کی، لیکن چونکہ اَنْ اور اَنْ اَنْ الفاظ میں ہیں جن کے کثرت استعمال کی وجہ سے ان پر آئے ہوئے حروف جارہ کو حذف کرنا کلام عرب میں عام ہے، بلکہ بسا اوقات فصاحت کلام کا وہی مقتضی ہوتا ہے اس لئے اسے حذف کر دیا گیا۔

حدائق ذات أشجار و مساكن: جنت اس باغ کو کہتے ہیں، جو صرف باغ نہ ہو، بلکہ اس میں رہائش کا بھی پورا نظم موجود ہو، محلات ہوں، درخت ہوں، اور اس کی احاطہ بندی ہو وغیرہ۔

ای تحت اشجار: باغ کے نیچے نہر کا بہنا حقیقت نہیں ہے، مجاز ہے، کیونکہ باغ کے اندر نہر بہتی ہے، اس کے نیچے نہیں، وہ فی الحقیقت درختوں اور مکانات کے نیچے بہتی ہے۔

الانهار ای المیاء: نہر کے معنی ہیں کھدی ہوئی چیز کے، پانی کے بہاؤ کی جگہ میں زمین کھدی ہوئی اور گہری ہوتی ہے، اس لئے اس کو نہر کہتے ہیں، اس معنی کے لحاظ سے نہر کی طرف بہنے کی نسبت کرنا حقیقت نہیں ہے، بہنے والی چیز تو پانی ہے۔ لیکن پانی کا محل چونکہ نہر ہے اس لئے مجازاً اسے بہنے والا کہا گیا ہے۔

مثل ما رزقنا: لفظ مثل ما کو مفسر نے ہذا الذی کی تفسیر میں ذکر کیا ہے، آیت کے ظاہری لفظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعینہ وہی پھل ہے، جو اس سے پہلے ہمیں عطا کیا گیا تھا، یہ ظاہری مطلب مناسب نہیں ہے، کیونکہ جنت میں بعینہ وہی پھل دوبارہ نہیں دیئے جائیں گے، اس لئے مفسر نے مثل سے اس کی تفسیر کی اور فرمایا مثل ما رزقنا، اسی جیسا ہے، جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا تو لفظ مثل یہاں محذوف ہے، اور ایسے مواقع پر اس طرح کے محذوفات ہر زبان میں عام ہیں، لفظ ما، اسم موصول الذی کے معنی میں ہے، اگر مفسر ما کے بجائے الذی لائے ہوتے، بات زیادہ واضح ہوتی (جمل)

رزقنا من قبل امے قبلہ فی الجنة: اہل جنت کو جو پھل عطا کئے جائیں گے، ان کے بارے میں وہ کہیں گے کہ یہ تو بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہمیں پہلے عطا ہوئے تھے، اس میں ”پہلے“ سے کیا مراد ہے؟ مفسر نے فرمایا کہ پہلے سے مراد جنت ہی میں اُس خاص عطا سے پہلی والی عطا مراد ہے، یعنی اب سے پہلے جنت میں جو پھل عطا ہوئے تھے، یہ پھل بھی اسی طرح کے ہیں۔

بقرینة و اتوا بہ متشابہا: مفسر نے اپنے بیان کردہ مطلب کی دلیل پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے کہ او تو بہ متشابہا، ان کو جنت میں ملتے جلتے پھل دیئے جائیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ من قبل سے مراد جنت ہی کے پھل ہیں جو انہیں اس سے پہلے دیئے گئے تھے، یہ پھل رنگ اور شکل میں تو باہم مشابہ ہوں گے، مگر ان کی لذت مختلف ہوگی۔

لیکن بعض دوسرے مفسرین نے ”قبل“ سے عام معنی مراد لیا ہے، جو دنیا کے پھلوں کو بھی شامل ہے، یعنی یہ پھل ویسے ہی ہیں جیسے دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، بعض اعتبارات سے یہی معنی راجح معلوم ہوتا ہے۔

اولاً۔ اس لئے اگر اس کو جنت کے ساتھ مخصوص رکھا جائے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کَلِمَا کا لفظ عام ہے، یعنی جب بھی انہیں پھل ملے گا، تو وہ یہ کہیں گے اسی جیسا پہلے بھی ملا تھا، اس عموم کے لحاظ سے جب پہلی مرتبہ انہیں جنت میں پھل عطا کیا جائیگا، اس وقت یہ کہنا ان کا درست نہ ہوگا، کیونکہ جنت میں اس سے پہلے انہیں کوئی پھل ملا ہی نہ تھا، البتہ اگر اسے دنیا کے پھلوں تک کو عام کر دیا جائے تو ان کا یہ کہنا بجا ہوگا، کیونکہ دنیا میں اس سے ملتا جلتا پھل انہیں دیا جا چکا ہے۔

ثانیاً۔ اس لئے کہ انسانی فطرت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جانی پہچانی چیز کی طرف لپکتی ہے، اور نامانوس

چیزوں سے اسے وحشت ہوتی ہے، تو جنت میں جو پھل انھیں دیئے جائیں گے، وہ دنیا کے پھلوں کے ہم شکل اور ہم رنگ ہوں گے، اس سے اہل جنت کو ان کی فوراً رغبت ہوگی اور وہ بے ساختہ مثلاً کہہ اٹھیں گے کہ ارے یہ تو وہی آم ہے، وہی سنترہ ہے، وہی سیب ہے، جو ہمیں دنیا میں ملا کرتا تھا، پھر وہ رغبت سے اس کی طرف لپکیں گے اور جب کھائیں گے، تو مزہ میں وہ بدرجہا فائق ہوں گے، اس کے برخلاف اگر انھیں نامانوس شکل کے پھل ملے تو ابتداءً ان سے انس نہ ہوگا بلکہ ایک طرح کی اجنبیت ہوگی، اس لئے من قبل کا تعلق اگر جنت کے پھلوں کے ساتھ دنیا کے پھلوں سے بھی جوڑ دیا جائے، تو اس کی معنویت میں ایک لطیف اضافہ ہو جائے گا۔ واللہ اعلم

من الحور و غیرہا : حور جمع ہے حوراء کی، یعنی ایسی خوبصورت دوشیزائیں جن کی آنکھیوں کی سیاہی گہری سیاہ اور سفیدی خوب سفید ہے، اور وہ بڑی خوبصورت ہیں، یہ عورتیں خاص جنت کی مخلوق ہیں، اور غیرہا سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں۔



ونزل رداً لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله وان يسلبهم الذباب والعنكبوت في قوله "كمثل العنكبوت" ما اراد الله بذكر هذه الاشياء الخسيسة ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ ﴾ يجعل ﴿ مثلاً ﴾ مفعول اول ﴿ مَا ﴾ نكرة موصوفة بما بعدها مفعول ثانى أى أى مثل كان او زائدة لتأكيد الخسة فما بعدها المفعول الثانى ﴿ بَعُوضَةً ﴾ مفرد البعوض وهى صغار البق ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ اى اكبر منها اى لا يترك بيانه لما فيه من الحكم ﴿ فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ﴾ اى المثل ﴿ الْحَقُّ ﴾ الثابت الواقع موقعه ﴿ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴾ تمييز اى بهذا المثل وما استفهام انكار مبتدأ وذا بمعنى الذى بصلته خبره اى اى فائدة فيه قال الله تعالى فى جوابهم ﴿ يُضِلُّ بِهِ ﴾ اى بهذا المثل ﴿ كَثِيرًا ﴾ عن الحق لكفرهم به ﴿ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ﴾ من المومنين لتصديقهم به ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾ الخارجين عن طاعته ﴿ الَّذِينَ ﴾ نعت ﴿ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ ﴾ ما عهده اليهم فى الكتب من الايمان بمحمد ﷺ ﴿ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ توكيده عليهم ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ من الايمان بالنبي والرحم وغير ذلك وان بدل من ضمير به ﴿ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ بالمعاصى والتعويق عن الايمان ﴿ أُولَئِكَ ﴾ الموصوفون بما ذكر ﴿ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ لمصيرهم الى النار المؤبدة عليهم ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ ﴾ يا اهل مكة ﴿ بِاللَّهِ وَ ﴾ قد ﴿ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا ﴾ نطفاً فى الاصلاب ﴿ فَأَحْيَاكُمْ ﴾ فى

الارحام و الدنيا بنفخ الروح فيكم والاستفهام للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان او للتوبيخ ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ عند انتهاء آجالكم ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ بالبعث ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ تردون بعد البعث فيجازيكم باعمالكم و قال دليلاً على البعث لما انكروه ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ﴾ اے الارض و ما فيها ﴿جَمِيعاً﴾ لتنتفعوا به و تعتبروا ﴿ثُمَّ اسْتَوَى﴾ بعد خلق الارض اے قصد ﴿إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ﴾ الضمير يرجع الى السماء لانها في معنى الجمع الآتلة اليه اى صيرها كما في آية اخرى فقضاهن ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ مجملاً و مفصلاً فلا تعتبرون ان القادر على خلق ذلك ابتداءً و هو اعظم منكم قادر على اعادتكم۔

﴿ترجمہ﴾

جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکھی کی مثال بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہے: وان يسلبهم الذباب اگر ان سے مکھی کچھ چھین لے، اور مکڑی کی مثال بیان فرمائی، چنانچہ ارشاد ہے كمثل العنكبوت، تو اس پر یہود نے کہا کہ ان گھٹیا چیزوں کو بیان کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی (بیشک اللہ نہیں شرماتا، اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال) مثلاً مفعول اول ہے، یضرب کا اور ماکرہ ہے جو موصوف ہے اور بعد والالفظ یعنی بعوضة اس کی صفت ہے، مامفعول ثانی ہے، یا یہ کہ ما زائدہ ہے، اس سے نخست کی تاکید ہوتی ہے، اس صورت میں اس کا مابعد یعنی بعوضة مفعول ثانی ہوگا (مچھر کی) بعوضة بعوضة کا مفرد ہے، وہ چھوٹا مچھر ہے، یہ مثال مچھر کی ہو (یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے) یعنی اس کے بیان کو اللہ تعالیٰ نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں حکمتیں ہیں (سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال (ٹھیک ہے) ثابت ہے، اور اپنے محل پر واقع ہے (ان کی رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا (اس مثال سے) مثلاً تمیز ہے، اور ما استفہام انکاری ہے وہ مبتدا ہے، اور ذا، الذی کے معنی میں اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مبتدا کی خبر ہے، مطلب یہ ہے کہ اس مثال سے کیا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا (گمراہ کرتا ہے اس) مثال (سے بہتروں کو) حق سے، کیونکہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں (اور ہدایت دیتا ہے، اس سے بہتروں کو) یعنی اہل ایمان کو کیونکہ وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں (اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو) جو اس کی طاعت سے خارج ہیں (جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدہ کو) یہ فاسقین کی صفت ہے، معاہدہ سے مراد وہ معاہدہ ہے جو اللہ نے ان سے کتب سابقہ میں لے رکھا ہے۔ یعنی محمد ﷺ پر ایمان لانے کا معاہدہ، اس معاہدہ کو وہ لوگ توڑتے ہیں (اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اور قطع کرتے ہیں، اس چیز کو، جسے اللہ

نے ملانے کو فرمایا ہے (ملانے کو) یعنی نبی ﷺ پر ایمان لانا، رشتہ داریوں کو قائم رکھنا، وغیرہ، ان یوصل، بہ کی ضمیر سے بدل ہے (اور فساد کرتے ہیں ملک میں) گناہوں سے، اور ایمان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے سے (وہی ہیں) جن کے یہ اوصاف ذکر کئے گئے (ٹوٹے والے) کیونکہ ان کا ٹھکانا جہنم ہے، جو ان پر دائمی ہوگی۔

(کس طرح کافر ہوتے ہو) اے اہل مکہ (خدا تعالیٰ سے، حالانکہ تم بے جان تھے) یعنی باپ کے اندر بشکل نطفہ تھے (پھر جلایا تم کو) شکم مادر میں، اور دنیا میں، یعنی تمہارے اندر روح پھونکی، اور یہ استفہام اس بات پر اظہار تعجب کیلئے ہے کہ باوجود دلائل و براہین کے وہ کیونکر کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، یا یہ کہ استفہام تو بیخ کیلئے ہے، (پھر مارے گا تم کو) تم لوگوں کی عمر کے پورے ہو جانے کے وقت (پھر جلانے گا تم کو) دوبارہ اٹھا کر (پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے) یعنی دوبارہ زندہ کئے جانے کے بعد اسی کے حضور واپس کئے جاؤ گے، پھر تمہارے اعمال کی تم کو جزا دے گا۔

کفار نے دوبارہ زندگی کا جب انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بطور دلیل کے یہ ارشاد فرمایا (وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے، جو کچھ زمین میں ہے) یعنی خود زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے (سب) تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو، اور تم کو نصیحت ہو، (پھر قصد کیا) زمین کے پیدا کرنے کے بعد (آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دیا ان کو) سَوَّاهُنَّ میں هُنَّ جمع مؤنث کی ضمیر السماء کی طرف راجع ہے، کیونکہ وہ گو کہ لفظاً واحد ہے، مگر معنی جمع ہے، کیونکہ بعد میں اسے جمع ہونا ہی ہے، سَوَّاهُنَّ بمعنی صَيَّرَهُنَّ ہے، اسی معنی میں ایک دوسری جگہ فَقَضَاهُنَّ ہے، یعنی بنا دیا ان کو (سات آسمان اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے) اجمالاً بھی اور تفصیلاً بھی، تو کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ذات ان چیزوں کو جو تم سے بڑی ہیں ابتداءً پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہوگی۔

﴿تشریحات﴾

فی قوله وان یسلبہم الذباب : سترہویں پارے میں سورہ حج کی آیت کا حوالہ دیا ہے، آیت یہ ہے:

یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا

لہ وان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، ضعف الطالب والمطلوب۔ (آیت: ۷۳)

اے لوگو سنو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے خدا کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اگر چہ وہ سب اس کے واسطے اکٹھا ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے، طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور۔

فی قوله کمثل العنکبوت : بیسویں پارہ میں سورہ عنکبوت کی آیت: ۴۱ کا حوالہ ہے، آیت یہ ہے: مثل

الذین اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت، اتخذت بيتا وان او هن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان لوگوں کی مثال جنھوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنا رکھا ہے، مکڑی کی طرح ہے، مکڑی نے ایک گھر بنایا ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، اگر وہ اسے جانتے۔

ما اراد الله بذكر هذه الاشياء الخسيسية : یہ یہود و مشرکین کا قرآن کریم پر اعتراض تھا کہ، اگر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہوتی، تو اس میں ان حقیر و خسیس چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو ان معمولی اور گھٹیا چیزوں کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب حق تعالیٰ نے دیا کہ چونکہ ان مثالوں میں حکمتیں ہیں، کہ ان سے بتوں کی بے بسی اور بے چارگی خوب واضح ہو جاتی ہے، اس لئے کوئی معنی نہیں کہ اللہ کے کلام میں محض اس وجہ سے ان مثالوں کو ترک کر دیا جائے کہ وہ گھٹیا چیزیں ہیں۔

مثلا مفعول اول : ان يضرب بمعنى ان يجعل ہے، اور یہ متعدی بد و مفعول ہے، پہلا مفعول مثلاً ہے اور دوسرا مفعول ما ہے، جو نکرہ موصوفہ ہے اور اس کی صفت بعوضۃ فما فوقها ہے۔

دوسرے یہ کہ ما کو زائد قرار دیا جائے۔ اس صورت میں یہ خست اور گھٹیا پن کی تاکید کیلئے ہوگا، لیکن ترکیب میں کچھ نہ ہوگا، مفعول ثانی اس وقت بعوضۃ فما فوقها ہوگا۔

فما فوقها اے اکبر منها : چھریا اس سے بڑی چیز، یہاں مفسر نے فما فوقها سے چھریا سے بڑی چیز کو مراد لیا ہے، دوسرے لوگوں نے فما فوقها کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ چھریا سے بھی زیادہ پست اور حقیر چیز ہو، یعنی وہ پستی اور حقارت میں چھریا سے بڑھ کر ہو۔

اے لا یتربک بیانہ : یہ لا یتربک کی تفسیر ہے، بات یہ ہے کہ حیاء کا جو مفہوم عام طور سے اذہان میں ہے وہ ایک انقباضی کیفیت ہے، جو انسان کو برائیوں اور عیب کی چیزوں کے سلسلے میں لاحق ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ان انفعالی صفات سے پاک ہیں، لیس کمثلہ شئی، اس لئے حیاء کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کھلی بات ہے کہ اس مذکورہ بالا معنی میں تو نہیں ہو سکتی۔

تو مفسر نے اشارہ بتایا کہ اس طرح کے انفعالات و تاثرات کا ایک مبداء ہوتا ہے، اور ایک منتہا مثلاً حیاء کا مبداء تو طبیعت کا وہ انقباض و انفعال ہے، جو مذکور ہوا، مگر اس کا منتہا یہ ہے کہ جن کاموں سے یہ تغیر و انقباض پیدا ہوتا ہے، اسے آدمی ترک کر دیتا ہے، تو ابتداء حیاء کی انقباض ہے، اور انتہا ترک فعل ہے، حق تعالیٰ کی جناب میں حیاء کا معنی اپنی ابتداء کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، البتہ اپنی انتہاء کے اعتبار سے اس میں یا پا جا سکتا ہے، یعنی وہ اس قسم کی مثالوں کو ترک نہیں فرماتے۔

الثابت الواقع موقعه : یہ حق کی تفسیر ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے، حق الامر یعنی ثابت، الواقع موقعه کا

مطلب یہ ہے کہ وہ عبث نہیں ہے۔ بلکہ حکمتوں اور اسرار و فوائد پر مشتمل ہے۔ (جمل)
 تمیز: لفظ مثلاً تمیز ہے، اسم اشارہ ہذا سے، کیونکہ اس کی نسبت میں ابہام ہے، اصل عبارت یوں ہوگی،
 بهذا المثل، اس مشارالیه کو ترکیب میں تمیز بنا دیا۔

الفساقین الخارجین عن طاعته: فسق کے معنی ہیں، طاعت و فرمانبرداری سے نکل جانا، یعنی نافرمان
 ہو جانا۔ اس کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی سرے سے طاعت کا منکر ہو جائے، یہ کفر ہے، دوسرے
 یہ کہ نافرمانیوں کا عادی ہو جائے، گو کہ منکر نہ ہو، تیسرے یہ کہ کبھی نافرمانی ہو جائے لیکن اس کو برا سمجھتا ہو۔

ما عہدہ الیہم فی الکتب: مفسر نے عہد اللہ سے امتوں اور بالخصوص یہود و نصاریٰ کا وہ عہد مراد لیا ہے جو
 اللہ نے کتب سماویہ میں ان سے لیا تھا، اور یہ عہد تھا جناب نبی کریم ﷺ پر ایمان لانے کا۔

من الایمان بالنبی: وہ چیزیں جن کے جوڑنے اور ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جسے یہ فاسقین توڑتے
 ہیں، وہ مثال کے طور پر چند چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی ﷺ پر ایمان لائیں، دوسرے یہ کہ رشتہ
 داریوں کو جوڑے رکھیں، اس کے علاوہ مثلاً یہ کہ مومنین سے دلی تعلق رکھیں، سب رسولوں پر ایمان لائیں، ان میں
 تفریق نہ کریں۔

لمصیرہم الی النار الموبدۃ علیہم: سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ آدمی جہنم میں گر جائے کہ پھر اس
 سے نکلنا نصیب نہ ہو۔

نطفاً فی اصلاب آباء کم: یہ اموات کی تفسیر ہے، مردہ سے مراد نطفہ ہے، لیکن اس پر سوال پیدا ہوتا ہے
 کہ میت تو اسے کہتے ہیں، جس میں زندگی کی صلاحیت ہو، اور وہ زندہ نہ ہو، اس لحاظ سے نطفہ تو ایک جماد ہے،
 اس میں زندگی کی صلاحیت معدوم ہوتی ہے، اسے میت کہنا بظاہر درست نہیں معلوم ہوتا، اس کا جواب یہ ہے کہ
 یہاں مجازاً اسے میت کہا گیا ہے، کیونکہ آگے تقلبات میں اس میں زندگی کی صلاحیت پیدا ہو جائیگی، پس یہ مجاز
 مایکون ہے، اور بعض لوگوں نے اسے تشبیہ قرار دیا ہے یعنی کنتم کالاموات (جمل)

امی الارض وما فیہا: آیت میں فرمایا گیا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے، وہ سب تمہارے لئے پیدا کیا گیا
 ہے، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ خود زمین کی یہ شان نہیں ہے۔ اس کا جواب مفسر نے دیا کہ ما فی الارض
 جمیعاً میں خود زمین بھی داخل ہے اس لئے انھوں نے الارض وما فیہا کا اضافہ کیا ہے۔

لتنفعوا بہ: یہ خلق لکم کی تعلیل ہے، اس اشارہ سے معلوم ہوا کہ لکم میں لام تعلیلیہ ہے، یعنی زمین اور
 جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب اس غرض سے پیدا کیا گیا ہے کہ اس سے تم لوگ نفع اٹھاؤ اور اپنے لئے عبرت و
 نصیحت کا سرمایہ بھی فراہم کرو۔

ثم استوى بعد خلق الارض ای قصد : استوی کے معنی یہاں قصد کے ہیں، یعنی زمین کو پیدا کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، لیکن اس پر اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ والارض بعد ذلک دحھا، زمین کو آسمان کے بعد بچھایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی تخلیق آسمان سے موخر ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ زمین کا مادہ آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا، لیکن اس کو موجودہ صورت میں حق تعالیٰ نے آسمان کے بعد بنایا ہے۔

فسواهن الضمیر يرجع الى السماء: سوی، اور صیر اور قضی ان تینوں کا مفہوم قریب ہی قریب ہے، یعنی بنانا، درست کرنا، یہ متعدی بد و مفعول ہے، هن کی ضمیر السماء کی جانب ہے، لیکن السماء واحد ہے، اور اور هن جمع کی ضمیر ہے، اس کا حل یہ ہے کہ السماء بروقت گو کہ واحد ہے مگر چونکہ یہ سات آسمان بننے والا ہے۔ اس لئے مایکون کے اعتبار سے جمع ہے۔ جیسے آدمی حج کئے ہوئے نہیں ہوتا، مگر حج کی تیاری شروع کر دیتا ہے، تو چونکہ آگے چل کر حاجی ہو جائیگا، اس لئے وہ پہلے ہی حاجی کہلانے لگتا ہے، اسی طرح گو کہ قصد کے وقت وہ جمع نہیں ہے، مگر جب بن کر مکمل ہوگا تو سات آسمان ہوں گے، اسی انتہا کے اعتبار سے یہ جمع کے معنی میں ہے۔ اور هن کی ضمیر اس کی طرف راجع ہے۔

وهو بكل شئی علیم مجملاً ومفصلاً: علیم کے اندر اجمال وتفصیل کی تعمیم کر کے مفسر نے روافض اور معتزلہ کا رد کیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو اشیاء کا اجمالی علم تو ہوتا ہے، مثلاً یہ کہ یہ شتی ہے، یا سعید، مگر اس کا تفصیلی علم اس کام کے انجام پا جانے کے بعد ہی ہوتا ہے، مثلاً یہ تو معلوم ہے کہ فلاں شخص شتی ہے، لیکن شقاوت کے کیا کیا افعال اس سے صادر ہوں گے یہ تفصیل اس کے ہو جانے کے بعد ہی معلوم ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، مفسر نے فرمایا کہ نہیں، ہر چیز کا اجمالی وتفصیلی علم بیک وقت اللہ کو حاصل ہے۔

﴿مضامین آیات وتفسیر﴾

اس سے پہلے دور کوع میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تین قسمیں بیان فرمائی تھیں، یہ تین قسمیں دعوت ایمان کو قبول کرنے نہ کرنے اور قرآن کریم پر ایمان لانے نہ لانے کے اعتبار سے کی گئی ہیں، گویا ایمان و قرآن ہی وہ بنیادی محور ہے، جس پر انسانوں کے گروہ منقسم ہوتے ہیں، یہ تین گروہ اہل ایمان، کفار، اور منافقین کے ہیں: اب اسی محور پر تین بنیادی باتیں اور بیان کی جاتی ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت و قدرت، دوسرے قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا، تیسرے انسانوں کا خدا کے حضور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر پہنچنا۔

انسان کا اصل فریضہ یہ ہے کہ ان تینوں باتوں کو اپنی زندگی کا محور و مقصد بنائے، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں

باتوں کو ایسے ترغیبی اور فطری و عقلی انداز میں بیان کیا ہے کہ فطرت سلیمہ خود بخود قبول کرتی چلی جائے۔ ارشاد فرمایا کہ: اے لوگو! صرف اللہ ہی عبادت کرو، اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو، جس نے تم کو بھی اور تمہاری اگلی پشتوں کو بھی پیدا کیا، اسی نے زمین کو پچھونا، اور آسمان کو چھت بنا یا، اوپر سے پانی برسایا، زمین سے غذا برآمد کی، یہ سب تم کو معلوم ہے، تو اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دو۔

پھر اے لوگو! اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شبہ ہے کہ معلوم نہیں اللہ نے اتارا ہے، یا پیش کرنے والے نے خود ہی تصنیف کیا ہے؟ تو آسان بات ہے، تم بھی فصیح ہو، اہل عرب ہو، ایک سورہ اسی جیسی تصنیف کر کے پیش کر دو، جو ایسی ہی فصیح و بلیغ ہو، اس کی عبارت بھی ایسی ہی خوبصورت اور بر محل ہو، اور وہ بھی اسی کی طرح ترجمان غیب ہو، اور اس سلسلے میں خدا کے علاوہ جن کو تم خدا مانتے ہو، انہیں بھی مدد کیلئے بلاؤ، لیکن یاد رکھو، یہ بات تم سے ہرگز نہ ہو سکے گی۔ تب تو تم کو اس کے خطرناک انجام..... جہنم..... سے ڈرنا چاہئے، جانتے ہو، وہ جہنم کیا ہے؟ ایسی آگ ہے جس میں جلانے کیلئے آدمی اور پتھر استعمال ہوں گے، اور وہ کافروں کیلئے ہی بنائی گئی ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ اسے سچے دل سے مانیں گے، اور تعمیل احکام کریں گے، انہیں جنت کی بشارت ہے، جنت کیا ہے؟ ایسے باغ جن کے درختوں اور مخلوق کے نیچے جا بجا نہریں بہتی ہیں، انہیں جانے پہچانے پھل عطا کئے جائیں گے، جن سے انہیں مسرت حاصل ہوگی، وہاں انہیں خوبصورت اور پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔

اور اگر تم کو یہ شبہ ہے کہ قرآن جب اللہ کا کلام ہے تو اس میں مکھی مچھر جیسی گھٹیا اور خسیس چیزوں کی مثال کیوں آئی ہے؟ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ کا کلام نہ ہو؟ تو سنو کہ حکمت کی بات جہاں سے بھی اور جیسے بھی سمجھائی جاسکتی ہو، سمجھائی جائیگی، بات سمجھانے کیلئے متکلم اپنی بلندی سے بولے گا تو کون سمجھے گا، وہ تمہاری پستی پر نگاہ کر کے بول رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، جو لوگ مان چکے ہیں، تو وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے، وہ برحق ہے، اور جو لوگ انکار پر ہی تلے ہوئے ہیں، انہیں بس یہی آتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں بیان کیا؟ وہ کیوں بیان کیا؟ ان کا مقصد صرف چون و چرا ہے، تشکیک و ارتیاب ہے تو سن لو کہ اسی قرآن کو سن اور پڑھ کر بہت سے لوگ راہ سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں، اور منحرف کون ہوتا ہے؟ وہی جس کی طبیعت میں انحراف و طغیان ہو جن کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ سے بھی عہد کر لیں تو اسے توڑ دیں اور طبیعت کے فساد کا یہ عالم ہے کہ جو چیزیں انہیں جوڑنی چاہئے اسے توڑتے رہتے ہیں، اور زمین میں خرابی پیدا کرتے رہتے ہیں، ان کا انجام بس خسارہ ہی خسارہ ہے۔

اور رہی آخرت کی بات! تو اس کا انکار تم سے کیونکر بن پڑتا ہے، تم کو معلوم ہے کہ تم اپنی ابتداء میں بے

جان تھے، اللہ نے جان ڈال دی، پھر جان کو نکال لیتا ہے، اتنا تو روز کا تمہارا مشاہدہ ہے، پھر کیا تعجب ہے کہ جان نکالنے کے بعد دوبارہ جان ڈالے اور اپنے پاس بلا لے، اور ذرا آگے بڑھ کر دیکھو، زمین اور زمین کی سب چیزیں تمہارے واسطے پیدا کیں، پھر سات آسمان بنا دیئے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے، جو ذات اتنی مخلوقات کو عدم سے وجود بخشی ہے، اس کے سلسلے میں تمہیں یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں پیدا کر سکتی ہے، اتنی واضح بات کا انکار اور کفر تم سے کیوں کر بن پڑتا ہے۔



﴿وَ﴾ اذکر یا محمد ﴿ذُقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً﴾
 يخلفنى فى تنفيذ احكامى فيها وهو آدم ﴿قَالُوا اتَّجَعَلُ فِيْهَا مِّنْ يُفْسِدُ فِيْهَا﴾ بالمعاصى
 ﴿وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها فلما افسدوا ارسل الله
 إليهم الملائكة فطردهم الى الجزائر والجبال ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ﴾ متلبسين ﴿بِحَمْدِكَ﴾
 اے نقول سبحان الله و بحمده ﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ ننزهك عما لا يليق بك فاللام زائدة
 والجملة حال اى فنحن احق بالاستخلاف ﴿قَالَ﴾ تعالى ﴿اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ من
 المصلحة فى استخلاف آدم وان ذريته فيهم المطيع والعاصى، فيظهر العدل بينهم فقالوا لن
 يخلق ربنا خلقا اكرم عليه منا ولا اعلم لسبقنا له و رؤيتنا ما لم يره فخلق تعالى آدم من اديم
 الارض اے وجهها بان قبض منها قبضة من جميع الوانها، و عجت بالمياه المختلفة و سواه
 و نفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد ان كان جمادا ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ﴾ اے اسماء
 المسميات ﴿كُلَّهَا﴾ حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية والمعرفة بان القى فى قلبه
 علمها ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ﴾ اے المسميات وفيه تغليب العقلاء ﴿عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ﴾ لهم تبكيئا
 ﴿اَنْبِئُونِي﴾ اخبرونى ﴿بِاسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ﴾ المسميات ﴿اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فى انى لا اخلق
 اعلم منكم أو انكم احق بالخلافة و جواب الشرط دل عليه ما قبله ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ﴾ تنزيها
 لك عن الاعتراض عليك ﴿لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ اياه ﴿اِنَّكَ اَنْتَ﴾ تاكيد للكاف
 ﴿الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ الذى لا يخرج شئ عن علمه و حكمته ﴿قَالَ﴾ تعالى ﴿يَا آدَمُ اَنْبِئْهُمْ﴾
 اے الملائكة ﴿بِاسْمَائِهِمْ﴾ اے المسميات فسمى كل شئ باسمه و ذكر حكمته التى خلق
 لها ﴿فَلَمَّا اَنْبَأَهُمْ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ﴾ تعالى لهم موبخا ﴿اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّي اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ﴾ ما غاب فيهما ﴿وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ﴾ تظهرون من قولكم اتجعل فيها الخ ﴿وَمَا

كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۱۰﴾ تسرون من قولكم لن يخلق الله اكرم عليه منا ولا اعلم -

ترجمہ

(اور) یاد کرو اے محمد (جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب) اس میں میرے احکام کو نافذ کرنے کیلئے میرا نائب ہوگا، اور وہ آدم ہیں (کہا فرشتوں نے آپ زمین پر ایسی مخلوق کو متعین کریں گے، جو اس میں فساد کرے) گناہوں کے باعث (اور خون بہائے) قتل سے جیسا کہ جنات کی اولاد نے کیا تھا، وہ زمین میں تھے پھر جب انہوں نے فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے انہیں جزائر اور پہاڑوں کی طرف ہانک دیا (اور ہم پڑھتے رہتے ہیں آپ کی پاکی، آپ کی خوبیوں کے بیان کے ساتھ) یعنی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں (اور یاد کرتے ہیں آپ کی پاک ذات کو) یعنی جو چیزیں آپ کی شان کے مناسب نہیں ہیں، ان سے ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لک میں لام زائد ہے، اور ونحن نسبح الخ کا جملہ حال ہے، ان کا مطلب یہ تھا کہ خلافت کے حق دار زیادہ ہم ہیں (فرمایا) اللہ تعالیٰ نے (بیشک مجھ کو وہ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے) یعنی جو مصلحت آدم کے خلیفہ بنانے میں ہے، اور یہ کہ ان کی اولاد میں فرمانبردار و نافرمان دونوں طرح کے لوگ ہوں گے اس سے ان میں عدل کا ظہور ہوگا، یہ باتیں مجھے معلوم ہیں، تم نہیں جانتے، اس پر فرشتوں نے کہا کہ خیر ہمارا رب اپنے دربار میں ہم سے زیادہ معزز اور ہم سے بڑھ کر عالم، مخلوق نہیں پیدا کرے گا، کیونکہ ہم اس سے سابق ہیں، اور ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو اس نے نہیں دیکھی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کی سطح سے اس کے تمام رنگوں سے ایک مٹھی لی، اور اسے مختلف پانیوں میں گوندھ دیا، اور اس کا ڈھانچہ ترتیب دیا، پھر اس میں روح پھونک دی۔ پھر وہ ایک جاندار حساس آدمی بن گیا، اس سے پہلے وہ ایک جماد تھا (اور سکھلائے آدم کو نام) یعنی اشیاء کے نام (سب) یہاں تک کہ قصعہ (بڑا پیالہ) اور قصیصہ (چھوٹا پیالہ) اور فسوۃ اور فسیۃ..... ریح خارج ہونے کی ہلکی آواز کا نام..... اور ڈوئی۔ وہ سکھانا اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نام ان کے دل میں ڈال دیئے (پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے پھر فرمایا) بطور تبکیت کے (بتاؤ مجھ کو نام ان چیزوں کے اگر تم سچے ہو) اس بارے میں کہ تم سے بڑھ کر عالم کو نہیں پیدا کروں گا، اور یہ کہ تم لوگ خلافت کے زیادہ حقدار ہو، اور شرط کے جواب پر ما قبل کا لفظ دلالت کرتا ہے (انہوں نے کہا پاک ہیں آپ) یعنی آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا (ہم کو تو معلوم نہیں، مگر جتنا آپ نے ہم کو سکھایا، بیشک آپ ہی ہیں اصل جاننے والے حکمت والے) آپ کے علم و حکمت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ انت، کاف کی تاکید ہے (فرمایا) اللہ تعالیٰ نے (اے آدم بتا دے ان) فرشتوں (کو ان) چیزوں (کے نام) پس انہوں نے ہر شے کا نام اور اس کی تخلیق کی حکمت بتا دی (پھر جب بتا دیئے اس نے ان کے نام تو فرمایا) ان سے بطور توبیخ کے (کیا نہ

کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو (یعنی تمہاری یہ بات کہ اتجعل فیہا الخ) اور جو چھپاتے ہو (یعنی تمہاری یہ بات کہ لن یخلق اللہ اکرم علیہ منا ولا اعلم)۔

﴿ تشریحات ﴾

واذکریا محمد اذ: مفسر نے اذ ظرفیہ کا محل اعراب بتایا ہے کہ یہاں اذ کو محذوف ہے، اور اذ اسی کا مفعول فیہ یعنی ظرف زمان ہے۔

یخلفنی فی تنفیذ احکامی: اللہ تعالیٰ نے جس کو خلیفہ بنانے کا اعلان کیا، اس کا کام مفسر ذکر کرتے ہیں کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے اور نافذ کرانے میں اللہ کا نائب ہوگا۔ یعنی اس کا منصب یہ ہوگا کہ اللہ کے احکام کو زمین میں نافذ کرنے کا اہتمام و انتظام کرے، یہ خلیفہ جس کے بنانے کا اللہ نے اعلان فرمایا، آدم علیہ السلام ہیں۔ اور پھر ان کے واسطے سے تمام اولاد آدم۔

قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا: فرشتوں کا یہ قول بر بنائے اعتراض نہ تھا، فرشتے حق تعالیٰ پر اعتراض کرنے بلکہ ہر گناہ سے معصوم ہیں، ان کے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، انہوں نے یہ بات یا تو اس لئے کہی کہ منجانب اللہ اس کا انہیں علم تھا، یا اس سے پہلے جو مخلوق تھی وہ اس کا کارنامہ یہی فساد دیکھ چکے تھے، اس پر قیاس کر کے کہا، اور سوال کی مصلحت شاید یہ رہی ہو کہ حق تعالیٰ اس حکمت کو ظاہر فرمادیں، جس کی بنا پر اس فساد فی الارض اور خونریزی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خلافت و نیابت سے سرفراز فرمانے کا فیصلہ فرمایا، ضرور اس میں کسی خوبی اور کمال کا وصف پایا جاتا ہوگا، اور یہ جو ہم نے عرض کیا کہ اگلی مخلوق پر قیاس کیا ہوگا، اس کی جانب سے مفسر نے کما فعل بنو الجان و کانوا فیہا کہہ کر اشارہ کیا ہے۔

انسانوں سے پہلے اس سرزمین پر اولاد جان کی آبادی تھی، جان کا رتبہ جنات میں وہی تھا، جو آدمیوں میں آدم علیہ السلام کا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ابلیس ہے، بعض دوسرے حضرات نے فرمایا کہ کوئی دوسرا ہے، جسے ابوالجان کہا جاتا ہے، اور ابلیس تو ابوالشیاطین ہے (جمل) ان لوگوں نے جب زمین میں فساد مچایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے بہتوں کو ختم کر دیا، اور جو بچے انہیں سمندروں کے درمیان جزائر میں اور پہاڑیوں کی طرف رگید دیا۔

فاللام زائدة: نقدر لک میں لام زائد ہے، اور کاف مفعول بہ ہے، یعنی نقدر لک، مشہور مفسر ابو حیان نے فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس لام کو فعل کا متعدی بنانے والا قرار دیا جائے جیسے یسبح لله میں ہے۔ (جمل) والجملة حال: یعنی ونحن نسبح بحمدک و نقدر لک کا جملہ حال ہے۔ تسبیح و تقدیس دونوں کا

معنی بظاہر ایک معلوم ہوتا ہے، تو اس جگہ دونوں کو جمع کر نیکی کیا مصلحت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تسبیح کا تعلق طاعات و عبادات سے ہے، خواہ قولی ہوں یا بدنی، اور تقدیس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے افعال کے معارف اور ان کی معرفت سے ہے یعنی ان چیزوں میں غور و تامل کرنے سے کما هو مبسوط فی الاحیاء (جمل)

اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو مصلحت ہے، وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، حق تعالیٰ کی طرف سے یہ حاکمانہ جواب ہے، مفسر نے ایک مصلحت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

وان ذریتہ فیہم المطیع والعاصی : آدم علیہ السلام کی اولاد میں مطیع و نافرمان دونوں طرح کے لوگ ہوں گے، اس سے حق تعالیٰ کی صفت عدل کا ظہور ہوگا، ورنہ فرشتے چونکہ معصوم ہیں، ان پر بجز فضل کے عدل کے ظہور کا کیا موقع ہے۔ اور یہ کتنی بڑی مصلحت ہے کہ حق تعالیٰ کی ایک صفت کاملہ کا یہ انسان مظہر بنے۔

فقالوا لن یخلق ربنا الخ : یہ بات فرشتوں نے اپنے دل میں سوچی، یا اس کا ذکر آپس میں خفیہ طور سے کیا، آگے چل کر مفسر نے وما کنتم تکتمون کا مصداق اسی قول کو قرار دیا ہے۔

علم آدم السماء امی اسماء المسمیات : آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مفسر کے بیان کے مطابق سطح زمین سے ایک مٹھی لے کر دنیا کے مختلف پانیوں سے اسے گوندھ دیا، مٹی بھی ہر رنگ کی، اور پانی بھی ہر علاقے کا، پھر ان کا پتلہ تیار کیا، اور اس میں روح پھونک کر جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انھیں تمام نام سکھائے، اللہ نے الاسماء فرمایا ہے، جن کے معنی نام کے ہیں کس کے نام انھیں سکھائے، اسے حق تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا، مفسر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کی روشنی میں فرمایا کہ اسماء المسمیات، یعنی دنیا کی چیزوں کے نام سکھائے، حتی القصعة والقصیعة، ان ناموں کی تعلیم اتنی مکمل تھی کہ چھوٹے بڑے پیالوں اور بغیر آواز کے ریح خارج ہونے کے نام تک سکھا دیئے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ نام کس طرح تعلیم کئے؟ اس کا جواب مفسر نے دیا کہ بان القی فی قلبہ علمہا۔ یعنی یہ چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے آتی گئیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اتارتے گئے، دل میں ناموں کے القا کرنے سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ آدم علیہ السلام کے دل میں ان چیزوں کے علم کی استعداد و صلاحیت تھی، اس لئے یہ نام بے تکلف ان کے ذہن میں آتے گئے، اور بیٹھتے گئے، استعداد کا یہی خاصہ ہے، اس کے برخلاف فرشتے نوری مخلوق ہونے کی وجہ سے ان زمینی چیزوں کو اور ان کے ناموں کو معلوم کرنے اور انھیں یاد رکھنے کی استعداد سے برکنار تھے، اور ظاہر ہے کہ خلافت ارضی کا انحصار علم پر ہے، ورنہ علم ہی نہ ہوگا تو کاروبار خلافت کیونکر سنبھلے گا۔

ثم عرضهم اے المسمیات : پھر اللہ نے ان کو یعنی ان اسماء کے مسمیات (چیزوں) کو فرشتوں کے سامنے رکھا، ہم ضمیر جمع کا مرجع المسمیات ہے، جو اسماء کے ضمن میں سمجھا گیا ہے، کیونکہ اسماء کے ساتھ مضاف الیہ المسمیات مقدر مانا گیا ہے، ضمیر اسی کی طرف لوٹی ہے۔

وفیہ تغلیب العقلاء: یہاں سوال یہ ہے کہ ان اشیاء میں عاقل اور غیر عاقل دونوں ہیں، عاقل کی رعایت کی جائے تو ضمیر ہم کی لائی جائے گی، اور غیر عاقل کا لحاظ کیا جائیگا تو ہمایا ہن کی ضمیر لائی جائیگی، مفسر نے فرمایا کہ یہاں غیر عاقل کو عاقل کے تحت لا کر سب کیلئے ضمیر عاقل ہم لائی گئی، اس طریقہ عمل کو تغلیب کہتے ہیں۔

ان کنتم صادقین فی انی لا اخلق الخ : اے فرشتو! اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ دوسرا کوئی جانکار نہ ہوگا، اور یہ کہ تم خلافت کا زیادہ استحقاق رکھتے ہو تو ان ناموں کی خبر دو۔

جواب الشرط دل علیہ ما قبلہ ان کنتم صادقین شرط ہے، اس کی جزاء لفظوں میں موجود نہیں، کیونکہ اس سے پہلے انبئونی آچکا ہے، جزاء پر یہی لفظ قرینہ ہے، کیونکہ اگر جزا آتی تو اسی لفظ سے آتی، وہ چونکہ پہلے آچکا ہے، اس لئے یہاں سے حذف کر دیا گیا۔

سبحانک لا علم لنا : یہ فرشتوں کی طرف سے ان کے عجز اور قصور کا اعتراف ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا سابقہ سوال بطور استفسار کے تھا، بطور اعتراض کے نہ تھا اور اسی سے ان پر انسان کی فضیلت اور اس کی تخلیق کی حکمت سے بھی واقفیت ہو گئی۔ پھر انھوں نے انتہائی ادب کی رعایت کرتے ہوئے اپنے تمام تر علم کو اصل سرچشمہ علم پر محمول کر دیا۔

سبحان مصدر ہے، یہ ہمیشہ حالت نصب میں مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا فعل محذوف ہوتا ہے، اس طرح یہ ترکیب میں مفعول مطلق ہوتا ہے، اسی کے مثل معاذ اللہ بھی ہے۔

سبحانک سے کلام کا آغاز کرنا حسن معذرت ہے سوال کی معذرت، حقیقت حال سے عدم واقفیت کی معذرت، یہ درحقیقت ”کلید توبہ“ ہے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی لفظ سے آغاز کیا اور فرمایا سبحانک تبت الیک، حضرت یونس علیہ السلام نے بھی عرض کیا سبحانک انی کنت من الظالمین (جمل) ما علمتنا ایاہ : ضمیر ایاہ ما کی جانب راجع ہے، اور علمت کا مفعول ثانی ہے۔

آدم : عجمی اسم ہے، کسی مادہ سے مشتق نہیں ہے، اشتقاق کا دعویٰ اس میں قرین صواب نہیں ہے، کیونکہ عجمی اسماء مشتق نہیں ہوا کرتے۔

فسمی کل شئی باسمہ : فرشتوں نے جب اپنے عجز و قصور کو تسلیم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام اور جس مقصد کیلئے وہ

پیدا کی گئی ہیں، سب بتایا، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کیلئے بمنزلہ معلم و استاذ کے ہو گئے۔
 قال تعالیٰ لهم موبخاً: اللہ تعالیٰ نے بطور توبیخ کے فرمایا: یعنی انھیں اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ اولیٰ تو یہ تھا کہ وہ لوگ سوال نہ کرتے اور انتظار کرتے تا آنکہ خود بخود حکمت واضح ہو جاتی، اور اگر کرنا تھا تو سوال کا ایسا انداز نہ اختیار کرتے جو بظاہر اعتراض معلوم ہوتا ہے۔

ما غاب فیہا: یہ لفظ غیب کی تفسیر ہے، غیب اسم مصدر ہے اور غائب کے معنی میں ہے۔
 ما تبدون: سے مراد فرشتوں کا قول ہے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا و یسفک الدماء
 وما کنتم تکتمون: سے مراد ان کا یہ قول کہ لن یخلق اللہ اکرم علیہ منا ولا اعلم۔



﴿وَ﴾ اذکر ﴿﴾ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا ﴿﴾ سجود تحیۃ بالانحناء ﴿﴾ فسجدوا الا ابلیس ﴿﴾ ہو ابو الجن کان بین الملائکۃ ﴿﴾ ابی ﴿﴾ امتنع من السجود ﴿﴾ واستکبر ﴿﴾ تکبر
 وقال انا خیر منه ﴿﴾ وکان من الکفرین ﴿﴾ فی علم اللہ ﴿﴾ وقلنا یادم اسکن انت ﴿﴾ تاکید
 للضمیر المستتر لیعطف علیہ ﴿﴾ ورزوکک ﴿﴾ حواء بالمد وکان خلقها من ضلعہ الایسر
 ﴿﴾ الجنۃ وکلا منہا ﴿﴾ اکلا ﴿﴾ رغداً ﴿﴾ واسعاً لا حجر فیہ ﴿﴾ حیث شئتما ولا تقربا هذه
 الشجرۃ ﴿﴾ بالا کل منہا وہی الحنطۃ أو الکرم أو غیرہما ﴿﴾ فتکونا ﴿﴾ فتصیرا ﴿﴾ من الظالمین ﴿﴾
 العاصین ﴿﴾ فازلھما الشیطن ﴿﴾ ابلیس اذہبہما و فی قراءۃ فازالھما نحاہما ﴿﴾ عنہا ﴿﴾ ای
 الجنۃ بان قال لھما هل ادلکما علی شجرۃ الخلد و قاسمہما باللہ انه لھما لمن الناصحین
 فاکلا منہا ﴿﴾ فاخرجھما مما کانا فیہ ﴿﴾ من النعم ﴿﴾ وقلنا اھبطوا ﴿﴾ الی الارض امے انما بما
 اشتملتما علیہ من ذریکتما ﴿﴾ بعضکم ﴿﴾ بعض الذریۃ ﴿﴾ لبعض عدو ﴿﴾ من ظلم بعضهم
 بعضا ﴿﴾ ولکم فی الارض مستقر ﴿﴾ موضع قرار ﴿﴾ ومتاع ﴿﴾ ما تمتعون بہ من نباتہا ﴿﴾ الی
 حین ﴿﴾ وقت انقضاء آجالکم ﴿﴾ فتلقى آدم من ربہ کلمات ﴿﴾ الھمہ ایاہا و فی قرأۃ بنصب
 آدم و رفع کلمات امے جاء تہ وہی ﴿﴾ ربنا ظلمنا انفسنا الآیۃ ﴿﴾ فدعا بہا ﴿﴾ فتاب علیہ ﴿﴾ قبل
 توبتہ ﴿﴾ انه هو التواب ﴿﴾ علی عبادہ ﴿﴾ الرجیم ﴿﴾ بہم ﴿﴾ قلنا اھبطوا منہا ﴿﴾ من الجنۃ
 ﴿﴾ جمیعاً ﴿﴾ کررہ لیعطف علیہ ﴿﴾ فاماً ﴿﴾ فیہ ادغام نون ان الشرطیۃ فی ما الزائدہ ﴿﴾ یاتینکم
 منی ہدی ﴿﴾ کتاب و رسول ﴿﴾ فمن تبع ہدای ﴿﴾ فامن بی و عمل بطاعتی ﴿﴾ فلا خوف علیہم
 ولا هم یحزنون ﴿﴾ فی الآخرة بان یدخلوا الجنۃ ﴿﴾ والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا ﴿﴾ کتبنا

﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ما کثون ابداً لا یفنون ولا یخرجون۔

ترجمہ

(اور) یاد کرو اس وقت کو (جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو) یعنی سجدہ تلغظی می جو محض جھک جانے سے ہوتا ہے (پس انھوں نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے) وہ جن کا بابائے اول ہے، جو فرشتوں کے درمیان رہتا تھا (انکار کیا) سجدے سے باز رہا (اور تکبر کیا) اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں (اور وہ) اللہ کے علم میں (کافروں کی قبیل سے تھا، اور ہم نے کہا اے آدم تم) ضمیر انت اس ضمیر کی تاکید ہے، جو اسکن میں پوشیدہ ہے، اور یہ تاکید اس لئے ہے کہ زوجک کا عطف اس پر کر سکیں (اور تمہاری بیوی) حواء الف ممدودہ کے ساتھ، انھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی دائیں پسلی سے پیدا کیا تھا (جنت میں رہو سہو اور اس میں جو چاہو آزادی کے ساتھ کھاؤ) رغداً کے معنی وسعت کے ساتھ، جس میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے (اور اس درخت کے قریب مت جانا) یعنی کھانے کیلئے، وہ گیہوں تھا یا انگور تھا، یا کچھ اور (پس تم ظالموں) گنہگاروں کے زمرہ (میں) ہو جاؤ گے، پھر شیطان نے ان کو بچلا دیا) یعنی ابلیس نے انھیں بہکا دیا اور ایک قرأت میں فاذا لہما باب افعال سے ہے یعنی ہٹا دیا (اس سے) یعنی جنت سے، اس نے ان دونوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں حیات دوام کا درخت نہ بتا دوں اور اس نے اللہ کی قسم کھائی کہ وہ ان کا بڑا خیر خواہ ہے، اس پر ان دونوں نے اسے کھالیا (چنانچہ اس نے ان دونوں کو ان) نعمتوں (سے نکال دیا جن میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ) زمین پر تم دونوں اپنی اس اولاد سمیت، جو تمہارے ضمن میں ہیں (اتر جاؤ، تم میں کے بعض) یعنی بعض اولادیں (بعض کے دشمن ہوں گے) کیونکہ ایک دوسرے پر ظلم کریں گے (اور تمہارے لئے زمین میں جائے قرار ہے، اور سامان نفع ہے) جس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے یعنی زمین کی پیداوار سے (ایک وقت تک) یعنی تمہاری عمروں کے اختتام تک (پس پالیا آدم نے اپنے رب کی جانب سے چند کلمات) اللہ نے انھیں یہ کلمات الہام فرمائے اور ایک قرأت میں آدم کے نصب اور کلمات کے رفع کے ساتھ ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ آدم کے پاس ان کے رب کی طرف سے کچھ کلمات پہنچے وہ کلمات یہ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ان کلمات کے ذریعہ آدم نے دعا کی (پس اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی) یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی (بلاشبہ وہ) اپنے بندوں پر (مہربانی فرمانے والے ہے، ان پر) رحم فرمانے والے ہیں ۵ ہم نے کہا کہ اس سے) یعنی جنت سے (سب اتر جاؤ) اس کو مکرر اس لئے ذکر کیا، تاکہ اس پر فاما یا تینکم کا عطف کر سکیں (پس اگر) اما میں ان شرطیہ کے نون کا ما زائدہ میں ادغام ہے (تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت) یعنی کتاب اور رسول (آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا) یعنی مجھ پر ایمان لائے گا، اور میری اطاعت کرے گا)

توان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ عمگین ہوں گے) آخرت میں، کیونکہ وہ جنت میں داخل ہوں گے (اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں) یعنی کتابوں (کی تکذیب کی، تو یہی لوگ اہل جہنم ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے) نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ اس سے نکل پائیں گے۔

نشریحات

سجود تحیة: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے روبرو سجدہ کریں، سجدہ کے معنی کسی کے سامنے محبت و تعظیم کے ساتھ ذلت و پستی اختیار کرنے اور جھکنے کے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں عبادت کے طور پر زمین پر سر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں، عبادت بجز خدا کے کسی اور کی جائز نہیں ہے، اس لئے یہ سجدہ عبادت نہیں ہوگا، سجدہ تعظیمی ہوگا، اسی کو مفسر نے سجود تحیة کہا ہے، یہ سجدہ صرف قدرے جھک جانے سے حاصل ہو جائیگا۔ زمین پر سر رکھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن شریعت محمدیہ نے اسے بھی منسوخ کر دیا ہے، اس کے بجائے سلام کو متعین کیا ہے۔

تحیة: مصدر ہے حیاً حیّ کے معنی زندگی کی دعا کرنا۔

ابلیس: یہ نام عجمی ہے عجم اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے، بعض لوگوں نے اسے عربی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ابلاس سے مشتق ہے، جس کے معنی مایوس ہونے کے ہیں چونکہ ابلیس رحمت حق سے مایوس ہے، اس لئے اس کا نام ابلیس پڑ گیا، لیکن عربی ہونے کی صورت میں اسے منصرف ہونا چاہئے۔

هو ابوالجن کان بین الملائكة: وہ جن کی اصل ہے، یہ تھا ایک غیر جنس، فرشتوں کے درمیان رہا کرتا تھا، اس لئے تغلیباً اسے فرشتوں میں شامل قرار دے کر اس کا استثناء کیا گیا، اور اسی بنا پر یہ حکم سجود میں بھی داخل تھا۔ بعض حضرات نے اسے فرشتوں ہی کا ایک فرد قرار دیا ہے، مگر غالباً یہ خلاف صواب ہے۔

(ابی) امتنع من السجود: ابا کسی ایسے کام سے انکار کو کہتے ہیں جس میں اپنی ذلت محسوس ہوتی ہو۔

وکان من الکافرین فی علم اللہ: وہ انکار سجدہ سے پہلے ہی کافر تھا، اس پر سوال ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ بڑا عابد و زاہد تھا، کافر نہ تھا، کافر تو اب ہوا ہے جب سجدہ سے انکار کیا، اس کا جواب مفسر نے فی علم اللہ کہہ کر دیا کہ اللہ کے علم میں وہ پہلے ہی سے کافر تھا، بعض لوگوں نے کان کو یہاں صدار کے معنی میں قرار دیا ہے۔

اسکن انت وزوجک: اسکن میں مخاطب کی ضمیر پوشیدہ ہے اور قاعدہ ہے کہ ضمیر مستتر پر اسم ظاہر کا عطف درست نہیں ہے اور اگر عطف لانا مقصود ہو تو اس ضمیر مستتر کو ضمیر منفصل کی شکل میں ظاہر کر دیتے ہیں، اور ضمیر منفصل اسم ظاہر کے حکم میں ہے۔ اب اس پر عطف کرنا صحیح ہے، اس لحاظ سے انت پر زوجک کا عطف ہو رہا ہے، کسی لفظ کے مکرر لانے کو تاکید کہتے ہیں۔

رغداً: رغدیر غد باب کرم سے کشادہ ہونا۔

لا تقربا هذه الشجرة بالاكل منها : بالاكل ، لا تقربا سے متعلق ہے، مطلب یہ اس کے قریب جانا، مطلقاً ممنوع نہیں بلکہ کھانے کے واسطے قرب سے نہی کی گئی ہے۔

وهي الحنطة او الكرم او غيرها : یہ عبارت لا کر مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ اس درخت کی تعیین نقل صحیح کے ساتھ رسول اللہ ﷺ سے منقول نہیں ہے۔

فتصیرا : یہاں تکوناً معنی میں تصیرا کے ہے، صیورۃ کا مطلب یہ ہے کہ شی ایک حالت سے بدل کر دوسرے حال میں چلی جائے، یعنی اس کے کھانے سے پہلے مطیع تھے، کھا لو گے تو نافرمان شمار ہو گے۔

هل ادلكما على شجرة الخلد : سورہ حج کی آیت ہے، هل ادلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى

وقاسمهما بالله انى : سورہ اعراف کی آیت کی جانب اشارہ ہے، وقاسمهما انى لكما لمن الناصحين.

فاكلا منها : تفسیر میں اس لفظ کو ذکر کر کے اشارہ کیا ہے کہ آگے آنے والا لفظ فاخر جہما معطوف ہے اس کا معطوف علیہ لفظوں میں موجود نہیں ہے مقدر ہے، اور وہ فاكلا منها، کیونکہ اخراج مسبب ہے، اس کا سبب یہی کھانا ہے۔

ای انتما بما اشتملتما عليه : قلنا اهبطوا پر ایک ہا کا سا اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ اب تک تو خطاب دو سے تھا، لیکن اس لفظ میں خطاب ایک پوری جماعت سے ہو گیا، تو یہ کون سی جماعت ہے؟ اس کا جواب دیا کہ تم دونوں اپنی ذریت سمیت جو تمہارے ضمن میں موجود ہے، اتر جاؤ، اولاد کو ان میں شامل کر دیا، تو جمع ہو گیا۔

فتاب عليه : تاب یتوب کے اصل معنی رجوع کرنے کے ہیں اگر اس کا صلہ الی ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور خطا کی معافی چاہی، اور اگر اس کا صلہ علی ہے تو اس کا معنی کسی پر رحمت لیکر پہنچنا ہے۔ فتاب عليه اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی لے کر پہنچ گئے، یعنی مہربانی فرمائی، اور ان کے رجوع کو قبول کیا۔

التواب : اسمائے حسنیٰ میں ہے، اس کے ساتھ مفسر نے علی ذکر کر کے اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بصلہ الی تواب یا تائب نہیں آسکتا۔

الرحيم بهم : رحم کا صلہ باء آتا ہے۔

کر رہ ليعطف عليه فاما : قلنا اهبطوا منها جميعاً - یہ لفظ پہلے بھی آچکا ہے، لیکن چونکہ دور پڑ گیا ہے، اسلئے دوبارہ اسے ذکر کیا، کیونکہ اس پر فاما یا تینکم کا عطف کرنا ہے، اگر یہ نہ لاتے تو فاما کا معطوف علیہ تلاش کرنے کیلئے زیادہ پیچھے لوٹنا پڑتا، اس سے اشتباہ پیدا ہو جاتا۔

فاما : اِما دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک ان شرطیہ دوسرے مازاندہ ان کے نون کا ما کے میم میں ادغام کر دیا گیا ہے۔ فامن بی و عمل بطاعتی : یہ اتباع ہدی کی تفسیر ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اور اطاعت گزاری کرے، رہا وہ شخص جو سرے سے ایمان ہی نہیں لایا، اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، یہاں ایک تیسری قسم بھی ہے۔ وہ یہ کہ ایمان تو لائے، مگر اطاعت گزاری نہ کرے، تو مفسر کی تفسیر کے مطابق اس آیت میں ایسے شخص سے تعرض نہیں کیا گیا ہے۔

فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون فی الآخرة : مفسر کی تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے، خوف و حزن کی نفی آخرت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی نہ انھیں قیامت کی ہولنا کیوں کا ڈر ہوگا اور نہ فوت شدہ دنیا پر کوئی افسوس ہوگا۔ خوف، مستقبل کے خطرات سے ڈرنے کو کہتے ہیں، اور حزن، پچھلی زندگی کی نا کامیوں پر افسوس کا نام ہے، اس کا آخرت کے حق میں ہونا تو برحق ہے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کامل اور پوری اطاعت گزاری سے دنیا کا خوف و حزن بھی معدوم ہو جاتا ہے۔

﴿ مضامین آیات و تفسیر ﴾

اس سے پہلے والے رکوع میں حق تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے انھیں توحید و رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی، اور لوگوں پر واضح کیا تھا کہ تم بے جان تھے اللہ نے جاندار بنایا۔ اب زیر نظر رکوع میں یہ بات واضح فرمائی کہ صرف جاندار نہیں، بلکہ تمام مخلوقات میں انسانوں کو شرف بخشا ہے۔ اور انھیں خاص عہدہ دیا ہے، اس عہدہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان و طاعت سے ایک سر مو انحراف نہ کیا جائے۔ یہ ایسا شرف ہے کہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہوا، نہ عہدہ نہ منصب کے لحاظ سے اور نہ خلقت کے اعتبار سے اور اس تخلیق اور تفویض عہدہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عنوان اختیار کیا، جس سے انسان کی اہمیت تو خیر ظاہر ہوتی ہی ہے، لیکن اس سے ایک اور عظیم الشان مخلوق کا پتہ چلتا ہے، جس کا وظیفہ زندگی بجز ایمان و طاعت اور تحمید و تقدیس کے اور کچھ نہیں ہے، پھر اسی کے ساتھ ایک تیسری مخلوق کا بھی سراغ لگا جو صرف شر ہی شر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ابتداء فرشتوں سے فرمایا کہ میں اس زمین کے اوپر اپنا ایک خلیفہ اور نائب مقرر کروں گا، جو میری عبادت و اطاعت کے ساتھ میرے احکام کا نفاذ دنیا میں کرتا رہے، فرشتوں کو ایک مخلوق یعنی جنات کا تجربہ ہو چکا تھا، انھوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ یہ دوسری مخلوق بھی جو صاحب اختیار بھی ہوگی اور صاحب تصرف بھی، نہ جانے کتنا فساد مچائے گی۔ اور کتنی خونریزی کرے گی، اور اگر تسبیح و تقدیس ہی اس کا وظیفہ ہو تو ہم تو یہ کام انجام دے ہی رہے ہیں، یہ اعتراض نہ تھا حکمت و مصلحت کے اظہار کا سوال تھا۔

حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، فرشتے سمجھ گئے کہ اس میں کوئی خاص

حکمت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا تیار کیا، اس میں روح پھونکی، ان میں علم کی استعداد رکھی، اشیاء کے اسماء انہیں سکھائے، وہ اشیاء فرشتوں کے سامنے بھی تھیں، مگر فرشتوں کو ان سے مناسبت نہ تھی، آدم علیہ السلام کو مناسبت تھی، استعداد تھی، سب نام انہیں یاد ہو گئے، حق تعالیٰ نے ان تمام اشیاء کو فرشتوں کے سامنے رکھ کر پوچھا کہ ان کے نام بتاؤ فرشتے دم بخود ہو کر کہنے لگے کہ یا اللہ! آپ کی ذات ہر عیب و اعتراض سے پاک ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے، بجز اس کے جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے، جاننے والے اور حکمت والے تو آپ ہی ہیں۔ پھر آدم سے کہا تم ان لوگوں کو بتاؤ۔ انہوں نے سب کچھ بتا دیا، کیا نام ہے؟ کیا کام ہے؟ کیا حکمت ہے؟ نیابت کیلئے سب سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ آدم کا تفوق اس میں ثابت ہو گیا، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کی تعظیم میں جھک جاؤ، سب جھک گئے، انہیں درمیان ابلیس بھی رہتا تھا، حکم میں وہ بھی شامل تھا، مگر وہ اکر گیا اور انکار کا کفر اپنے سر لیا۔

پھر حق تعالیٰ نے آدم سے اور ان کی بیوی حواء سے فرمایا کہ جاؤ جنت میں رہو، اس میں تمہیں کھانے پینے رہنے سہنے کی مکمل آزادی ہے، البتہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا ورنہ نافرمانوں میں گن لئے جاؤ گے۔ آدم و حواء جنت میں بخوشی رہنے لگے، مگر ابلیس کو کب گوارا تھا، اس نے وسوسہ اندازی کی، اسی درخت کو حیاۃ دوام کا درخت بتانے لگا، اور اس کے ساتھ اللہ کی قسمیں بھی کھائیں۔ بھلا آدم علیہ السلام کو اس وقت کیا خیال ہو سکتا تھا کہ اللہ کا نام کوئی غلط محل پر بھی استعمال کر سکتا ہے، خدا کی محبت میں وہ تو سرشار تھے، اللہ کا نام آیا اور دھوکے میں آ گئے۔ جس پھل کی ممانعت تھی، اسی کو چکھ لیا، حکم ہوا کہ اب جنت میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے اب زمین پر اترو، اور اس حکم عدولی کا ایک اور اثر تمہاری اولاد میں جاری ہوگا کہ آپس میں دشمنی کریں گے، لطف زندگی عارت ہوگا، پھر وہاں ہمیشہ رہنا بھی نہ ہوگا، ایک وقت سب کا مقرر ہوگا، سب اپنے اپنے وقت تک رہیں گے، حضرت آدم کو سخت صدمہ ہوا، معافی مانگنا چاہتے تھے، مگر کیسے مانگیں، حق تعالیٰ کی مہربانی نے دستگیری فرمائی، ایک دعا سکھائی یوں کہو: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان الفاظ نے سہارا دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، دل تڑپتا رہا، احساس ندامت میں سر جھک گیا، بالآخر حق تعالیٰ نے رحم فرمایا، توبہ قبول ہوئی، حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ دنیا کی زندگی میں غفلت عام ہوگی، اس کو دور کرنے کیلئے میری طرف سے ہدایت پہنچے گی، ہادی آئیں گے، کتابیں آئیں گی، دیکھو اس کی پیروی کرنا، پھر ہر خوف ہر اندیشہ ہر رنج ہر افسوس تم سے دور ہوگا۔ آخرت میں جنت ملے گی، دنیا میں اس کا سایہ نصیب ہوگا۔ (یعنی حیوۃ طیبہ) اور اگر غفلت میں پڑ کر تم نے انکار کر دیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو سیدھے جہنم میں گرو گے۔ اور دنیا میں بھی اس کا منحوس سایہ تم پر پڑتا رہے گا۔ (فسنیسرہ للعسری) اور پھر جہنم سے کبھی نجات نہ ملے گی۔ نہ مرکز، نہ اس سے نکل کر۔

اللہ تعالیٰ نے دوست اور دشمن دونوں سے خبردار کر دیا۔ فرشتے بہر حال خیر خواہ ہیں خدمت گزار ہیں،

کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی جناب سے یہی حکم ہے، اور اس حکم کی تعمیل میں انھیں ذرا بھی عار نہیں ہے، اور شیطان بہر حال دشمن ہے، وہ حکم عدولی کر کے راندہ درگاہ ہوا، تو سب کو اسی راہ پر ڈالنا چاہتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حکم عدولی کا باطنی اثر آپس کی عداوت ہے، اور فرمانبرداری کا باطنی اثر آپس کی محبت و مودت ہے، راہ کھلی ہوئی، روشن ہے، چلنے والے ہی آنکھ بند کر لیں تو وہ جانیں۔

..... بنی اسرائیل سے خطاب.....

﴿يٰۤاَيُّهَا سُرٰٓئِيْلُ﴾ اولاد يعقوب ﴿اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ اے علی آباء کم من الانجاء من فرعون و فلق البحر و تظليل الغمام و غير ذلك بان تشكروها بطاعتي ﴿وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْ﴾ الذي عهدته اليكم من الايمان بمحمد ﷺ ﴿اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ الذي عهدته اليكم من الثواب عليه بدخول الجنة ﴿وَاَيّٰى فَاَرْهَبُوْنَ﴾ خافون في ترك الوفاء به دون غيري ﴿وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ﴾ من القرآن ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة ﴿وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْنَ بِهٖ﴾ من اهل الكتاب لان خلفكم تبع لكم فاثمهم عليكم ﴿وَلَا تَشْتَرُوْا﴾ تستبدلوا ﴿بِآيٰتِيْ﴾ التي في كتابكم من نعت محمد ﷺ ﴿ثَمَنًا قَلِيْلًا﴾ عوضا يسيرا من الدنيا اي لا تكتموها خوف فوات ما تاخذونه من سفلتكم ﴿وَاَيّٰى فَاَتَّقُوْنَ﴾ خافون في ذلك دون غيري ﴿وَلَا تَلْبَسُوْا﴾ تخلطوا ﴿الْحَقَّ﴾ الذي انزلت عليكم ﴿بِالْبٰطِلِ﴾ الذي تفترونه ﴿وَلَا تَكْتُمُوْا الْحَقَّ﴾ نعت محمد ﴿وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ انه حق ﴿وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَآتُوْا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّٰكِعِيْنَ﴾ صلوا مع المصلين محمد ﷺ و اصحابه . و نزل في علماء هم و كانوا يقولون لا قربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد ﷺ فانه حق ﴿اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ﴾ بالايمان بمحمد ﷺ ﴿وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ﴾ تتركونها فلا تامر ونها به ﴿وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ﴾ التوراة و فيها الوعيد على مخالفة القول بالعمل ﴿اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ سوء فعلكم فترجعون ، فجملة النسيان محل الاستفهام الانكارى ﴿وَاسْتَعِيْنُوْا﴾ اطلبوا المعونة على اموركم ﴿بِالصَّبْرِ﴾ الحبس للنفس على ما تكره ﴿وَالصَّلٰوةَ﴾ افردها بالذكر تعظيماً لسانها و في الحديث كان ﷺ اذا حزبه امر بادر الى الصلاة و قيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الايمان الشره و حب الرياسة فامروا بالصبر وهو الصوم لانه يكسر الشهوة والصلاة لانها تورث الخشوع و تنفي الكبر ﴿وَاَنْهَا﴾ اى الصلوة ﴿لَكَبِيْرَةٌ﴾ ثقيلة ﴿اِلَّا عَلٰى الْخٰشِعِيْنَ﴾ الساكنين الى الطاعة ﴿الَّذِيْنَ

يُظُنُّونَ ﴿۱﴾ اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ ﴿۲﴾ بِالْبَعَثِ ﴿۳﴾ وَاِنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۴﴾ فِي الْآخِرَةِ فَيَجَازِيهِمْ .

ترجمہ

(اے بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد! (یاد کرو میرے احسان کو جو میں نے تم پر) یعنی تمہارے آباء و اجداد پر (کیا) مثلاً فرعون سے نجات، سمندر کو پھاڑ کر راستہ بنا دینا، بدلیوں کا سایہ وغیرہ، یاد کرو کا مطلب یہ ہے کہ میری طاعت و فرمانبرداری اختیار کر کے احسان کا شکر ادا کرو (اور میرے عہد کو) جو میں نے تم سے لیا ہے، یعنی محمد ﷺ پر ایمان لانے کے عہد کو (پورا کرو، میں تمہارے عہد کو) جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، یعنی اس کے عوض میں جنت میں داخلہ کے عہد کو (پورا کروں گا اور مجھی سے ڈرو) یعنی وعدہ پورا نہ کرنے کے باب میں صرف مجھی سے ڈرو اور کسی کا خوف نہ کرو (اور جو کچھ میں نے اتارا ہے) یعنی قرآن (جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے، جو تمہارے پاس ہے) یعنی توریت کی، کیونکہ یہ کتاب توحید و نبوت کے باب میں اس کے بالکل موافق ہے (اسی پر ایمان لاؤ، اور تم) اہل کتاب کے گروہ میں (اس کے پہلے منکر نہ بنو) کیونکہ تمہارے بعد والے تمہارے تابع ہوں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا گناہ بھی تم پر پڑے گا۔ (اور نہ خریدو) یعنی نہ لو (میری) ان (آیات کے عوض میں) جو تمہاری کتاب میں محمد (ﷺ) کی صفات کے متعلق ہیں (تھوڑی سی قیمت) یعنی دنیا کا مختصر سا عوض! مطلب یہ ہے کہ ان آیات کو محض اس خوف سے پوشیدہ نہ کرو کہ تم کو تمہارے مریدوں کی جانب سے جو کچھ نفع ملا کرتا ہے، وہ فوت ہو جائیگا (اور مجھی سے ڈرو) یعنی اس سلسلے میں میرا ہی خوف کرو، دوسری کسی چیز کا نہیں (اور) اس (حق کو) جو میں نے تم پر اتارا ہے اس (باطل کے ساتھ) جس کو تم گھڑتے ہو (مت ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ) یعنی محمد ﷺ کی صفات کو (حالانکہ تم جانتے ہو) کہ یہ حق ہے (اور نماز کو قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں) یعنی محمد ﷺ اور ان کے اصحاب جو کہ نمازی ہیں، ان نمازیوں کے (ساتھ رکوع کرو) یعنی نماز پڑھو۔

اگلی آیت علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ لوگ اپنے مسلمان قرابت مندوں سے کہا کرتے تھے کہ دین محمد پر جمے رہو، وہی حق ہے (کیا تم اوروں کو نیکی) یعنی محمد ﷺ پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو) یعنی اپنے آپ کو ترک کر دیتے ہو، خود کو نیکی کا حکم نہیں دیتے (حالانکہ تم کتاب) یعنی تورات (کی تلاوت کرتے ہو) اور اس میں قول و عمل کے تضاد پر وعید ہے (کیا) اپنے اس کام کی قباحت کو (تم سمجھتے نہیں ہو) کہ اس سے باز آؤ، نسیان والا جملہ یعنی تنسون، استفہام انکاری کا محل ہے۔ (اور) اپنے کاموں پر (مدد چاہو صبر سے) صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو ایسی چیزوں پر جما کر رکھنا، جو نفس پر گراں ہوں (اور نماز سے) اس کو اس کی عظمت شان کی وجہ سے علیحدہ ذکر کیا، اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کوئی اہم بات پیش آتی تھی تو آپ نماز کی طرف لپکتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ خطاب یہودیوں سے ہے، انھیں حد سے بڑھی ہوئی حرص اور حب جاہ نے

ایمان سے روک رکھا تھا۔ اس لئے انھیں صبر یعنی روزہ کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس سے شہوت ٹوٹی ہے، اور نماز کا حکم دیا گیا، کہ وہ خشوع کو پیدا کرتی ہے۔ اور کبر کو ختم کرتی ہے (اور بلاشبہ وہ گراں ہے، مگر ان لوگوں پر) گراں نہیں ہے (جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں یعنی جو طاعات کی طرف لپکتے ہیں، اور اس سے سکون حاصل کرتے ہیں) (جو لوگ کہ گمان) یعنی یقین (رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے) دوبارہ زندگی پا کر (ملنے والے ہیں اور وہ اسی کی جانب) آخرت میں (لوٹنے والے ہیں) وہ انھیں جزا دے گا۔

تشریحات

اولاد یعقوب : حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم (علیہم السلام) کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ ان کے بارہ بیٹے تھے، ہر بیٹے کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ اور ان سے پوری ایک قوم تیار ہوئی، انھیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جن پر تورات کا نزول ہوا، اور انھیں میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جن پر زبور نازل ہوئی، انھیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے جن پر انجیل اتاری گئی، یہ خاندان دنیاوی اعتبار سے بھی باوجاہت تھا اور دینی اعتبار سے انبیاء اور صلحاء کی کثرت کی وجہ سے تو اسے پیشوائی کا درجہ حاصل تھا، لیکن عرصہ سے بناؤ کے ساتھ اس خاندان کے افراد میں بگاڑ بھی چلا آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ان کے بگاڑ کا ظہور عام ہونے لگا تھا، بار بار تنبیہات ہوتی تھیں یہ قوم توبہ کرتی تھی، پھر کچھ ناخلف قسم کے لوگ خرابی ڈال دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی سرکشی عروج پر تھی، متعدد پیغمبروں کو انھوں نے قتل کر ڈالا، مختلف حکومتوں میں کئی مرتبہ تاراج و برباد کئے گئے، مگر اللہ نے پھر انھیں موقع دیا۔ مگر وہی حرکتیں دوبارہ ہوئیں، رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں مدینہ میں ان کی خاصی آبادی تھی، جب آپ مدینہ پہنچے تو قدرتی طور پر اہل کتاب ہونے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کا التفات ان کی طرف زیادہ ہوا کہ کلام الہی سے سرفراز ہیں، ان کی کتاب میں آپ کے متعلق متعدد صاف اور واضح پیشین گوئیاں موجود ہیں، اور انھیں عرصہ دراز سے نبی آخر الزماں کا انتظار بھی تھا، جب آپ تشریف لائے تو فطری طور پر امید تھی کہ یہ لوگ آپ کی طرف از خود سچ کر آئیں گے، مگر ان کی بدکرداریوں نے ان کے قلوب کو اس لائق نہیں چھوڑا تھا کہ کوئی خیر کی بات ان میں اثر کرتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، اور جن آیات و کلمات میں رسول اللہ ﷺ کے متعلق پیشین گوئیاں تھیں انھیں یا تو چھپانے لگے، یا ان میں تحریف کر کے کچھ کے کچھ معانی بتانے لگے، اس کی وجہ سے ان لوگوں کے ایمان لانے میں بڑی رکاوٹ پیدا ہوئی جو لوگ ان کے اہل علم اور اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اپنی نظریں انھیں پر جمائے ہوئے تھے کہ یہ ایمان لائیں، تو ہم بھی آگے بڑھیں، مگر یہ مخالفت ہی پر ڈٹے رہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کیلئے ان سے بہت کچھ خطاب کیا۔ اپنے احسانات یاد دلائے، ان کی نافرمانیاں یاد دلائیں، انھیں نصیحتیں کہیں، ان کے قلبی

امراض و عوارض کو بیان کیا ان کے نتائج بیان کئے، اس کے علاوہ در حدیث دیگر ان کے طور پر مسلمانوں کو بھی تنبیہ کرنا ہے کہ تم بھی صاحب کتاب ہو، دیکھو اہل کتاب، جب ان کے قلوب گناہوں سے زنگ آلود ہوتے ہیں تو ان میں یہ امراض پیدا ہوتے ہیں، تم خیال رکھنا کہیں ان امراض کے نشانہ تم نہ بن جانا ورنہ سابق اہل کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔

امے علی آبائکم : قرآن پاک میں جن اولاد یعقوب سے خطاب ہے، وہ وہ ہیں جو عہد نبوی میں موجود تھے، اور جن احسانات کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ بہت پہلے ہوئے ہیں، تو گزشتہ احسانات کا حوالہ بعد کی امت کو دینا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے؟ اس اشکال کے حل کی طرف مفسر نے اشارہ علی آبائکم کہہ کر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ احسانات تمہارے باپ دادوں اور تمہارے خاندان پر ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ خاندان پر کوئی احسان کیا جانا اس کے ہر فرد کی گردن پر احسان مانا جاتا ہے، ان احسانات کی قدرے تفصیل اگلے رکوع میں آرہی ہے۔

بأن تشکروها بطاعتی : احسانات کا یاد کرنا یہ ہے کہ ان کی شکر گزاری کرو، اور شکر گزاری یہ ہے کہ ان سے متاثر ہو کر میری طاعت و فرمانبرداری کرو، اور اسے اپنا شعار بناؤ۔

اوف بعہدکم : بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ آخری پیغمبر جب مبعوث ہوں گے تو ان پر ایمان لانا، اسی عہد کے ایفاء کا حکم دیا جا رہا ہے۔

وایای فارہبون : ایای ما اضممر عاملہ علی شریطة التفسیر ہے، یہاں عامل فعل مقدر ارہبوا ہے، جس کی تفسیر بعد والافعل کر رہا ہے فعل کے بعد جو 'ن' ہے یہ نون وقایہ کہلاتا ہے، بحالت موجودہ یہ مکسور ہے، کیونکہ یاء متکلم اس کے بعد تھی۔ اسے حذف کر کے اس کی علامت کے طور پر نون کے اوپر کسرہ باقی رکھا گیا ہے۔ اس نون کو نون وقایہ اس لئے کہتے ہیں کہ وقایہ کے معنی بچاؤ اور حفاظت کے آتے ہیں، یہ نون یاء متکلم پر آتا ہے، تاکہ اس کے پہلے والے حرف کی حفاظت کرے اور وہ اپنی حالت پر باقی رہے، اگر یہ نون نہ ہو تو ما قبل کا حرف متغیر ہو جائے گا، مثلاً یہاں پر اگر فارہبوی ہو، تو واو اور یاء کے ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ سے واو کو یاء سے بدلنا پڑے گا، اور پھر اس کا دوسری یاء میں ادغام ہو جائے گا، اور ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جائیگا۔ پس وہ فارہبوی ہو جائے گا، نون جب آیا تو واو اپنے مقام پر محفوظ رہ گیا۔

بموافقته له فی التوحید والنبوۃ : قرآن کریم توریت کی تصدیق کرتا ہے، مفسر علام نے تصدیق کی صورت ذکر کی ہے کہ جو مضامین توحید و رسالت وغیرہ کے توریت میں بیان کئے گئے ہیں، قرآن کریم میں بھی انہیں کے موافق بیان آیا ہے، اس طرح قرآن نے اس کی سچائی کا اعلان و اعتراف کیا ہے۔

ولا تکنونوا اول کافر بہ من اهل الکتاب : یہود مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلا منکر قرآن بننے سے منع کیا

ہے، اس پر اشکال ہے کہ اول کافر تو کفار ہو چکے ہیں، پھر اہل کتاب کو اول کافر بننے سے منع کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب میں اول کافر نہ بنو کیونکہ اہل کتاب میں سے پہلا خطاب انھیں سے ہوا ہے۔

لا تشتروا (لا تستبدلوا) : اشتراء بمعنی استبدال ہے، اور اس استبدال کو اشتراء اس لئے کہا گیا کہ ان آیات و احکام کے چھپانے اور ان میں تحریف کرنے سے انھیں کچھ دنیوی منفعت حاصل ہو جاتی تھی۔

صلوا مع المصلین محمد واصحابہ : وادکعوا مع الراكعين کی تفسیر میں صلوا مع المصلین کہہ کر دو باتوں کا حکم دیا ہے، ایک یہ کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو، دوسرے یہ کہ یہود کی نماز میں سجدہ تو تھا، رکوع نہ تھا، حکم دیا گیا۔ اب تم وہ نماز پڑھو جس میں رکوع ہے، یعنی رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب والی نماز۔

وتنسون انفسکم تترکونہا : اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے فرمایا کہ تم دوسروں کو نیکی اور ایمان کا حکم دیتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یہاں بھولنے کا حقیقی معنی بظاہر صادق نہیں آتا کیونکہ اپنے آپ کو کوئی نہیں بھولتا، اس کا جواب یہ ہے کہ نسیان بمعنی ترک ہے، کیونکہ نسیان کیلئے ترک لازم ہے، تو ملزوم بول کر لازمی معنی مراد لیا ہے، اور ترک کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکی اور ایمان کا مکلف نہیں سمجھتے ہو اس جگہ ترک کے بجائے نسیان کا لفظ لانے میں حکمت یہ ہے کہ کوئی عاقل اس کام کو اپنے اختیار سے ترک نہیں کر سکتا، ہاں بھول کر ہو تو ہو۔ فجملة النسیان محل الاستفہام الانکاری. أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم میں ہمزہ استفہام انکار کا ہے لیکن یہ خوب سمجھ لینا چاہئے کہ ہمزہ ہمیشہ شروع کلام میں آتا ہے، پس جس لفظ پر داخل ہو، ضروری نہیں کہ استفہام انکاری کا مورد اور محل وہی ہو، اسی اصول کی بنا پر أتأمرون الناس بالبر پر انکار نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ وہ تو ایک اچھا عمل ہے۔ بلکہ تنسون انفسکم پر انکار وارد ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، یہ تو ٹھیک ہے لیکن اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہیں، یہ ایک برا فعل ہے۔

واستعینوا : مفسر کے ارشاد کے مطابق یہ خطاب اہل کتاب سے نہیں بلکہ اہل اسلام سے ہے، کیونکہ جو شخص دین محمدی کا اور اس کے اعمال و احکام کا منکر ہو، اس کو نماز وغیرہ کا امر نہیں کیا جاسکتا۔

الحبس للنفس علی ما تکرہ : نفس پر جو چیز گراں ہے، اس پر اسے جمائے رکھنا یہ صبر کی اجمالی تشریح ہے، جیسے عبادت میں کوشش، غصہ پی جانا، بردباری، بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک، اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ صبر کی تین قسمیں ہیں: (۱) مصیبت اور تکلیف پر صبر کرنا (۲) طاعت و عبادت پر جمے رہنا۔ (۳) گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ (۱) صبر علی البلاء (۲) صبر علی

وقیل الخطاب لليهود: اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ مفسر کے اشارہ کے مطابق و استعینوا بالصبر کا خطاب اہل اسلام سے ہے، لیکن اس صورت میں سیاق کلام بدل جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد خطاب اہل کتاب سے ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ خطاب بھی یہود ہی سے ہو۔ اسی لئے مفسر نے فرمایا کہ کہا گیا ہے کہ یہ خطاب یہود سے ہے، لیکن اس صورت میں سابق سوال وارد ہوگا کہ یہود تو شرائع اسلام کو مانتے ہی نہیں، پھر انہیں ایمان کا حکم دیا جاسکتا ہے، صبر اور نماز کا حکم کیوں کر دیا جائے گا؟

مفسر فرماتے ہیں کہ یہود کے مزاج میں دو خرابیاں بہت راسخ تھیں، اور انہیں دونوں کی وجہ سے وہ ایمان سے دور تھے، ایک بے جا شہوت و حرص، اور دوسرے جاہ و منصب کی بے تحاشا ہوس، ان دونوں کا علاج اللہ نے بتایا کہ صبر کرو، اور صبر سے مراد روزہ ہے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، اور نماز پڑھو، کیونکہ نماز بڑائی کے جذبہ کو فنا کر کے خدا کے سامنے جھکنا سکھاتی ہے، گویا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ انہیں اولاً تو ایمان کی دعوت دی گئی (التزاماً) پھر صبر اور نماز کا حکم دیا گیا (مطابقتاً) تاکہ نفس میں جمی ہوئی برائیاں نکل جائیں۔

الخاشعین: خشوع نام ہے اللہ کی جناب میں حضور قلب اور سکونِ اعضاء و جوارح کا۔

يظنون: يوقنون: لفظ ظن اضماد میں سے ہے، اس کے معنی گمان کے بھی آتے ہیں اور یقین کے بھی، یہاں یقین ہی کا معنی مراد ہے۔

انهم ملاقوا ربهم بالبعث: رب کی ملاقات سے کیا مراد ہے؟ ملاقات کا ظاہری معنی تو حق تعالیٰ کے لحاظ سے ممتنع ہے، اور مجازاً ملاقات تو خود نماز و عبادت وغیرہ میں ہوتی رہتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قرب بندہ کا اللہ کے ساتھ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ ملاقات مراد نہیں ہے، بلکہ وہ ملاقات مراد ہے جس میں بندے کو اپنا حساب و کتاب خدا کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، اسی کو مفسر نے بالبعث کہہ کر بیان کیا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جب زندگی ملے گی اور حق تعالیٰ کا سامنا ہوگا، اس وقت کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

عام انسانیت کو دعوت حق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اس طبقہ کو مخاطب بنایا، جو عرصہ دراز سے اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان سے سرفراز رہا ہے، اور اس میں مسلسل انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد ہوتی رہی ہے، یہ طبقہ اگر ذرا بھی متوجہ ہوگا، تو راہ اس کے سامنے پہلے سے کھلی ہوئی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی وہ شاخ ہے جس کا آغاز ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہے، یہ بنی اسرائیل ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلا کر ایمان و اطاعت کی دعوت دی اور فرمایا کہ تم نے مجھ سے جو عہد کیا تھا اسے تم پورا کرو، میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے اسے میں پورا کروں گا۔ اور اس سلسلے میں کسی کا خوف دل میں نہ لاؤ، ڈرنا تو

صرف مجھی سے چاہئے، جس کتاب کا تم کو انتظار تھا، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارے سامنے وہ اتر رہی ہے، اسے مان لو۔ تمہاری نسلیں سدھریں گی اور تم کو اجر ملے گا، اور اگر تم نے انکار کیا تو اول کافر ہونے کی وجہ سے تمہاری نسلوں کا وبال بھی تمہیں پر پڑے گا۔ تمہارے پاس توریت ہے، اس میں جس صداقت کا اعلان کیا گیا ہے، اسے چھپا کر، اس میں تحریف کر کے جو تم دولت دنیا اور جاہ و منصب برقرار رکھنا چاہتے ہو، اور ڈرتے ہو کہ تمہارے متوسلین تم سے ٹوٹ جائیں گے، ایسا نہ کرو، ان سے کیا ڈرنا، مجھی سے ڈرو اور توریت کی سچی باتوں میں جھوٹی باتیں نہ شامل کرو، اور آخری پیغمبر ﷺ کے متعلق جو چیزیں اس میں ہیں، انھیں نہ چھپاؤ اور اسی آخری پیغمبر کے طریقے پر نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور جماعت کی نماز کا اہتمام کرو یہ کیا بات ہوئی کہ تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو کہ نیکی اختیار کرو، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اس کی شناخت اپنی کتاب میں پڑھتے ہو، کیا اتنی موٹی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی مدد صبر اور نماز پر آتی ہے، تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو، گو کہ نماز ایک بھاری چیز ہے لیکن جو لوگ خدا کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ان پر کچھ گراں نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ انھیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور لوٹ کر وہیں پہنچیں گے۔



﴿يٰۤاِسْرٰٓئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ۗ بِالشُّكْرِ عَلَيْهَا بَطَاعَتِيْ ۗ وَاِنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ ۗ اٰى اٰبَاءِ كُمْ ۗ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ۗ عٰلَمِيْ زَمٰنِهِمْ ۗ وَاَتَّقُوْا ۗ خَافُوْا ۗ يَوْمًا لَا تَجْزٰٓى فِيْهِ ۗ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ۗ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَا يُقْبَلُ ۗ بِالتَّوْبَةِ وَاِلْيٰءٍ ۗ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ۗ اٰى لَيْسَ لَهَا شَفَاعَةٌ فَتَقْبَلُ فَمَا لَنَا مِنْ شٰفِعِيْنَ ۗ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ۗ فِدَاۗءٍ ۗ وَلَا هُمْ يُنصَرُوْنَ ۗ يَمْنَعُوْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ ۗ وَاذْكُرُوْا ۗ اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ ۗ اٰى اٰبَائِكُمْ وَاَلْخَطٰبِ بِهٖ وِبِمَا بَعَدَهٗ لِمَوْجُوْدِيْنَ فِىْ زَمٰنِ نَبِيْنَا ﷺ اٰخِبُوْا بِمَا اَنْعَمَ عَلٰى اٰبَائِهِمْ تَذْكِيْرًا لِّهٖمْ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُوْمِنُوْا ۗ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ ۗ يَذِيْقُوْنَكُمْ ۗ سُوْءَ الْعَذَابِ ۗ اَشَدُّهُ وَاَلْجَمَلَةُ حٰلٍ مِنْ ضَمِيْرٍ نَجَّيْنٰكُمْ ۗ يُذَبِّحُوْنَ ۗ بِيٰنٍ لِّمَا قَبْلَهٗ ۗ اٰبْنَاكُمْ ۗ الْمَوْلُوْدِيْنَ ۗ وَيَسْتَحْيُوْنَ ۗ يَسْتَبْقُوْنَ ۗ نِسَاۗءَ كُمْ ۗ لِقَوْلِ بَعْضِ الْكٰهِنَةِ لَهٗ اِنْ مَوْلٰوْدا يُوْلَدُ فِىْ بَنِيْ اِسْرٰٓئِيْلَ يَكُوْنُ سَبِيًّا لِّذَهَابِ مَلِكِكَ ۗ وَفِىْ ذٰلِكُمْ ۗ الْعَذَابِ اَوْ الْاِنجَاءِ ۗ بَلَاۗءٍ ۗ اِبْتِلَاءٍ اَوْ اِنْعَامٍ ۗ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٍ ۗ وَاذْكُرُوْا ۗ اِذْ فَرَقْنَا ۗ فَلَقْنَا ۗ بِكُمْ ۗ بِسَبِيْكُمْ ۗ الْبَحْرَ ۗ حَتّٰى دَخَلْتُمُوْهُ هٰرَبِيْنَ مِنْ عَدُوْكُمْ ۗ فَاَنْجَيْنٰكُمْ ۗ مِنَ الْغَرَقِ ۗ وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ ۗ قَوْمَهٗ مَعَهٗ ۗ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۗ اِلَى الْاِنطَبَاقِ الْبَحْرِ عَلَيْهِمْ -

ترجمہ

(اے اسرائیل کی اولاد، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے) اس طور سے کہ میری اطاعت کر کے اس پر شکر گزاری کرو (اور اس بات کو کہ میں نے تم کو فضیلت بخشی) یعنی تمہارے آباء و اجداد کو (ساری دنیا پر) یعنی ان کے دور کے اہل دنیا پر (اور ڈرو اس دن سے) جس دن (کوئی جان کسی جان کی طرف سے بدلہ نہ دے گی) وہ قیامت کا دن ہے (اور نہ اس کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائیگی) لا تقبل یاء سے بھی ہے اور تاء سے بھی، یعنی اس کیلئے کوئی شفاعت ہی نہ ہوگی کہ اسے قبول کیا جائے۔ چنانچہ دوسری جگہ بحرین کی بات نقل کی گئی ہے فما لنا من شافعیین، ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے (اور نہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائیگی) یعنی اللہ کے عذاب سے ان کے بچاؤ کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

(اور) یاد کرو، وہ وقت (جب ہم نے تمہیں) یعنی تمہارے آباء و اجداد کو (آل فرعون سے نجات بخشی) یہ اور اس کے بعد کے تمام خطاب ان یہودیوں سے ہیں جو ہمارے نبی ﷺ کے عہد میں تھے، انھیں وہ انعام یاد دلائے گئے جو ان کے باپ دادوں پر ہوئے تھے تاکہ اللہ کے ان انعامات کی یاد تازہ ہو اور وہ ایمان لائیں (وہ تمہیں سخت عذاب چکھاتے تھے) یسومونکم کا جملہ نجیناکم کی ضمیر کُم سے حال ہے (وہ تمہارے بیٹوں کو) جو نومولود ہوئے (ذبح کر دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو باقی رکھتے) یہ ما قبل کا بیان ہے، اور ایسا وہ اس لئے کرتے تھے کہ فرعون کو بعض نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کے خاتمہ کا سبب بنے گا (اور اس میں) یعنی اس عذاب میں یا اس نجات بخشی میں (بلا تھی) یعنی ابتلاء تھی یا نوازش تھی (تمہارے رب کی طرف سے بڑی اور) یاد کرو (جب ہم نے تمہارے واسطے سمندر کو پھاڑ دیا) اور تم اپنے دشمن سے بھاگتے ہوئے اس میں داخل ہو گئے (پس ہم نے تم کو) غرق سے (نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا) یعنی اس کی قوم کو مع اس کے (اور تم لوگ) سمندر کے ان کے اوپر چھا جانے کو (دیکھ رہے تھے)

تشریحات

بالشکر علیہا بطاعتی: اس کی تشریح اس سے پہلے والے رکوع میں ملاحظہ کریں۔

عالمی زمانہم: قرآن کے الفاظ و انی فضلتکم علی العالمین بظاہر مطلق معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سارے عالم پر فضیلت بخشی ہے۔ لیکن یہ مفہوم مراد نہیں ہے کیونکہ قرآن ہی میں متعدد جگہ انھیں ملعون و مغضوب قرار دیا گیا ہے، مفسر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے دور میں اللہ نے اور سب کے مقابلے میں ان پر فضل و انعام زیادہ فرمایا تھا۔

لیس لها شفاعۃ: آیت کے الفاظ سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کیلئے سفارش تو ہوگی، مگر قبول نہ ہوگی،

لیکن اللہ کے دربار میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو سفارش ہوگی اللہ کی اجازت سے ہوگی، بغیر اجازت کوئی شخص سفارش کر ہی نہیں سکتا، تو جب اجازت کی بنیاد پر سفارش ہوگی تو وہ قبول بھی ضرور ہوگی۔ لہذا یہاں مطلب یہ ہے کہ کوئی سفارشی ہوگا ہی نہیں، چنانچہ مفسر نے اس کی دلیل میں قرآن کا ایک جملہ نقل کیا ہے، جو مجرمین قیامت کے دن کہیں گے۔ فما لنا من شافعين، ہمارا کوئی سفارش کنندہ ہے ہی نہیں۔

انجینا کم ای آباء کم : فرعون سے نجات ان یہودیوں کو نہیں ملی تھی، جو نبی ﷺ کے زمانے میں تھے، بلکہ ان کے باپ دادوں کو ملی تھی، باپ دادوں پر جو احسان ہو چکا ہے، وہ اولاد کی گردن پر بھی ہے، اگر وہ باپ دادے ختم ہو گئے ہوتے، تو ان اولادوں کا وجود کہاں سے ہوتا؟ ان کو کچھ نعتوں کو یاد دلا کر انھیں ایمان لانے کی ترغیب دی گئی ہے۔

والجملة حال : یسومونکم سوء العذاب کا یہ جملہ نجینا کم میں ضمیر مفعول سے حال ہے۔
لقول بعض الکھنة له : فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا وہ یہ کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی اور اس نے مصر کو گھیر لیا اور اس میں جتنے قبیلے تھے، سب کو جلا دیا اور بنی اسرائیل کو چھیڑا تک نہیں، اس نے کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی، انھوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دیگا، اسے بہت غصہ آیا، اس نے حکم دیدیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو، اسے ختم کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اس نے بارہ ہزار بچوں کو قتل کروادیا، اس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ معمر لوگ بھی بکثرت مرنے لگے، تو قبیلوں کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ بچوں کو تو آپ مارے جا رہے ہیں، اور بڑے لوگ اپنی موت مرے جا رہے ہیں، تو کل ایسا ہوگا، ہمارا کام کر نیوالا کوئی نہیں ملے گا، پھر ہمیں اپنے ہی ہاتھوں اپنا کام کرنا پڑے گا اس پر اس نے اپنے حکم میں کچھ ترمیم کر دی کہ ایک سال بچوں کو ختم کیا جائے اور ایک سال نہ ختم کیا جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب قتل کا حکم نہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کو ختم کیا جا رہا تھا۔ (جمل بحوالہ مخازن)

سوء العذاب : عذاب تو خود برا ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ لفظ سوء لانے کی ضرورت کیا پیش آئی۔ **جواب:** عذاب کئی طرح کا ہوتا ہے یہاں شدید عذاب مراد ہے۔

وفی ذلکم العذاب والانجاء : اس آیت میں بلاء کا مفہوم کیا ہے؟ مفسر نے فرمایا کہ بلاء کے معنی ابتلاء اور مصیبت کے بھی ہیں اور انعام و فضل کے بھی۔ بات یہ ہے کہ بلاء کے معنی امتحان کے ہیں، امتحان کبھی خوشحالی اور نعمت دے کر بھی ہوتا ہے کہ بندہ اس پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں اور کبھی مصیبت میں مبتلا کر کے بھی ہوتا ہے کہ بندہ صبر کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں؟ اس لحاظ سے بلاء کے اندر مصیبت اور انعام دونوں کا معنی موجود ہے۔ اب اگر

ذکرکم کا اشارہ فرعون کے کاموں کی طرف ہے تب تو بلاء بمعنی عذاب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نجات بخشی کی طرف ہے تو بلاء کے معنی نعمت کے ہیں۔

قومہ معہ: آل فرعون کے لفظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف آل فرعون غرق ہوئے، فرعون کا کوئی ذکر نہیں ہے، مفسر نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اس طرح کے محاورات میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں مقصود ہوتے ہیں، اسی کو فرمایا کہ قومہ معہ یعنی ہم نے اس کی قوم کو مع اس کے غرق کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا فرمایا گیا کہ لقد کرنا بنی آدم، اس میں خود آدم علیہ السلام بھی مراد ہیں اور ان کی اولاد بھی۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اجمالاً اپنے احسانات کا تذکرہ کر کے بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی ترغیب دی تھی، اس رکوع میں انھیں انعامات کی قدرے تفصیل ہے، انعام دو طرح کے ہیں۔ بعض انعامات تو وہ ہیں جن کا تعلق بنی اسرائیل کی مظلومیت سے ہے، یعنی بنی اسرائیل پر فرعون اور قوم فرعون نے ظلم ڈھا رکھا تھا حق تعالیٰ نے اس سے نجات بخشی۔ اور دوسرے انعامات وہ ہیں جن کا تعلق بنی اسرائیل کی ظالمیت اور شرارت سے اور حق تعالیٰ کے عفو درگزر سے ہے، یعنی بنی اسرائیل نے شرارتیں کیں اور ان شرارتوں کی وجہ سے وہ مستحق عذاب ہوئے مگر حق تعالیٰ نے ان کا تدارک بیان فرمایا اور انھیں معاف کر کے مزید احسان سے نوازا دیا۔

زیر نظر آیات میں انعامات کی قسم اول کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ مزید قیامت کے دن کی بے بسی اور بے چارگی کا حوالہ دیا گیا ہے، کہ اس دن کوئی بھی شخص جو ایمان نہیں لایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے شخص کا ایمان اس کے کام آجائے یا کوئی اس کی سفارش کر دے، یا وہ کسی طرح کا فدیہ دے کر اپنی جان چھڑالے، دنیا میں مجرمین اپنی نجات کیلئے یہی تینوں طریقے اختیار کرتے ہیں، کسی کو ضامن بناتے ہیں یا سفارش لاتے ہیں، یا مال خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن کافر کے حق میں یہ تینوں دروازے بند ہیں، اس لئے اس بیچارگی اور بے بسی کے دن سے بہت ڈرنا چاہئے۔

پھر انھیں یاد دلایا گیا کہ ایک زمانے میں وہ فرعون کے ظلم و ستم کے شکنجے میں کسے ہوئے تھے وہ ان سے بیگار لیا کرتا تھا۔ پوری قوم بنی اسرائیل کی پوری قوم قبط کی غلام تھی۔ قبطیوں کا ہر فرد جس اسرائیلی کو چاہتا پکڑ لیتا، اور زبردستی اس سے کام کرا لیتا اور اجرت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ پھر مزید یہ کہ اس نے بچوں کے قتل عام کا حکم دے رکھا تھا، یہ ایسا عذاب تھا کہ آج بھی دل ہل جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس مصیبت کبریٰ سے نجات بخشی، اور نجات بھی کیسی؟ بنی اسرائیل کے لئے بالکل خلاف توقع لمبے چوڑے سمندر میں خشک راستہ پیدا کر دیا، اور جب فرعون اپنے لشکر سمیت اس پر پہنچا تو سمندر کی موجوں نے اسے اپنے نرغے میں لے لیا۔ بنی اسرائیل کو جو تکلیف

پہنچ رہی تھی اور اس کی وجہ سے وہ شدید رنج و غم اور غصہ میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا علاج کر دیا۔ تکالیف کا خاتمہ تو ہو ہی گیا اور ظالموں کو جو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے تڑپتے، فریاد کرتے، چلاتے اور پھر ڈوبتے دیکھا تو ان کے دل کے غصے کی بھی تسکین ہو گئی۔



﴿وَإِذْ وَاوَعَدْنَا بِالْفِ وِ دُونَهَا ﴿مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ نعطيه عند انقضائها التوراة
 لتعملوا بها ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ﴾ الذي صاغه لكم السامري الها ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ ای بعد
 ذهابه الى ميعادنا ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ باتخاذہ لوضعکم العبادۃ فی غیر محلها ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا
 عَنْكُمْ﴾ محونا ذنوبکم ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ الاتخاذ ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ نعمتنا علیکم
 ﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ التوراة ﴿وَالْفُرْقَانَ﴾ عطف تفسیر ای الفارق بین الحق
 والباطل والحلال والحرام ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ به من الضلال ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾
 الذين عبدوا العجل ﴿يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ﴾ الها ﴿فتوبوا الى
 بَارئِكُمْ﴾ خالقکم من عبادتہ ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ ای ليقتل البرئ منكم المجرم ﴿ذَلِكَ﴾
 القتل ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارئِكُمْ﴾ فوفقمک لفعل ذلك و ارسل علیکم سحابة سوداء لئلا
 يبصر بعضکم بعضا فيرحمه حتى قتل منكم نحو سبعين الفاً ﴿فَتَابَ عَلَیْكُمْ﴾ قبل توبتکم
 ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ واذ قُلْتُمْ ﴿وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا الى الله من عبادة
 العجل و سمعتم كلامه ﴿يُمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهُ جَهْرَةً﴾ عياناً ﴿فَاخَذْتُمْ
 الصَّاعِقَةَ﴾ الصيحة فمتم ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ ما حل بكم ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ﴾ احييناكم ﴿مِنْ بَعْدِ
 مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ نعمتنا بذلك ﴿وَوَضَّلْنَا عَلَیْكُمْ الْغَمَامَ﴾ سترناكم بالسحاب
 الرقيق من حر الشمس في التيه ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ﴾ فيه ﴿الْمَنَّ وَالسَّلْوَى﴾ هما الترنجبین
 والطير السمانی بتخفيف الميم والقصر وقلنا ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ولا تدخروا
 فكفروا النعمة وادخروا فقطع منهم ﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ بذلك ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ﴾ لان وباله عليهم ﴿وَإِذْ قُلْنَا﴾ لهم بعد خروجهم من التيه ﴿ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾
 بيت المقدس او اريحا ﴿فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا﴾ واسعاً لا حجر فيه ﴿وَادْخُلُوا
 الْبَابَ﴾ ای بابها ﴿سُجَّداً﴾ منحنين ﴿وَقُولُوا﴾ مسئلتنا ﴿حِطَّةً﴾ ای تحط عنا خطايانا
 ﴿نَغْفِرْ﴾ و فی قرأة بالياء والتاء مبني للمفعول فيهما ﴿لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾

بِالطَّاعَةِ ثَوَابًا ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ فقالوا حبة في شعرة و دخلوا يزحفون على استاهم ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ فيه وضع الظاهر موضع المضمرة مبالغة في تقبيح شأنهم ﴿رَجْزًا﴾ عذابا طاعونا ﴿مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ بسبب فسقهم اى خروجهم عن الطاعة فهلك منهم فى ساعة سبعون الفا و اقل -

ترجمہ

(اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا) کہ ان کے ختم پر ہم انھیں تورات عطا کریں گے تاکہ تم لوگ اس پر عمل کرو۔ واعدنا الف کے ساتھ ہے، اور بغیر الف کے بھی ہے۔ (پھر تم نے پھٹے کو) معبود (بنالیا) جسے سامری نے تمہارے لئے ڈھالا تھا (اس کے بعد) یعنی موسیٰ کے ہمارے وعدے پر چلے جانے کے بعد (اور تم) اس کے اس بنالینے کی وجہ سے (ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے) کیونکہ عبادت کا استعمال غلط محل پر کر رہے تھے (پھر ہم نے تم سے درگزر کیا) یعنی تمہارے گناہوں کو محو کر دیا (اس) بنالینے (کے بعد شاید تم قدر کرو) ہمارے احسان کی جو تم پر ہوا (اور جب دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب) یعنی تورات (اور فرقان) یہ عطف تفسیری ہے، یعنی وہ چیز حق و باطل اور حلال و حرام کے درمیان امتیاز پیدا کرتی ہے (شاید تم) اس کی وجہ سے گمراہی سے نکل کر (ہدایت پر آ جاؤ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے) یعنی ان لوگوں سے جنہوں نے پھٹے کی پوجا کی تھی (اے میری قوم! تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا بسبب اپنے بنالینے کے پھٹے کو) معبود (پس اپنے پیدا کرنے والے کے حضور) اس کی عبادت سے (توبہ کرو، لہذا اپنے آپ کو قتل کرو) یعنی تم سے جو بری ہے وہ مجرم کو مار ڈالے (یہ) قتل (تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک بہتر ہے) پھر اللہ نے تم کو ایسا کرنے کی توفیق بخشی اور تم پر ایک کالی بدلی بھیج دی، تاکہ کوئی کسی کو نہ دیکھے کہ اسے ترس آئے، یہاں تک کہ تم میں سے ستر ہزار آدمی مار ڈالے گئے (پھر اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی) تمہاری توبہ قبول کر لی (بلاشبہ وہ توبہ قبول کر نیوالے، رحم کرنے والے ہیں اور جب تم نے) اس وقت جبکہ موسیٰ کے ساتھ اس واسطے نکلے تھے کہ اللہ کے حضور پھٹے کی پوجا سے معذرت کرو، اور تم نے اللہ کا کلام سن بھی لیا تو (کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری تصدیق اس وقت تک بالکل نہ کریں گے، جب تک ہم اللہ کو عیاناً نہ دیکھ لیں گے پس تم کو ایک کڑک نے آ کر فنا کیا) پس تم موت کے گھاٹ اتر گئے (اور تم دیکھ رہے تھے) جو کچھ تم پر پڑ رہا تھا (پھر ہم نے تم کو اٹھایا) زندہ کیا (تمہاری اس موت کے بعد شاید تم) ہمارے اس احسان کا (شکر ادا کرو) اور ہم نے تم پر بادلوں کا سائبان قائم کیا (یعنی میدان تیبہ میں تم پر سورج کی گرمی سے ہلکی بدلی کا پردہ قائم کیا) اور تم پر) اس میں (من و سلویٰ اتارا) یہ ترنجبین ہے اور سمائی پرندہ ہے، سمائی میم کی تخفیف اور قصر کے ساتھ ہے اور ہم نے کہا (ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ) اور ذخیرہ بنا کر نہ رکھو، لیکن انھوں نے

نعمت کی ناشکری کی، اور ذخیرہ بنانا شروع کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آسمانی روزی منقطع ہو گئی (اور انہوں نے) یہ کر کے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے) کیونکہ اس کا وبال انہیں پر پڑا (اور جب ہم نے ان سے) ان کے میدان تیر سے نکلنے کے بعد (کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ) بیت المقدس یا اریحا میں (پس کھاؤ وہاں جیسے چاہو، وسعت کے ساتھ) بغیر کسی رکاوٹ کے (اور) اس کے (دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے) یعنی جھکتے ہوئے (داخل ہو، اور کہو) کہ ہمارا سوال (معافی ہے) یعنی یہ کہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے (ہم معاف کر دیں گے تمہارے واسطے تمہاری غلطیوں کو) ایک قرآۃ میں یغفر یا کے ساتھ اور ایک قرآۃ میں تغفر تا کیساتھ ہے، اور یہ دونوں فعل مجہول ہیں (ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو) طاعت اختیار کر کے (نیکی کرنے والے ہیں) ثواب کا (بدلہ دیں گے، پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے) ان میں سے (ظلم کیا، بات کو اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی) پس انہوں نے کہا حبة فی شعرة۔ بالیوں میں دانہ چاہئے، اور اپنے سرین کے بل گھسٹ کر داخل ہونے لگے (اس کے نتیجے میں ہم نے ظالموں پر) اس میں اسم ظاہر کو ضمیر کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے، اور مقصد ان کی حالت کی قباحت کو خوب واضح کرنا ہے (عذاب اتارا) طاعون (آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے تھے) یعنی طاعت سے ان کے خروج کرنے کی وجہ سے، تو ان میں سے ستر ہزار یا کچھ کم ایک ساعت میں ہلاک ہو گئے۔

﴿تشریحات﴾

واذ واعدنا: قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد جب بنی اسرائیل مصر کو لوٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ انہیں توریت عطا فرمائیں گے، اور اس کے لئے ذی قعدہ اور عشرہ ذی الحجہ کی تاریخ مقرر کی، اور اس کی تعبیر لیلیٰ سے اس لئے کی کہ مہینہ کی شروعات رات ہی سے ہوتی ہے۔

واعدنا میں دو قرأت ہے۔ بغیر الف کے یعنی ہم نے وعدہ کیا اور واعدنا الف کے ساتھ، یہ باب مفاعلت سے ہے، اس میں شرکت کا معنی ہے یعنی ہم نے موسیٰ سے کتاب دینے کا وعدہ کیا اور موسیٰ نے کوہ طور پر آنے کا وعدہ کیا۔

موسیٰ: یہ عجمی لفظ ہے اور غیر منصرف ہے، یہ لفظ مو اور شا سے مرکب ہے، عبرانی زبان میں مو کے معنی پانی کے ہیں اور شا کے معنی درخت کے، فرعون نے موسیٰ عليه السلام کو پانی کے اندر سے جھاڑیوں کے جھنڈ سے نکالا تھا، اس لئے ان کا نام مو شا پڑ گیا۔ عربوں نے اسے ”موسیٰ“ کر لیا۔

(ثم اتخذتم العجل) الها: اتخذ متعدی بدو مفعول ہے، دوسرا مفعول الها ہے، جو یہاں محذوف ہے، مفسر نے اسے ظاہر کر دیا ہے کبھی متعدی بیک مفعول بھی استعمال ہوتا ہے، جب کہ جعل کے معنی میں ہو۔

وقالوا اتخذ الله ولداً : اتخذ باب افتعال سے ہے، اخذ سے مشتق ہے، اصل میں اتخذ ہے، اس میں پہلا ہمزہ وصل ہے اور دوسرا ہمزہ فاکلمہ ہے، مہموز کے قاعدہ سے دوسرے ہمزہ کو یاء سے بدل دیا، پھر یاء کو تاء سے بدل کر تاء میں ادغام کر دیا، بعض لوگوں نے تاء کے کثرت استعمال کی وجہ سے اسے اصلی سمجھ لیا، اور اسی سے مجرد اتخذیت اتخذ باب سماع سے بنا لیا ہے، کہتے ہیں اتخذتہ صدیقاً : لیکن اصل یہ نہیں ہے، تاہم الغلط العام فصیح کے تحت رائج ہے۔

سامری : بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو منافق تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے تو بنی اسرائیل کے پاس سونے اور چاندی کے زیورات بہت تھے، انھیں کو حاصل کر کے اس نے ایک بچھڑے کی صورت ڈھال لی تھی، اس کے منہ میں ایک خاص مٹی جو اس نے جبرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے سے اٹھائی تھی، جب سمندر پار کرنے میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی وہ مدد کر رہے تھے، وہی مٹی اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دی تھی اور وہ جیتا جاگتا بچھڑا بن گیا تھا، اس نے اس کے معبود ہونے کا وسوسہ بنی اسرائیل میں پھیلایا، بہت سے لوگوں نے اسے مان بھی لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔

لوضعکم : ظلم کی تعریف مفسر نے بتائی ہے کہ وضع الشئی فی غیر محلہ ہے، یعنی شے کو اس کے خاص محل و مقام پر نہ رکھ کر دوسری جگہ رکھ دینا۔ عبادت اللہ کی ہونی چاہئے، ان ظالموں نے اسے بچھڑے سے متعلق کر دیا۔

لعل : لعل کا معنی ترجی کا ہے، لیکن یہاں اس میں تعلیل کا معنی ہے۔

لیقتل البری منکم المجرم : فاقتلوا انفسکم کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے کیونکہ اس سے بظاہر خودکشی کا حکم معلوم ہوتا ہے، اور اس کا کوئی قائل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچھڑے کی پوجا کرنے والے اپنے آپ کو قتل ہونے کیلئے حوالے کر دیں اور دوسرے لوگ انھیں قتل کر دیں۔

ان لوگوں کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا تو انھوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا۔ اور قتل ہونے کیلئے راضی ہو گئے، لیکن مشکل یہ تھی کہ آدمی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو کیسے قتل کرے، تو اللہ نے ایک ایسی بدلی بھیجی کہ بالکل اندھیرا ہو گیا، اور اسی اندھیرے میں بہتیرے لوگ مارے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی دعا سے اس حکم کو اٹھا لیا، اور فیصلہ فرمایا کہ جو لوگ قتل کئے گئے وہ شہید ہیں، جنت میں داخل ہوں گے اور جو لوگ بچ رہے، ان کی خطا معاف۔

وقد خر جتم مع موسیٰ : اس تو بہ قتل کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا اور انھیں لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے تاکہ وہ اپنی قوم کی طرف سے اللہ کے حضور معذرت کریں، انھوں نے درخواست کی

کہ اللہ تعالیٰ کی بات سنو ادیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمادی، انہوں نے اللہ کا کلام سن لیا، لیکن اس پر انہوں نے دیکھنے کی درخواست پیش کر دی اس پر اللہ کا غضب حرکت میں آ گیا اور ایک چنگھاڑنے سب کو ہلاک کر دیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ کر دیئے گئے۔

فی التیہ : میدان تہ میں بنی اسرائیل چالیس سال تک بھٹکتے رہے، اس کا مفصل ذکر سورہ مائدہ میں آئے گا انشاء اللہ۔

ہما الترنجبین والطیر السمانی : ترنجبین گوند جیسی کوئی لذیذ شے ہے اور طیر سمانی، بٹیر جیسا کوئی پرندہ تھا۔ ولا تدخروا : انہیں حکم تھا کہ روز کے روز کی غذا کھا لیا کریں، اسے بچا کر نہ رکھیں، بس اللہ پر توکل کریں مگر حریص و خیل طبیعتوں نے حکم عدولی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آسمانی رزق بند ہو گیا۔

واذ قلنا لهم بعد خروجهم : میدان تہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابتداء حکم کے وقت جو لوگ جوان تھے وہ سب مر گئے، اور اس وقت اور بعد کے بچے جوان ہو گئے، چالیس سال جب پورے ہو گئے تو اس وقت حضرت یوشع بن نون کی نبوت کا دور تھا، اس وقت بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ فلاں آبادی میں جاؤ، اس سے مراد وہ آبادی ہے جس میں اللہ کا گھر بیت المقدس تھا یا اس سے مراد اس وقت شہر اریحا تھا، یہ شہر بیت المقدس کے قریب ہی تھا۔

انہیں یہ بھی حکم تھا کہ شہر میں تواضع کے ساتھ جھک کر داخل ہوں، اور زبان سے بھی کوئی بات ایسی نہ کہیں جس سے اکڑ اور کبریائی کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ حطہ کہتے ہوئے داخل ہوں، یعنی معافی ہو معافی ہو۔

فبدل الذین ظلموا قولاً : اللہ کا حکم تو یہ تھا، مگر شریر طبیعتوں نے بات کا رخ بدل دیا، اور بجائے حطہ کے حنطہ یا حبة کہنے لگے، یعنی غلہ چاہئے، اور بجائے جھک کر داخل ہونے کے ازراہ تمسخر سرین کے بل گھسٹنے لگے، اس ظلم کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور بکثرت لوگ ہلاکت کے گھاٹ اتر گئے۔

فیہ وضع الظاهر موضع المضممر مبالغة فی تقبیح شانہم :۔ فانزلنا علی الذین ظلموا : الذین ظلموا اسم ظاہر ہے، سیاق کلام کا تقاضا یہ تھا کہ فانزلنا علیہم ہوتا، لیکن اس کے بجائے اسم ظاہر لایا گیا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ضمیر سے ان کے حال کی قباحت ظاہر نہ ہوتی، اور الذین ظلموا سے ان کا حال شنیع خوب واضح ہو گیا کہ قول کو بدلنے والے ظالم تھے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

آیات زیر نظر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان احسانات و انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے جن کا تعلق بنی اسرائیل کی شرارتوں اور حق تعالیٰ کے عفو و درگزر سے ہے، مگر بجائے اس کے کہ ان احسانات سے یہ لوگ متاثر ہوتے الٹا

اور شرارتیں کرتے۔

مصر سے نکلنے اور فرعون سے نجات پانے کے بعد اللہ کا احسان عظیم یہ ہوا کہ انہیں ایک قانون ایک دستور العمل ایک نور اور ایک کتاب ہدایت دینے کے واسطے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر بلایا، لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر تشریف لے گئے اور ادھر بنی اسرائیل کے شریروں نے اللہ کو چھوڑ کر ایک گنہگار کی پوجا شروع کر دی۔ یہ جرم اتنا سخت تھا کہ انہیں قتل بھی کیا جاتا اور جہنم میں ہمیشہ کیلئے ڈال دیا جاتا، مگر حق تعالیٰ نے رحم فرمایا، کچھ لوگ قتل کئے گئے، مگر سب کو معاف کر دیا اور جنت کے مستحق قرار دیئے گئے، یہ بھی اللہ کا احسان ہوا کہ انہیں قتل کی سزا کو قبول کر نیکا حوصلہ عطا فرمایا، ورنہ اگر وہ سرکشی پر اتر آتے تو عاقبت تباہ و برباد ہو جاتی، پھر مزید احسان کہ اندھیرا کر دیا گیا کہ نہ قاتل مقتول کو دیکھے، نہ مقتول قاتل کو۔

پھر انہیں اللہ کے سامنے عذر کرنا تھا، یہ کہہ طور پر جاتے اور وہاں عبادت و مناجات کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے، مگر ہوا یہ کہ وہ طور پر پہونچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے الٹی سیدھی فرمائشیں کرنے لگے کہ اللہ کا کلام ہم بھی سنیں گے، اچھا سن لیا مگر پھر الجھ پڑے کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں، ہمیں دکھا دیجئے، اس پر تباہی نازل ہوگئی۔ مگر پھر احسان ہوا کہ زندہ کر دیئے گئے، کیسی کیسی نشانیاں دیکھیں بنی اسرائیل نے؟ مگر جب جہاد کا موقع آیا تو گستاخیاں کرنے لگے کہ ہم نہیں لڑیں گے آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے اس گستاخی کا نتیجہ یہ ہوا کہ چالیس سال تک حیران و پریشان رکھے گئے۔

اس گستاخی کے باوجود انہیں جب بھوک پیاس کی پریشانی ہوتی تو کھانے کیلئے من و سلویٰ کا غیبی انتظام ہوا، اور وعدہ کیا گیا کہ روز روز تازہ غذا حاصل ہوگی، اس میں چوری، خیانت اور ذخیرہ اندوزی مت کرنا، مگر شریروں نے یہ بھی کیا اور بالآخر آسمانی رزق سے محروم ہو گئے۔

پھر جب محرومی کے یہ چالیس سال پورے ہو گئے اور پرانی نسل کی جگہ نئی نسل آگئی تو حضرت یوشع کو حکم ہوا کہ انہیں لے کر جہاد کریں، اس جہاد میں اللہ کے حکم سے سورج اس وقت تک غروب ہونے سے ٹھہرا رہا جب تک حضرت یوشع کو فتح نہیں حاصل ہوگئی۔

اب حکم ہوا کہ شہر کے دروازے میں استغفار کرتے ہوئے تواضع کے ساتھ داخل ہوں، مگر پچھلی نسل کی رگ شرارت اس نسل میں بھی منتقل ہوگئی تھی، فتح کے نشہ میں انہیں دیوانگی نے آگھیرا، اور بجائے استغفار کے غلہ کا سوال کرنے لگے، اور بجائے جھکنے کے سرین پر گھسٹ کر حکم الہی کا مذاق اڑانے لگے، اس گستاخی اور بدتمیزی کی سزا یہ ملی کہ وہ طاعون جیسی مہلک وبا میں گرفتار ہو گئے۔

﴿وَ﴾ اذکر ﴿اِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ﴾ ای طلب السقیا ﴿لِقَوْمِهِ﴾ وقد عطشوا فی التیہ
﴿فَقَلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾ وهو الذی فر بثوبه خفیف مربع کراس الرجل رخام او
کذان فضربه ﴿فَانْفَجَرَتْ﴾ انشقت و سالت ﴿مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ بعدد الاسباط ﴿قَدْ
عَلِمَ كُلُّ اِنَاسٍ﴾ سبط منهم ﴿مَشْرَبَهُمْ﴾ موضع شربهم فلا یشرکهم فیہ غیرهم و قلنا لهم
﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْتُوا فِی الْاَرْضِ مُمْسِدِیْنَ﴾ حال مؤكدة لعاملها من عثی
بکسر المثلثة افسد ﴿وَ اِذْ قُلْتُمْ یٰمُوسٰی لَنْ نُّصَبِرَ عَلٰی طَعَامٍ﴾ ای نوع منه ﴿وَ اِحِدٍ﴾ وهو
المن والسلوی ﴿فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُخْرِجْ لَنَا﴾ شیئا ﴿مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ﴾ للبیان ﴿بِقَلْبِهَا
وَ قَشَّيْهَا وَ فُومِهَا﴾ حنطتها ﴿وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا﴾ قَالَ ﴿لَهُمْ مُوسٰی﴾ اتستبدلون الذی هو
اَدْنٰی ﴿اِخْسَ﴾ بِالذِّیْ هُوَ خَیْرٌ ﴿اشرف ای تاخذونه بدله و الهمزة للانکار فأبوا ان یرجعوا
فدعا الله فقال تعالیٰ ﴿اِهْبِطُوا﴾ انزلوا ﴿مِصْرًا﴾ من الامصار ﴿فَ اِنَّ لَكُمْ﴾ فیہ
﴿مَا سَأَلْتُمْ﴾ من النبات ﴿وَ ضُرِبَتْ﴾ جعلت ﴿عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾ الذل و الهوان
﴿وَ الْمَسْكَنَةُ﴾ ای اثر الفقر من السكون و الخزی فیہ لازمة لهم و ان كانوا اغنیاء لزوم
الدرهم المضروب لسکته ﴿وَ بَاءٌ وَا﴾ ورجعوا ﴿بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ﴾ ای الضرب
و الغضب ﴿بِاَنَّهُمْ﴾ ای بسبب انهم ﴿كَانُوا یَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللّٰهِ وَ یَقْتُلُونَ النَّبِیِّیْنَ﴾ کز کریا
و یحییٰ ﴿بِغَیْرِ الْحَقِّ﴾ ای ظلماً ﴿ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا یَعْتَدُونَ﴾ یتجاوزون الحد فی
المعاصی و کرره للتاکید۔

ترجمہ

(اور) یاد کرو (جب موسیٰ نے اپنی قوم کیلئے پانی کی دعا کی) جب کہ وہ لوگ میدان تہ میں پیاسے
ہو گئے تھے (تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی سے پتھر پر مارو) یہ پتھر وہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کو لے کر بھاگا
تھا، ہلکا، چوکور، آدمی کے سر کے برابر تھا، سنگ مرمر تھا یا کوئی نرم پتھر تھا، انھوں نے اسے مارا (تو اس سے پھٹ
پڑے) یعنی بہہ پڑے (بارہ چشمے) جتنے ان کے خاندان تھے (تمام لوگوں نے) یعنی ہر خاندان نے (اپنے
گھاٹ کو متعین کر لیا) اس میں دوسرا خاندان شریک نہیں ہو سکتا تھا اور ہم نے ان سے کہا کہ (اللہ کی روزی سے
کھاتے پیتے رہو، اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو) مفسدین اپنے عامل لا تعنوا کے کیلئے حال موکدہ ہے،
عثنیٰ باب سمع سے ہے، اس کے معنی فساد مچانا ہے (اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ! ہم ایک کھانے) یعنی ایک
قسم کے کھانے پر جو کہ من و سلویٰ ہے (ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو ہمارے لئے اپنے پروردگار سے دعا کر دیجئے کہ

ہمارے لئے) کچھ (ان اشیاء میں سے پیدا کرے جسے زمین اگاتی ہے، مثلاً) من بیانہ ہے (ترکاری) ککڑی، گیہوں، دال اور پیاز، کہا) ان سے موسیٰ نے (کیا تم اس چیز کے عوض میں جو کہ بہتر ہے معمولی چیز چاہتے ہو) ہمزہ استفہام انکاری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بات سے باز نہ آئے تو انھوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (کسی شہر میں آ جاؤ) اس میں (تمہارے لئے وہ چیزیں) یعنی سبزیاں (ہیں جن کا تم نے سوال کیا ہے، اور ان پر ذلت) رسوائی (اور مسکنت) یعنی فقر کا اثر، یہ سکون سے ماخوذ ہے (کی مہر لگا دی گئی) پس وہ ان کیلئے لازم ہے، اگرچہ وہ مال دار ہوں جیسے کہ درہم کیلئے اس کا ٹھپہ لازم ہوتا ہے (اور اللہ کی طرف سے غضب کو لے کر لوٹے، یہ) مہر اور غضب (اس واسطے ہوا کہ وہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء) مثلاً زکریا و یحییٰ علیہما السلام (کو ناحق قتل کر دیئے تھے) یعنی ظلماً (یہ اس واسطے کہ انھوں نے نافرمانی کی اور) معاصی میں (حد سے آگے بڑھتے تھے) اس کو تاکید کیلئے مکرر لائے ہیں۔

﴿ تشریحات ﴾

طلب السقیا: باب استفعال میں طلب کا معنی ہوتا ہے، اسی کو مفسر نے ظاہر کیا ہے، سقیا حاصل مصدر ہے۔
قد عطشوا فی التیہ: یہ جملہ حالیہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ قصہ اس وقت کا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ میدان تیہ میں تھے۔

وهو الذی فر بثوبہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاضرب بعصاک الحجر۔ یہ عصا وہی تھا جو انھیں مشہور قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام سے ملا تھا، اور اس سے معجزات کا ظہور ہوتا تھا۔ الحجر میں الف لام عہد کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی متعین پتھر تھا، جسے موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، اس تعین کو حضرت مفسر نے بیان فرمایا ہے کہ یہی پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کو لے کر بھاگا تھا، واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں شرم و حیا کے وہ آداب و دستور نہیں تھے جس سے امت محمدیہ سرفراز ہے، وہ ایک دوسرے کے سامنے عریاں ہو جایا کرتے تھے اور اسی طرح غسل وغیرہ کر لیا کرتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام قوم کی عادت کے خلاف کبھی کسی کے سامنے برہنہ بدن نہ ہوتے تھے ان کیلئے یہ نئی بات تھی، وہ شبہہ کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں کوئی عیب ہے، ایک روز اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ بنی اسرائیل کی یہ تہمت تراشی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سے ختم ہو، وہ نہانے کیلئے تالاب یا دریا کے کنارے گئے، اس وقت سناٹا تھا، آپ نے کپڑے اتارے اور ایک پتھر پر رکھ دیئے، اور پانی میں گھس کر نہانے لگے جب باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے کھسک رہا ہے، حضرت موسیٰ لپکے کہ اپنا کپڑا اس پر سے اٹھالیں، مگر وہ تیزی سے بھاگنے لگا، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لیکر دوڑے، وہ بھاگتے بھاگتے ایسی جگہ رکا جہاں کچھ اسرائیلی بیٹھے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام ایک حال میں تھے، انھوں نے

پتھر کو لاٹھی سے مارا اور کپڑے جلدی جلدی پہنے، بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ ان کا جسم بے داغ اور بے عیب ہے، اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اس پتھر کو اپنے ساتھ رکھ لو، یہ کام آئے گا، وہ ہلکا تھا، اسے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھے رہا کرتے تھے، اس حکم کے بعد جب پانی کی ضرورت ہوتی، اس پر لاٹھی کی ضرب لگاتے اور اس میں سے پانی بہنے لگتا تھا، پھر جب روکنا ہوتا تو دوبارہ لاٹھی مارتے اور پانی بند ہو جاتا۔

لیکن مشہور اسرائیلی عالم حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی متعین پتھر نہ تھا، بلکہ کسی بھی پتھر سے موسیٰ علیہ السلام کام لے لیا کرتے تھے، اور یہ الف لام الحجر میں عہد ذہنی کا ہے۔

سالت : فانفجرت کے معنی صرف پھٹنے کے ہیں۔ سالت کا لفظ لا کر اشارہ کیا ہے کہ اس میں چشمے کی مناسبت سے سیلان کے معنی کی تضمین ہے۔

بعدد الاسباط : گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل بارہ خاندانوں پر مشتمل تھے۔

من رزق اللہ :۔ رزق تو سب اللہ ہی طرف سے ملتا ہے، مگر بنی اسرائیل کا یہ رزق چونکہ اسباب ظاہری کے بغیر مل رہا تھا اس لئے اس کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف کی گئی ہے۔

حال موكدة لعاملها : مفسدین، حال ہے لا تعثوا میں ضمیر مخاطبین ذوالحال ہے، لا تعثوا کے معنی فساد نہ کرو، ہے۔ اور مفسدین سے بھی اس معنی کی تکرار ہوتی ہے، اور تکرار سے تاکید حاصل ہوتی ہے، اس لئے یہ حال موكدة ہے۔

امے نوع منه : بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی کھانا تھا حالانکہ ایسا نہ تھا، اس شبہہ کو دفع کرنے کیلئے مفسر نے فرمایا کہ ایک کھانا سے مراد ایک قسم کا کھانا ہے اور وہ من وسلویٰ ہے۔

فومها حنطتها : نوم کے معنی گہوں کے بھی ہیں، اور لہسن کے بھی ہیں، مفسر نے گہوں مراد لیا ہے، بعض مفسرین نے لہسن مراد لیا ہے۔

ادنیٰ : ادنیٰ کی تحقیق میں تین قول ہیں :

(۱) یہ دنو سے مشتق ہے، اصل میں اَدْنُوْتھا، واو اس کلمہ میں چوتھا حرف ہے، اس لئے اسے یاء سے بدل دیا، پھر یاء متحرک اس کے ماقبل مفتوح ہے، اس لئے اسے الف سے بدل دیا، اس کے معنی قریب کے ہیں۔ التزماً اس سے خسست کا معنی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ جو چیز خسیس اور معمولی ہوتی ہے، اس کا حصول بہت قریب اور آسان ہوتا ہے۔

(۲) یہ لفظ مہوز ہے، اصل میں ادناً ہے جو دناءت سے مشتق ہے، ہمزہ کو تخفیفاً الف سے بدل دیا گیا، اس کے

معنی پست اور کمینہ کے ہیں۔

(۳) یہ لفظ دون سے مشتق ہے یعنی ردی، واو کو جو عین کلمہ ہے منتقل کر کے لام کلمہ بنا دیا گیا، اور پھر اسے قاعدے کے مطابق الف سے بدل دیا گیا۔

ای اتاخذونہ بدلہ : اتستبدلون الذی ہو ادنیٰ بالذی ہو خیر کی تفسیر میں تاخذونہ بدلہ کا لفظ لا کر مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ استبدال اور ابدال کے استعمال میں باء کا دخول شی متروک پر ہوتا ہے، اس شے پر نہیں، جس کو عوض میں لیا گیا ہے۔

اهبطوا . انزلو : ہبوط کے اصل معنی اوپر سے نیچے اترنے کے ہیں، لیکن اس کی تفسیر انزلوا سے کر کے مفسر نے بتا دیا کہ یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ منتقل ہو کر دوسری جگہ پہنچنا اور قیام کرنا ہے، نزول کا یہی معنی ہے اور اس میں اوپر سے نیچے آنے کا معنی لازم نہیں ہے۔

مصرًا من الامصار : یہاں مصر کو تمام قراء نے تنوین کے ساتھ پڑھا ہے، اس سے مراد کوئی بھی شہر ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے اس سے خاص مصر فرعون مراد ہے۔ اس صورت میں اسے علمیت اور تانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہونا چاہئے، لیکن چونکہ متحرک الاوسط نہیں ہے، اس لئے اس کا منصرف ہونا بھی جائز ہے، جیسے ہند کو منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، مفسر نے پہلا معنی مراد لیا ہے۔

ضربت علیہم : اس کلام میں ہم ضمیر سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سرکشی کی راہ اختیار کی تھی، بلکہ بعد کے اخلاف بھی مراد ہیں، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی جو حرکات رہی ہیں، وہ ذلت و ہوان کا خاص سبب رہی ہیں، اور بعد کے لوگوں کے مراد ہونے کا قرینہ یہ ہے کہ آگے حق تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبین بغیر الحق۔ ظاہر ہے کہ قتل انبیاء کی جرأت اس قوم کو عہد موسوی کے بعد ہوئی ہے۔

ای اثر الفقر من السکون : مسکنۃ سکون سے مشتق ہے، مسکنت کیلئے سکون بمعنی ٹھہراؤ لازم ہے، کیونکہ مسکین شخص اسباب و اموال نہ ہونے کی وجہ سے کہیں آجا نہیں سکتا، یہاں مسکنت سے مراد تنگدستی کے آثار ہیں۔ فہی لازمة لہم وان کانوا اغنیاء : یہودی گو کہ مال دار ہو، مگر تنگدستی کے آثار اس پر نمایاں ہوں گے، یعنی ذلیل و خسیس ہوگا، حریص و نخیل ہوگا۔

لزوم الدرہم المضروب لسکتہ : سکہ لوہے کے اس ٹپچہ کو کہتے ہیں جس سے درہم و دینار پر کسی خاص عبارت وغیرہ کا نقش بنایا جاتا ہے، یہ عبارت اصل ہیئت پر نہیں ہے، بلکہ منقول ہے، اصل عبارت یوں ہوگی۔ لزوم السکہ للدرہم المضروب، اور اس میں سکہ سے مراد سکہ کا لازمی معنی یعنی اثر ہے، گویا یہاں سے لفظ

اثر محذوف ہے، لزوم اثر السکة للدرهم المضروب۔ جس طرح ڈھلے ہوئے درہم پر لوہے کے ٹھپے کا نقش لازم ہوتا ہے، فی المصباح السکة بالكسر حديدة منقوشة تطبع بها الدراهم و الدنانير والجمع سکک مثل سدرۃ و سدر۔

بغیر الحق: انبیاء کو قتل کرنا ہمیشہ ناحق ہوتا ہے، کبھی برحق نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود یہاں بغیر الحق کا لفظ لانے کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان قاتلین کے نزدیک بھی قتل ناحق ہی تھا، ایسا نہ تھا کہ وہ غلطی سے اسے حق اور صحیح سمجھتے رہے ہوں۔

کر رہے للتاکید: اسم اشارہ ذلک کو تاکیدی کیلئے مکرر ذکر کیا ہے۔ اسم اشارہ کو مکرر لانے کی دو توجیہیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو وہی جو مفسر نے ذکر کی ہے، یعنی دونوں ذلک کا اشارہ ایک ہی بات کی طرف ہے، یعنی ان پر ذلت و رسوائی کی مہر کا لگایا جانا، لیکن علامہ زخشری نے لکھا ہے کہ پہلے ذلک کا اشارہ تو اسی ذلت و رسوائی کے ٹھپہ کی جانب ہے، لیکن دوسرے ذلک کا اشارہ کفر آیات اور قتل انبیاء کی طرف ہے، یعنی وہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار اور انبیاء کا قتل اس لئے کرتے تھے کہ انہیں گناہ اور سرکشی میں بڑا انہماک ہو گیا تھا۔



﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ﴾ بِالْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ ﴿ وَالَّذِيْنَ هَادُوْا ﴾ هُمُ الْيَهُودُ ﴿ وَالنَّصَارَىٰ ﴾ وَالصَّابِئِيْنَ ﴿ طَائِفَةٌ مِنَ الْيَهُودِ اَوْ النَّصَارَىٰ ﴾ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ﴿ فِيْ زَمٰنٍ نَّبِيْنَا ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ بِشَرِيْعَتِهِ ﴿ فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ ﴾ اِىْ ثَوَابِ اَعْمَالِهِمْ ﴿ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنُوْنَ ﴿ رُوْعَىٰ فِى ضَمِيْرٍ اٰمَنٍ وَ عَمَلٍ لَفْظٍ مِنْ وَفِيْمَا بَعْدَهُ مَعْنَاهَا ۔

﴿ تَرْجَمَهُ ﴾

(بیشک وہ لوگ جو) پہلے انبیاء پر (ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصاریٰ اور صابی ہوئے) یہ یہود یا نصاریٰ کا ایک گروہ ہے (جو) ان میں سے (اللہ پر اور یوم آخر پر) ہمارے نبی کے زمانے میں (ایمان لایا اور) آپ کی شریعت کے مطابق (عمل صالح کیا، ان کے لئے ان کا اجر) یعنی ان کے اعمال کا ثواب (ہے، ان کے رب کے پاس اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے) آمن اور عمل کی ضمیر میں لفظ من کی رعایت کی گئی ہے، اور اس کے مابعد میں اس کے معنی کی۔

﴿ تَشْرِيْحَاتِ ﴾

والذین ہادوا: ہاد یہود کے معنی یہودیت میں داخل ہونے کے ہے، لفظ یہود میں دو قول ہے ایک یہ کہ یہ لفظ عربی ہے ہاد یہود بمعنی تاب یتوب سے ماخوذ ہے، انہوں نے چونکہ چھڑے کی پوجا کرنے سے ایک

تاریخی توبہ کی تھی، اس لئے انھیں یہود کہا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ یہود اسے معرب ہے، یہ نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا ہے۔ ان کی نسبت سے اہل کتاب کا ایک طبقہ یہودی کہلایا۔

صابئین: یہ لفظ صابی کی جمع ہے۔ صبا یصبو اگر معتل ہے تو اس کے معنی مائل ہونے کے ہیں، اور اگر صبا یصبأ مہوز ہے تو اس کے معنی نکلنے کے ہیں۔ صابی کا لفظ ان لوگوں پر بولا جاتا ہے جو اپنے سابق دین سے نکل گئے ہوں۔ یہ گروہ یہود و نصاریٰ کا ایک ٹکڑا تھا جو اپنے اصل دین سے منحرف ہو کر ستاروں وغیرہ کی پوجا کرنے لگ گیا تھا۔

فی زمن نبینا: یہ ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال یہ ہے کہ ابتداء آیت میں ان الذین آمنوا کہا گیا ہے، اور یہاں من آمن باللہ والیوم الآخر کہا گیا۔ تو پہلے تعمیم اور اس کے بعد تخصیص کیوں کی گئی؟ جواب یہ ہے کہ ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور اکرم ﷺ کی بعثت سے قبل اجمالا اللہ پر اور انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، جیسا کہ شروع میں ان الذین آمنوا کے بعد بالانبیاء من قبل کا لفظ بڑھا کر مفسر نے اشارہ کیا ہے، اس گروہ میں وہ حضرات داخل ہیں جو دور جاہلیت میں ایمان کا اقرار کرتے تھے، مثلاً قس بن ساعدہ، ورقہ بن نوفل، بحیراء راہب، ابوذر غفاری، سلمان فارسی، پھر ان میں سے بعض نے حضور اکرم ﷺ کو پایا اور آپ پر ایمان لائے اور بعض نے آپ کو نہیں پایا، بہر حال ان مذکورہ بالا گروہوں میں سے جس نے بھی ہمارے نبی کا زمانہ پایا اور ایمان قبول کیا الخ

لا خوف: کا اطلاق عموماً مستقبل کے اندیشے اور خطرات پر ہوتا ہے، اس سے جو کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، اسے خوف کہا جاتا ہے۔ حزن کسی چیز کے فوت ہونے پر افسوس کو کہتے ہیں، ایمان و عمل صالح والوں سے یہ دونوں چیزیں منقش ہیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

آیات زیر نظر میں حق تعالیٰ نے یہود کی شرارتوں کا دنیوی اور اخروی جو انجام ہوا ہے، اسے بیان فرمایا۔ پھر ایک عام پیرائے میں ایمان و عمل صالح کی تاثیر بیان فرما کر اس کی ترغیب دی ہے، بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ وادی تیبہ میں جب یہودیوں کو پیاس نے ستایا اور پانی مفقود تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور پھر اللہ کے حکم سے پتھر پر لاٹھی ماری تو اس سے بارہ چشمے ابل پڑے۔ پھر بنی اسرائیل ایک طرح کے کھانے پینے سے اکتا گئے، تو دوسری غذاؤں کا مطالبہ کرنے لگے، حالانکہ من وسلویٰ والا رزق بہتر تھا، اور جو کچھ لہسن پیاز وغیرہ ان لوگوں نے مانگا، وہ بہت کمتر تھا حکم ہوا کہ یہ غذائیں چاہئیں تو کسی شہر میں جاؤ سب کچھ ملے گا۔ مگر اس قوم نے

ایک نہ سنی، اور ان کی یہ سرکشی اور تعدی پچھلی نسلوں میں بھی منتقل ہوتی رہی، پچھلے لوگ اپنے اسلاف سے آگے بڑھ کر انبیاء تک کو قتل کرنے لگے، اور آیات الہی کا براہ راست انکار کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں اس قوم پر ذلت ہمیشہ کے لئے مسلط کر دی گئی۔ لیکن اب بھی ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، دنیا کا خواہ کوئی گروہ ہے، خواہ مومنین ہوں خواہ یہود و نصاریٰ ہوں، خواہ ان کے علاوہ کوئی اور حضور اکرم ﷺ کا زمانہ اس نے پایا اور آپ کے اوپر ایمان لا کر اللہ کو اور یوم آخر کو آپ کے طریقہ پر اس نے تسلیم کیا، تو اب اس پر نہ ذلت و رسوائی ہے اور نہ کوئی خوف و رنج بلکہ رب کے پاس اسے بہت کچھ اجر ملے گا۔



﴿وَإِذْ كَرُوا﴾ اذ کروا ﴿إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ عہد کم بالعمل بما فی التوراة ﴿و﴾ قد ﴿رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ﴾ الجبل اقلعناہ من اصلہ علیکم لما ابیتم قبولہا وقلنا ﴿خُذُوا مَا آتَيْنُكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ بجد واجتہاد ﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ بالعمل بہ ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ النار او المعاصی ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ﴾ اعرضتم ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ الميثاق عن الطاعة ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ لکم بالتوبة او تاخير العذاب ﴿لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ الهالکین ﴿وَلَقَدْ﴾ لام قسم ﴿عَلِمْتُمْ﴾ عرفتم ﴿الَّذِينَ اعْتَدَوْا﴾ تجاوزوا الحد ﴿مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾ بصيد السمک وقد نهيناهم عنه وهم اهل ايلة ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ مبعدين فكانوها وھلكوا بعد ثلاثة ايام ﴿فَجَعَلْنَاهَا﴾ ای تلك العقوبة ﴿نَكَالًا﴾ عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ ای للامم التي في زمانها وبعدها ﴿وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ اللہ و خصوا بالذکر لانہم المنتفعون بها بخلاف غيرهم ﴿وَإِذْ كَر﴾ اذ قال موسى ﴿لِقَوْمِهِ﴾ وقد قتل لهم قتيل لا يدري قاتله و سألوہ ان يدعوا اللہ ان يبينہ لهم فدعاه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا﴾ مهزوا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك ﴿قَالَ أَعُوذُ﴾ امتنع ﴿بِاللَّهِ﴾ من ﴿أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ المستهزئين فلما علموا انه عزم ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾ ای ماسنها ﴿قَالَ﴾ موسى ﴿إِنَّهُ﴾ ای اللہ ﴿يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ﴾ مسنة ﴿وَلَا بَكْرٌ﴾ صغيرة ﴿عَوَانٌ﴾ نصف ﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾ المذكور من السنين ﴿فَأَفْعَلُوا مَا تَأْمُرُونَ﴾ به من ذبحها ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْئِهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقْعُ لَوْئِهَا﴾ شديد الصفرة ﴿تَسُرُّ النَّظِيرِينَ﴾ اليها بحسنها ای تعجبهم ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾ اسائمة ام عاملة ﴿إِنَّ الْبَقْرَ﴾ ای جنسه

المنعوت بما ذکر ﴿ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ﴾ لکثرته فلم نهتد الى المقصودة ﴿ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴾ اليها فى الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الابد ﴿ قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُوْلٌ ﴾ غير مذلة بالعمل ﴿ تُثِيْرُ الْاَرْضَ ﴾ تقلبها للزراعة والجملة صفة ذلول داخله فى النفس ﴿ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ﴾ الارض المهيئة للزرع ﴿ مُسَلَّمَةٌ ﴾ من العيوب وآثار العمل ﴿ لَا شِيَةَ ﴾ لون ﴿ فِيْهَا ﴾ غير لونها ﴿ قَالُوْا الْاَن جِئْتَ بِالْحَقِّ ﴾ نطق بالبيان التام فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بامه فاشتروها بملاً مسكها ذهباً ﴿ فَذَبْحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴾ لغلاء ثمنها و فى الحديث لو ذبحوا اى بقرة كانت لاجزأتهم ولكن شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم ﴿ وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاَدْرَأْتُمْ ﴾ فيه ادغام التاء فى الاصل فى الدال اى تخاصمتم و تدافعتم ﴿ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ ﴾ مظهر ﴿ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴾ من امرها و هذا اعتراض و هو اول القصة ﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ ﴾ اى القتيل ﴿ بَبَعْضِهَا ﴾ فضرب بلسانها او عجب ذنبها فحى وقال قتلنى فلان و فلان لابنى عمه ومات فحرما الميراث و قتلا قال تعالى ﴿ كَذٰلِكَ ﴾ الاحياء ﴿ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ﴾ دلائل قدرته ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴾ تدبرون فتعلمون ان القادر على احياء نفس واحدة قادر على احياء نفوس كثيرة فتؤمنون ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ ﴾ ايها اليهود صلبت عن قبول الحق ﴿ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ﴾ المذكور من احياء القتيل وما قبله من الآيات ﴿ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ ﴾ فى القسوة ﴿ اَوْ اَشَدُّ قَسُوَةً ﴾ مِنْهَا ﴿ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّقُ ﴾ فيه ادغام التاء فى الاصل فى الشين ﴿ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ ﴾ ينزل من علو الى سفلى ﴿ مِنْ خَشِيَةِ اللّٰهِ ﴾ وقلوبكم لاتتأثر ولا تلين ولا تخشع ﴿ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴾ وانما يؤخركم لوقتكم و فى قرأة بالتحثانية و فيه التفات عن الخطاب۔

﴿ ترجمہ ﴾

(اور) یاد کرو (جب ہم نے تم سے) توریث میں جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کر نیکا (عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور) پہاڑ کو (اٹھایا) یعنی ہم نے اسے جڑ سے اکھاڑ کر تمہارے اوپر لٹکا دیا، جبکہ تم نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ہم نے کہا کہ (قوت سے) محنت و کوشش سے (پکڑ لو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اور جو کچھ اس میں ہے، اسے یاد کرو) یعنی اس پر عمل کرو (تا کہ تم) جہنم سے یا معاصی سے (بچو ۵ پھر تم نے اس) عہد و پیمان (کے بعد طاعت سے روگردانی کی پس اگر تم پر) توبہ یا تاخیر عذاب کی شکل میں (اللہ کا فضل اور اس کی

رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے والوں میں) ہلاک ہونے والوں میں (ہو جاتے، اور بے شک تم ان لوگوں کو جان چکے ہو، جنہوں نے تم میں سے سبت کے سلسلے میں زیادتی کی) یعنی مچھلیوں کا شکار کر کے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا حد سے تجاوز کیا، یہ ایلہ کے لوگ تھے (تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ) چنانچہ وہ لوگ ذلیل بندر ہو گئے اور تین دن کے بعد ہلاک ہو گئے (سو ہم نے اس کو) یعنی اس سزا کو (عبرت بنا دیا) جو اس قسم کے فعل بد سے مانع ہو، (ان لوگوں کیلئے جو ان کے سامنے تھے، اور جو ان کے بعد ہوئے) یعنی ان گروہوں کیلئے جو اس زمانے میں موجود تھے، اور جو ان کے بعد آئے (اور متقیوں کیلئے نصیحت بنا دیا) متقیوں کو بالخصوص اس لئے ذکر کیا کہ یہی لوگ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں بخلاف دوسرے لوگوں کے کہ وہ یونہی سرسری گزر جائیں گے۔

(اور) یاد کرو (جب موسیٰ نے اپنی قوم سے) اس وقت (کہا تھا) جب کہ ان میں کا ایک آدمی قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ قاتل کو ظاہر فرمادیں، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی (کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو مذاق بناتے ہیں) یعنی مذاق کی چیز بناتے ہیں کہ ہمیں ایسی بات بتاتے ہیں (کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس بات سے کہ میں جاہلوں) مذاق کرنے والوں (میں ہوں) پس جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سچی بات ہے تو (انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمیں بتادے کہ وہ کیا ہے) یعنی اس کی عمر کیا ہوگی، موسیٰ علیہ السلام نے (کہا کہ وہ) یعنی اللہ تعالیٰ (فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہے جو نہ سن رسیدہ ہو، نہ بالکل بچہ ہو، دونوں کے درمیان) کی عمر کا (ہو پس کر ڈالو، جو کچھ تم کو حکم دیا جاتا ہے) یعنی ذبح کا حکم پورا کر ڈالو..... (انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہم سے بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیا ہوگا، کہا کہ بیشک وہ فرماتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کا بیل ہو، جس کا رنگ شوخ ہو) یعنی شوخ زرد رنگ ہو (جو دیکھنے والوں کو) اپنے حسن سے (خوش کر دے، انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر دیجئے، کہ وہ ہمارے لئے ظاہر فرمادے کہ وہ کیسا ہو) چراگاہ میں رہنے والا یا کام میں جتا ہوا (کیونکہ) اس قسم کا (بیل) جس کی مذکورہ بالا صفات بیان کی گئی ہیں، اپنی کثرت کی وجہ سے (ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے) اس لئے جو بیل مقصود ہے اس تک ہماری رسائی نہیں ہو پاری ہے (اور بیشک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور) اس تک (رسائی حاصل کر لیں گے) حدیث میں ہے کہ اگر وہ انشاء اللہ نہ کہہ لئے ہوتے تو، کبھی بھی اس کی وضاحت نہ ہو پاتی (کہا کہ بیشک وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو جو کام میں لگا ہوا نہ ہو کہ زمین کو) کھیتی کیلئے (جو تباہ ہو) تشریح الارض کا جملہ ذلول کی صفت ہے اور نفی کے تحت داخل ہے (اور نہ کھیتی کی سینچائی میں لگا ہوا ہو) حرث وہ زمین ہے، جو زراعت کیلئے تیار کی گئی ہو، عیبوں اور کام کے آثار سے (سالم ہو، اس میں) اس کے اپنے رنگ کے علاوہ

(کوئی) دوسرا (رنگ نہ ہو، انھوں نے کہا اب آپ حق بات کو لائے) یعنی مکمل وضاحت کی، پھر اس کو ڈھونڈھا تو اسے ایک ایسے جوان کے پاس پایا جو اپنی ماں کا بڑا فرمانبردار اور خدمت گزار تھا، اس سے انھوں نے اس کی کھال بھر سونے کے عوض میں خریدا (چنانچہ اسے ذبح کیا، اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں) کیونکہ اس کی قیمت بہت تھی، حدیث میں ہے کہ اگر وہ کوئی سا بھی بیل یا گائے ذبح کر دیئے ہوتے تو ان کا کام ہو جاتا، مگر انھوں نے اپنے حق میں شدت اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ شدت کا معاملہ کیا۔

(اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر تم لوگ اس سلسلے میں ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے) اذّار ائتم، میں اصل کے لحاظ سے تاء کا دال میں ادغام ہے، یعنی ایک دوسرے سے جھگڑنے اور ایک دوسرے پر ڈالنے لگے (اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا، جو کچھ تم) اس معاملہ میں (چھپا رہے تھے) یہ کلام درمیان میں ہے جبکہ یہی ذبح بقرہ واقعہ کی ابتداء ہے (پھر ہم نے کہا کہ اس) مقتول (کو اس کے کچھ حصے سے مارو) پس اس کی زبان یاد م کی جڑ سے اسے مارا گیا، اس سے وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ مجھے فلاں اور فلاں نے قتل کیا ہے، اس نے اپنے دو چچا زاد بھائیوں کا نام لیا، اور پھر مر گیا، نتیجے میں وہ دونوں میراث سے محروم کر دیئے گئے، اور قصاص میں قتل کر دیئے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (ایسے ہی) یعنی جیسے یہ زندہ کرنا ہوا، ایسے ہی وہ (زندہ کرتا ہے مردوں کو اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے) یعنی دلائل قدرت (شاید تم غور کرو، پس جان سکو کہ جو ذات ایک جان کے زندہ کرنے پر قادر ہے، اسے بہت سی جانوں کو بھی زندہ کرنے کی قدرت ہوگی، اس سے ایمان لاسکو گے) پھر تمہارے قلوب) اے یہودیو! (سخت ہو گئے) یعنی حق کے قبول کرنے سے سخت ہو گئے (اس کے بعد) یعنی احياء مقتول کے مذکورہ واقعہ اور اس سے پہلے کی دوسری نشانیاں دیکھنے کے بعد (پس وہ سختی میں پتھر کی طرح ہیں یا) اس سے بھی (زیادہ سخت اور بلاشبہ پتھروں میں بعض وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹی ہیں، اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ وہ شق ہو جاتے ہیں) یشقق میں تا کا ادغام شین میں ہے (اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ) بلندی سے پستی میں (اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں) اور تمہارے قلوب نہ متاثر ہوتے، نہ نرم ہوتے، اور نہ ان میں خشوع پیدا ہوتا (اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو، اس سے غافل نہیں ہے) تم کو صرف تمہارے وقت تک موخر کر رہا ہے، اور ایک قرأت میں یعملون یاء کے ساتھ ہے، اس میں خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہے۔

﴿ تشریحات ﴾

(و) قد (رفعنا): رفعنا سے پہلے قد کے اضافہ سے معلوم ہوا کہ یہ جملہ حال ہے۔

الطور :- یہ ایک مخصوص پہاڑی سلسلہ کا نام ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور نبوت ملی تھی، اور مطلق

پہاڑ کو بھی طور کہتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ پہاڑ جس کو حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر بلند کیا تھا فلسطین کا کوئی پہاڑ تھا۔

اقتل عنہ من اصلہ: بنی اسرائیل کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام نے توریت پیش کی، تو انہوں نے اس کے متعلق بہت تردد کا اظہار کیا، اور بہتوں نے تو قبول کرنے سے انکار ہی کر دیا حق تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کر ان کے سروں پر لٹکا دیا کہ مانتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے مجبوراً قبول کیا۔

سوال: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے اور فرمایا ہے کہ افانت تکرہ الناس حتی تکونوا مومنین۔ کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں۔ لیکن یہاں تو اکراہ معلوم ہوتا۔

جواب: دین کے قبول کرنے اور نہ کرنے میں اکراہ کی نفی کی گئی ہے، لیکن جب ایمان و اطاعت کو قبول کر لیا۔ تب دین کے احکام و شرائع سے سرتابی کی اجازت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، لیکن انہوں نے جب توریت کے احکام و شرائع دیکھے تو سستی و کاہلی کی خوگر طبیعتوں نے انہیں اپنے اوپر گراں جانا، اور اس لئے انہوں نے اس کے قبول کرنے سے گریز کیا، اس پر انہیں مجبور کیا گیا کہ قبول کریں۔ یا پہاڑ کے صدمے سے موت کو قبول کریں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اسلام سے پھر جائے تو اسے مجبور کیا جائے گا کہ یا تو دوبارہ اسلام میں داخل ہو یا موت کو قبول کرے۔

وقلنا (خذوا): خذوا سے پہلے قلنا ذکر کر کے مفسر نے بتایا کہ خذوا کا جملہ محل نصب میں ہے۔ اور عامل قلنا مقدر ہے اور خود قلنا جملہ حالیہ ہے اور رفعنا کا فاعل ذوالحال ہے، یعنی و رفعنا الطور قائلین خذوا ما آتینا کم

بالعمل بہ: و اذکروا کے طریقہ کی تعیین ہے، اس کو یاد رکھنا یہ ہے کہ اس پر عمل کرو۔ لعلکم تتقون: لعل، تعلیلیہ بھی ہو سکتا ہے اور اپنے اصل معنی پر ترجیح کیلئے بھی ہو سکتا ہے، ہم نے ترجیح کے لحاظ سے ترجمہ کیا ہے، بظاہر حق تعالیٰ کی جانب میں ترجیح ممنوع ہے کیونکہ ترجیح عدم علم سے ناشی ہوتی ہے، اور حق تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ بادشاہوں کے کلام میں ترجیح بمنزلہ علم اور یقین کے ہوتی ہے، یا یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اسلوب پر کلام کیا ہے، اس لئے ترجیح کا استعمال کثرت سے ہے۔

بالتوبة: اس کا تعلق فضل اور رحمت دونوں مصدروں سے ہے۔

ولقد علمتم: یہ علم بمعنی عرف ہے، اس لئے اسے دو مفعول کی حاجت نہیں ہے، علم اور معرفت میں فرق یہ ہے کہ علم ذات اور اس کے احوال دونوں کے جاننے پر بولا جاتا ہے، اس لئے اس میں دو مفعول چاہئے، اور

معرفت مفرد ذات یا حال کے جاننے کا نام ہے۔

فی السبت: سبت کے لغوی معنی راحت و آرام کے ہیں، یا کسی کام کے منقطع کر دینے کے۔ یہود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چھ دن میں کائنات کو پیدا کیا، اتوار سے لیکر جمعہ تک اور ہفتہ کے روز آرام کیا، اس لئے یہ یوم السبت ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ**۔ حق تعالیٰ کو تھکن کہاں کہ آرام کی ضرورت پیش آئے، بات یہ ہے کہ ہفتہ کا دن یہود یوں پر متعین تھا کہ دنیا کے کاموں کو منقطع کر کے صرف عبادت میں مصروف رہیں، اس لئے یہ یوم السبت ہے، اسے انھوں نے اپنی نادانی یا سرکشی سے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔

بصید السمک: یہ قصہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا، اس جگہ کا نام ایلہ تھا، تفصیل سورہ اعراف میں آئے گی۔

فكانوها: ہا کی ضمیر قرودہ خاسئین کی طرف راجع ہے۔

نكالا: لفظی معنی روکنے کے ہیں، چونکہ سزا ارتکاب جرم سے مانع بنتی ہے، اس لئے اسے نکال کہتے ہیں۔
وقد قتل لهم قتيل: یہاں جو ذبح بقرہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، اس کی ابتداء ایک شخص کے قتل کے قصے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ابتدائی جزء کو ذبح بقرہ کے واقعے کے بعد متصلاً ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے **وَإِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا نَخ**۔

سوال: واقعہ کے ابتدائی جزء کو بعد میں اور درمیانی جزء کو پہلے بیان کرنے میں کیا حکمت ہے؟

جواب: اللہ کے کلام کی حکمتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم چونکہ تاریخی واقعات و حکایات کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں وقائع کی ترتیب کا لحاظ ضروری ہو، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس لئے موقع کی مناسبت سے واقعات کے اجزاء میں تقدیم و تاخیر کی جاتی ہے، یہاں بنی اسرائیل کے عدوان و طغیان کا تذکرہ چل رہا تھا، اس کا ظہور ذبح بقرہ کے درمیانی جزء میں بوجہ تام ہے، اس لئے اسکا اسی جگہ ذکر مناسب ہوا، جہاں وہ مذکور ہے، اس کے بعد واقعہ کا ابتدائی حصہ بیان کر دیا گیا تاکہ طبیعت کا یہ انتظار رفع ہو جائے کہ آخر ذبح بقرہ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ پھر اس کا بالکل آخری حصہ جو حق تعالیٰ کے فضل و انعام اور زبردست قدرت الہی پر مشتمل ہے، یعنی مردہ کو زندہ کرنا اور واقعہ کی صحیح تحقیق سامنے کر دینا اسے آخر میں بیان کیا۔

بقرہ: بقرہ اسم جنس ہے، اس کا اطلاق گائے اور بیل دونوں پر ہوتا ہے، آگے چل کر اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے جو تائی اور سینچائی کا کام نہ لیا گیا ہو، اور عادتاً یہ کام چونکہ بیلوں سے لئے جاتے ہیں، اس لئے

ترجمہ میں بیل ہی کو ترجیح دی گئی۔

مہزوا بنا : اتخذنا ہزواً میں ہزواً مفعول ثانی ہے، لیکن مصدر ہے، مفعول اول ضمیر متکلم سے اسے مناسبت نہیں ہے۔ کیونکہ مصدر کا اطلاق ذات پر ممنوع ہے، مفسر نے بتایا کہ یہ مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ یعنی مہزواً بنا۔ اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مصدر کا اطلاق اسم فاعل اور اسم مفعول کے معنی میں عام ہے۔ مثل ذلک : یعنی ہم تو سوال کرتے ہیں کہ قاتل کا پتہ لگائیے، اور آپ جواب دیتے ہیں کہ بیل ذبح کرو، سوال دیگر جواب دیگر، ایسا جواب تو مذاق ہی ہو سکتا ہے۔

الجاهلین المستہزئین : اس سے معلوم ہوا کہ استہزاء کرنا جہالت کی بات ہے۔

فارض : بہت عمر رسیدہ۔ سمیت بذلک لانہا فرضت سنہا..... قطعہ وبلغت آخرہ قالہ الزمخشری (جمل)

عوان : درمیانہ عمر کی ذات، خواہ انسانوں میں ہو یا جانوروں میں، جمع عون۔

فارع لونہا : لفظ فارع، صفرة کی صفت میں تاکید کیلئے آتا ہے، یعنی شوخ زرد رنگ، سرخ رنگ کے لئے قان کا لفظ آتا ہے۔

احمر قان : سیاہ رنگ کیلئے حالک، اسود حالک، سفید رنگ کیلئے ناصع، ابيض ناصع والجملة صفة ذلول : تشیر الارض کا جملہ ذلول کی صفت ہے، اور یہ موصوف اور صفت دونوں لائے نفی کے تحت ہیں یعنی وہ کام میں جتا ہوا نہ ہو کہ زمین کی جوتائی کرتا ہو۔

ولا تسقى الحرث : اس کا عطف تشیر الارض پر ہے، اور لامناکید کیلئے ہے، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جملہ بھی لا ذلول والے لا کے تحت ہے۔

لاشية : شية اصل میں وشی ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے جیسے وعد سے عده بنا ہے۔

بالحق : یہ وہ حق نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں آتا ہے، بلکہ اس سے مراد واضح اور مکمل بیان ہے۔

وما كادوا يفعلون لغلاء تمنها : وہ ذبح کے قریب نہ تھے، یعنی وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، ایسا کیوں تھا؟ مفسر نے جواب دیا ہے کہ اس کی قیمت گراں ہونے کے باعث وہ اس سے کترانا چاہتے تھے، لیکن قرآن کے سیاق کلام سے قیمت کی زیادتی مفہوم نہیں ہوتی۔ بظاہر اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ رسوائی کے خوف سے آنا کافی کر رہے تھے، اسی لئے بار بار سوالات کر رہے تھے۔

واذ قتلتم نفساً : بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اور اس کا ایک چچا زاد بھائی تنگ دست تھا، یادو تھے، یہی دونوں اس کے وارث ہوتے، مگر اس کی عمر لمبی ہوئی، ان دونوں نے اکتا کر اسے قتل کر دیا، اور قتل کے بعد

دوسرے کے دروازے پر لاش کو ڈال دیا، صبح ہوئی تو دونوں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ فلاں گھروالوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، ان لوگوں نے انکار کیا، اب معاملہ مشتبہ ہو گیا، اور بات طول پکڑ گئی، تو بنی اسرائیل نے درخواست کی کہ حضرت اللہ سے دعا کریں۔

اِذْ اَرَاتُمْ : اصل میں تدار اتم باب تفاعل سے ہے، تاء کو دال سے بدل کر دال میں ادغام کر دیا، اور شروع میں ہمزہ وصل بڑھا دیا۔ صاحب منشعب نے اسے ایک مستقل باب افاعل قرار دیا ہے۔

هذا اعتراض : آیت و اذ قتلتم ذبح بقرہ اور اظہار قاتل کے پورے واقعہ کے تسلسل کے درمیان میں آئی ہے، اور یہ ابتدائی واقعہ ہے۔ اس کی حکمت لکھی جا چکی ہے۔

كذلك الاحياء : ک حرف جر مثل کے معنی میں ہے یعنی مثل ذلک الاحياء اسی زندہ کرنے کی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ كذلك محلاً منصوب ہے کیونکہ مفعول مطلق محذوف کی صفت ہے۔ عبارت یوں ہے يحيى الله الموتى احياء مثل ذلک الاحياء، كذلك كائناً محذوف سے متعلق ہوگا یعنی احياء كائناً كذلك الاحياء

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

زیر نظر آیات میں بنی اسرائیل کے احوال بد کا کچھ اور ذکر کیا گیا ہے۔ یہ احوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بھی ہیں، اور آپ کے بعد کے بھی، اس قوم کا مزاج فاسد ہو گیا تھا، اول تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اب فرعون سے نجات ہوگئی۔ اب اللہ کی طرف سے دستور العمل آجاتا تو ہم اس کے مطابق زندگی بسر کرتے۔ حق تعالیٰ نے نہایت اہتمام سے تورات عطا فرمائی، انہوں نے دیکھا کہ اب نفسانی خواہش سے دستبردار ہو کر خدا کی فرمانبرداری کرنی ہوگی تو اس میں تردد کرنے لگے، اور یہ تردد اتنا بڑھا کہ انکار تک پہنچ گئے، حق تعالیٰ کا غضب ظاہر ہوا، اور ایک پہاڑی ان کے سروں پر ٹکا دی گئی، اس کے خوف سے مانا، مگر کیا مانا اس کے بعد بھی روگردانیاں کرتے ہی رہے۔ وہ تو اللہ کا فضل انہیں تھام تھام لیتا تھا اور اس کی رحمت انہیں بچا بچا لیتی تھی، ورنہ کب کے وہ ہلاکت کے گھاٹ اتر چکے ہوتے۔

پھر انہیں میں سے کچھ وہ تھے، جنہوں نے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یوم سبت کے احکام سے سرتابی کی منع کیا گیا تھا کہ اس دن مچھلی نہ مارنا، مگر حیلہ جوئیوں سے اس حکم الہی کو توڑتے تھے، انہیں بندر بنا دیا گیا، یہ بڑی عبرت کا سامان تھا، مگر کس کیلئے، جو عبرت حاصل کرنا چاہیں، اور بنی اسرائیل اس استعداد سے بالعموم محروم تھے، یہ تو بعد کی بات ہے، خود موسیٰ علیہ السلام ایک حکم سناتے ہیں کہ ایک بیل ذبح کرو تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہ آپ بھی مذاق کرتے ہیں، مگر جب دیکھا کہ یہ کرنا ہی ہے تو اس میں طرح طرح کے سوالات نکال

نکال کر اس سے بچنے کی تدبیریں کرنے لگے۔ واقعہ یہی ہے کہ جن کو حکم کی تعمیل کرنی ہوتی ہے، وہ بے چون و چرا اور بغیر سوال و جواب کے فوراً تعمیل ارشاد کرتے ہیں، اور جنہیں کرنا نہیں ہوتا، وہی طرح طرح کے سوالات پیدا کرتے ہیں، بڑی مشکلوں سے وہ ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے۔

یہ ذبح کرنے کا حکم ایک شخص کے قتل کی وجہ سے ہوا تھا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور ایک دوسرے پر اصل قاتل کو چھپانے کیلئے لوگ الزام تراشیاں کر رہے تھے، معاشرہ بگڑتا ہے تو ظالم کی حمایت میں ناکردہ گناہ کو پکڑا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو انہیں حکم ہوا کہ ایک بیل ذبح کر کے اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو مقتول کے جسم سے مس کرو، وہ خود زندہ ہو کر بتا دے گا، چنانچہ ایسا کیا گیا تو اس نے اصل قاتل کی نشاندہی کر دی۔ جو اس کے پچازاد بھائی ہی تھے، اس طرح ایک مشکل معاملہ، اللہ کی خاص مدد سے حل ہوا، اور مردوں کو زندہ کئے جانے کی قدرت اور نشانی بھی ظاہر ہو گئی، ان سب واقعات کا خواہ وہ پہاڑی کا سر پراٹھانا ہو، یا مچھلی والوں کی تباہی ہو یا بیل ذبح کرنے سے ایک شخص کی زندگی ہو، ان سب کے بعد تو ہمیشہ کیلئے ان کی آنکھیں کھل جانی چاہئے تھیں، دل میں اللہ کا خوف سما جانا چاہئے تھا، لیکن افسوس بنی اسرائیل کا رنگ ہی دوسرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ اس کی سختی بھی ماند پڑ گئی، کیونکہ پتھروں سے تو کبھی نہریں بہنے لگتی ہیں، کبھی ان کا سینہ شق ہوتا ہے تو ان سے پانی رسنے لگتا ہے، کبھی وہ خوف الہی سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، لیکن تمہارے قلوب نہ تو متاثر ہوتے نہ ان میں نرمی آتی، نہ وہ جھکتے۔ تو سن لو کہ تمہاری کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ بس مہلت مل رہی ہے، وقت آئے گا تو خدا کے بطش شدید کا مشاہدہ ہوگا۔



﴿اَفْتَطْمَعُوْنَ﴾ ايها المومنون ﴿اَنْ يُّؤْمِنُوْا﴾ اي اليهود ﴿لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ احبارهم ﴿يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ﴾ في التوراة ﴿ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ﴾ يعيرونه ﴿مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ﴾ فهموه ﴿وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾ انهم مفترون والهمزة للانكار اي لا تطمعوا فلهم سابقة في الكفر ﴿وَإِذَا لَقُوا﴾ اي منافقوا اليهود ﴿الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا﴾ بان محمدا نبى و هو المبشر به في كتابنا ﴿وَإِذَا خَلَا﴾ رجع ﴿بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ قالوا اي رؤساءهم الذين لم ينافقوا لمن نافق ﴿أَتَحَدِّثُوْنَهُمْ﴾ اي المومنين ﴿بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ﴾ اي عرفكم في التوراة من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ﴿لِيُحَاجُّوْكُمْ﴾ ليخاصموكم واللام للضرورة ﴿بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ في الآخرة و يقيموا عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه ﴿أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾

انہم یحاجونکم اذا حدثتموہم فتنتہوا قال تعالیٰ ﴿ اَوْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الاستفہام للتقریر والواو الداخلة علیہا للعطف ﴿ اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ ﴾ ما یخفون وما یشہرون من ذلک و غیرہ فیرعوا عن ذلک ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ ای الیہود ﴿ اُمِیُّونَ ﴾ عوام ﴿ لَا یَعْلَمُونَ الْکِتٰبَ ﴾ التوراة ﴿ اِلَّا ﴾ لکن ﴿ اَمَانِیَّ ﴾ اکاذیب تلقوها من رؤسائہم فاعتمدوها ﴿ وَاِنْ ﴾ ما ﴿ هُمْ ﴾ فی جحد نبوة النبی ﷺ و غیرہ مما یختلقونہ ﴿ اِلَّا یَطْنُونَ ﴾ ظنا ولا علم لہم ﴿ فَوَیْلٌ ﴾ شدة عذاب ﴿ لِلَّذِیْنَ یُکْتَبُونَ الْکِتٰبَ بِاَیْدِیْہِمُ ﴾ ای مختلقا من عندهم ﴿ ثُمَّ یَقُولُوْنَ ہٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لَیْسَتْ رُوَا بِہِ ثَمٰنًا قَلِیْلًا ﴾ من الدنیا وہم الیہود غیروا صفة النبی ﷺ فی التوراة وآیة الرجم و غیرہا و کتبہا علی خلاف ما انزل ﴿ فَوَیْلٌ لَّہُمْ مِمَّا کَتَبَتْ اَیْدِیْہِمُ ﴾ من المختلق ﴿ وَوَیْلٌ لَّہُمْ مِمَّا یُکْسِبُوْنَ ﴾ من الرشی ﴿ وَقَالُوْا ﴾ لما وعدہم النبی ﷺ النار ﴿ لَنْ تَمَسَّنَا ﴾ تصینا ﴿ النَّارُ اِلَّا اَیَّامًا مَّعْدُوْدَةٌ ﴾ قلیلة اربعین یوما مدة عبادة آبائہم العجل ثم نزول ﴿ قُلِ ﴾ لہم یا محمد ﴿ اتَّخَذْتُمْ ﴾ حذف منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفہام ﴿ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا ﴾ میثاقا منه بذلک ﴿ فَلَنْ یُخْلِیَ اللّٰهُ عَہْدَہِ ﴾ بہ لا ﴿ اَمْ ﴾ بل ا ﴿ تَقُولُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ بَلٰی ﴾ تمسکم و تخلدون فیہا ﴿ مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً ﴾ شرکا ﴿ وَاَحَاطَتْ بِہِ خَطِیْئَتُہُ ﴾ بالافراد والجمع ای استولت علیہ واحدقت بہ من کل جانب بان مات مشرکا ﴿ فَاُولٰٓئِکَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیْہَا خَالِدُوْنَ ﴾ روعی فیہ معنی من ﴿ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِکَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیْہَا خَالِدُوْنَ ﴾

ترجمہ

(پس کیا تم خواہش رکھتے ہو) اے ایمان والو! (کہ) یہود (تمہاری بات مان جائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ) یعنی ان کے علماء کا گروہ (اللہ کا کلام سنتا تھا) توریت میں (پھر وہ لوگ اسے سمجھ لینے کے بعد بدل دیتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے) کہ وہ افرات پر دازی کرنے والے ہیں، ہمزہ استفہام انکار کیلئے ہے، یعنی تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو، کیونکہ یہ پہلے ہی سے کفر میں قدم جمائے ہوئے ہیں۔ (اور جب) وہ لوگ جو یہود میں سے منافقت اختیار کئے ہوئے ہیں (ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لاچکے ہیں) کہ محمد ﷺ) نبی ہیں اور ہماری کتاب میں انہیں کی بشارت دی گئی ہے (اور جب ان میں سے بعض) لوٹ کر (بعض کے پاس تنہائی میں جاتا ہے تو) ان کے وہ بڑے لوگ جنہوں نے منافقت نہیں اختیار کی ہے، اہل نفاق سے (کہتے ہیں کہ کیا تم ان سے) یعنی اہل ایمان سے (وہ باتیں بھی بیان کر دیتے ہو، جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں)

یعنی توریت میں تمہیں بتائی ہیں۔ مثلاً محمد (ﷺ) کے احوال و اوصاف وغیرہ (تاکہ بالآخر وہ تمہارے رب کے پاس اس کے ذریعے سے تم سے مخالفت کریں) آخرت میں..... لام صیرورت کا ہے..... اور تم پر حجت قائم کریں کہ تم ان کی صداقت کو جاننے کے باوجود ان کے اتباع و پیروی کے تارک تھے (پس کیا تم) اتنا (نہیں سمجھتے) جب تم ان سے یہ سب باتیں بیان کر دو گے تو وہ تم سے مخالفت کریں گے۔ پس تم اس سے باز آؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (اور کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ) استفہام تقریری ہے اور واو جس پر وہ داخل ہے، عطف کیلئے ہے (اللہ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں) خواہ وہ مذکورہ چیزیں ہوں یا ان کے علاوہ دوسری چیزیں ہوں۔ لہذا اس کام سے انہیں باز آ جانا چاہئے (اور ان) یہودیوں (میں سے بعض ان پڑھ) عوام (ہیں، وہ کتاب) توریت کو نہیں جانتے (لیکن کچھ جھوٹی آرزوئیں) جو انہوں نے اپنے بڑوں سے پایا ہے، اور انہیں پر اعتماد کئے بیٹھے ہیں (اور یہ لوگ) نبی ﷺ کی نبوت کے انکار اور اپنی دوسری من گھڑت چیزوں میں، اور کچھ (نہیں ہیں سوائے اس کے کہ وہم میں مبتلا ہیں) جس کا انہیں علم نہیں (پس ویل ہے) سخت عذاب ہے (ان لوگوں کے حق میں، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں) یعنی اپنی طرف سے گھڑتے ہیں (پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے عوض میں) دنیا کی (تھوڑی قیمت حاصل کریں) ایسا کرنے والے یہود ہیں، انہوں نے نبی کی صفات میں تبدیلی کر دی، جو توریت میں بیان کی گئی ہیں، اور آیت رجم وغیرہ میں ترمیم کر دی، اور انہیں جیسی اللہ کی طرف سے وہ نازل ہوئی تھیں، اس کے خلاف تحریر میں لے آئے (پس ان کیلئے ہلاکت ہے، اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا) یعنی من گھڑت باتیں (اور ان کے لئے ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جو وہ) رشوتیں (کماتے ہیں اور) جب ان کو نبی ﷺ نے جہنم کی وعید سنائی تو (انہوں نے کہا کہ ہمیں جہنم کا عذاب بجز گنتی کے چند دنوں کے اور نہیں ہوگا) یعنی تھوڑے دن فقط چالیس دن، جتنے دن ان کے پرکھوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، پھر وہ ختم ہو جائے گا، اے محمد ان سے (کہہ دو کہ کیا تم نے اللہ کے پاس) اس بات کا (کوئی عہد متعین کر لیا ہے) اتخذتم میں ہمزہ استفہام کی وجہ سے ہمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، اس لئے اسے حذف کر دیا گیا ہے، (کہ اللہ تعالیٰ اس عہد کے خلاف نہیں کریں گے) نہیں (یا یہ کہ تم لوگ اللہ کے اوپر ایسی بات بولتے ہو، جسے تم نہیں جانتے، کیوں نہیں) تمہیں جہنم گرفتار کرے گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے (جس نے برا عمل کیا) یعنی شرک کیا (اور اس کی خطانے) خطیۃ واحد بھی ہے اور جمع بھی (اس کو گھیر لیا) یعنی اس پر چھا گئی، اور ہر طرف سے اس کو اپنے احاطہ میں لے لیا، یعنی وہ شرک کی حالت میں مر گیا (پس یہی لوگ اہل جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے) اس میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے (اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، یہی لوگ اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔)

تشریحات

ان یومنونواکم : ایمان کا صلہ باء آتا ہے، لیکن جب لام صلہ میں آئے تو اس میں انقیاد و اطاعت کے معنی کی تضمین ہوتی ہے۔

وقد کان فریق منہم : یہاں سے اس بات کا بیان ہے کہ یہودیوں میں چار طرح کے لوگ ہیں، اور ہر گروہ ایسی صفات سے متصف ہے کہ ان اوصاف کے ہوتے ہوئے، کوئی امید نہیں کی جاسکتی کہ وہ ایمان لائیں، اسلئے اہل ایمان کو ان سے آس توڑ لینی چاہئے۔ ان چار گروہوں میں یہ پہلے گروہ کا بیان ہے۔

اس پہلے گروہ کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ انھوں نے اللہ کا کلام پڑھا اور سنا اور سمجھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ حرف بحرف اسے مانتے، اس پر عمل کرتے، مگر انھوں نے اس تقاضے سے صرف نظر کر کے کلام اللہ ہی کو بدل ڈالا، تو جو قوم جان بوجھ کر اللہ کے کلام میں تصرف کی جرأت رکھتی ہے، اس سے کیا توقع کہ وہ ایمان لائے گی۔

واذا لقوا الذین آمنوا : یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہے، یہ اہل کتاب میں سے منافقین کا گروہ ہے، ان کا حال یہ ہے کہ جب اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اور ہماری کتابوں میں انھیں کے متعلق بشارت آئی ہے۔

واذا خلا : اس آیت میں تیسرے گروہ کا بیان ہے، تفصیل آگے آرہی ہے۔

رجع : خلا کی تفسیر میں رجع کا لفظ اس لئے لایا گیا ہے کہ اس کے صلہ کے طور پر الی آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خلا کا صلہ الی نہیں آتا تو ضرور ہے کہ اس میں رجع کے معنی کی تضمین ہے اور رجع کا صلہ الی آتا ہے۔

رؤسائہم الذین لم ینافقوا : یہی تیسرا گروہ ہے، جب منافقین اہل کتاب اپنے بڑوں کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ بڑے انھیں سرزنش کرتے ہیں تم لوگ عجیب بیوقوف ہو، آخر اپنے گھر کی بات مسلمانوں سے کیوں بتا دیتے ہو، وہ جب تمہارے منہ سے سن کر تمہاری بات معلوم کر لیں گے تو خدا کے پاس اسی بات کو لے کر تم سے جھگڑیں گے اور تم پر غالب آجائیں گے، ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نہ منافقین سے امید کی جاسکتی ہے کہ وہ ایمان لائیں گے نہ بڑے لوگوں کے متعلق سوچا جاسکتا ہے کہ یہ مانیں گے۔

واللام للصیرورة : لیحاجوکم میں لام تعلیلیہ نہیں ہے۔ بلکہ سابق فعل کا نتیجہ اور انجام بیان کرنے کیلئے ہے، اس لام کو لام صیرورت اور لام عاقبت کہتے ہیں، اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، یہاں اس کا تعلق اتحاد ثونہم سے ہے۔

اولا یعلمون : ضمیر جمع کا مرجع وہ بڑے لوگ ہیں، جو منافقین کی سرزنش کرتے ہیں۔

الاستفہام للتقریر : تقریر کے معنی مخاطب کو اقرار و اعتراف پر ابھارنا ہے، اس میں توبیح کا معنی بھی شامل

ہے۔

والواو الداخلة عليها للعطف: الداخلة لفظاً تو واو کی صفت ہے، لیکن معنی یہ استفہام کی صفت ہے، اور علیہا میں ہاء کی ضمیر واو کی جانب راجع ہے، یعنی یہ کلمہ لفظی اعتبار سے جس کی صفت بن رہا ہے، اس کیلئے نہیں ہے، اس صورت میں عبارت کا حق یہ تھا کہ الداخلة کے فاعل کو بطور ضمیر منفصل کے لانا چاہئے۔ عبارت یوں ہونی چاہئے والواو الداخلة هو علیہا للعطف، ترجمہ یہ ہوگا کہ اور وہ واو جس پر وہ..... یعنی استفہام..... داخل ہے، وہ عطف کیلئے ہے، یہ واو جب عطف کیلئے ہے تو اسے ہمزہ سے پہلے آنا چاہئے تھا، لیکن ہمزہ استفہام صدر کلام کے اقتضاء میں زیادہ قوی ہے، اس لئے وہ واو سے پہلے آ گیا، یہ جمہور کا مسلک ہے، علامہ زنجشیری نے لکھا ہے، ایسے موقع پر ہمزہ استفہام کے بعد فعل مقدر ہوتا ہے، عبارت اس طرح ہوگی ایلو مونہم علی التحذیر ولا یعلمون ان اللہ الخ

فیرعووا: ارعوی سے ماخوذ ہے باب افعال سے ہے، اس کے معنی باز آنے کے ہیں۔

ومنہم امیون عوام: یہ یہودیوں کا چوتھا گروہ ہے، یہ عوام کا طبقہ ہے، اس کے ایمان لانے کی توقع ہو سکتی تھی، مگر اس کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے پیشواؤں کی غلط سلط باتوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں، کہ ان کے خلاف سننے اور ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں، اس لئے ان سے بھی کوئی امید نہیں رکھی جاسکتی۔

لا یعلمون الكتاب الا امانی: اس گروہ کو کتاب اللہ کا علم تو ہے نہیں، بس انھیں جھوٹی اور بے اصل باتوں کا علم ہے۔ جو ان کے پیشواؤں نے گھڑ کر سنار کھی ہیں۔ الا کی تفسیر مفسر نے لکن سے کی ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہاں استثناء منقطع ہے، اور یہ طریقہ پوری تفسیر میں ہے کہ جہاں کہیں استثناء منقطع ہوتا ہے، اس کی تفسیر لکن سے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امانی نہ تو جنس کتاب میں داخل ہیں، نہ اس کے مدلول ہیں، اس لئے استثناء متصل ہونے کا امکان نہیں۔

امانی: امنیۃ کی جمع ہے، امنیۃ دل کی ان آرزوؤں کو کہتے ہیں جنہیں انسان اپنے وہم و خیال میں باندھا کرتا ہے، یہ آرزوئیں جھوٹی سچی ہر طرح کی ہوتی ہیں، اسی لئے مطلقاً جھوٹی باتوں کو بھی امانی کہتے ہیں اور مطلق تمنا کو بھی امانی کہتے ہیں، اس کے علاوہ آدمی جس چیز کو پڑھتا ہے، اسے بھی امنیۃ کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان عوام کا مبلغ اعتقاد وہ جھوٹی اور من گھڑت باتیں ہیں، جو انھیں تحریف کرنے والوں کی تقلید میں حاصل ہوئی ہیں، یا وہ خالی خولی وعدے ہیں جو انھوں نے بڑوں سے سن رکھے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے اور جہنم کا عذاب انھیں نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا بھی تو بس گنتی کے چند دن۔

وان ما: ان کی تفسیر میں ما لا کرا اشارہ کیا کہ یہ ان نافیہ ہے، ان کا استعمال نفی کے معنی میں عموماً وہیں ہوتا

ہے۔ جہاں اس کے بعد آتا ہے، کہیں کہیں اس کے بغیر بھی ہوتا ہے۔

فويل للذين: ويل گو کہ نکرہ ہے، مگر مبتدا ہے اور دعا یا بددعا کے موقع پر نکرہ کو مبتدا بنانا صحیح ہوتا ہے۔ جیسے سلام علیک

شدة عذاب: یہ ويل کا معنی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ويل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔

مختلفا من عندهم: بايديہم کی تفسیر میں اس لفظ کے لانے کا حاصل یہ ہے کہ وہ محلاً منصوب علی الحالیۃ ہے۔ ای یکتبون الكتاب

حال کونہ کائنا بايديہم: یہ کنایہ ہے اس کے من گھڑت ہونے سے

ليشتموا به ثمنا قليلاً: مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو علماء یہود کو اندیشہ ہوا کہ ان کی ریاست کا اب خاتمہ ہوا چاہتا ہے، انھوں نے اپنے عوام کو آپ پر ایمان لانے سے روکنے کی تدابیر سوچنی شروع کیں تاکہ ان کے نذرانے ان کو برابر ملتے رہیں، بالآخر انھوں نے حضور اکرم ﷺ کی صفات کو جو توریت میں مذکور تھیں بدل ڈالا اور ان کے بجائے دوسرے طرح کے صفات لکھ دیئے، پھر جب ان کے ان پڑھ معتقدین ان سے آپ کے بارے میں پوچھتے تو یہی بدلے ہوئے الفاظ پڑھ کر سنا دیتے اور وہ مطمئن ہو جاتے کہ جس نبی کی خبر ہماری کتاب میں دی گئی ہے وہ یہ نہیں ہیں۔

الرشا: الرشوة کی جمع ہے راپرتینوں حرکات جائز ہیں۔

ایاماً: یوم کی جمع ہے، اس کی اصل ایو اما ہے، جیسے قوم کی جمع اقوام، واوکویاء سے بدل کر یاء کا اس میں ادغام کر دیا۔
اتخذتم: اصل میں أأخذتم ہے، پہلا ہمزہ استفہام کا ہے اور دوسرا ہمزہ وصل ہے، ہمزہ استفہام کے بعد ہمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، اس لئے اسے حذف کر دیا۔

ام تقولون: مفسر نے ام کی تفسیر میں بل کا لفظ لا کر بتایا کہ یہ ام منقطعہ ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اتخذتم میں ہمزہ استفہام انکار کیلئے ہے، اور بل اضراب کیلئے ہے، یعنی پہلے تو بیخ تھی، ان کے اس خیال پر کہ گویا اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی عہد و پیمانہ ہے، کیونکہ ان کے قول لن تمسنا النار الا ایاماً معدودة سے یہی معلوم ہوتا ہے، پھر اس سے ایک دوسری تو بیخ کی طرف کلام منتقل ہوا کہ بلکہ تم لوگ اللہ کی طرف منسوب کر کے وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ ام منقطعہ کی تفسیر کبھی بل سے کی جاتی ہے، کبھی بل أ مع ہمزہ استفہام سے کی جاتی ہے، دو قول ہیں، مفسر نے پہلا قول اختیار کیا ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو کچھ ہمزہ استفہام کے تحت ہے، اس کی نفی اور جو کچھ ام کے تحت ہے، اس کا اثبات مقصود ہے، یعنی خدا سے تمہارا کوئی عہد نہیں ہے۔ البتہ تم لوگ اللہ کے اوپر غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔

بلی: نفی مقدم کے جواب کا لفظ ہے، اس سے سابق نفی کا انکار ہو کر ایجاب کا اثبات ہوتا ہے، خواہ اس نفی پر ہمزہ استفہام داخل ہو یا نہ ہو، مثلاً کسی نے کہا ما قام زید، دوسرے نے کہا کہ بلی یعنی بلی قام زید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الست بربکم قالوا بلی یعنی انت ربنا اس آیت میں بلی جواب ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودة، کا اس لئے مفسر نے فرمایا بلی تمسکم۔

وتخلدون فیہا: یہاں خلود کا ذکر مفسر نے ان کے دعویٰ الا ایاما معدودة کے مقابلے میں کیا ہے۔

من کسب سیئة: سیئة اصل میں سیوئة ہے، واوکویاء سے بدل کر یاء کا اس میں ادغام کر دیا، جیسے سید میں تعلیل ہوئی ہے۔ سیئة سے شرک مراد ہے، اس کا قرینہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون ہے، خلود فی النار صرف کافر و مشرک کیلئے ہے۔

احاطت به خطیئته: استولت علیہ واحدقت به من کل جانب: اس کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے اگر انسان شرک بھی نہ کرے لیکن گناہ اس کے حد سے گزر جائیں اور وہ گناہوں میں ہر طرف سے گھر جائے تو اندیشہ ہے کہ اس کا نور ایمان بجھ جائے اور وہ اس کے نتیجے میں کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مرے۔

روعی فیہ معنی من: من لفظاً واحد ہے مگر معنی جمع پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، یہاں معنی کی رعایت میں جمع کے صیغے لائے گئے ہیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

بنی اسرائیل کی بد اعمالیاں اور ان کے مزاج کے فساد کا ذکر کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم ان سے یہ امید نہ رکھو کہ تمہاری اطاعت کریں گے، اور ایمان لائیں گے، ان کے جرائم نے انہیں اس لائق نہیں چھوڑا ہے کہ کسی چیز کی ان سے توقع رکھی جائے اول تو یہ لوگ جان بوجھ کر کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں، دوسرے ان میں سے بعض لوگ محض نفاق اور کذب کی بنیاد پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، تیسرے ان کے بڑے علماء نبی کریم ﷺ کی حقانیت کو خوب جانتے ہیں، لیکن توریت میں جو کچھ آپ کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اسے چھپانے کی تاکید کرتے ہیں، چوتھے عوام کا طبقہ جو اپنے علماء اور احبار کے چنگل میں بری طرح پھنسا ہوا ہے ان میں سے کوئی گروہ ایمان لانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور یہ کتنی بری بات ہے کہ آدمی اپنی طرف سے ایک بات گھڑے اور اسے خدا کے ذمے لگا دے، اس سے بڑھ کر جرات اور کیا ہو سکتی ہے، یہ تو سخت عذاب کے مستحق ہیں، اور یہ لوگ اس ڈھٹائی کی کمائی کھاتے ہیں، مزید جرات یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر کوئی گیا بھی تو بس چند روز کے لئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے۔ یہ بات نہیں یہ اللہ کے اوپر ایک اور افتراء ہے، ان کی یہ بات غلط ہے۔ جو بھی شرک اور انکار کی راہ اختیار کرے

گا، خواہ وہ کوئی ہو اس کا ہمیشہ کا ٹھکانا جہنم ہے، اور جو کوئی ایمان لائیگا، عمل صالح کا پابند ہوگا وہ اہل جنت ہے اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔



﴿وَإِذْ كَرَّمْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي التَّوْرَةِ وَقَلْنَا ﴿لَا تَعْبُدُونَ﴾ بِالْتَاءِ
وَالْيَاءِ ﴿إِلَّا اللَّهَ﴾ خَبْرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَقَرِئَ لَا تَعْبُدُوا ﴿وَوَاحِسِنَا﴾ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴿
بِرَأْسِ الْقُرْبَى﴾ الْقَرَابَةِ عَطْفٌ عَلَى الْوَالِدِينَ ﴿وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ ﴿
قَوْلًا حَسَنًا﴾ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالصَّدَقِ فِي شَأْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى
وَالرَّفَقِ بِهِمْ وَفِي قِرَاءَةِ بَضْمِ الْحَاءِ وَسُكُونِ السِّينِ مَصْدَرٌ وَصَفٌ بِهِ مَبَالِغَةٌ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ فَقَبِلْتُمْ ذَلِكَ ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ﴾ أَعْرَضْتُمْ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ فِيهِ التَّفَاتُ عَنِ الْغَيْبَةِ
وَالْمَرَادِ آبَاؤُهُمْ ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ عَنْهُ كَأَبَائِكُمْ ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ﴿
وَقَلْنَا ﴿لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ كُفْرٍ﴾ تَرِيقُونَهَا بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ
دِيَارِكُمْ﴾ لَا يُخْرِجُ بَعْضَكُمْ بَعْضًا مِنْ دَارِهِ ﴿ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ﴾ قَبِلْتُمْ ذَلِكَ الْمِيثَاقَ ﴿وَأَنْتُمْ
تَشْهَدُونَ﴾ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ﴾ يَا هَوْلَاءُ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴿يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا﴾ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهِرُونَ ﴿فِيهِ ادْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الظَّاءِ وَفِي
قِرَاءَةِ بِالتَّخْفِيفِ عَلَى حَذْفِهَا تَتَعَاوَنُونَ ﴿عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ﴾ الْمَعْصِيَةِ ﴿وَالْعُدْوَانَ﴾ الظُّلْمِ
﴿وَإِنْ يَأْتَوْكُمْ أُسْرَى﴾ وَفِي قِرَاءَةِ أُسْرَى ﴿تُفْدُوهُمْ﴾ وَفِي قِرَاءَةِ تُفْدُوهُمْ تَنْقُدُوهُمْ مِنْ
الْأَسْرِ بِالْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ مِمَّا عَهَدَ إِلَيْهِمْ ﴿وَهُوَ﴾ أَيُّ الشَّيْءِ ﴿مُحْرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ﴾
مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ وَتُخْرِجُونَ وَالْجُمْلَةُ بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ أَيُّ كَمَا حَرَّمَ تَرْكُ الْفِدَاءِ وَكَانَتْ قَرِيبَةً
حَالِفُوا الْأَوْسَ وَالنَّضِيرَ الْخَزْرَجَ فَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ يُقَاتِلُ مَعَ حَلْفَائِهِ وَيُخْرِبُ دِيَارَهُمْ
وَيُخْرِجُهُمْ فَإِذَا أُسْرُوا فَدَوْهُمْ وَكَانُوا إِذَا سَأَلُوا لَمْ تَقَاتِلُوهُمْ وَتَفْدُونَهُمْ قَالُوا أَمْرًا بِالْفِدَاءِ
فَيُقَالُ لَمْ تَقَاتِلُوهُمْ فَيَقُولُونَ حَيَاءٌ أَنْ يَسْتَدْلَ حَلْفَاؤُنَا قَالَ تَعَالَى ﴿أَفْتَوْمُنُونَ بَعْضُ الْكُتُبِ﴾
وَهُوَ الْفِدَاءُ ﴿وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ وَهُوَ تَرْكُ الْقَتْلِ وَالْإِخْرَاجِ وَالْمُظَاهَرَةِ ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ
يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ﴾ هَوَانٌ وَذُلٌّ ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وَقَدْ خَرُوا بِقَتْلِ قَرِيبَةٍ وَنَفْسِ
النَّضِيرِ إِلَى الشَّامِ وَضَرْبِ الْجَزْيَةِ ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ بَانَ آثَرُهَا عَلَيْهَا

﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ يمنعون منه۔

ترجمہ

(اور) یاد کرو (جب ہم نے) توریت میں (بنی اسرائیل سے عہد لیا) اور ہم نے کہا کہ (اللہ کے سوا، کسی کی عبادت نہیں کرو گے) تعبدون تاء سے بھی اور یاء سے بھی، یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن نبی کے معنی میں ہے اور لا تعبدوا بھی پڑھا گیا ہے (اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ) یہ عطف ہے، والدین پر (اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں سے اچھی) بات (کہو) یعنی امر بالمعروف، نہی عن المنکر، محمد ﷺ کے بارے میں سچی بات، اور لوگوں کے ساتھ نرم کلام، اور ایک قرآۃ میں حسنأحاء کے ضمہ اور سین کے سکون کے ساتھ، مصدر ہے، مصدر کو قول کی صفت لانا بطور مبالغہ کے ہے۔ (اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو) تو تم نے اس عہد کو قبول کیا (پھر تم نے روگردانی کی) یعنی اسے پورا کرنے سے گریز کیا، اس میں غیبت سے التفات ہے اور مراد ان کے آباء و اجداد ہیں (مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگ، اور تم) بھی اس سے اپنے آباء و اجداد کی طرح (گریز کرنے والے ہو، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا) اور کہا (کہ تم) ایک دوسرے کو باہم قتل کر کے (اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے) یعنی تم ایک دوسرے کو اس کے گھر سے باہر نہیں کرو گے (پھر تم نے اقرار کیا) اور اس عہد کو قبول کیا (اور تم لوگ) اپنے اوپر (گواہ ہو پھر تمہیں) اے (لوگو! اپنے آپ کو قتل کرتے ہو) یعنی ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو (اور اپنے ایک گروہ کو اس کے گھر سے نکالتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور سرکشی سے باہم مدد کرتے ہو) تظاہرون میں اصل میں تا کا طاء میں ادغام ہے اور ایک قرأت میں تظاہرون طاء کی تخفیف کے ساتھ ہے اور ایک تاء محذوف ہے (اور اگر تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں) اور ایک قرأت میں اسری ہے (تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو) اور ایک قرأت میں تُفدُوهُمْ ہے، یعنی مال وغیرہ کے ذریعے، انہیں قید سے رہا کر لیتے ہو، اور یہ چیز بھی اس میں داخل ہے، جس کا ان سے عہد لیا گیا تھا (اور وہ) ضمیر شان ہے (تم پر ان کا نکالنا حرام کیا ہوا ہے) و هو محرم کا جملہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد و تخرجون سے متصل ہے اور درمیان میں جملہ معترضہ ہے، جیسے ترک فدیہ حرام ہے، ایسے ہی نکالنا بھی حرام ہے، قریظہ نے بنی اوس سے حمایت و نصرت کا وعدہ کر رکھا تھا اور بنی نضیر نے خزرج کے ساتھ توہر فریق اپنے حلیف کے ساتھ مل کر دوسرے سے لڑتا تھا، ان کے گھروں کو برباد کرتا تھا، اور انہیں نکالتا تھا۔ پھر جب وہ قید ہو کر آتے تھے، تو یہی لوگ فدیہ دے کر انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ ان سے لڑتے کیوں ہو اور فدیہ دے کر چھڑاتے کیوں ہو تو وہ کہتے ہیں ہمیں فدیہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان سے کہا جاتا کہ پھر لڑتے کیوں ہو، وہ کہتے ہیں کہ اس شرم سے کہ ہمارا حلیف قبیلہ کمزور نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (کیا تم کتاب

کے ایک جز پر) اور وہ فدیہ دینے کا حکم ہے (ایمان لاتے ہو اور دوسرے جز) اور وہ ترک قتل و اخراج و تعاون (ہے) کے منکر ہو (تو جو تم میں سے ایسا کرے، اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں بجز ذلت و رسوائی کے اور کچھ نہیں ہے۔) چنانچہ وہ اس طرح رسوا ہوئے کہ قریظہ کا پورا قبیلہ قتل کر دیا گیا اور بنی نضیر کو شام کی جانب جلا وطن کر دیا گیا، اور ان پر بالآخر جزیہ مسلط ہوا۔ (اور قیامت کے دن سخت عذاب کی جانب انھیں لوٹایا جائیگا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں) (یعملون یا اور تاء سے ہے) (یہی وہ لوگ ہیں، جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدا) یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی (تو ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائیگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی) یعنی اس سے بچایا نہیں جائیگا۔

﴿ تشریحات ﴾

وقلنا لا تعبدون : واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل في اخذ ميثاق قول کو مقتضی ہے، کیونکہ عہد و پیمانہ قول ہی کے ذریعے ہوتا ہے اس لئے مفسر نے یہاں قلنا ظاہر کر دیا ہے۔

خبر بمعى النهى : لا تعبدون کا صیغہ تو خبر کا ہے۔ لیکن معنی میں نہیں کے ہے۔ جب منہی عنہ کی اہمیت کا اظہار مقصود ہو تو اس وقت نفی، نہی سے زیادہ بلوغ ہوتی ہے، گویا جس کام سے منع کیا گیا ہے، مخاطب نے فوراً اس کا امتثال کر لیا ہے، اور اس نے وہ کام نہیں کیا ہے۔

وقرى لا تعبدوا : مفسر علام کا عمومی دستور یہ ہے کہ جب قرآۃ سبعہ کو بیان کرنا ہوتا ہے توفی قرآۃ کہتے ہیں، اور کسی شاذ قرأت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو قری سے تعبیر کرتے ہیں سات قرأتیں تو رسول اللہ ﷺ سے بطور تواتر کے منقول ہیں، ان کے علاوہ بھی بعض قرأتیں ہیں، جنہیں ”قرآۃ شاذة“ کہتے ہیں، تاہم کہیں کہیں اس عمومی دستور کے خلاف بھی ہے، موقع پر اسے ذکر کر دیا جائے گا۔

احسنوا بالوالدين : بالوالدين سے پہلے احسنوا مقرر ہے اور اس کا قرینہ بعد میں آیا ہوا لفظ احساناً ہے۔

قولا حسناً : مفسر نے جس قرأت کی بنیاد پر تفسیر کی ہے وہ حسناً صفت مشبہ ہے، یعنی قولوا للناس حسناً، اے قولا حسناً

وفى قرآۃ بضم الحاء وسكون السين : ایک قرآۃ میں حسناً ہے، جو مصدر ہے، قول کی صفت میں مصدر کو لانا معنی صحیح نہیں ہوتا، لیکن جب مبالغہ اور اہتمام مقصود ہوتا ہے تو مصدر کو بطور صفت لانا بہتر ہوتا ہے۔ جیسے زید عدل یعنی زید عدل کے ساتھ ایسا متصف ہے کہ گویا وہی بذات خود انصاف ہے۔

فقبلتم ذلك : مضمون کلام سے قبول ميثاق کا معاملہ واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے، اس لئے مفسر نے اسے ذکر

کر دیا اور بتا دیا کہ تم تولیتم کا عطف اسی قبلتم پر ہے، جو کہ یہاں مقدر ہے۔

فیه التفات عن الغیبة: اس میں غیبت سے خطاب کی طرف التفات ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا ذکر غائب کے صیغہ سے ہوا تھا لیکن التفات اس صورت میں ہوگا۔ جب لا یعبدون بالیاء کی قرأت ہو، لا تعبدون کی قرأت کی صورت میں التفات نہ ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لا تعبدون کا خطاب قدام بنی اسرائیل سے ہو، اور تم تولیتم کا خطاب موجودہ یہودیوں سے ہو، تب دونوں قرأتوں پر التفات ہو سکتا ہے۔

التفات کا مطلب ہے کہ کلام کا اسلوب بدلنا، تاکہ سننے والے کو نشاط تازہ حاصل ہو۔

وانتم معرضون عنہ کآبائکم: کآبائکم کا لفظ بطور تشریح کے تحریر کر کے مفسر نے تشبیہ کی ہے کہ یہ جملہ معطوفہ ہے، حالیہ نہیں ہے۔ عطف میں مغایرت ہوتی ہے، اور حال ذوالحال کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ تم تولیتم کا تعلق ان کے اسلاف سے ہے، اور انتم معرضون کا تعلق بروقت موجود یہود سے ہے۔

وقلنا لا تسفکون الخ: اس قلنا کی توجیہ قریب ہی گزر چکی ہے۔

تریقونہا بقتل بعضکم بعضا: لا تسفکون دماء کم کا معنی ہے کہ اپنا خون نہ بہاؤ گے، اس سے مراد خودکشی نہیں ہے۔ بلکہ تم میں کا کوئی دوسرے کا خون نہ بہائے، کیونکہ جس نے دوسروں کو قتل کیا، اس نے گویا خود اپنی جان کو قتل کیا، کیونکہ قصاص کا حکم حتمی ہے، اس طرح دوسرے کو قتل کر کے آدمی خود اپنے کو قتل کرتا ہے۔ اسی کے قریب قریب توجیہ لا تخرجون انفسکم من دیار کم میں بھی ہے۔

ثم انتم یا ہولاء تقتلون: ہولاء سے پہلے یا حرف نداء کو مقدر مان کر مفسر نے تشبیہ فرمائی کہ انتم مبتدأ ہے اور تقتلون کی خبر ہے اور درمیان میں ہولاء منادی ہے اور یہ جملہ معترضہ ہے۔

فیه ادغام التاء: تظاہرون اصل میں تظاہرون ہے، اس تاء تفاعل کو طاء سے بدل کر طاء میں ادغام کر دیا۔
وفی قراءۃ بالتخفیف علی حذفها: ایک قرأت میں تظاہرون ہے، اس میں ایک تاء کو حذف کر دیا ہے۔

وان یاتوکم اساری: یہی لوگ جن کو تم ان کے گھروں سے نکالتے ہو، یہی لوگ جب تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں یعنی حلیف لوگوں کی قید میں آتے ہیں تو تم ان کا فدیہ دے کر اپنے حلیفوں کی قید سے چھڑاتے ہو۔
وفی قراءۃ اسری: ایک قرأت میں اسری ہے، یہ دونوں لفظ اسیر کی جمع ہے۔

تفادوہم وفی قراءۃ تَفَادُوہُمْ: فدیہ دے کے انھیں چھڑاتے ہو، باب افعال اور باب مفاعلت دونوں سے ہے۔

وان یاتوکم اساری تفادوہم میں پانچ قرأتیں ہیں:

- (۱) اساری بغیر امالہ کے اور تفادوہم
- (۲) اساری مع الامالہ کے اور تفادوہم
- (۳) اساری مع الامالہ اور تفدوہم
- (۴) اساری بغیر امالہ تفدوہم
- (۵) اسری مع الامالہ اور تفدوہم

وہو ای الشان : ہو ضمیر شان ہے، اس کا مرجع ماقبل میں نہیں ہوتا، بلکہ مابعد کا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، یہ ضمیر مذکر ہو تو اسے ضمیر شان کہتے ہیں اور مونث ہو تو ضمیر قصہ کہتے ہیں، ضمیر شان کی پانچ خصوصیات ہیں، اور پانچوں خلاف قیاس ہیں:

- (۱) اس کا مرجع اور مفسر بعد میں ہوتا ہے۔
- (۲) اس کا مفسر جملہ ہو سکتا ہے، مفرد نہیں۔
- (۳) اس کا کوئی تابع نہیں آسکتا، نہ تاکید، نہ عطف، نہ بدل
- (۴) اس میں عامل ابتداء اور نواسخ جملہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
- (۵) یہ ضمیر ہمیشہ واحد ہوتی ہے۔

محرم علیکم اخراجہم : محرم خبر مقدم ہے ہے اور اخراجہم مبتدا موخر ہے، اور یہ پورا جملہ ضمیر شان کی خبر ہے، اور چونکہ یہ جملہ جو ضمیر شان کی خبر ہے، اس کی تفسیر اور اس کا عین ہے، اس لئے اس میں کسی عائد کی ضرورت نہیں، ورنہ خبر جب جملہ ہوتی ہے تو اس میں ایک عائد ہونا چاہئے جو مبتدا کی طرف راجع ہو۔

متصل بقولہ وتخرجون : وهو محرم علیکم اخراجہم کا جملہ وتخرجون فریقا منکم من دیار کم سے مربوط ہے، یعنی اس کے فاعل یا مفعول یا دونوں کا حال ہے۔

والجملة بينهما اعتراض : یعنی وان یاتوکم اسری تفادوہم، جملہ معطوف علیہ تظاہرون الخ اور جملہ معطوف وهو محرم الخ کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔

امے کما حرم ترک الفداء : تفادوہم کے جملہ سے معلوم ہوا کہ ترک فدیہ حرام ہے، تو جیسے ترک فدیہ حرام ہے، ایسے ہی اپنے آدمیوں کو ان کے گھروں سے نکالنا اور ایک دوسرے کے خلاف تعاون کرنا بھی تو حرام ہے۔

وكانت قريظة حالفوا الاوس : - مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے، بنی نضیر اور بنی قریظہ، اسی طرح مشرکین کے دو قبیلے تھے، خزرج اور اوس، یہودیوں کا مزاج ہمیشہ سے لڑائی کرنے اور منافرت پھیلانے کا

تھا، اوس اور خزرج کے درمیان مستقل لڑائی ٹھنی رہتی تھی، قریظہ والے اوس کا ساتھ دیتے، اور بنی نضیر خزرج کے ساتھ ہوتے، اسی طرح اوس و خزرج کی باہمی لڑائیوں میں بنی قریظہ اور بنی نضیر بھی ٹکراتے، ایک دوسرے کو قتل کرتے، ان کے گھروں سے نکالتے، گرفتار کرتے اور گھروں کو ویران و برباد کرتے، لیکن بنی نضیر کا کوئی آدمی اوس کی قید میں آتا تو خود قریظہ والے فدیہ دے کر اسے آزاد کر دیتے، یا قریظہ کا کوئی آدمی خزرج والوں کی قید میں آتا تو بنی نضیر والے فدیہ دے کر اسے چھڑا دیتے، یہ عجیب چال تھی۔ جب ان سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تو کہتے کہ ہمیں فدیہ دینے کا حکم ہے، پھر پوچھا جاتا کہ تب لڑتے کیوں ہو؟ اس پر وہ کہتے کہ ہم تو اس شرم کی وجہ سے لڑتے ہیں کہ ہمارا دوست قبیلہ کمزور نہ ہو جائے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افتمونون ببعض الكتاب الخ یعنی کتاب کے ایک حکم فدیہ کو تو مانتے ہو، اور دوسرے احکام ترک قتل وغیرہ کو نہیں مانتے۔

وقد خزوا:۔ باب سمع سے ہے، اصل میں خزیوا ہے یا کی حرکت ماقبل کو دے کر یا کو حذف کر دیا، خزوا ہو گیا۔

بقتل قریظہ:۔ بنی قریظہ سے رسول اللہ ﷺ نے معاہدہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، مگر جب بنی نضیر کے بھڑکانے سے اہل مکہ نے عرب کے بیشتر مشرک قبائل کو متحد کر کے ۴ھ میں یکبارگی شدید حملہ کر دیا اور اس حملہ کی شدت کے باعث رسول اللہ ﷺ نے میدان میں نکل کر کفار کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ کھلے میدان کی جانب طویل و عریض خندق کھود کر آپ نے مدینہ کی حفاظت کی ایک نئی تدبیر فرمائی، خندق کا یہ معرکہ اتنا سخت تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ ”إِذْ جَاءُ وَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا“۔ جب تمہارے دشمن اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے آئے اور نگاہیں کج ہو گئیں اور دل اچھل کر حلق تک آگئے اور تم طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا ہو گئے، ایسے سخت مرحلے میں بنی قریظہ نے شدید غداری کی، باہری دشمن تو خندق کی وجہ سے مدینہ کی سر زمین پر قدم نہیں رکھ سکا، لیکن اندر کا دشمن سانپ بن کر ڈسنے کی تیاری کر رہا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت، شدید ٹھنڈک اور طوفانی ہوا کی وجہ سے دشمنوں کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے، ورنہ جو سازش بنی قریظہ کے ساتھ مل کر بنائی گئی تھی بظاہر نظر اس سے عہدہ برآ ہونا مشکل تھا۔

آندھیوں کے تیز جھکڑوں نے قبائل عرب کو منتشر کر کے اس سازش کو ناکام بنا دیا، اس کے بعد بنی قریظہ کا فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ قبیلہ اوس ہی کے ایک سردار صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو باندی بنا لیا جائے، چنانچہ اس غداری کی پاداش میں سات سو قریظی ایک ہی دن میں ہلاک کر دیئے گئے۔

بنی نضیر نے جنگ احد کے بعد شرارت کی تھی، انھیں اسی وقت مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، وہ ملک شام چلے گئے، نضیر اور قریظہ کے کچھ لوگ خیبر میں سکونت رکھتے تھے، بعد میں ان پر جزیہ مسلط ہوا، بہر حال ان کی رسوائی کا دنیا میں پوری طرح انتظام ہو گیا، اور آخرت میں شدید عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس عہد و میثاق کا ذکر فرمایا ہے جس میں سے کچھ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اوفو بعہدی اوف بعہدکم میں فرمایا ہے، یہ عہد حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں قبیل کا تھا، حقوق اللہ میں اللہ کی وحدانیت و عبادت نماز اور زکوٰۃ کا عہد تھا، اور حقوق العباد میں والدین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا عہد تھا نیز لوگوں کے ساتھ حسن کلام کی تلقین تھی، نیز یہ کہ آپس میں خونریزی نہ کریں، ظلم و عداوت میں تعاون نہ کریں، قیدیوں کا فدیہ دیں، اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالیں اور یہ سب باتیں وہ ہیں، جنہیں تمام یہودی بخوبی جانتے ہیں، لیکن اس عہد کی پابندی کا حال یہ ہے کہ آپس میں خونریزی بھی کرتے ہیں، ایک دوسروں کو گھروں سے نکالتے بھی ہیں، قید بھی کرتے ہیں، ظلم و عداوت میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، بس صرف فدیہ کے حکم پر عمل کر لیا کرتے ہیں، یعنی کچھ احکام پر عمل کرتے ہیں، اور اور کچھ پر نہیں، اس کا بدلہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگوں کی رسوائی ہو، اور آخرت میں شدید عذاب ہو۔



﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ التوراة ﴿وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ﴾ ای اتبعناہم رسولاً فی اثر رسول ﴿وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ﴾ المعجزات کا حیاۃ الموتی و ابراء الاکمه و الابرص ﴿وَآيِدْنَهُ﴾ قویناہ ﴿بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ من اضافة الموصوف الی الصفة ای الروح المقدسة جبرئیل لطہارتہ یسیر معہ حیث سار فلم تستقیموا ﴿افْکَلَّمَا جَاءَ کُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰی﴾ تحب ﴿انفسکم﴾ من الحق ﴿استکبرتم﴾ تکبرتم عن اتباعه جواب کلمہ و هو محل الاستفہام والمراد به التوبیخ ﴿ففریقاً﴾ منهم ﴿کذبتم﴾ کعیسیٰ ﴿و فریقاً تقتلون﴾ المضارع لحکایة الحال الماضية ای قتلتم کز کریا و یحییٰ ﴿وقالوا﴾ للنبی استهزاء ﴿قلوبنا غلّف﴾ جمع اغلف ای مغشاة باغطية فلا تعی ما تقول قال تعالیٰ ﴿بل﴾ لاضراب ﴿لعنهم اللہ﴾ ابعدهم عن رحمته و خذلهم عن القبول ﴿بکفرهم﴾ و لیس عدم قبولهم لخلل فی قلوبهم ﴿فقلیلاً ما یؤمنون﴾ ما زائدة لتاکید القلة ای ایمانہم قلیل جداً ﴿ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لِمَا مَعَهُمْ﴾ من التوراة هو القرآن ﴿وکانوا من﴾

قَبْلُ ﴿ قَبْلَ مَجِيئِهِ ﴾ يَسْتَفْتِحُونَ ﴿ يَسْتَنْصِرُونَ ﴾ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ انصُرْنَا عَلَيْهِم بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوثِ آخِرِ الزَّمَانِ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا ﴾ مِنَ الْحَقِّ وَهُوَ بَعَثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ كَفَرُوا بِهِ ﴾ حَسَدًا وَخُوفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ وَجَوَابَ لَمَّا الْوَلِيُّ دَلَّ عَلَيْهِ جَوَابَ الثَّانِيَةِ ﴿ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِسْمَا اشْتَرَوْا ﴾ باعوا ﴿ بِهِ أَنْفُسَهُمْ ﴾ اى حظها من الثواب وما نكرة بمعنى شيئاً تمييز لفاعل بئس والمخصوص بالذم ﴿ أَنْ يَكْفُرُوا ﴾ اى كفرهم ﴿ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿ بَغِيًّا ﴾ مَفْعُولٌ لَهُ لِيَكْفُرُوا اى حسداً عَلَى ﴿ أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ ﴾ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ ﴿ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ الْوَحْيِ ﴿ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ لِلرَّسَالَةِ ﴿ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُ وَآ ﴾ رَجَعُوا ﴿ بَغْضَبٍ ﴾ مِنَ اللَّهِ بِكُفْرِهِمْ بِمَا أَنْزَلَ وَالتَّكْثِيرُ لِلتَّعْظِيمِ ﴿ عَلَى غَضَبٍ ﴾ اسْتَحْقَوَهُ مِنْ قَبْلِ بَتَضْيِيعِ التَّوْرَةِ وَالكُفْرِ بِعِيسَى ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ ذُو إِهَانَةٍ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ الْقُرْآنَ وَغَيْرِهِ ﴿ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا ﴾ اى التَّوْرَةَ قَالَ تَعَالَى ﴿ وَيَكْفُرُونَ ﴾ الْوَاوُ لِلْحَالِ ﴿ بِمَا وَرَاءَهُ ﴾ سِوَاهُ أَوْ بَعْدَهُ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿ وَهُوَ الْحَقُّ ﴾ حَالِ ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ حَالِ ثَانِيَةِ مَوْكِدَةٍ ﴿ لَمَّا مَعَهُمْ قُلٌ ﴾ لَهُمْ ﴿ فَلِمَ تَقْتُلُونَ ﴾ اى قَتَلْتُمْ ﴿ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ بِالتَّوْرَةِ وَقَدْ نَهَيْتُمْ فِيهَا عَنْ قَتْلِهِمْ وَالْخَطَابُ لِلْمُوجُودِينَ فِي زَمَنِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا فَعَلَ آبَاؤُهُمْ لِرِضَاهُمْ بِهِ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ اى الْمَعْجَزَاتِ كَالْعَصَا وَالْيَدِ وَفَلَقِ الْبَحْرِ ﴿ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ ﴾ الْهَاءُ ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ اى بَعْدَ ذَهَابِهِ إِلَى الْمِيقَاتِ ﴿ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴾ بِاتِّخَاذِهِ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ﴾ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَةِ ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ ﴾ الْجَبَلَ حِينَ امْتَنَعْتُمْ مِنْ قَبُولِهَا لِيَسْقُطَ عَلَيْكُمْ وَقَلْنَا ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ بِجِدِّ وَاجْتِهَادٍ ﴿ وَاسْمَعُوا ﴾ مَا تَأْمُرُونَ بِهِ سَمَاعِ قَبُولٍ ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا ﴾ قَوْلَكَ ﴿ وَعَصَيْنَا ﴾ أَمْرَكَ ﴿ وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ﴾ اى خَالَطَ حُبَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا يَخَالَطُ الشَّرَابُ ﴿ بِكُفْرِهِمْ قُلٌ ﴾ لَهُمْ ﴿ بِسْمَا ﴾ شَيْئًا ﴿ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ ﴾ بِالتَّوْرَةِ عِبَادَةَ الْعِجْلِ ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ بِهَا كَمَا زَعَمْتُمْ الْمَعْنَى لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ لِأَنَّ الْإِيْمَانَ لَا يَأْمُرُ بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ وَالْمَرَادُ آبَاؤُهُمْ اى فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ بِالتَّوْرَةِ وَقَدْ كَذَبْتُمْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِيْمَانَ بِهَا لَا يَأْمُرُ بِتَكْذِيبِهِ ﴿ قُلٌ ﴾ لَهُمْ ﴿ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ ﴾ اى الْجَنَّةُ ﴿ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً ﴾ خَاصَةً ﴿ مِنْ دُونِ النَّاسِ ﴾ كَمَا زَعَمْتُمْ ﴿ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ تَعَلَّقَ بِتَمَنِّيهِ الشَّرْطَانَ عَلَى أَنْ الْوَلِيُّ قَيْدٌ فِي الثَّانِيَةِ اى أَنْ صَدَقْتُمْ فِي زَعْمِكُمْ أَنَّهَا

لکم ومن كانت له يوثرها والموصل اليها الموت فتمنوه ﴿ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ
 أَيْدِيهِمْ ﴾ من كفرهم بالنبي ﷺ المستلزم لكذبهم ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ الكافرين
 فيجازيهم ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ ﴾ لام قسم ﴿ أَحْرَصَ النَّاسُ عَلَى حَيَاةٍ وَ﴿ أَحْرَصَ ﴾ مِنَ الَّذِينَ
 أَشْرَكُوا ﴿ المنكرين للبعث عليها لعلمهم بان مصيرهم الى النار دون المشركين لانكارهم
 له ﴿ يَوَدُّ ﴾ يتمنى ﴿ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ لو مصدرية بمعنى ان وهى بصلتها فى تاويل
 مصدر مفعول يود ﴿ وَمَا هُوَ ﴾ اى احدهم ﴿ بِمُزْحَزِحَةٍ ﴾ مبعده ﴿ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ النار ﴿ أَنْ
 يُعَمَّرَ ﴾ فاعل مزحزحه اى تعميره ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ بالياء و بالتاء فيجازيهم۔

ترجمہ

(اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب) یعنی توریت (دی) اور ان کے بعد ہم نے رسولوں کو) ایک کے بعد
 دوسرے کو (بھیجا، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل) یعنی معجزات (دئے) جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد
 نابینا کو اور مبروص کو شفا دینا (اور ہم نے ان کی تائید کی) انھیں تقویت پہونچائی (روح القدس سے) یہ موصوف کی
 صفت کی طرف اضافت کی قبیل سے ہے، یعنی الروح المقدسة، یہ لقب حضرت جبرئیل علیہ السلام کا ہے، کیونکہ
 وہ انتہائی طاہر و مقدس ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، جہاں بھی وہ جاتے، لیکن تم تب بھی
 درست نہ ہوئے (تو کیا جب کوئی رسول تمہارے پاس ایسی چیز لے کر آیا، جس کو تمہارا نفس نہ چاہتا تھا) یعنی حق
 و ہدایت (تو تم نے) اس کے اتباع سے (تکبر کی راہ اختیار کی) یہ کلمہ کا جواب ہے، اور استفہام کا محل ہے، اور
 مراد اس سے توبیح ہے (پس) ان میں سے (ایک فریق کو تم نے جھٹلایا) جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام (اور ایک فریق کو
 قتل کرتے ہو) یہ مضارع حال ماضیہ کی حکایت کیلئے ہے، یعنی تم نے قتل کیا جیسے حضرت زکریا و یحییٰ علیہم السلام
 (اور انھوں نے) نبی سے بطور استہزاء کے (کہا کہ ہمارے دل بند ہیں) غلف، اغلف کی جمع ہے، یعنی ڈھکن
 میں بند ہیں، تو جو کچھ تم کہتے ہو، اسے اپنے اندر وہ محفوظ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا (بلکہ) بل اضراب کیلئے
 ہے (اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے) یعنی اپنی رحمت سے انھیں دور کر دیا، اور قبول کرنے سے
 انھیں محروم کر دیا، اور ان کا یہ قبول نہ کرنا، ان کے دل میں کسی خلل کی وجہ سے نہیں ہے (پس یہ بہت کم ایمان لاتے
 ہیں) مازائد ہے اور قلت کی تاکید کیلئے، یعنی ان کا ایمان بہت قلیل ہے (اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے
 وہ کتاب آگئی، جو اس کتاب) یعنی توریت (کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے) اور وہ قرآن ہے (اور
 اس کے) آنے سے (پہلے وہ کافروں پر فتح و نصرت) چاہا کرتے تھے (کہتے تھے کہ ہماری ان کے اوپر مدد
 فرمائیے، اس نبی کے ذریعے جو آخر زمانے میں مبعوث ہوں گے) (پس جب ان کے پاس وہ) حق (آگیا جس کو

انہوں نے پہچان بھی لیا) یعنی نبی ﷺ کی بعثت ہوگئی (تو) انہوں نے حسد کی وجہ سے، اور زوال ریاست کے خوف کی وجہ سے (اس کا انکار کر دیا) اور پہلے لما کے جواب پر دوسرے لما کا جواب دلالت کرتا ہے (پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، بری ہے وہ چیز جس کے عوض میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے) یعنی اپنے حصے کے ثواب کو، اور ما نکرہ ہے، شیئا کے معنی میں، بس کے فاعل کی تیز ہے، اور مخصوص بالذم ان یکفروا الخ ہے (یہ کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب) یعنی قرآن (کا، اس حسد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنے فضل) یعنی وحی (کا کچھ حصہ نازل کرتا ہے) ان یکفروا بمعنی کفر ہم، بغیاً، لیکفروا کا مفعول لہ ہے، بمعنی حسداً، یزئل تخفیف اور تشدید دونوں طرح ہے، پس وہ لوگ ما انزل کے انکار کی وجہ سے (اللہ کے غضب کو لیکر لوٹے، جو کہ ایک اور غضب کے اوپر ہے) جس کے وہ توریت کے ضائع کرنے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، اس سے پہلے مستحق ہو چکے ہیں، غضب کی تنکیر تعظیم کے واسطے ہے (اور کافروں کیلئے رسوا کن عذاب ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس) قرآن وغیرہ پر (ایمان لاؤ جسے اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس) توریت (پر ایمان رکھتے ہیں، جو ہم پر اتاری گئی) اللہ تعالیٰ نے فرمایا (اور وہ اس کے ماسوا کا) یا یہ کہ اس کے بعد قرآن کا (انکار کرتے ہیں) وادھالیہ ہے، اور یہ جملہ حال ہے (اور وہ حق ہے) یہ بھی حال ہے (اس بات کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے ساتھ ہے) یہ دوسرا حال تاکید کیلئے ہے (تم) ان سے (کہدو کہ پس تم کیوں اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہو) یعنی تم نے کیوں قتل کیا (اس سے پہلے اگر تم) توریت پر (ایمان رکھتے ہو) حالانکہ تم کو اس میں ان کے قتل سے منع کیا گیا تھا، اور جو کچھ ان کے آباء نے جرائم کئے تھے ان کا مخاطب ان لوگوں کو قرار دیا گیا، اس لئے ہے کہ وہ ان کے فعل پر رضامند تھے (اور بیشک تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل) یعنی معجزات جیسے عصا اور ید بیضاء، اور فلق بحر (لے کر آئے، پھر تم نے پچھڑے کو) معبود (بنالیا ان کے بعد) یعنی ان کے میقات پر جانے کے بعد (اور تم لوگ) اس کے معبود بنانے کی وجہ سے (ظالم تھے، اور جب ہم نے تم سے) توریت میں جو کچھ ہے، اس پر عمل کرنے کا (عہد لیا، اور ہم نے تمہارے اوپر طور) یعنی پہاڑ (کو اٹھایا) جب کہ تم نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ تم پر گرا دیا جائے اور ہم نے کہا (لے لو جو کچھ ہم نے دیا قوت سے) یعنی محنت و کوشش سے (اور سنو) جو کچھ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، سماع قبول سے (انہوں نے کہا کہ ہم نے) تمہاری بات سنی (اور تمہارے امر کی) نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے پچھڑا) یعنی پچھڑے کی محبت کو اس طرح (پلا دیا گیا) جیسے کہ پینے کی چیز مخلوط ہو جاتی ہے (تم) ان سے (کہدو بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا) توریت پر (ایمان) رکھنا (حکم دیتا ہے) یعنی پچھڑے کی پوجا، (اگر تم) اس پر (ایمان رکھتے ہو) جیسا کہ تم نے گمان کیا، مطلب یہ ہے کہ تم ایمان والے نہیں ہو، کیوں کہ

ایمان، پچھڑے کی پوجا کا حکم نہیں دیتا، اور مراد ان کے آباء و اجداد ہیں، یعنی پس ایسے ہی تم بھی توریت پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ تم نے محمد ﷺ کی تکذیب کی ہے، حالانکہ توریت پر ایمان رکھنا، ان کی تکذیب کا حکم نہیں دیتا (تم) ان سے (کہہ دو کہ اگر در آخرت) یعنی جنت (اللہ کے پاس اور لوگوں کو چھوڑ کر خالص تمہارے واسطے ہے) جیسا کہ تم نے سمجھا ہے (تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو) تمنائے موت سے دو شرطوں کا تعلق ہے، اور پہلی شرط دوسری شرط کی قید ہے، یعنی اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو کہ جنت تمہارے لئے ہے، اور جس کیلئے جنت ہوگی، اس کو وہ ترجیح دیگا، اور جنت میں پہنچانے والی چیز موت ہے، لہذا اس کی تمنا کرو (اور وہ اس کام) یعنی ان کے نبی کے ساتھ کفر کرنے (کی وجہ سے) جو کہ ان کے کذب کو مستلزم ہے (کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے۔ اور اللہ ظالموں) یعنی کافروں (کو خوب جانتا ہے) پس انھیں جزا دے گا (اور تم ان کو تمام لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پاؤ گے) لام قسم کا ہے (اور ان لوگوں سے بھی بڑھ کر) زندگی کا حریص پاؤ گے (جنہوں نے شرک کیا) یعنی منکرین بعث بعد الموت سے بھی بڑھ کر، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا ٹھکانا جہنم ہے، برخلاف مشرکین کے، کیونکہ وہ تو اس کے سرے سے منکر ہی ہیں (ان میں کا ہر ایک چاہتا ہے کہ ایک ہزار سال کی عمر پائے) کو مصدر یہ ہے اُن کے معنی میں اور وہ اپنے صلہ کے ساتھ مصدر کی تاویل میں یؤد کا مفعول ہے (حالانکہ اس کا) اتنی (عمر پانا، اس کو عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں) یعملون تاء اور یاء کے ساتھ ہے۔

تشریحات

امے اتبعناہم رسولاً فی اثر رسول:۔ مفسر نے اس لفظ سے وقفینا من بعدہ بالرسل کا معنی بتایا ہے، لفظ قفی متعدی بد و مفعول ہے، ایک مفعول سے براہ راست اس کا تعلق ہوتا ہے، اور دوسرے مفعول سے باء حرف جر کے واسطے سے، قفی کے معنی بعد میں آنا دوسرے مفعول پر باء حرف جر آیا تو معنی ہوا بعد میں لانا، تو باء اسی پر آتا ہے جسے بعد میں لایا جائے، اس لحاظ سے اصل عبارت یوں ہوگی، قفیناہ بالرسل: لیکن من بعدہ کو جو ظرف ہے، مفعول اول کے قائم مقام کر دیا، پھر شارح نے جو کچھ اس کے ترجمہ میں تحریر فرمایا ہے، اس میں بھی ایک مفعول محذوف ہے، یعنی اتبعناہم ایاء اور رسولاً فی اثر رسول، حال ہے، یعنی ہم نے موسیٰ کے بعد رسولوں کو اس طرح بھیجا کہ ایک کے بعد ایک رسول آیا۔

بالرسل:۔ ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں، یوشع، شمویل، شمعون، داؤد، شعیا، ارمیاء، عزیر، حزقیل، الیاس، الیسع، یونس، زکریا، یحییٰ وغیرہم علیہم السلام۔

من اضافة الموصوف الى الصفة:۔ عرب کے محاورات میں بسا اوقات موصوف کو صفت کی یا صفت

کو موصوف کی جانب مضاف کر دیتے ہیں، صاحب کافہ نے اس کا انکار کیا اور ایسی ترکیبوں میں تاویل کی ہے، یہاں اصل ترکیب الروح المقدسة ہے، المقدسة جو کہ صفت ہے، اس سے مصدر کا انتزاع کر کے اس کی جانب روح کی اضافت کی گئی ہے، حضرت جبرئیل کو روح سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی روح ہی کی طرح جسم لطیف نورانی ہیں، اور جس طرح سے روح سے بدن کی حیات متعلق ہے، اسی طرح جبرئیل سے قلب و روح کی حیات وابستہ ہے، کیونکہ وحی اور علوم الہی وہی لاتے ہیں۔

فلم تستقيموا : . ولقد آتينا موسى الكتاب النخ :۔ اس پوری آیت کے سیاق سے یہی بتانا مقصود ہے کہ اتنے اہتمام کے باوجود کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شان کا پیغمبر بنایا، انھیں کتاب دی، پھر یکے بعد دیگرے بے شمار انبیاء بھیجے، پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اتنے کے بعد تو ان کو بالکل درست ہو جانا چاہئے تھا، مگر ان کی ٹیڑھ نہیں گئی۔

نیز فلم تستقيموا کا لفظ مفسر نے ذکر کر کے اس بات پر تشبیہ بھی کی ہے کہ افکلما جاء کم کا عطف فلم تستقيموا پر ہے۔

وهو محل الاستفهام : . افکلما جاء کم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، میں ہمزہ استفہام اپنے طبعی تقاضے کے مطابق شروع کلام میں آیا ہے، لیکن معنی و استفہام کا تعلق اس سے نہیں بلکہ استکبرتم سے ہے، یعنی جب کوئی رسول تمہارے نفس کی ناپسندیدہ چیز کو لے کر آیا تو کیا تم نے تکبر کا راستہ اختیار کیا، یہ استفہام توحیح کا ہے۔

المضارع لحکایة الحال الماضية :۔ فعل مضارع تو زمانہ حال کی خبر دیتا ہے، اور یہاں قتل کا فعل زمانہ حال کا نہیں بلکہ زمان ماضی کا ہے، پس اس کیلئے مضارع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟

جواب:۔ کبھی ماضی کے واقعہ کو زمانہ حال میں فرض اور تصور کر کے اس واقعہ کی تصویر کو ذہن میں مستحضر کرنے کیلئے حال کا صیغہ لایا جاتا ہے، جیسے اردو میں بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میری طرف چلا آ رہا ہے، ”یہ دیکھتا ہوں، اور چلا آ رہا ہے“ سب ماضی کی بات ہے، لیکن اس تعبیر سے ذہن میں اس کی تصویر ایسی آتی ہے جیسے اسی وقت یہ کام ہو رہا ہے۔

قالوا للنبي استهزاء :۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ قلوبنا غلف بطور واقعہ کے نہیں ہے بلکہ بطور استہزاء کے ہے۔

جمع اغلف :۔ غلف، اغلف کی جمع ہے، اغلف کے معنی غلاف میں بند چیز، اصل میں غیر مختون کو کہتے ہیں، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی چیز کو ڈھکن سے بند کر دیا جائے تو اس میں کوئی دوسری چیز داخل نہیں ہو سکتی، اسی طرح ہمارے دلوں پر بھی ڈھکن لگا ہوا ہے، اس لئے آپ کی بات اس میں گھستی ہی نہیں،

اور نہ محفوظ رہتی۔

ابعدہم عن رحمته و خذلہم عن القبول :- یہ لعنہم اللہ کا ترجمہ ہے، لعنت کے معنی ہیں رحمت سے دور کر دینا، توفیق قبول سے محروم کرنا۔

ولیس عدم قبولہم لخلل الخ :- انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے قلوب ڈھکن سے بند ہیں، اس کا جواب اللہ نے دیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے دل پر ڈھکن ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں اپنی رحمت کے لائق نہیں بنایا، پس دھتکار دیا اور توفیق سے محروم کر دیا۔

فلما جاء ہم ما عرفوا من الحق :- یہ لما پہلے لما پر عطف ہے، وہاں جاء کا فاعل کتاب ہے، اور یہاں جاء کے فاعل ما عرفوا سے مراد رسول اللہ ﷺ ہیں۔

وجواب لما الاولیٰ دل علیہ جواب الثانية : کفروا بہ - دوسرے لما کا جواب ہے، اور یہی قرینہ ہے کہ پہلے لما کا جواب بھی کفروا بہ ہے۔

باعوا :- یہ ترجمہ اشتروا کا ہے، مراد اس سے استبدال ہے۔

امے حظہا من الثواب :- اپنے آپ کو بیچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود کو فروخت کر دیا بلکہ ایمان لانے کی وجہ سے جو ثواب آخرت میں انہیں حاصل ہوتا، اس ثواب کو کفر کے عوض فروخت کر دیا، یعنی کفر سے بدل دیا،

ما نکرہ بمعنی شیئا تمیز لفاعل بئس :- بئس فعل ذم ہے، اس کا فاعل اس میں ضمیر مستتر ہے، مانکرہ ہے، شیئا کے معنی میں، یہ فاعل کی تمیز ہے، اور مخصوص بالذم ان یکفروا ہے، جو ان مصدر یہ کی وجہ سے بمعنی مصدر ہے، یعنی کفرہم بما انزل اللہ۔

امے حسداً علی :- بغیاً مفعول لہ ہے لیکفروا کا، حسداً کے معنی میں ہے اس کا صلہ علی آتا ہے جو ان کے اوپر مفسر نے ظاہر کر دیا ہے، ان مصدر یہ پر اکثر حروف جارہ محذوف ہوتے ہیں، علی کے ذکر کرنے سے اس بات پر تشبیہ بھی ہوگئی کہ یہ مفعول لہ نہیں ہے۔

الوحی :- من فضله میں فضل سے مراد عام فضل نہیں ہے، بلکہ فضل خصوصی وحی الہی ہے، اسی لئے آگے من یشاء کے بعد مفسر نے للرسالة کے لفظ کا اضافہ کیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الوحی ینزل کا مفعول بہ ہو، یعنی ان ینزل الوحی من فضله، امے بفضله .

وراء ۵ :- ظرف ہے، اور اضداد میں سے ہے، یعنی اس کے معنی پیچھے کے بھی ہیں اور آگے کے بھی، فراء نے یہاں اس کو سوئی کے معنی میں قرار دیا ہے، اور ابو عبیدہ اور قتادہ نے بعد کے معنی میں، اسی لئے مفسر نے اس کی تفسیر میں سواہ اور بعدہ ارشاد فرمایا ہے، اور من القرآن اس کا بیان ہے۔

حال : وهو الحق حال ہے، ذوالحال ماوراء ہ ہے، اور عامل یکفرون۔

حال ثانیة موكدة : مصداقاً دوسرا حال ہے، جو تاکید کیلئے آیا ہے، حال موكدة دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو اپنے عامل کی تاکید کیلئے آتا ہے، جیسے لا تعثوا فی الارض مفسدین، اور دوسرا وہ جو کسی مضمون جملہ کی تاکید کیلئے آتا ہے، اس صورت میں اس کا عامل محذوف ہوتا ہے اور وہ اس جملہ کے بعد آتا ہے، جس کے مضمون کی تاکید مقصود ہے، یہاں یہی آخری صورت ہے، عبارت مقدریوں ہوگی، وهو الحق احقه مصداقاً فلم تقتلون :- فاء جزائیہ ہے، اس کی شرط کلام کے سیاق سے مفہوم ہوتی، یعنی ان کنتم آمنتم، بما انزل علیکم فلم تقتلون ای قتلتم۔ لم میں لام حرف جر ہے، جو ماستفہامیہ پر داخل ہے، حرف جر کبھی ما خبریہ پر بھی داخل ہوتا ہے، دونوں میں فرق پیدا کرنے کیلئے ماستفہامیہ سے الف کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور ما خبریہ پر باقی رکھا جاتا ہے۔

الخطاب للموجودین الخ :- یہ خطاب ان یہودیوں سے ہے، جو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں موجود تھے، حالانکہ جن افعال پر ان کی سرزنش کی جا رہی ہے، وہ ان کے اسلاف کے افعال تھے، لیکن یہ لوگ بھی اس سرزنش کے مورد ہیں کیونکہ یہ اس پر راضی ہیں، اور راضی کو شریک ہی قرار دیا جاتا ہے۔

من بعده :- اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انھوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی ان کی وفات کے بعد گئو سالہ کی پوجا کی، بلکہ اس سے بعد ذہابہ من عندہم الی المیقات لیاتی بالتوراة مراد ہے: یعنی جب موسیٰ علیہ السلام توریت کے حاصل کرنے کیلئے کوہ طور پر تشریف لے گئے، اس کے بعد۔

وقد رفعنا : . و رفعنا حال ہے، ماضی کا صیغہ جب حال واقع ہو، تو اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ لفظوں میں ہو، یا مقدر ہو، یہاں لفظوں میں نہیں ہے، مفسر نے اس مقدر کو ظاہر فرما دیا۔

خالط حبه قلوبہم : . اشربوا کے معنی ہیں کسی سیال چیز کا کسی جامد کے ساتھ مخلوط ہو جانا، پھر مجازاً یہ مطلق خلط کے معنی میں استعمال ہونے لگا، جیسے اشرب بیاضہ حمرة، یہاں فرمایا گیا ہے و اشربوا فی قلوبہم العجل ان کے دلوں میں نچھڑا رچ بس گیا ہے۔ اس سے مراد نچھڑے کی محبت ہے، لیکن محبت کے لفظ کو حذف کر کے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ نچھڑے کی محبت اس طرح سے رچ بس گئی ہے گویا نچھڑا ہی ان کے دلوں میں پیوست ہو گیا ہے۔

تعلق بتمنیہ الشرطان علی ان الاول قید فی الثانی : صاحب جمل نے لکھا ہے کہ الا ظہر تعلق تمنیہ بالشرطین، مناسب عبارت تھی، تمنائے موت کا تعلق دو شرطوں سے ہے، ایک ان کانت لکم الدار الآخرة سے اور دوسرے ان کنتم صادقین سے، پھر مفسر نے فرمایا کہ یہ دونوں شرطیں معنی علیحدہ علیحدہ

نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں، وہ اس طرح کی پہلی شرط، دوسری شرط کیلئے قید ہے، مقید اور قید دونوں مل کر گویا ایک ہی شرط ہے، اس کی صورت یہ ہوگی۔ ان صدقتم فی زعمکم ان الدار الآخرة عند الله خالصة لكم..... ومن كانت له یوثرها والموصل الیها الموت..... فتمنوه، اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو کہ دار آخرت اللہ کے پاس صرف تمہارے لئے ہے..... اور جس کیلئے وہ ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ اسے دل و جان سے چاہے گا، اور وہاں تک پہنچانے والی چیز موت ہے، پس تم اس کی تمنا کرو۔

واحرص من الذین اشرکوا : من الذین اشرکوا، ایک محذوف سے متعلق ہے جس کا قرینہ ما قبل کا لفظ احرص الناس ہے، مفسر نے اسے ظاہر کر دیا ہے۔

المنکرین للبعث : الذین اشرکوا سے مراد مطلق اہل شرک نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جو آخرت اور حساب و کتاب کے منکر ہیں۔

علیہا:۔ ہاء ضمیر مؤنث کا مرجع حیاة ہے۔

لعلمہم بان مصیرہم النار :۔ یہود، مشرکین سے بڑھ کر کیوں زندگی کے حریص ہیں؟ اس لئے کہ یہ آخرت کو مانتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا انکار کرنے اور دوسرے معاصی کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، اس سے بچاؤ اسی وقت تک ہے، جب تک زندگی ہے، اس لئے یہ مرنا نہیں چاہتے، اس کے برخلاف مشرکین بعث بعد الموت کے منکر ہیں، اس لئے ان کے دل میں عذاب آخرت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، پس انھیں زندگی کی محبت بھی اس درجہ کی نہیں جس درجہ کی یہود کو ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اس رکوع میں حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کچھ اور خیانتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے ان کے اوپر اپنے خاص خاص احسانات کا ذکر فرمایا ہے کہ ان میں ہم نے موسیٰ کو بھیجا، انھیں کتاب عطا کی، ان کے بعد مسلسل رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ قائم رکھا، پھر اخیر میں عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اور انھیں بہت سے معجزات عطا فرمائے، ان کا مددگار جبرئیل کو بنائے رکھا، مگر اتنے کے بعد بھی یہ قوم نہیں سدھری، ان کا ایک ہی وطیرہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی رسول حق و صداقت کی بات لے کر آیا، اور اسے انھوں نے ناپسند کیا، پس اس پر تکبر کرنے لگے، اور حد تو یہ کی کہ کسی رسول کی تکذیب کی اور کسی کو قتل کر ڈالا، اور اب یہ حال ہے کہ انھیں جب ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے تو بطور تمسخر کے کہتے ہیں، کہ ہمارے قلوب پر غلاف چڑھا ہوا ہے، اس میں کوئی بات باہر سے جا ہی نہیں سکتی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، حقیقت تو صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں، اور یہ لعنت ان پر ان کے کفر کی وجہ سے پڑی ہے، اس وجہ سے ان کا ماننا بہت تھوڑا ہے، ان کی بے توفیقی دیکھئے، جب تک رسول نہیں آئے

تھے اس وقت ان کا نام لے لے کر اللہ سے دہائی دیتے تھے، کہ مشرکین کے مقابلے میں اس نبی آخر الزماں کے واسطے سے ہمارا غلبہ ہو، اور جب وہ کتاب آگئی، اور جب وہ نبی آگئے اور انھیں خوب پہچان بھی لیا تو حسد کے مادہ نے زور کیا اور انکار کر بیٹھے، واقعی کفر لعنت عظمیٰ ہے، صرف ایمان لانا شرط ہے، مگر یہ اپنے دنیاوی مال و متاع اور معمولی سی جاہ کے بچانے کے چکر میں ثواب آخرت سے دستبردار ہو گئے، اور ملا کیا؟ کفر ملا، اللہ نے حق و صداقت کی ایک ابدی دستاویز اتاری، اور ان کو یہ حسد کھا گیا کہ یہ آخری دستاویز دوسرے پر کیوں اتری، ہم پر کیوں نہ اتری، بس اتنی ہی بات پر وہ اللہ سے ناراض ہو بیٹھے، اور اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا، لیکن اس کا نتیجہ کس کے حق میں برانکلا؟ یہ تو پہلے ہی غضب کے مستحق تھے، کیونکہ توریت کو برباد کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں، اب اس نبی برحق اور کتاب منزل کا انکار کر کے مزید غضب میں گرفتار ہوئے، کافر کو بجز رسوا کن عذاب کے اور کیا ملے گا۔

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ تو ازراہ تکبر کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان تو صرف اس کتاب پر ہے، جو ہم پر اتاری گئی ہے، یعنی توریت پر اور باقی سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن حق ہے، اور ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے، اچھا اگر یہ توریت پر ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو ان سے پوچھو کہ توریت میں تو انبیاء کے قتل سے شدت منع کیا گیا ہے، پھر تم انھیں کیوں قتل کرتے تھے، تمہارے باپ دادوں نے بہت سے انبیاء و رسل کو قتل کیا ہے، اور تم لوگ اسی پر راضی بھی ہو، پس گویا تمہیں نے قتل کیا ہے۔ اور اچھا تو ریت پر ایمان رکھتے ہو، تو یہ تو بتاؤ کہ جب موسیٰ تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آئے اور تمہیں ہدایت کی راہ پر لانا چاہا تو پھر یہ کیا ہوا کہ تم گنو سالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، یہ تو ظلم صریح تھا، اور ہم نے تم سے توریت کی تعلیمات پر عمل کرنے کا عہد لیا، اور جب تم نے انکار کیا تو پہاڑ کو تمہارے اوپر لٹکا دیا، ہم نے حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور بات کو سنو، اس پر انھوں نے کہا کہ ہم نے سنا تو، مگر ہم مان بھی لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور نچھڑے کی محبت دل کے رگ و ریشہ میں گھس گئی اور ایسا ان کے کفر کی وجہ سے ہوا، ان سے کہو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان کیسی بری بات کا حکم دے رہا ہے، درحقیقت تمہارے اندر ایمان ہے ہی نہیں، ورنہ ایمان ایسی بری بات کا حکم نہیں دیتا، یہ بات اسلاف بنی اسرائیل سے متعلق ہے، نزول قرآن کے دور کے یہود بھی مومن نہیں ہیں، ورنہ ان کا ایمان محمد ﷺ پر ایمان لانے سے نہیں روکتا۔

تم کہتے ہو کہ جنت صرف تمہارے ہی لئے ہے، اگر ایسا ہے تو تم اسے دل سے چاہتے ہو گے، اور ظاہر ہے کہ جنت بغیر موت کے حاصل نہ ہوگی، تو اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو، لیکن یہ اس کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، جانتے ہیں کہ ان کے کرتوت انھیں سیدھے جہنم میں پھینکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو

خوب جانتے ہیں، اور یہ موت کی تمنا کیسے کریں گے، انہیں تو زندگی کی محبت اور اس کی حرص تمام انسانوں سے حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ ہے، مشرکین تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے ہی نہیں تو ان کے نزدیک مرنے کے بعد سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے، اس لئے وہ مرنے سے اتنا نہیں گھبراتے، جتنا یہود گھبراتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مرتے ہی وہ عذاب جہنم میں گرفتار ہوں گے، یہ تو چاہتے ہیں ہزار سال تک زندہ رہیں، مگر ہزار سالہ زندگی بھی انہیں جہنم سے نجات نہیں عطا کر سکتی تو اس تمنا سے کیا فائدہ؟ اور جو کچھ ان کے اعمال ہیں، سب اللہ کی نظر میں ہیں۔



وسال ابن صور یا النبی ﷺ او عمر رضی اللہ عنہ عمن یاتی بالوحی من الملائکة فقال جبرئیل فقال هو عدونا یاتی بالعذاب ولو کان میکائیل لآمننا لانه یاتی بالخصب والسلم فنزل ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِیْلِ﴾ فلیمت غیظاً ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ﴾ ای القرآن ﴿عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ﴾ بامر ﴿اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ قبله من الکتب ﴿وَهَدَى﴾ من الضلالة ﴿وَبُشْرَى﴾ بالجنة ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیْلِ﴾ بکسر الجیم وفتحها بلا همزة وبه بیاء و دونها ﴿وَمِیْکَلٍ﴾ عطف علی الملائکة من عطف الخاص علی العام و فی قراءۃ میکائیل بهمزہ و یاء و فی اخری بلا یاء ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ اوقعه موقع لهم بیانا لحالهم ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ یا محمد ﴿آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ﴾ واضحات حال رد لقول ابن صور یا للنبی ﷺ ما جئنا بشئی ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفٰسِقُونَ﴾ كفروا بها ﴿أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا﴾ الله ﴿عَهْدًا﴾ علی الایمان بالنبی ان خرج او النبی ان لا یعاونوا علیه المشرکین ﴿نَبَذَهُ﴾ طرحه ﴿فَرِیْقٌ مِّنْهُمْ﴾ بنقضه جواب کلما وهو محل الاستفهام الانکاری ﴿بَلْ﴾ للانتقال ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِیْقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْکِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ﴾ ای التوراة ﴿وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ ای لم یعملوا بما فیها من الایمان بالرسول و غیره ﴿كَانَهُمْ لَا یَعْلَمُونَ﴾ ما فیها من انه نبی حق او انها کتاب الله ﴿وَاتَّبَعُوا﴾ عطف علی نبد ﴿مَا تَتْلُوا﴾ ای تلت ﴿الشَّیْطٰنُ عَلٰی﴾ عهد ﴿مُلْکِ سُلَیْمٰنَ﴾ من السحرو كانت دفنته تحت کرسیه لما نزع ملکه او كانت تسترق السمع و تضم الیه اکاذیب و تلقیه الی الکھنة فیدونونه و فشا ذلك و شاع ان الجن تعلم الغیب فجمع سلیمان الکتب و دفنها فلما مات دلت الشیاطین علیها الناس

فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر فقالوا انما ملككم بهذا فتعلموه ورفضوا كتب انبيائهم قال تعالى تبرية لسليمن و ردا على اليهود في قولهم انظروا الى محمد يذكر سليمان في الانبياء وما كان الا ساحراً ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمُنُ﴾ اي لم يعمل السحر لانه كفر ﴿وَلَكِنَّ﴾ بالتشديد والتخفيف ﴿الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ الجملة حال من ضمير كفروا ﴿وَ﴾ يعلمونهم ﴿مَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ اي الهماه من السحر وقرئ بكسر اللام الكائنين ﴿بِبَابِلَ﴾ بلد في سواد العراق ﴿هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ بدل او عطف بيان للملكين قال ابن عباس هما ساحران كانا يعلمان السحر وقيل ملكان انزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس ﴿وَمَا يُعَلِّمُنِي مَنْ﴾ زائدة ﴿أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا﴾ له نصحا ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ﴾ بلية من الله للناس ليمتحنهم بتعليمه فمن تعلمه كفرو من تركه فهو مؤمن ﴿فَلَا تَكْفُرْ﴾ بتعلمه فان ابى الا التعلم علماه ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ بان يبغض كلا الى الآخر ﴿وَمَا هُمْ﴾ اي السحرة ﴿بِضَارِيْنَ بِهِ﴾ بالسحر ﴿مِنْ﴾ زائدة ﴿أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ بارادته ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ﴾ فى الآخرة ﴿وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ وهو السحر ﴿وَلَقَدْ﴾ لام قسم ﴿عَلِمُوا﴾ اي اليهود ﴿لَمَنِ﴾ لام ابتداء معلقة لما قبلها من العمل ومن موصولة ﴿اشْتَرَاهُ﴾ اختاره او استبدله بكتاب الله ﴿مَالَهُ فِى الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ نصيب فى الجنة ﴿وَلَبَسَ﴾ ما ﴿شَيْئًا﴾ شروا ﴿بِعَوَا﴾ به انفسهم ﴿اي الشارين اي حظها من الآخرة ان تعلموه حيث اوجب لهم النار﴾ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿حقيقة ما يصيرون اليه من العذاب ما تعلموه﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ ﴿اي اليهود﴾ آمَنُوا ﴿بِالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ﴾ واتَّقَوْا ﴿عقاب الله بترك معاصيه كالسحر وجواب لو محذوف اي لا ثبوا دل عليه﴾ كَمَثُوبَةٍ ﴿ثواب وهو مبتدأ واللام فيه للقسم﴾ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ ﴿خبره مما شروا به انفسهم﴾ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿انه خير لما آثروه عليه۔

ترجمہ

ابن صوريانے نبی ﷺ سے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، فرمایا کہ جبریل، اس نے کہا وہ ہمارے دشمن ہیں، عذاب کو لایا کرتے ہیں، اگر میکائیل ہوتے تو ہم ایمان لاتے، کیونکہ وہ شادابی اور سلامتی لاتے ہیں، اس پر اللہ کا کلام نازل ہوا (تم) ان سے (کہہ دو کہ جو جبریل کا دشمن ہو) اسے چاہئے کہ غیظ سے مرجائے (کیونکہ بلاشبہ اسی نے تمہارے قلب پر اس کو) یعنی قرآن کو (اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اس حال میں کہ یہ ان) کتابوں (کی جو اس سے پہلے ہیں تصدیق کر نیوالا ہے اور) گمراہی سے

(ہدایت ہے اور) جنت کی (بشارت ہے، اہل ایمان کیلئے) جو اللہ کا دشمن ہو، اور اس کے فرشتوں کا، اور اس کے رسولوں کا، اور جبرئیل کا) جیم کے کسرے اور اس کے فتح کے ساتھ بغیر ہمزہ کے، اور ہمزہ کے ساتھ، یا سے اور بغیر یا کے (اور میکال کا) یہ الملائکہ پر عطف ہے، از قبیل عطف خاص علی العام، اور ایک قراءت میں میکائیل ہے، ہمزہ اور یا کے ساتھ اور دوسری قراءت میں بغیر یا کے ہے (تو بلاشبہ اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے) الکافرین کو بجائے لہم کے ذکر کیا، مقصد ان کے حال کا بیان ہے (اور بیشک و شبہ) اے محمد (ہم نے تمہارے پاس واضح آیات اتاری ہیں) یہ ابن صوریہ کے اس قول کا جواب ہے، جو اس نے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس کوئی خاص چیز نہیں لائے (اور ان کا انکار بجز فاسقوں کے اور کوئی نہیں کرتا) (اور کیا) انھوں نے آیات کا انکار کیا (جب بھی انھوں نے) اللہ سے (کوئی عہد کیا) نبی ﷺ پر ایمان لانے کا، اگر آپ کا ظہور ہو، یا نبی ﷺ سے عہد کیا کہ ان کے خلاف مشرکین کی مدد نہیں کریں گے (تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا) یعنی اسے توڑ دیا، یہ کلمہ کا جواب ہے، اور یہی استفہام انکاری کا محل ہے (بلکہ) بل کلام کو منتقل کرنے کیلئے ہے، (ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ گیا) یعنی محمد ﷺ (جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا، ان لوگوں کے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی، اللہ کی کتاب) توراہ (کو اپنے پیٹھ کے پیچھے) یعنی جو کچھ اس میں ہدایت ہے، یعنی رسول پر ایمان لانا وغیرہ، اس پر عمل نہیں کیا (گویا کہ وہ) اس چیز کو جو اس میں ہے، یعنی یہ کہ آپ نبی برحق ہیں، یا یہ کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو وہ (جانتے ہی نہیں اور پیچھے لگ لئے) یہ نبذ پر عطف ہے (اس چیز کے جس کو شیاطین پڑھتے ہیں) یعنی شیاطین نے پڑھا تھا (سلیمان کی حکومت) کے زمانے (میں) یعنی سحر اور اس کو شیاطین نے اس وقت جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چھن گئی تھی، آپ کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا، یا یہ کہ شیاطین چوری چھپے کان لگاتے تھے اور اس کے ساتھ بہت سا جھوٹ شامل کر دیا کرتے تھے، اور اسے کابھوں کو القاء کر دیتے، وہ اسے مدون کر دیتے، اور یہ بات پھیل گئی تھی کہ جن غیب کی خبر رکھتے ہیں، تب سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو جمع کیا، اور انہیں دفن کر دیا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے لوگوں کو ان کتابوں کے متعلق خبر دے دی، ان کو انھوں نے نکال لیا، ان میں سحر کا علم تھا، تو لوگوں نے کہا کہ سلیمان نے تم پر اسی سحر کے زور پر حکومت کی ہے، پس وہ لوگ سحر ہی کو سیکھنے میں لگ گئے اور اپنے انبیاء کی کتابوں کو ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی برأت میں، اور یہودیوں کی اس بات کے جواب میں کہ محمد کو دیکھو، یہ سلیمان کا تذکرہ انبیاء کے زمرہ میں کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو صرف ایک جادوگر تھے، اسی سلسلے میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا (اور سلیمان نے کفر نہیں کیا) یعنی انھوں نے سحر کا عمل نہیں کیا، کیونکہ وہ کفر ہے، لیکن) لکن تشدید و تخفیف دونوں طرح ہے (شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو

سحر سکھاتے تھے) یہ جملہ حال ہے کفر و کفر کی ضمیر سے (اور) انھیں (وہ چیز) سکھاتے تھے (جو دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر جو بابل میں تھے، اتاری گئی) یعنی سحر جو انھیں الہام کیا گیا تھا، اور الملکین لام کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، بابل سواد عراق میں ایک شہر ہے، ہاروت و ماروت الملکین کا بدل یا عطف بیان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دونوں دو جادوگر تھے، جو لوگوں کو سحر سکھایا کرتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ وہ دو فرشتے تھے جو سحر کی تعلیم دینے کیلئے اللہ کی طرف سے لوگوں کے واسطے بطور آزمائش کے اتارے گئے تھے (اور وہ کسی کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ) بطور خیر خواہی کے اس سے (کہہ نہیں دیتے تھے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں) اللہ کی طرف سے لوگوں کیلئے، تاکہ اس کی تعلیم سے لوگوں کا امتحان کرے، تو جو شخص اسے سیکھے گا کفر میں مبتلا ہوگا، اور جو اسے ترک کرے گا، وہ مومن ہے (اس لئے) اس کو سیکھ کر (کفر میں مت پڑو) پھر اگر وہ اس سے انکار کرتا اور سیکھنے پر اصرار کرتا تو اسے سکھا دیتے (پھر وہ لوگ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ذریعے میاں اور بیوی میں تفریق کراتے) یعنی ایک کو دوسرے سے نفرت میں مبتلا کرتے (اور وہ) جادوگر (اس کے) یعنی جادو کے (ذریعے کسی کو کوئی نقصان بغیر اللہ کے ارادے کے نہیں پہنچا سکتے اور سیکھتے وہ چیز جو ان کو) آخرت میں (مضر ہوگی اور نافع نہ ہوگی) اور وہ سحر ہے (اور بیشک) لقمہ میں لام قسم کا ہے (انھوں نے) یعنی یہودیوں نے (یہ جان لیا ہے کہ جس نے اسے خریدا) یعنی اسے اختیار کیا، یا اللہ کی کتاب کے عوض میں اسے لیا لمن میں لام ابتداء ہے، جو ما قبل کیلئے باعث تعلیق ہے، اور من موصولہ ہے (اس کے لئے آخرت میں) جنت میں (کوئی حصہ نہیں ہے، اور بلاشبہ بری ہے وہ چیز جس کے عوض میں انھوں نے اپنے آپ کو فروخت کیا) یعنی فروخت کرنے والے ہیں، یعنی اپنے ثواب آخرت کے حصے کو اور وہ یہ ہے کہ انھوں نے اسے سیکھا کہ اس نے ان کے لئے جہنم کو واجب کیا (اگر وہ) اس عذاب کی حقیقت کو (جانتے ہوتے) جس میں وہ پہنچیں گے، تو نہ سیکھتے (اور اگر وہ) یعنی یہود نبی اور قرآن پر (ایمان لاتے اور) معاصی مثلاً سحر کو ترک کر کے اللہ کے عقاب سے (بچتے) اور لو کا جواب محذوف ہے، یعنی لا ژیوا، اس پر آگے کا لفظ لَمَثُوبَةٌ دلالت کرتا ہے (تو اللہ کے پاس سے ثواب) لَمَثُوبَةٌ مبتداء ہے، اور لام اس میں قسم کیلئے ہے، (بہتر ہے) اس چیز سے جس کے بدلے میں انھوں نے اپنے آپ کو فروخت کیا، لفظ خیر خبر ہے (اگر وہ جانتے) کہ وہ خیر ہے، تو اس کو اس پر ترجیح نہ دیتے۔

﴿ تشریحات ﴾

ابن صوریہ: عبد اللہ بن صوریہ یہودیوں کا بڑا عالم تھا۔

فلیمت غیظاً: من کان عدواً لجبرئیل کی جزا ہے جو کہ محذوف ہے۔

سوال: کیا اللہ کا ارشاد فانہ نزلہ شرط مذکور کی جزا نہیں بن سکتا؟

جواب: فانہ نزلہ شرط مذکور کی جزا نہیں بن سکتا، نہ لفظی اعتبار سے اور نہ معنوی اعتبار سے اس لئے کہ جزاء میں ایک ضمیر ہونی چاہئے جو اسم شرط کی جانب راجع ہو، اور یہاں ایسی کوئی ضمیر نہیں ہے، اور معنی اس لئے کہ جزا کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہوتا ہے، اور نزل فعل ماضی ہے۔ اور ایسا فعل ماضی ہے جسے مستقبل کے معنی میں مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ نزول قرآن کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے۔

جبریل بکسر الجیم و فتحها :- جبریل میں چار قراءتیں ہیں: (۱) جیم کے کسرہ اور یا کے ساتھ بلا ہمزہ کے قندیل کے وزن پر (۲) جیم کے فتح کے ساتھ اور باقی حسب سابق شمویل کے وزن پر (۳) جیم کے فتح اور ہمزہ اور یا کے ساتھ بروزن سلسبیل، جبرئیل، (۴) جیم کے فتح اور ہمزہ کے ساتھ بغیر یا کے بروزن جمرش، جبرئیل۔

لفظ جبریل عجمی کلمہ ہے اس لئے مع العلمیت غیر منصرف ہے۔

عطف علی الملائکة: لفظ جبریل و میکال کا عطف الملائکة پر ہے، سوال: ملائکہ میں تو جبریل اور میکائیل دونوں داخل ہیں، پھر علیحدہ عطف کرنے میں کیا حکمت ہے؟ جواب: یہ خاص کا عطف عام پر ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اس سے ان دونوں فرشتوں کی عظمت شان نمایاں ہوتی ہے، گویا یہ دونوں اپنی رفعت شان کے باعث عام فرشتوں سے علیحدہ جنس ہیں۔

وفی قراءۃ میکائیل: اس لفظ میں تین قراءتیں ہیں، اول تو وہی جو متن میں مذکور ہے، یعنی میکال، دوسرے میکائیل، تیسرے میکائل بغیر یا کے۔

اوقعہ موقع لہم: فان اللہ عدو للكافرين، میں الکافرین اسم ظاہر لہم کی جگہ پر آیا ہے، کیونکہ عبارت کا سابق اسی کو چاہتا ہے، من کان عدو اللہ و ملائکتہ و رسلہ و جبرئیل و میکال فان اللہ عدو لہم، لیکن لفظ الکافرین ذکر کر کے اس بات کی صراحت کر دی کہ جو ان لوگوں کا دشمن ہو گا وہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے۔

حال: و لقد انزلنا الیک آیات بینات: میں بینات کو مفسر نے آیات سے حال قرار دیا ہے، لیکن اس پر اشکال ہے، ذوالحال جب نکرہ ہو، تو حال کو مقدم کیا جاتا ہے، یہاں تو موصوف اور صفت کی ترکیب معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے صاحب جمل نے تعرض نہیں کیا ہے۔

ما جئنا بشئی: اے بشئی نعرہ او شئی معتد بہ، یعنی کوئی خاص چیز آپ نہیں لائے ہیں۔

اکفروا بها: او کلما عاهدوا اللہ عهداً میں واو عاطفہ ہے، اور ہمزہ استفہام کا ہے اور معطوف علیہ مقدر ہے، اور سیاق کلام کے قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفروا مقدر ہے۔

عاهدوا اللہ عہدا: اس میں عہد اظہار مفعول مطلق معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کو مقدر مان کر مفسر نے واضح فرمایا کہ عہداً مفعول بہ ہے، درحقیقت عاهدوا میں اعطوا کے معنی کی تضمین ہے، اس لئے وہ دو مفعول چاہتا ہے، آیت میں پہلا مفعول محذوف ہے، مفسر نے پہلے مفعول میں دو احتمال ذکر کئے ہیں، ایک یہ کہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ جب نبی کا ظہور ہوگا، ہم اس پر ایمان لائیں گے، دوسرے یہ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے عہد کیا کہ ان کے خلاف مشرکین کی مدد نہ کریں گے۔

بنقضہ:۔ نبد کے معنی طرح ہے یعنی ہٹا دینا، پھینک دینا، عہد کے پھینک دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نقض کر دینا اور اسے توڑ دینا۔

وہو محل الاستفہام الانکاری:۔ نبدہ فریق منہم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اولکما میں جو استفہام انکاری معنی ہے اس کا محل عاهدوا عہدا نہیں ہے، کیونکہ عہد کرنے پر کوئی نکیر و اعتراض نہیں ہو سکتا، اس کا محل نبدہ ہے، کیونکہ نبد و طرح پر ہی انکار کیا جاسکتا ہے۔

لم یعملوا بما فیہا:۔ نبد یہاں حقیقی معنی میں نہیں ہے، کیونکہ کتاب تو ان کے سامنے تھی، اس کو حقیقتہ اپنی پیٹھ کے پیچھے انہوں نے نہیں پھینکا تھا، بلکہ مجاز مراد ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کیا۔

لفظ کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کتاب اللہ کو حسی اعتبار سے پیٹھ کے پیچھے رکھنا قابل نکیر ہے، پس وہ مکروہ ہے، ہمارے عرف میں اہتمام کیا جاتا ہے کہ قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہ ہو، اس کا ماخذ یہ آیت ہے۔

قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ان دونوں آیات او کلما عاهدوا سے کانہم لا یعلمون تک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود چار طرح کے تھے، ایک جماعت تو وہ ہے جو تورات پر کما حقہ ایمان رکھتی تھی اور اس کے حقوق کو ادا کرتی تھی، یہ لوگ وہ ہیں جو ایمان سے مشرف ہوئے، یہ بہت قلیل تھے، ان کا بل اکثر ہم لا یومنون کے مفہوم سے اشارہ ملتا ہے، دوسرے وہ فرقہ جو کھلم کھلا بدعہدی کرتا تھا، اس کا بیان نبدہ فریق منہم میں ہے، تیسرا وہ فرقہ ہے جو اپنے جہل کی وجہ سے بدعہدی کا شکار تھا یہ بل اکثر ہم لا یعلمون کا مدلول ہے، اور چوتھا فرقہ وہ ہے، جو بظاہر تورات پر عمل کرنے کا مدعی تھا، لیکن خفیہ طور پر اس سے دور بھاگتا تھا اس کا بیان کانہم لا یعلمون میں ہے۔

عطف علی نبد: واتبعوا ما تتلو الشیاطین کا عطف نبدوا پر ہے، یعنی نبدوا کتاب اللہ واتبعوا کتب السحر، اللہ کی کتاب کو تو پھینک دیا، اور سحر کی کتابوں کے پیچھے لگ گئے۔

تلت: تتلوا مضارع کا صیغہ ہے مگر ماضی کے معنی میں ہے۔

علی ملک سلیمان: علی کے سلسلے میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ علی بمعنی فی ہے، دوسرے یہ کہ تتلوا میں

تقول کے معنی کی تضمین کر لی جائے، اور علی کو اپنے معنی پر رکھا جائے، یعنی تتقول علی ملک سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے اوپر جھوٹی باتیں بناتے تھے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہا گیا ہے ولو تقول علينا بعض الاقاویل

لما نزع ملكه : مشہور ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جب آپ قضائے حاجت کیلئے جاتے تو وہ انگوٹھی اپنی ایک بیوی کو دے کر جاتے، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک جن ان کی اہلیہ کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت میں آیا اور انگوٹھی مانگی، انہوں نے یہ سمجھ کر کہ سلیمان ہیں، انگوٹھی دے دی، وہ یہ انگوٹھی لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جا بیٹھا، اور اس نے حکومت کرنی شروع کر دی، پھر سلیمان علیہ السلام تشریف لائے اور انگوٹھی مانگی، تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ سلیمان تو انگوٹھی لے گئے، حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ آزمائش کی گھڑی آگئی چالیس دن کے بعد وہ جن تخت سلیمان چھوڑ کر بھاگا، اور انگوٹھی سمندر میں پھینک دی، اسے کسی مچھلی نے نگل لیا، وہ مچھلی قدرت الہی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی اور آپ کو انگوٹھی اس کے پیٹ سے ملی، اس کے بعد آپ کی حکومت واپس ہوئی۔

اسی چالیس دن کے دوران جناتوں نے سحر کی کتابیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کر دی تھیں، اور ان کے انتقال کے بعد اسے انسانوں کے ذریعے نکلوا یا اور یہ بات پھیلا دی کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت اسی کے بل بوتے پر تھی، پھر تو لوگ اس ہوس میں کہ اس سے جنات و شیاطین مسخر ہوں گے، مخلوقات تابع فرمان ہوگی، ان کتابوں میں منہمک ہو گئے اور اللہ کی کتاب کو ترک کر دیا۔ انگوٹھی والا یہ قصہ شیخ جلال الدین محلی رحمہ اللہ نے سورہ ص کی تفسیر میں بیان کیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ قصہ بے بنیاد ہے، انبیاء کی شان اس سے بہت ارفع ہے کہ شیطان ان کی صورت میں آئے، اور ان کی حکومت کو چھین لے، یہ ایک بے بنیاد اسرائیلی قصہ ہے، قاضی عیاض اور دوسرے محققین نے فرمایا ہے کہ اس کا بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کی غلطی ظاہر کر دی جائے۔ جلالین شریف مطبوعہ ہند کے حاشیہ میں اس کی تردید اچھی طرح کر دی گئی ہے۔

او كانت تسترق السمع : سحر کی کتابوں کے سلسلے میں ایک قول تو وہ ہے جو او پر ذکر کیا گیا، دوسرا قول یہ ہے کہ جنات چوری چھپے فرشتوں کی باتوں کو سنتے تھے، اور ان میں سیلنٹروں جھوٹ ملا کر کاہنوں کو بتاتے تھے، کاہن ان باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنات علم غیب جانتے ہیں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ان سب کتابوں کو اکٹھا کر کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، ان کی وفات کے بعد شیاطین نے ان کتابوں کو نکلوا کر پھیلا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں علوم سحریہ کے بل بوتے پر حکومت کرتے تھے، جنات و شیاطین اور ہوا سب انہیں سے مسخر تھے، دیندار اور سمجھدار لوگ

تو اس سے دور رہے، مگر جاہ پرست اور حریص افراد اس پر ٹوٹ پڑے، اسی بنا پر عام یہودیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ساحر تھے، اور یہ بات پھر بعد کے طبقوں میں اور مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ جب قرآن پاک میں انبیاء کے زمرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آنے لگا، تو یہود نے ازراہ تعجب کہا کہ انظروا الی محمد یدکر سلیمان فی الانبیاء وما کان الا ساحرا۔ ذرا محمد کو دیکھو تو سہمی، یہ سلیمان کا ذکر انبیاء کے ذیل میں کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو محض جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی سحر کا عمل نہیں کیا۔

لانہ کفر: اصطلاح میں سحر اس کو کہتے ہیں جس میں شیاطین سے استعانت ہو، ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے اور لغت کے اعتبار سے سحر اس کو بھی کہتے ہیں، جن میں شیاطین سے استعانت نہ ہو، لیکن اثر سحر ہی جیسا ہو، یہ کفر نہیں ہے تاہم اصطلاح میں اسے سحر نہیں کہا جاتا۔ یہ عزیمت ہے، رقیہ ہے، عملیات ہے۔ سحر جو کہ کفر ہے، اس کا سیکھنا بھی درست نہیں ہے، اور وہ سحر جو کفر نہیں ہے، اس کا بھی سیکھنا فتنہ سے خالی نہیں ہے۔

ويعلمونہم: ما انزل علی الملکین سے پہلے يعلمونہم کو ذکر کر کے مفسر نے تنبیہ فرمائی کہ وما انزل کا عطف السحر پر ہے۔

علی الملکین: ملک کے معنی فرشتہ کے ہیں، مفسر کے نزدیک یہ دو نیک آدمی تھے، جنہیں سحر کا علم دیا گیا تھا، تفصیل آگے آرہی ہے۔

ای الہماہ من السحر: ملکیں پر جو کچھ اتارا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں الہام کیا گیا، اور یہ علم جو انہیں الہام کیا گیا، سحر کا علم ہے، اور عطف کا تقاضا یہ ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت ہو، اس تقاضا کی بنیاد پر کہا جاسکتا ہے وہ سحر جو معطوف علیہ ہے، اس سے مراد سحر حرام ہے، جو کفر ہے، اور ما انزل سے مراد سحر حلال ہے، جو کفر نہیں ہے۔

وقریء بکسر اللام: الملکین کو لام کے کسرہ کے ساتھ الملکین بھی پڑھا گیا ہے، اور یہ شاذ قرأت ہے، اس کے معنی بادشاہ کے ہیں، صاحب فتوحات الہیہ نے لکھا ہے کہ الملکین سے مراد فرشتے نہیں، بلکہ دو صالح آدمی ہیں، ان کی صالحیت کی وجہ سے مجازاً انہیں ملک کہہ دیا گیا ہے، حضرت مفسر کے نزدیک یہی بات راجح ہے، اور اس کی تائید میں انہوں نے یہ شاذ قرأت نقل کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں بادشاہ تھے، ظاہر ہے کہ بادشاہ فرشتہ نہ رہا ہوگا، اور شاذ قرأت بمنزلہ خبر واحد کے ہوتی ہے، جس سے حقیقت و مجاز کی تعیین میں مدد ملی جاسکتی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن میں الملکین سے رجلین صالحین مراد لینے کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔

ہاروت و ماروت :۔ یہ دونوں لفظ عجمہ اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔

وقیل ملک انزلان :۔ دو فرشتوں کے معلم سحر ہونے کا قول الگ سے نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مفسر کی پہلی تفسیر کے مطابق وہ فرشتے نہیں تھے، یہاں ان کے فرشتے ہونے کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، لیکن ان فرشتوں کے سلسلے میں جو حکایت نقل کی جاتی ہے کہ فرشتوں نے بنی آدم کے معاصی کو دیکھ کر اللہ کے حضور اپنے سابق قول کو دہرایا تھا کہ اسی مخلوق کو آپ نے خلیفہ بنایا ہے، جس کے گناہوں کا یہ عالم ہے کہ سارے جہاں کو گناہوں سے بھر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان میں جو مادہ رکھا گیا ہے، اگر تم میں بھی وہی مادہ رکھ دیا جائے تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے، انھوں نے کہا سبحان اللہ ہم سے معصیت نہ ہوگی، اللہ نے فرمایا کہ اچھا اپنے میں سے دو فرشتوں کا انتخاب کر لو، انھیں میں وہی طبیعت عطا کر دوں جو بنی آدم کی ہے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، ان حضرات نے ہاروت و ماروت کا انتخاب کیا جو فرشتوں میں اپنی اطاعت و عبادت کے لحاظ سے ممتاز تھے، اللہ نے ان میں انسانوں کا جیسا مادہ رکھ کر زمین پر اتار دیا، انھیں اسم اعظم بھی سکھا دیا کہ دن بھر لوگوں کے درمیان رہو، ان کے معاملات دیکھو، ان کے فیصلے کرتے رہو، شام ہو جائے تو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر آجایا کرو، چنانچہ وہ ایسا ہی کچھ عرصہ تک کرتے رہے، پھر ایک دن ایک عورت زہرہ نامی ان کے پاس کوئی فریاد لیکر آئی، ان دونوں نے جب اس کا حسن و جمال دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گئے، پھر اس پر مختلف حیلوں سے ڈورے ڈالنے لگے، اس نے کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کر دو تو میں تمہاری ہوں، انھوں نے ایسا کر دیا، مگر اس نے دوسرا مطالبہ رکھ دیا کہ میرے خصم کو قتل کر دو، تب، انھوں نے یہ بھی کر دیا، اس نے پھر انکار کیا اور کہا کہ شراب پیو اور بت کو سجدہ کرو تب، انھوں نے یہ بھی پورا کر دیا، اس نے کہا کہ اس وقت تک نہیں، جب تک تم لوگ مجھے وہ بات نہ سکھا دو جسے پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے ہو، انھوں نے وہ بھی سکھا دیا، پس اس نے اسے پڑھا اور آسمان پر چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے مسخ کر کے ستارہ بنا دیا، پھر ان فرشتوں نے بھی آسمان پر جانا چاہا، اور اسم اعظم، پڑھا، مگر ان کے بازو گر گئے، اور وہ زمین سے اوپر نہ اٹھ سکے، وہ سمجھ گئے کہ ہم پر مصیبت آگئی، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا، انھوں نے ان سے دعا کی درخواست کی، انھوں نے دعا کی تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ دنیا کا عذاب اختیار کرو یا آخرت کا، انھوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب چاہے جتنا ہو، بہر حال ختم ہو جائیگا، اور آخرت کا عذاب کبھی ختم نہ ہوگا۔ انھوں نے دنیا کا عذاب اختیار کر لیا، پس انھیں بابل میں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔

یہ حکایت اسرائیلی ہے، اور عقل و نقل کے دلائل کے خلاف ہے، بالکل ناقابل قبول ہے۔

بلیۃ من اللہ للناس لیمتحنہم بتعلیمہ :۔ ان دونوں کے پاس جب کوئی سحر سیکھنے کے لئے جاتا تو اس

سے کہتے ہم تو محض ایک فتنہ ہیں، یعنی آزمائش ہیں، فتنہ اس کو کہتے ہیں جس میں ایک طرف سے شرک پہلو ہو، تو دوسری طرف سے خیر کا بھی پہلو ہو، تاہم شرک پہلو غالب ہوتا ہے، جیسے مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ مال اور اولاد، صاحب مال اور صاحب اولاد کیلئے باعث شر بھی ہے کہ ان کی وجہ سے آدمی مختلف معاصی اور مصائب میں گرفتار ہوتا ہے، اور خیر بھی ہے کہ ان سے بہت کچھ اچھے اور ضروری کام نکلتے ہیں، اسی طرح سے یہ دونوں اپنے کو یعنی اپنے علم کو فتنہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس علم میں کچھ شر ہے تو کچھ خیر بھی ہے، لیکن شر کس اعتبار سے ہے اور خیر کس اعتبار سے ہے؟ اس سوال کے جواب میں ایک بات وہ ہے، جسے حضرت مفسر علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے کہ فمن تعلمه کفر ومن ترکہ فہو مومن، شر اور خیر کی صورت اس کی تحصیل اور ترک کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ آزمائش کی ایک چیز ہے، اس کو جو حاصل کرے گا وہ شر میں مبتلا ہوگا، اور جو اسے ترک کرے گا، وہ خیر سے بہرہ ور ہوگا۔

لیکن تحصیل اور ترک کے اعتبار سے امتحان اور فتنہ کا معنی بعید معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہی تقریر اموال اور اولاد کے سلسلے میں کی جائے، اور یہ کہا جائے کہ مال اور اولاد فتنہ ہیں، پس جو انھیں حاصل کرے گا شر میں مبتلا ہوگا، اور جو انھیں ترک کرے گا وہ خیر سے بہرہ ور ہوگا، تو یہ تقریر قابل قبول نہ ہوگی۔

اس لئے اس کی مناسب تقریر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا یہ علم ایک امتحان ہے، اگر اسے سیکھ کر آدمی بر محل اور صحیح جگہ پر استعمال کرے گا، تو خیر ہوگا، اور اگر غلط جگہ استعمال کرے گا تو شر میں مبتلا ہوگا، لیکن اغلب یہ ہے کہ اس کو سیکھ کر آدمی کو اپنے اوپر قابو نہ ہوگا کہ ہمیشہ بر محل ہی استعمال کرے، بسا اوقات ایسا ہوگا کہ وہ غلط جگہ اور غلط ارادے سے اس کو کام میں لائے گا، اور نتیجہ کے اعتبار سے کفر میں جا پڑے گا، اس لئے ہوشیار رہو، کفر میں نہ پڑو، اگر سیکھنا ہے تو طے کرو کہ ہمیشہ بر محل کام میں لاؤ گے، لیکن اچھا یہ ہے کہ اسے سیکھو ہی مت کہ غلط کاری کا اندیشہ ہو۔

اس تقریر کی صورت میں اس علم کا تعلق سحر حرام سے نہ ہوگا، سحر حلال سے ہوگا یعنی عملیات و تعویذات کا علم جو رد سحر اور دفع اجنہ کیلئے کام میں لایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے، البتہ یہ علم بھی تاثیر سحر ہی جیسی رکھتا ہے، اگر کسی کا ارادہ غلط ہو، تو غلط مقاصد میں بھی اس سے کام لیا جاسکتا ہے، تلوار دشمن کو بھی کاٹی ہے اور دوست کو بھی کاٹ سکتی ہے، اسی طرح سے یہ علم بر محل بھی استعمال ہو سکتا ہے اور بے محل بھی! چنانچہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ عملیات و تعویذات کے عاملین کا علم اگرچہ فی نفسہ غلط نہیں ہے، مگر بسا اوقات غلط امور میں وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کی ایک مثال قرآن میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس علم سے وہ مرد و عورت میں تفریق و نفرت پیدا کراتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس علم کی وجہ سے آدمی عورتوں اور مال کے فتنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، سکھانے والوں نے اسی پر تنبیہ کی ہے۔

فلا تکفر بتعلمہ :۔ اس کو سیکھ کر کفر میں مبتلا مت ہونا، یہاں کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو ایمان کے مقابلے میں ہے، بلکہ معصیت مراد ہے جو بالآخر کبھی کفر کا سبب بن جاتی ہے، اور اس کا قرینہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء و زوجته، وہ لوگ ان سے کیا سیکھتے تھے؟ ایسی بات جس سے میاں بیوی میں تفریق پیدا کرائیں۔ ظاہر ہے کہ کفر کا مصداق ان کا یہ سیکھنا بھی ہے، لیکن کفر بمقابلہ ایمان نہیں ہے، بلکہ معصیت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس علم کو سیکھنا اور غلط ارادے سے اس کو عمل میں لانا کفر بمعنی معصیت ہے، جس کو امام بخاری علیہ الرحمہ کی اصطلاح میں کفر دون کفر کہنا مناسب ہے۔

آیت پر غور کرنے سے یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں، اس بنا پر راجح یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ شیاطین کے سحر کے مقابلے میں یہ دوسری طرح کا سحر تھا، جو اگرچہ فی نفسہ جائز ہے، مگر ہے باعث شر و کفر، اسی لئے شیاطین کو اس سے بھی دلچسپی تھی، اور وہ لوگوں کو دونوں طرح کا سحر سیکھنے کی ترغیب دیتے بلکہ سکھاتے، جو پورے طور سے ان کے پھندے میں آگیا، اسے تو خالص کفر یہ سحر ہی سکھاتے تھے، اور جو اپنے ایمان کے تقاضے سے اس سے بچنا چاہتا تھا، اس کے سامنے اس جائز سحر کو مزین کر کے پیش کرتے اور سکھاتے، لیکن نتیجہً دونوں طرح کے سحر کا مشترک اثر یہ ہوتا تھا کہ اول کے محض سیکھنے ہی سے اور دوسرے میں انہماک سے یا اس کے غلط استعمال سے آدمی کو کتاب اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، یہ نتیجہ جیسے اس زمانے میں ظاہر ہوتا تھا، آج بھی ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ جائز عملیات و عزائم اور تعویذات میں انہماک رکھنے والے کتاب اللہ سے غافل ضرور ہو جاتے ہیں،۔ واللہ اعلم

لام ابتداء معلقة لما قبلها :۔ علموا فعل متعدی بدو مفعول ہے اس کا اقتضایہ ہے کہ اس کے بعد والا اسم اس کا مفعول ہو، تو اس لحاظ سے من موصولہ کو اس کا مفعول اول ہونا چاہئے، لیکن اس پر لام ابتداء داخل ہو گیا ہے، جو علموا کے عمل سے مانع ہے، کیونکہ مفعول درمیان کلام میں ہوتا ہے، لام ابتداء کلام میں، پس یہ لفظ اس کا مفعول نہیں بن سکتا۔ اس لئے اس کا عمل معلق ہو گیا،۔ لمن اشتراہ، موصول صلہ سے مل کر مبتدا ہے اور مالہ فی الآخرة من خلاق۔ اس کی خبر ہے، اور پورا جملہ علموا کے دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہے۔

اختارہ او استبدلہ :۔ اشتری میں سے اگر عوض کے معنی کی تجرید کر لی جائے تو یہ اختار کے معنی میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کی کتاب سے ابتداء ہی سے کوئی تعلق نہیں رکھا، بلکہ سحر ہی کا علم سیکھا، اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر اشتری میں عوض کا معنی ملحوظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی کتاب اسے ملی، مگر اس نے اس کے عوض میں جادو کا علم لیا، وہ آخرت میں محروم ہوگا۔

ولبئس ما شرواہ :۔ اس کی شرح پہلے گزر چکی ہے۔

ان تعلموہ :۔ بئس کا مخصوص بالذم ہے۔

حقیقۃ ما تصیرون الیہ من العذاب : حضرت مفسر نے اس عبارت سے ایک بظاہر اشکال کا جواب دیا

ہے، اشکال یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اولاً یہ فرمایا کہ و لقد علموا لمن اشتراہ مالہ فی الآخرة من خلاق، انہیں معلوم ہے کہ جو شخص سحر کو خریدے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انہیں معلوم ہے کہ سحر کا انجام کیا ہوگا۔ اور بعد میں فرماتے ہیں، لو كانوا یعلمون، اگر جانتے تو نہ سیکھتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کے انجام کو نہیں جانتے، اس طرح اول و آخر میں تضاد محسوس ہوتا ہے۔

اس کا جواب مفسر نے مذکورہ بالا عبارت سے دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ انجام تو انہیں معلوم ہے کہ سحر سیکھنے والے کا آخرت میں حصہ نہیں ہے، مگر اس کے نتیجے میں جس عذاب سے وہ دوچار ہونے والے ہیں، اس کی حقیقت کو کہ وہ کتنا سخت اور دردناک ہے، نہیں جانتے، ورنہ اس کی جرأت نہ کرتے، اگر وہ اس عذاب کی حقیقت و واقعیت سے ذرا بھی واقف ہوتے تو سحر سیکھنے کے قریب بھی نہ جاتے۔

و جواب لو محذوف :- ولو انہم آمنوا واتقوا المثوبة من عند اللہ خیر میں لو کا جواب لمثوبة نہیں ہے، کیونکہ وہ کلام ابتدائی ہے، اور لام اس پر قسم کا ہے، پھر یہ کہ جیسے شرط کیلئے فعل استعمال ہوتا ہے اسی طرح جزا کے لئے بھی فعل ہی استعمال ہوتا ہے۔ پس لمثوبة جزا نہیں ہے، البتہ قرینہ جزا ہے، اس کی جزا لا یثبوا ہے انہیں ثواب عطا کیا جاتا۔

خیر مما شروا بہ انفسہم :- لمثوبة من عند اللہ مبتدا ہے، من، کائنة کے متعلق ہے اور خیر، خبر ہے، اور مما شروا، خیر اسم تفضیل سے متعلق ہے اور اس کا معمول ہے۔
انہ خیر لما آثروہ علیہ : انہ خیر یعلمون کا مفعول ہے، ضمیر ثواب کی طرف راجع ہے، جس کی تعبیر مثوبة سے کی گئی ہے، لما آثروہ علیہ شرط کی جزا ہے۔

﴿ مضامین آیات و تفسیر ﴾

اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی طبیعت اور ان کے مزاج کے فساد سے آگاہ کیا ہے، اور درحقیقت اس امت کو متنبہ کیا ہے کہ کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے بھی آدمی اپنی طبیعت کے فساد اور مزاج کے بگاڑ کی وجہ سے کس پستی اور گمراہی میں جا پڑتا ہے، اس سے ہمیشہ ہوشیار رہیں۔

مزاج کا بگاڑ ذرا دیکھئے، معلوم ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن حسد اور عناد کی وجہ سے اسے ماننا نہیں چاہتے تو اس کیلئے وجہ جواز یہ نکالتے ہیں کہ قرآن کو لانے والے چونکہ جبریل ہیں، اور وہ ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ پہاڑ کو انہوں نے ان کے اوپر لٹکا دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ہمہ وقت وہ ساتھ رہتے تھے، جس کی وجہ سے یہودی

انہیں نقصان نہ پہنچا سکے، پس وہ ہمارے دشمن ہیں، اور ہم ان کے دشمن ہیں، اس لئے ان کی لائی ہوئی بات کو ہم نہیں مان سکتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے، وہ اپنی دشمنی میں مرجائے، مگر وحی تو یہی لانے والے ہیں، اور اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے لانے والے ہیں، اور یہ وحی ہلاکت نہیں، خود ان کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، سامان ہدایت ہے، سراپا بشارت ہے، مگر ماننے والوں کیلئے، جو نہیں مانے گا، اس نے خود ہی اپنے کو اس کی ہدایت و بشارت کے دائرے سے خارج کر لیا، اور اگر کوئی شخص واقعی اللہ کا ملائکہ کا، جبریل و میکائیل کا دشمن ہے تو اسے سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ بھی اس کا دشمن ہے، اور یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ جبریل سے دشمنی کر کے میکائیل کی دوستی کا دم بھرا جائے، یہ دونوں تو ایک ہی طریق و مزاج پر ہیں، پھر ایک کی دشمنی اور ایک کی دوستی کا کیا معنی؟ اور یہود جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی خاص چیز نہیں لائے تو یہ بات نہیں ہے، ہم نے تو نہایت واضح آیات تمہارے پاس اتار دی ہیں، وہ اس درجہ واضح ہیں کہ ان کا انکار کوئی فاسق و معاند ہی کر سکتا ہے۔

درحقیقت یہود یوں کی یہ سخن سازیاں لایعنی ہیں، ان کا حال تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جب بھی اللہ سے یا نبی سے کوئی عہد کیا ہے تو اسے وفا کرنے کے بجائے توڑنے ہی کی ان کی تاریخ رہی ہے، اکثر ایمان سے محروم ہی رہے رہیں، آج بھی یہی حال ہوا کہ جب اللہ کی جانب سے اس کے رسول ان کے پاس پہنچے اور یہ نہیں کہ یہ رسول ان کے علوم اور ان کی کتاب کو غلط ٹھہراتے ہوں، بلکہ وہ صاف صاف تصدیق کرتے ہیں کہ توریت اور اس کے علوم اللہ ہی کی طرف سے ہے، تب بھی یہ اللہ کی کتاب یعنی توریت کے احکام کو پس پشت ڈال کر اس کے بھیجے ہوئے رسول کی تکذیب ہی کرتے ہیں۔ جیسے انہیں کچھ معلوم ہی نہیں، اور بجائے اللہ کی کتاب کے یہ دوسرے خرافاتی علوم میں منہمک ہو گئے، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں شیاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے عہد حکومت پر افتراء کر کے گھڑا ہے، یعنی یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سحر جانتے تھے، اور سحر ہی کے زور پر سب کو مسخر کر رکھا تھا، حالانکہ سحر تو کفر ہے، اور سلیمان ہرگز ہرگز کفر کرنے والے نہ تھے، کفر کرنے والے تو یہ شیاطین تھے، جو لوگوں کو سحر بھی سکھاتے تھے، اور وہ چیزیں بھی سکھاتے تھے جو بابل میں دو شخصوں یا فرشتوں پر اتاری گئی تھیں، یعنی انہیں الہام کی گئی تھیں، حالانکہ ان دونوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ان کے پاس ان کے علوم کو سیکھنے کیلئے جاتا تھا تو اسے سمجھاتے تھے کہ ہم اور ہمارا یہ علم جو سحر ہی کی ایک نوع ہے، ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، معلوم نہیں اس آزمائش سے تم کامیاب گزرو یا ناکام ہو جاؤ۔ اس لئے خبردار اسے سیکھ کر کفر میں نہ جا کرنا، وہ سیکھنے پر پھر بھی اصرار کرتے اور خوب قول و قرار اور عہد و پیمان کرتے۔ تو یہ حضرات انہیں کچھ سکھا دیتے، لیکن مزاج کی دنائت دیکھو کہ خاص طور سے اسی چیز کو اہتمام سے سیکھتے، جس سے میاں بیوی میں تفریق اور منافرت پیدا کرتے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سحر بذات خود موثر نہیں ہے، جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، ساحر کوئی نقصان نہیں

پہونچا سکتا اور یہ زیادہ تر وہی چیز سیکھتے ہیں جو ان کیلئے آخرت میں مضر ہے، نافع نہیں ہے، مزاج جب بگڑتا ہے، تو یہی ہوتا ہے کہ مفید چیزوں سے آدمی گھبراتا ہے، اور مضر چیزوں سے دلچسپی لیتا ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اس چیز کو جو اختیار کرے گا، وہ آخرت میں محروم ہی رہے گا بلاشبہ وہ جس کے عوض یہ اپنی آخرت فروخت کر رہے ہیں بہت بری ہے، لیکن انہیں اس عذاب کی ہولناکی کا علم نہیں ہے، جس سے یہ دوچار ہوں گے، ورنہ ایسی چیزوں کے قریب نہ پھٹکتے، اس کے بجائے اگر یہ ایمان لاتے، اور معاصی کو ترک کر کے تقویٰ اختیار کرتے، تو انہیں بڑا ثواب ہوتا، اور اللہ کا ثواب بہت ہی بہتر ہے، اگر اسے جانتے، تو اس پر دوسری چیزوں کو ترجیح نہ دیتے۔



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾ للنبی امر من المراعاة و كانوا يقولون له ذلك و هی بلغة اليهود سب من الرعونة فسروا بذلك و خاطبوا بها النبی فنهی المؤمنون عنها ﴿وَقُولُوا﴾ بدلها ﴿انظُرْنَا﴾ ای انظر الینا ﴿وَأَسْمَعُوا﴾ ما تؤمرون به سماع قبول ﴿وَاللَّكْفَرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ مؤلم هو النار ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ﴾ من العرب عطف علی اهل الكتاب و من للبیان ﴿أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ﴾ من زائدة ﴿خَيْرٍ﴾ وحی ﴿مِّن رَّبِّكُمْ﴾ حسداً لكم ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ﴾ نبوته ﴿مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ولما طعن الكفار فی النسخ وقالوا ان محمدا یامر اصحابه الیوم بامر و ينهی عنه غداً نزل ﴿مَا﴾ شرطیة ﴿نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ﴾ ای نزل حکمها اما مع لفظها او لا و فی قراءة بضم النون من أنسخ ای نامرک او جبرئیل بنسخها ﴿أَوْ نُنسِهَا﴾ نوخرها فلا نزل حکمها و نرفع تلاوتها او نوخرها فی اللوح المحفوظ و فی قراءة بلا همز من النسیان ای ننسکها و نمحها من قلبک و جواب الشرط ﴿نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ انفع للعباد فی السهولة او كثرة الاجر ﴿أَوْ مِثْلِهَا﴾ فی التكلیف و الثواب ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ و منه النسخ و التبديل و الاستفهام للتقیریر ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يفعل فیهما ما یشاء ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ای غیره ﴿مِنْ﴾ زائدة ﴿وَلِيٍّ﴾ یحفظکم ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ یمنع عذابه عنکم ان اتاکم و نزل لما ساله اهل مكة ان یوسعها و یجعل الصفا ذہبا ﴿أَمْ﴾ بل ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ﴾ ای ساله قومہ ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ من قولهم ارنا الله جهرة و غیر ذلك ﴿وَمَنْ يَتَّبِدْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾ ای یأخذه بدله بترك النظر فی الآيات البينات و اقتراح غیرها ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

أخطأ طريق الحق والسواء في الاصل الوسط ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ﴾ مصدرية ﴿يُرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا﴾ مفعول له كائنا ﴿مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ ای حملتهم عليه انفسهم الخبيثة ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ﴾ في التوراة ﴿الْحَقُّ﴾ في شان النبي ﴿فَاعْفُوا﴾ عنهم ای اتركوهم ﴿وَأَصْفَحُوا﴾ اعرضوا فلا تجاوزوهم ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ فيهم من القتال ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾ طاعة كصلوة وصدقة ﴿تَجِدُوهُ﴾ ای ثوابه ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿فِيحَازِيكُمْ بِهِ﴾ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا ﴿جَمَعَ هَائِدٍ﴾ أَوْ نَصَارَىٰ ﴿قَالَ ذَلِكَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ وَنَصْرَىٰ نَجْرَانَ﴾ لما تناظروا بين يدي النبي ﷺ ای قال اليهود لن يدخلها الا اليهود وقال النصارى لن يدخلها الا النصارى ﴿تِلْكَ﴾ المقولة ﴿أَمَانِيَهُمْ﴾ شهواتهم الباطلة ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ حجتكم على ذلك ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فيه ﴿بلى﴾ يدخل الجنة غيرهم ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ ای انقاد لامره وخص الوجه لانه اشرف الاعضاء فغيره اولىٰ ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ موحد ﴿فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ ای ثواب عمله الجنة ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ في الآخرة۔

ترجمہ

(اے ایمان والو!) نبی سے (راعنا مت کہو) مراعاة سے امر کا صیغہ ہے، حضرات صحابہ رسول اللہ ﷺ سے یہی لفظ کہہ کر خطاب کرتے تھے، اور یہ یہودیوں کی زبان میں ایک گالی ہے، جو رعونت سے ماخوذ ہے، وہ اس لفظ کو سن کر بہت خوش ہوئے، اور انھوں نے اسی لفظ سے آپ کو خطاب کرنا شروع کیا تو مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا گیا، یہ فرمایا گیا کہ اس کے بدلے میں (انظرنا کہو) یعنی ہماری جانب نظر فرمائیے (اور) سماع قبول سے اس بات کو (سنو) جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے (اور کافروں کیلئے دردناک عذاب ہے) یعنی آفت رسیدہ عذاب اور وہ جہنم ہے، (اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا نہیں چاہتے، اور نہ مشرکین) عرب (میں سے کوئی چاہتا) المشرکین کا عطف اہل کتاب پر ہے، اور من بیانہ ہے (یہ بات کہ تم لوگوں پر کوئی خیر کی چیز) یعنی وحی (تمہارے رب کی جانب سے اتاری جائے) یہ بات تم سے حسد کی وجہ سے ہے (اور اللہ اپنی رحمت) یعنی نبوت (کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں، مخصوص کر لیتے ہیں، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں) اور جب کفار نے نسخ کے سلسلے میں طعنہ دیا اور کہا کہ محمد اپنے اصحاب کو آج ایک بات کا حکم دیتے ہیں اور کل اسی سے منع کر دیتے ہیں، تو یہ مضمون نازل ہوا (جو بھی) ماشرطیہ ہے (آیت ہم منسوخ کرتے ہیں) یعنی اس کے حکم کو زائل کرتے ہیں، خواہ اس کے لفظ کے

ساتھ یا اس کے بغیر اور ایک قراءت میں نون کے ضمہ کے ساتھ نسخ سے ہے، یعنی ہم تمہیں یا جبریل کو اس کے نسخ کا حکم دیتے ہیں (یا ہم اسے موخر کرتے ہیں) یعنی اس کے حکم کو ختم نہیں کرتے، البتہ اس کی تلاوت کو اٹھا دیتے ہیں یا ہم اسے لوح محفوظ ہی میں چھوڑے رکھتے ہیں، اور ایک قرأت میں بغیر ہمزہ کے ہے، جو نسیان سے ماخوذ ہے، یعنی ہم وہ آیت تمہیں بھلا دیتے ہیں، اور تمہارے قلب سے محو کر دیتے ہیں، آگے شرط کا جواب ہے (تو ہم اس سے بہتر چیز لاتے ہیں) جو بندوں کیلئے زیادہ نفع بخش ہو سہولت میں یا کثرت اجر میں (یا) تکلیف و ثواب میں (اس کے مثل کو) لاتے ہیں۔ (کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ ہر شے پر قادر ہیں) اور اسی میں نسخ و تبدیل بھی داخل ہے، اور استفہام تقریری ہے (کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ ہی کیلئے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے) ان میں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں (اور تمہارے لئے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں) جو تمہاری حفاظت کرے (اور نہ کوئی مددگار ہے) جو ان کے عذاب سے تم کو روک سکے، اگر وہ آجائے۔

اور اگلی آیت اس وقت نازل ہوئی، جب آپ سے اہل مکہ نے سوال کیا تھا کہ مکہ کو اور کشادہ بنا دیں، اور صفا پہاڑی کو سونا بنا دیں (بلکہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بھی ویسا ہی مطالبہ کرو، جیسا موسیٰ سے مطالبہ کیا گیا تھا) یعنی ان کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا (اس سے پہلے) مثلاً ان کا یہ مطالبہ کہ ہمیں اللہ کو صاف صاف دکھائیے وغیرہ (اور جو کفر کو ایمان سے بدل لے) یعنی ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لے یعنی آیات بینات میں غور و تامل نہ کرے اور ان کے علاوہ دوسری نشانیاں تجویز کرے (تو وہ سیدھی راہ سے بہک گیا) یعنی حق کے راستے سے چوک گیا، اور سواء اصل میں بمعنی وسط ہے (اہل کتاب میں بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو، تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں) لو مصدر یہ ہے (اس حسد کی وجہ سے جو ان کے جی میں ہے) حسداً مفعول لہ ہے، یعنی اس پر ان کے خبیث نفسوں نے آمادہ کیا ہے (بعد اس کے کہ ان کے واسطے) توریت میں نبی ﷺ کی شان میں (حق واضح ہو چکا ہے، پس ان سے درگزر سے کام لو) یعنی انھیں چھوڑ دو (اور ان سے اعراض کرو) انھیں کوئی سزا نہ دو (یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ) ان کے سلسلے میں (اپنا امر) ان سے جنگ کرنے کا (لائیں، بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو بھی چیز تم اپنے آپ کے لئے آگے بھیجو گے) جیسے نماز اور صدقہ (اس کو) یعنی اس کے ثواب کو (اللہ کے پاس پاؤ گے، بیشک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو، اسے دیکھتے ہیں) پس تم کو اس پر بدلہ دیں گے (اور انھوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا، مگر وہ جو یہودی ہو،) ہود جمع ہے ہاند کی (یا نصرانی ہو) یہ بات مدینہ کے یہود نے اور نجران کے نصاریٰ نے اس وقت کہی تھی، جب دونوں حضور اکرم ﷺ کے سامنے مناظرہ کر رہے تھے، یعنی یہودیوں نے کہا کہ جنت میں یہودیوں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا، اور نصاریٰ نے کہا کہ نصاریٰ کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہوگا (یہ) قول (ان کی خواہشات باطلہ) کی بنیاد پر (ہے تم) ان سے (کہو کہ) اس بات پر (تم اپنی دلیل پیش

کرو، اگر تم) اس میں (سچے ہو، کیوں نہیں) جنت میں ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی داخل ہوں گے (جو بھی اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے) یعنی اس کے امر کی اطاعت کرے، اور خصوصیت سے چہرے کو اس لئے ذکر کیا کہ وہ اشرف الاعضاء ہے، جب وہ جھکا، تو دوسرے بدرجہ اولیٰ جھکیں گے (اور وہ محسن) یعنی موحد ہو تو اس کیلئے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے) یعنی اس کے عمل کا ثواب ہے یعنی جنت (اور) آخرت میں (ان پر خوف نہ ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے)

﴿ تشریحات ﴾

لذنبی : اس لفظ کا اضافہ اس لئے کیا ہے کہ مطلقاً رعنا کہنے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اس لفظ سے نبی ﷺ کو خطاب نہ کرو۔

امر من المراعاة : راع، مراعاة سے امر کا اصیغہ ہے، اس کے معنی ہیں ہماری رعایت فرمائیے، حضرات صحابہ غایت ادب سے یہ جملہ رسول اللہ ﷺ سے کہتے تھے، مگر یہودیوں کی زبان میں یہ گالی کا لفظ تھا، رعونت سے مشتق ہے، بمعنی احمق، یہودیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان اس لفظ سے حضور کو مخاطب کرتے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بھی اس لفظ سے خطاب کرنا شروع کیا، اور دل میں مسرور ہوتے تھے کہ ہم گالی دے رہے ہیں، اور یہ اسے ادب سمجھ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کی زبان سمجھتے تھے، وہ بہت خفا ہوئے اور فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی زبان سے رسول اللہ ﷺ کے حق میں یہ لفظ نکلا تو گردن مار دوں گا، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی تو یہی بولتے ہیں، اس پر اس لفظ کے کہنے کی ممانعت نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ اس کے بدلے میں انظرنا کہو، یعنی انظر الینا، کیونکہ انظر کا صلہ الی آتا ہے، یعنی ہماری جانب توجہ فرمائیے۔

مولم : الیم کی تفسیر ہے، اس کی توجیہ شروع میں گزر چکی ہے۔

من للبيان : الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشركین میں من تبعیضہ نہیں ہے، بیان یہ ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد ان پر اہل کتاب اور مشرکین کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، وہ مومن ہوتے تھے، پس جو اہل کتاب اور مشرک ہیں، وہ کافر ہی ہیں۔

من خیر : یہ ان ینزل کا نائب فاعل ہے، اور من زائدہ ہے، من زائدہ گو کہ نفی کے تحت آتا ہے، اور یہاں لفظاً نفی نہیں ہے، لیکن معنائی موجود ہے، کیوں کہ ینزل، ما یود کے تحت ہے، جو کہ منفی ہے۔

ولما طعن الكفار : احکام و آیات کے نزول کے دور میں مصالِح اور احوال کے اقتضا کے مطابق آیات و احکام میں نسخ و ترمیم کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، مثلاً اس سے پہلی والی آیت میں ایک بات جو جائز تھی، یعنی راعنا کہنا، اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ فرما دیا، اس پر کفار نے اور غالب یہ ہے کہ یہودیوں نے طعنہ دیا کہ یہ کیسے پیغمبر

ہیں آج ایک بات جائز، کل وہی ناجائز، اگر اللہ کی طرف سے یہ کلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا علم تو بکل شئی محیط ہے، بدلنے کی ضرورت نہ پیش آتی، اس پر یہ آیت اتری۔

نسخ: نسخ کے معنی ازالہ اور نقل کے ہیں، کہا جاتا ہے نسخت الريح الاثر، ہوانے نقش قدم مٹا دیا، اور نسخت الكتاب، میں نے کتاب کو نقل کر لیا، اور آیت کے نسخ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قرأت یا اس کے حکم یا دونوں کی جو انتہا حق تعالیٰ کے علم میں متعین تھی، وہ ظاہر ہو جائے، اور اس وقت وہ قرأت یا حکم یا دونوں موقوف ہو جائیں۔

نزل حکمها اما مع لفظها: حکم بھی زائل ہو اور تلاوت بھی، اس کی مثال عشر رضعات معلومات یحرمن، اس کی تلاوت بھی منسوخ ہے اور اس کا حکم بھی۔

اولاً: یعنی حکم تو منسوخ، مگر تلاوت باقی ہو، جیسے والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً و صیۃ لازواجہم متاعاً الی الحول غیر اخراج، اس آیت سے متوفی عنہا کی مدت سال بھر کی متعین ہوتی ہے، اور شوہر کے ذمے وصیت کا وجوب معلوم ہوتا ہے، یہ دونوں حکم منسوخ ہیں، مگر تلاوت باقی ہے۔

تفسیر خازن میں ہے کہ قرآن میں نسخ تین طرح پر واقع ہے، ایک یہ کہ حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہوں، جیسے حضرت ابوامامہ بن سہلؓ سے منقول ہے کہ بعض حضرات نے ایک رات قرآن پڑھنے کے دوران ایک سورہ کو پڑھنا چاہا۔ تو بسم اللہ کے علاوہ کچھ یاد نہ آسکا، صبح یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورت حال بتائی تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ اپنی تلاوت اور اپنے حکم سمیت اٹھالی گئی ہے۔ اخراجہ البغوی، اور منقول ہے کہ سورہ احزاب، سورہ بقرہ کے مثل تھی، اس کے بعض حصے کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ کر دیا گیا، دوسرے وہ جس کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا حکم باقی ہے، جیسے آیت رجم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے محمد ﷺ کو حق کیساتھ بھیجا، اور آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی، تو منجملہ ان چیزوں کے جو آپ پر نازل ہوئیں، آیت رجم بھی ہے، ہم نے اسے پڑھا، اسے یاد کیا، اور سمجھا، اور رسول اللہ ﷺ نے رجم کیا، اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، مجھے اندیشہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر جائیگا تو کوئی کہنے والا کہے گا کہ ہم اللہ کی کتاب میں رجم کو نہیں پاتے، تو اللہ نے جو فریضہ نازل فرمایا ہے اس کو ترک کر کے لوگ گمراہ ہوں گے، اور بیشک رجم اللہ کی کتاب میں حق ہے، اس شخص پر جس نے زنا کیا، احسان کے بعد خواہ مرد ہو یا عورت جب کہ بینہ قائم ہو جائے، یا حمل ہو یا اعتراف ہو (بخاری و مسلم) تیسرے یہ کہ حکم منسوخ ہو اور تلاوت باقی، اس کی قرآن میں متعدد مثالیں ہیں، مثلاً اقر بین کیلئے وصیت کی آیت میراث کی وجہ سے منسوخ ہے، وغیرہ۔

و فی قرأۃ بضم النون :- ایک قرأت میں باب افعال سے ہے نمنسخ: اس کے معنی ہیں منسوخ کرانا مطلب یہ ہے کہ تم کو یا جبرئیل کو حکم دیتے ہیں کہ اسے منسوخ کر دو۔

او نمنسأھا نوخرھا :- مفسر نے جس قرأت کی بنیاد پر تفسیر کی ہے، وہ نمنسأ سے مشتق، بمعنی موخر کرنا، مفسر نے اس کا دو مطلب لکھا ہے، ایک یہ کہ ہم اس کی تلاوت منسوخ کر دیتے ہیں، اور اس کے حکم کو منسوخ نہیں کرتے، دوسرے یہ کہ ہم اسے لوح محفوظ ہی میں چھوڑے رکھتے ہیں، اس کا نزول روک لیتے ہیں۔

و فی قرأۃ بلا همزة :- ایک قرأۃ میں نسیان سے باب افعال سے ہے، اس صورت میں یہ متعدی بدو مفعول ہے، مفسر نے اس کو نمنسکھا کہہ کر ظاہر کر دیا ہے، کاف ضمیر مفعول اول ہے، اورھا مفعول ثانی۔

انفع للعباد فی السهولة :- جیسے پہلے دس کے مقابلہ میں جہاد کے اندر ایک شخص کے جمے رہنے کا حکم تھا، پھر اسے منسوخ کر کے دو کے مقابلہ میں ایک کے جمے رہنا کا حکم دیا گیا۔ ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین، اور الآن خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفاً فان یکن منکم مائة صابرة یغلبوا مائتین، ایک دشوار حکم کو منسوخ کر کے آسان حکم دیا جائے۔

او کثرة الاجر :- جیسے ابتدا میں روزہ اور فدیہ کے درمیان اختیار تھا، بعد میں روزہ متعین کر دیا گیا، والذین یطیقونہ فدیة طعام مسکین، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، اس آسان حکم کو منسوخ کر کے قدرے دشوار حکم دیا گیا ہے، لیکن اس میں اجر بہت زیادہ ہے۔

او مثلها فی التکلیف و الثواب :- جیسے بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ کیا گیا اور بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ نزل لما سألہ اهل مكة :- اس شان نزول پر اشکال ہے کہ یہ سورہ تو مدنی ہے، پھر اہل مکہ سے خطاب کا کیا موقع؟ دوسرے یہ کہ سلسلہ خطاب اہل مدینہ سے ہے، پھر درمیان میں اہل مکہ کی بات لانی خلاف سیاق معلوم ہوتی ہے، اس لئے اظہر یہ ہے کہ وہ خطاب یہودی ہی سے ہے، انھوں نے نبی ﷺ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ بھی قرآن اکٹھا اسی طرح پر لائیے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام توریت کو لائے تھے۔

حسداً مفعول له کائنا من عند انفسهم :- حسداً یردونکم کا مفعول لہ ہے، اور من عند انفسهم کائنا کے متعلق ہو کر حسداً کی صفت ہے۔

ای قال اليهود لن یدخلها الا اليهود :- اللہ تعالیٰ کے ارشاد و قالوا لن یدخل الجنة الا من کان ہوداً او نصاریٰ میں دو کلاموں کی تلفیق ہے، واقعہ یہ ہے کہ مدینہ میں جب نجران کے عیسائی آئے تو یہود مدینہ سے ان کا مناظرہ ہو گیا، یہودی اپنے کو حق پر کہتے اور نصاریٰ کے دین کو ہیچ قرار دیتے اور نصاریٰ اپنے کو برحق کہتے اور یہود کے دین کو غلط قرار دیتے، اور ہر ایک نے یہی کہا کہ ہمیں جنت میں جائیں گے، تو یہودیوں نے کہا

کہ لن یدخل الجنة الا من كان هوداً، اور نصاریٰ نے کہا لن یدخل الجنة الا من كان نصاریٰ، اللہ نے ان دونوں کے کلام کو سمیٹ کر یوں فرمایا، وقالوا (اے الیہود والنصاریٰ) لن یدخل الجنة الا من كان هوداً (وہذا قول الیہود) او نصاریٰ (ہذا قول النصاریٰ) اور ایسا اس وقت کہا جاتا ہے، جب بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اور سامع کی فہم پر اعتماد ہوتا ہے۔
 ہوداً:۔ ہائد کی جمع ہے۔

محسن:۔ اے موحد:۔ احسان بمعنی توحید، کیونکہ اصل احسان وہی ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

زیر نظر رکوع میں سابق سلسلہ بیان کے مطابق یہودیوں اور کفار کی بعض چھچھوری حرکتیں اور اونچھے اعتراضات ذکر کئے گئے ہیں، اور ان کی اصلاح کی گئی ہے۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ کو جب اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تو انتہائی ادب ملحوظ رکھتے ہوئے راعنا کہتے کہ حضرت: ہماری رعایت فرمائیے، اتفاق سے یہ لفظ یہودیوں کی مذہبی زبان میں گالی کا لفظ تھا، یہ ان کی دنائت کی بات ہے کہ اس سے وہ بہت خوش ہوئے، اور آپ کی خدمت میں آ کر اسی لفظ سے آپ کو خطاب کرنے لگے، صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ بھی ادب کا لحاظ رکھتے ہیں، مگر وہ اندر اندر خوش ہوتے تھے کہ خوب بیوقوف بنایا، لیکن انہیں شاید احساس نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، اللہ نے اس لفظ ہی سے منع فرما دیا، اور حکم دیا کہ اس کے بجائے انظرنا کہا کرو، یعنی ہم پر نظر فرمائیے، اور ارشاد ہوا کہ ہمارے احکام کو سنو اور مانو اور نہ ماننے والوں یعنی کافروں کیلئے دردناک عذاب ہے، یہ اہل کتاب اور یہ مشرکین ان سب کو حسد ہے، یہ نہیں چاہتے کہ اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے کوئی چیز یعنی کلام الہی نصیب ہو، حالانکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، جس کو چاہتے ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم بہت زبردست ہے۔

جب اور کچھ بس نہیں چلا تو یہود اور کفار یہ طعنہ دینے لگے کہ یہ اللہ کے نبی ہونے کے مدعی ہیں، اور حال یہ ہے کہ آج ایک بات کا حکم کرتے ہیں، اور کل اس سے منع کر دیتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے یہ کلام ہوتا تو یہ نسخ و تبدیلی نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اس کا جواب حق تعالیٰ نے عنایت فرمایا کہ جب بھی کوئی آیت منسوخ ہوتی ہے، تو اس کے عوض میں اس سے بڑھ کر یا اس کے مثل کوئی دوسری آیت عطا کی جاتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون سا حکم کب تک کیلئے ہے، وہ اس وقت کے پورا ہونے کے بعد اسے اٹھالیتے ہیں، نسخ کی تفصیلات تشریحات میں گزر چکی ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، تو کیا نسخ و تبدیلی اس سے

خارج ہے، اور کیا یہ نہیں معلوم کہ آسمان وزمین کی ساری حکومت اللہ کی ملکیت میں ہے، اور خدا کے علاوہ نہ کوئی کسی کا کارساز ہے، نہ حامی و ناصر ہے کہ آتے ہوئے عذاب سے کسی کو بچالے، جب یہ ہے تو ایسے مہمل اعتراضات سے بچنا چاہئے، آخر کیا چاہتے ہو، کیا اپنے رسول سے ایسا ہی مطالبہ کرنا چاہتے ہو، جیسا مطالبہ موسیٰ (علیہ السلام) سے ان کی قوم نے کیا تھا کہ اللہ کو آنکھوں سے دکھاؤ، اس کا کلام سنو، تو سن لو اس طرح کے سوالات گستاخی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں کفر ہیں، اور جو شخص ایمان کو ترک کر کے کفر لے گا، اور واضح آیات سے صرف نظر کر کے دوسرے مطالبات رکھے گا تو اس نے سیدھی راہ کھودی، بہت سے اہل کتاب اپنے حسد کی بنا پر چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی کفر میں لوٹالائیں، حالانکہ ان کے سامنے تورات کی تعلیمات کی روشنی میں حق بالکل واضح ہے، جب بغض و حسد کا یہ حال ہے تو ان سے صرف نظر کرو، اور کسی سزا کی فکر میں مت پڑو، اللہ تعالیٰ ہی کوئی حکم ان کے بارے میں نازل فرمائیں گے، اللہ کو بڑی قدرت ہے، تم لوگ تو نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور خوب سمجھ لو جو بھی نیک عمل اپنے واسطے اللہ کے دربار میں بھیج دو گے، اس کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر کام پر نظر رکھتے ہیں، پھر ان کی فرقہ بندی دیکھو جو یہودی ہے وہ مدعی ہے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور جو عیسائی ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف عیسائی جنت میں جائے گا، یہ محض ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ، جی نہیں، جنت میں یہود اور نصاریٰ کا کوئی کام نہیں ہے، جو بھی اللہ کا فرمانبردار ہوگا، اور وحدانیت پر قائم ہوگا، اس کیلئے اس کے رب کے پاس جنت کی صورت میں اجر ہوگا، اور ان پر کسی طرح کا خوف و حزن نہیں ہوگا۔



﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ معتد بہ و کفرت بعیسے ﴿وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ معتد بہ و کفرت بموسیٰ ﴿وَهُمْ﴾ ای الفریقان ﴿يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ المنزل علیہم و فی کتاب الیہود تصدیق عیسیٰ و فی کتاب النصاریٰ تصدیق موسیٰ و الجملة حال ﴿كَذَلِكَ﴾ کما قال هولاء ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ای المشرکون من العرب و غیرہم ﴿مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ بیان لمعنی ذلک ای قالوا کل ذی دین لیسوا علی شئی ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ من امر الدین فیدخل المحق الجنة والمبطل النار ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ ای لا احد اظلم ﴿مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ بالصلوة والتسبیح ﴿وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ بالهدم او التعطیل نزلت اخباراً عن الروم الذین خربوا بیت المقدس او فی المشرکین لما صدوا النبی ﷺ عام

الحديبية عن البيت ﴿أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ خبر بمعنى الامر اى اخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها احدآ منآ ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ هو ان بالقتل والسبى والجزية ﴿وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ هو النار ونزل لما طعن اليهود فى نسخ القبلة او فى صلوة النافلة على الراحلة فى سفر حيثما توجهت ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ اى الارض كلها لانهما ناحيتاها ﴿فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا﴾ وجوهكم فى الصلوة بامرہ ﴿فَتَمَّ﴾ هناك ﴿وَجْهَ اللَّهِ﴾ قبلته التى رضىها ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ﴾ يسع فضله كل شئى ﴿عَلِيمٌ﴾ بتدبير خلقه ﴿وَقَالُوا﴾ بواو و دونها اى اليهود والنصارى ومن زعم ان الملائكة بنات الله ﴿اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ قال تعالى ﴿سُبْحٰنَهُ﴾ تنزيها له عنه ﴿بَلْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ ملكا وخلقا و عبيدا والملكية تنافى الولادة وعبر بما تغليباً لما لا يعقل ﴿كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ مطيعون كل ما يراد منه وفيه تغليب العاقل ﴿بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ موجودهما لا على مثال سبق ﴿وَإِذَا قُضِي﴾ اراد ﴿أَمْرًا﴾ اى ايجاده ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ اى فهو يكون و فى قراءة بالنصب جوابا للامر ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ اى كفار مكة للنبي ﷺ ﴿لَوْلَا﴾ هلا ﴿يُكَلِّمُنَا اللَّهُ﴾ انك رسوله ﴿أَوْ تَاتِينَا آيَةً﴾ مما اقترحناه على صدقك ﴿كَذٰلِكَ﴾ كما قال هولاء ﴿قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من كفار الامم الماضية لانيائهم ﴿مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ من التعنت و طلب الآيات ﴿تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ فى الكفر والعناد فيه تسلية للنبي ﷺ ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ يعلمون انها آيات فيؤمنون بها فافتراح آية معها تعنت ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ يا محمد ﴿بِالْحَقِّ﴾ بالهدى ﴿بَشِيرًا﴾ من اجاب اليه بالجنة ﴿وَنَذِيرًا﴾ من لم يجب اليه بالنار ﴿وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ النار اى الكفار ما لهم لم يؤمنوا انما عليك البلغ و فى قراءة بجزم تسئل نهيا ، ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ دينهم ﴿قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ﴾ الاسلام ﴿هُوَ الْهُدَىٰ﴾ وما عداه ضلال ﴿وَلَسِنِ﴾ لام قسم ﴿اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ التى يدعونك اليها فرضا ﴿بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ الوحي من الله ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ يحفظك ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ يمنعك منه ﴿الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ مبتدأ ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ اى يقرؤنه كما انزل والجملة حال وحق نصب على المصدر والخبر ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ نزلت فى جماعة قدموا من الحبشة واسلموا ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ﴾ اى بالكتاب المؤتى بان

يَحْرَفُهُ ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿لَمَصِيرِهِمْ إِلَى النَّارِ الْمَوْبُودَةِ عَلَيْهِمْ﴾۔

ترجمہ

(اور یہود نے کہا کہ نصاریٰ کسی) معتد بہ (چیز پر نہیں ہیں) اور انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا (اور نصاریٰ نے کہا کہ یہودی کسی معتد بہ (چیز پر نہیں ہیں) اور انھوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا (حالانکہ وہ) دونوں فریق اس (کتاب کو) جو ان پر اتری ہے (پڑھتے ہیں) اور یہود کی کتاب میں حضرت عیسیٰ کی تصدیق موجود ہے، اور نصاریٰ کی کتاب میں حضرت موسیٰ کی تصدیق موجود ہے، یہ جملہ حالیہ ہے (ایسا ہی) یعنی جیسا ان لوگوں نے کہا ایسا ہی (ان لوگوں نے بھی کہا، جو علم نہیں رکھتے) یعنی مشرکین عرب وغیرہ (انہیں کے قول کے مثل) یہ ذلک کے معنی کا بیان ہے، یعنی ہر دین والے کے متعلق انھوں نے کہا کہ وہ کسی چیز پر نہیں ہیں (پس اللہ فیصلہ کریں گے، ان کے درمیان قیامت کے دن اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے) یعنی دین کے متعلق، پس اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں داخل کریں گے (اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا) یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے (جو اللہ کی مسجدوں میں اس بات سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے) یعنی نماز اور تسبیح کے واسطے سے (اور) انھیں ڈھا کر یا معطل کر کے (انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے) یہ آیت ان رومیوں کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے بیت اللہ کو برباد کیا یا مشرکین کے بارے میں اتری ہے، جب انھوں نے حدیبیہ کے سال میں نبی ﷺ کو بیت المقدس میں جانے سے روک دیا تھا (یہ لوگ وہ ہیں کہ ان میں ان کا داخلہ مناسب نہیں ہے بجز اس کے وہ خوفزدہ ہوں) یہ خبر امر کے معنی میں ہے، یعنی ان کو جہاد کے ذریعے سے خوفزدہ کر دو، وہ مسجدوں میں مطمئن اور مامون ہو کر داخل نہ ہوں (ان کے لئے دنیا میں) قتل اور قید اور جزیہ کی (رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے) وہ جہنم ہے، اور اگلی آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ یہود نے قبلہ کے منسوخ ہونے پر طعنہ دیا تھا۔ یا یہ کہ دوران سفر سواری پر نفل نماز پڑھنے کے بارے میں اتری ہے، وہ جدھر بھی رخ کرے، نماز نفل ہو جائے گی (اور اللہ ہی کی ملکیت میں مشرق و مغرب ہیں) یعنی پوری زمین، کیونکہ مشرق و مغرب اس کے دونوں کنارے ہیں (پس جدھر بھی) نماز میں ان کے حکم سے اپنا چہرہ (پھیر لو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے) یعنی ان کا قبلہ ہے، جس سے وہ راضی ہیں (بیشک اللہ وسعت والے ہیں) اس کا فضل ہر شی کی وسعت رکھتا ہے، اپنی مخلوق کی تدبیر کو (جاننے والے ہیں اور انھوں نے کہا) واو کے ساتھ اور بغیر واو کے، یعنی یہود و نصاریٰ نے اور ان لوگوں نے جن کا گمان یہ ہے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں (کہ اللہ نے اولاد بنا لیا ہے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا (وہ) اس سے (پاک ہیں بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب) ملکیت اور خلقت اور بندہ ہونے کے اعتبار سے (انہیں کیلئے ہیں) اور ملکیت ولادت کے منافی ہے، اور ما سے تعبیر کرنا غیر عاقل کی

تغلیب کے طور پر ہے (ہر ایک ان کا فرمانبردار ہے) جس کام کا ان سے ارادہ کیا گیا، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اس میں عاقل کی تغلیب ہے (آسمان وزمین کو) بغیر سابق نمونہ کے (پیدا کرنے والے ہیں، اور جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں) یعنی اس کے وجود میں لانے کا (تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہو جا پس ہو جاتی ہے) یعنی وہ چیز ہو جاتی ہے، اور ایک قرأت میں فیکون کے نصب کے ساتھ ہے، امر کا جواب ہے (اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے) یعنی کفار مکہ (انہوں نے) نبی ﷺ سے (کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں بات کرتے) کہ آپ اللہ کے رسول ہیں (یا آپ ہمارے پاس کوئی) ایسی (نشانی کیوں نہیں لاتے) جو آپ کی صداقت کے سلسلے میں ہم تجویز کرتے ہیں (ایسے ہی) یعنی جیسے ان لوگوں نے کہا اسی طرح (ان لوگوں نے بھی کیا جو ان سے پہلے) گذشتہ امتوں کے کفار (تھے) اپنے انبیاء سے (انہیں جیسی بات کہی) یعنی طلب آیات اور زیادتی کی بات (ان کے قلوب) کفر اور عناد میں (باہم مماثل ہیں) اس میں نبی ﷺ کیلئے تسلی ہے (بلاشبہ ہم نے یقین رکھنے والوں کیلئے آیات بیان کر دی ہیں) وہ جانتے ہیں کہ یہ آیات ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے دوسری کسی نشانی کا مطالبہ کرنا تعنت ہے، اے محمد! (ہم نے تم کو حق) و ہدایت (کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم) اس شخص کو جو اسے قبول کرے جنت کی (بشارت دینے والے ہو اور) جو اسے نہ مانے اسے جہنم سے (ڈرانے والے ہو، اور تم سے اہل جہنم کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی) یعنی کفار کے متعلق نہیں پوچھا جائیگا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے، تمہارے ذمے تو صرف پیغام کا پہونچا دینا ہے، اور ایک قرآۃ میں تسلسل جزم کے ساتھ، نبی کا صیغہ ہے (اور تم سے اس وقت تک نہ یہود راضی ہوں گے اور نہ نصارے، جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو گے) یعنی ان کے دین کی (تم کہدو کہ بے شک اللہ کی ہدایت) یعنی اسلام (ہی ہدایت) اور اس کے ماسوا گمراہی ہے (اور اگر) بالفرض (تم ان کی) ان (خواہشات کی پیروی کرو گے) جن کی طرف وہ تمہیں دعوت دیتے ہیں، لام قسم کی ہے (بعد اس کے کہ تمہارے پاس) اللہ کی طرف سے (علم) یعنی وحی کے ذریعہ علم (آچکا ہے، تو تمہارے لئے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست نہیں ہوگا) جو تمہاری حفاظت کر سکے (اور نہ کوئی مددگار ہوگا) جو تمہیں اس سے بچا سکے (وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی) مبتدا ہے در انحالیکہ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں) یعنی جس طرح وہ اتاری گئی ہے، ٹھیک اس کے مطابق پڑھتے ہیں، اور جملہ حالیہ ہے، اور حق کا نصب مصدر ہونے یعنی مفعول مطلق ہونے کے باعث ہے، آگے خبر ہے (یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں) یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو حبشہ سے آئے تھے، اور مسلمان ہو گئے تھے (اور جو اس کا) یعنی اس کتاب کا جو انہیں دی گئی ہے (انکار کریں) یعنی اس میں تحریف کریں (تو یہی لوگ خسارہ میں ہیں) کیونکہ وہ اس آگ میں پہونچیں گے، جو ان کے اوپر ہمیشہ قائم رہے گی۔

﴿ تشریحات ﴾

معتدبہ : . علی شئی میں شئی سے مراد دین ہے، اور اس کی صفت محذوف ہے، مطلق دین کی نفی مراد نہیں، بلکہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کسی قابل التفات دین پر نہیں ہیں۔

کذلک : کاف محل نصب میں ہے، صفت ہے مصدر محذوف کی، اسے اس کے عامل پر بقصد حصر مقدم کیا گیا ہے، یعنی قولاً مثل ذالک القول بعینہ لا قولاً مغایراً لہ، اس میں عامل قال ہے جو اس کے بعد ہے۔

امی لا احد اظلم : . من اظلم میں استفہام انکاری ہے، اس لئے اس کی تفسیر میں لا احد اظلم کہا۔

بالهدم او التعطیل : مسجد کی ویرانی دو طرح سے ہے، ایک یہ کہ مسجد کی عمارت کو منہدم کر دیا جائے، دوسرے یہ کہ اس میں نماز پڑھنے والوں کو داخل نہ ہونے دیا جائے اور جس مقصد کیلئے وہ تعمیر ہوئی ہے، اس کام سے روکا جائے، چنانچہ رومیوں نے بیت المقدس کے متعدد حصوں کو منہدم کر دیا تھا، اور کفار مکہ نے رسول اللہ ﷺ کو اور آپ کے صحابہ کو بیت اللہ شریف میں جانے سے روک دیا تھا۔

خبر بمعنی الامر : . اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین ، یہ جملہ خبریہ ہے، مگر معنی میں جملہ انشائیہ کے ہے، یعنی اس میں امر کا معنی ہے، مطلب یہ ہے کہ انھیں جہاد و قتل سے اتنا خوفزدہ کر دو کہ وہ کسی مسجد میں مطمئن ہو کر داخل نہ ہوں، روکنا تو درکنار، بلکہ ڈرتے ہوئے آئیں۔

ھوان بالقتل : یہ دنیا کی ذلت کا بیان ہے کہ قتل ہوں، گرفتار ہوں، جزیہ دے کر زندہ رہنے کا حق حاصل کریں۔

او فی صلاة النافلة : نفل نماز شہر کے باہر اگر سواری پر پڑھی جائے تو جائز ہے، خواہ جانور کا رخ کسی طرف ہو۔

ای الارض کلھا : . مشرق و مغرب زمین کے دو کنارے ہیں، ان دونوں کی ملکیت جب خدا کو ہے تو پوری زمین کی ملکیت خدا کو حاصل ہے۔

بواو : . قالو ا سے پہلے ایک قرأت میں واو عطف ہے، اس کا معطوف علیہ ومن اظلم الخ کا مضمون ہے، اور ایک قرأت میں بغیر واو کے ہے۔

ای الیھود والنصارى : ، یہود کا خیال تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصاریٰ کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اور مشرکین کا گمان تھا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

والمملکیۃ تنافی الولادة : مالک ہونا اولاد ہونے کے منافی ہے، یعنی باپ اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہو سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، پس اس کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، ورنہ اس پر ملکیت ثابت نہ ہوگی۔

عبر بما تغلیبا لما یعقل : . تغلیب عربیت کی ایک اصطلاح ہے، جہاں ایک سیاق میں مذکر و مونث، یا

عاقِل و غیر عاقِل دونوں کیلئے ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے کو اس کے تابع کر دیا جاتا ہے، بل لہ ما فی السموات والارض میں ما کا استعمال ہوا ہے، یہ لفظ غیر عاقِل کیلئے استعمال ہوتا ہے، اور عاقِل کیلئے من کا کلمہ بولا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آسمان وزمین میں صرف غیر عاقِل ہی نہیں ہیں، عقلاء بھی ہیں، اور وہ بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں، تو یہاں عاقِل کو غیر عاقِل کے تابع کر کے استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد کل لہ قانتون میں عاقِل کی تغلیب ہے، کیونکہ قانتون جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، جو عقلاء کے لئے مختص ہے۔

مطیعون کل بما یرادمنہ :۔ ہر شے جس مقصد کیلئے پیدا ہوئی ہے، اس مقصد کے پورا کرنے میں وہ اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے۔

واذا قضی اراد :۔ قضی کی تفسیر میں اراد کا لفظ لا کر قضا کا معنی متعین کیا ہے، قضی کا بنیادی معنی پورا کرنے اور ختم کرنے کیلئے آتا ہے، اس کی رعایت سے اس کے متعدد معانی ہو جاتے ہیں، قضی بمعنی خلق ہوتا ہے، جیسے فقضاہن سبع سموات بمعنی اعلم ہوتا ہے، وقضینا الی بنی اسرائیل، بمعنی امر آتا ہے، جیسے وقضی ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ، بمعنی وفی آتا ہے، فلما قضی موسی الاجل، بمعنی الزم آتا ہے جیسے قضی القاضی بكذا اور اراد آتا ہے جیسے واذا قضی امراً اور بمعنی قدر و امضی آتا ہے، جیسے یقضی قضاء یہاں بمعنی اراد ہے۔

ای ایجادہ : ارادہ کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، کسی شے سے نہیں، اس لئے امر کی تفسیر میں ایجادہ فرمایا۔

ای فہو یكون :۔ کن فیکون میں فیکون رفع کے ساتھ مبتدا محذوف ہو کی خبر ہے، یہ مستقل جملہ ہے۔

وفی قراءۃ بالنصب جواباً للامر :۔ ایک قرأت میں فیکون منصوب ہے، اس صورت میں یہ کن فعل امر کا جواب ہے، اس سے پہلے ان مقدر ہوگا۔

لولاہلا :۔ یہ لولا بمعنی ہلا حرف تخیض ہے۔

الجحیم :۔ شدت کے ساتھ بھڑکنے والی آگ

وفی قراءۃ لا تسأل نہیاً :۔ ایک قرأت میں یہ فعل نہیں ہے معروف ہے، یعنی ان کا حال آخرت میں کیا ہوگا مت پوچھئے۔

مالک من اللہ من ولی ولا نصیر :۔ یہ قسم کا جواب ہے، اور شرط کی جزا محذوف ہے، قاعدہ یہ ہے کہ قسم اور شرط جمع ہو جاتی ہے، تو موخر کا جواب محذوف ہوتا ہے۔

یقرؤونہ کما انزل :۔ حق تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے کتاب اتری ہے بغیر کسی ترمیم و تحریف کے پڑھتے ہیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ اور مشرکین کی باہمی کشمکش اور ان کی غلطی کو بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ یہود اس کے مدعی ہیں کہ وہی برحق ہیں، نصاریٰ کا دین معتبر نہیں، نصاریٰ کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، یہود کچھ نہیں ہیں، حالانکہ دونوں فرقے اہل کتاب ہیں، اور کتاب الہی میں ہر چیز مفصل مذکور ہے، خیر یہ تو پڑھے لکھے ہیں، ان بے علم مشرکین کو دیکھو، یہ دونوں کو لاکارتے ہیں کہ تم لوگوں کا دین کچھ نہیں ہے، غرض ہر فرقہ، دوسرے کو باطل قرار دیتا ہے، اب اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، جو جنت میں گیا، سمجھو کہ وہ برحق تھا، اور جس کیلئے جہنم کا فیصلہ ہوا، وہ اہل باطل میں سے تھا، اور دنیا میں ہی ان کا حق و باطل ہونا دیکھنا ہو، تو دیکھو کہ مسجدیں جو اللہ کا نام لینے ہی کیلئے تعمیر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص ان میں اللہ کا نام لینے سے، نماز پڑھنے سے، تسبیح پڑھنے سے رکاوٹ ڈالے، خواہ انھیں منہدم کرے، خواہ ان میں نماز پڑھنے والوں کو آنے سے روکے، جیسا کہ رومی عیسائیوں نے بیت المقدس کے ساتھ انہدام کا سلوک کیا، اور کفار مکہ نے بیت اللہ شریف میں نبی ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آنے سے روکا، بھلا اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے، اور ایسے ظالم کیا حق پر ہوں گے؟ انھیں تو مسجدوں میں داخلہ کا حق ہی نہیں، بجز اس کے کہ لرزاں و ترساں داخل ہوں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے انھیں اتنا خوفزدہ کر دینا چاہئے کہ مسجدوں سے روکنا تو درکنار، ان میں بلا خوف و خطر داخل بھی نہ ہو سکیں۔ یہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی عذاب عظیم میں گرفتار ہوں گے۔

انھیں اعتراض ہے کہ قبلہ میں تبدیلی کیوں کی گئی..... تحویل قبلہ کا مفصل ذکر آگے آ رہا ہے.....
یا یہ کہتے ہیں کہ جب قبلہ متعین ہو گیا، تو سفر میں سواری پر نفل ہی سہی نماز کیسے ہو جائے گی، جب کہ وہ ادھر ادھر رخ کرتی رہتی ہے، اس پر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق و مغرب سب کے مالک اللہ ہی ہیں، اس لئے جس طرف بھی نماز میں ان کے حکم سے رخ کیا جائے گا، وہی قبلہ ہوگا، اصل تو ان کا حکم ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے، وہ اپنی مخلوق کی تدبیرات سے خوب واقف ہیں۔

یہ اپنے حق پر ہونے کے مدعی ہیں، اور حال یہ ہے کہ یہ تینوں گروہ اللہ کیلئے بیٹا بیٹی ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات اس سے پاک اور برتر ہے، اس افتراء کے ہوتے ہوئے یہ کتنے حق پر ہیں، ظاہر ہے خدا کے اولاد کیا ہوتی، وہ تو زمین و آسمان جو کچھ بھی ہے سب کے مالک و خالق اور مولیٰ ہیں، سب ان کے مملوک و مخلوق اور غلام ہیں، کیا بیٹا بھی ملکیت میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو بڑے صاحب قدرت ہیں، آسمان و زمین سب کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا ہے، اور جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بس صرف اتنا کہتے ہیں

کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، انھیں نہ اسباب مہیا کرنے ہیں، نہ انھیں ترکیب دینی ہے۔ یہ بے علم اور جاہل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دو بدو گفتگو کر کے کیوں نہیں بتا دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو نشانیاں اور معجزات ہم کہتے ہیں، انھیں آپ دکھا دیتے۔ اس طرح کی بات پچھلے لوگوں نے بھی اپنے انبیاء سے کہی تھی، اور ان سے زبردستی معجزات کا مطالبہ کیا تھا، اگلے اور پچھلے گمراہوں کے قلوب میں کتنی یکسانیت ہے، صاف بات یہ ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو تو ہم آیات و معجزات سب واضح کر سکتے ہیں، اب کوئی چیز باقی نہیں ہے، اتنے کے ہوتے ہوئے مزید معجزات کی طلبگاری، محض عناد و سرکشی ہے، ہم نے تم کو اے پیغمبر حق و صداقت عنایت کر کے بھیجا ہے، تمہارا منصب یہ ہے کہ جو ایمان لائے، اسے جنت کی بشارت دو اور جو نہ مانے اسے جہنم کا خوف دلاؤ، اس کے آگے اس کی فکر میں نہ پڑو کہ ان کی طلب کردہ آیات ظاہر کر دی جائیں کہ شاید یہ مسلمان ہو جائیں، اگر کوئی جہنم میں جائیگا تو تم سے اس کی پوچھ نہ ہوگی، کہ جہنم میں کیوں گیا، تمہاری ذمہ داری تو پیغام کے پہنچانے کی ہے، اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہود و نصاریٰ تم سے خوش اور راضی رہیں تو ان کی طبیعتوں میں اس درجہ کجی اور فساد ہے کہ جب تک ان کی ملت کی پیروی نہ کرو گے، یہ ہرگز راضی نہ ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جو ہدایت تمہارے پاس بھیجی ہے، یعنی دین اسلام، ہدایت تو بس وہی ہے، اس کے علاوہ سب گمراہی ہے، تو گویا اگر تم گمراہ ہو جاؤ تو یہ خوش ہوں گے، اسی سے یہ اپنے دین کی حقیقت معلوم کر لیں، اور اگر تم بالفرض ان کی خواہشات کی پیروی کر لو، اور واقعی ان کا دین ان کی تحریفات کے بعد کوئی دین تو رہا نہیں، بس ان کی خواہشات کا مجموعہ ہے، تو تمہارے پاس سچا علم بذریعہ وحی آچکا ہے، اگر اس کے بعد بالفرض محال تم نے ان کی خواہشات کا اتباع کر لیا تو سمجھ لو کہ تمہیں کوئی ایسا دوست نہ ملے گا جو تمہیں اللہ کی گرفت سے اپنی حفاظت میں لے لے، اور نہ کوئی ایسا حامی و ناصر ملے گا، جو اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا لے، ہاں جو لوگ ایسے ہیں کہ انھیں کتاب ملی، اور جیسی ملی ویسی ہی وہ پڑھتے ہیں، اس میں ذرا بھی تغیر و تبدل نہیں کرتے، یہ لوگ واقعی ایسے ہیں جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں حبشہ کے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ سے مدینہ آئے تھے اور انھوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جو لوگ کتاب اللہ کے حق میں کفر کی راہ اختیار کریں گے اور اس میں تحریف و ترمیم کریں گے، سراسر خسارہ میں پڑیں گے۔



﴿يَسْنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ كُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾
 تقدم مثله ﴿وَاتَّقُوا﴾ خافوا ﴿يَوْمًا لَا تَجْزِي﴾ تغني ﴿نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ﴾ فيه ﴿شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ﴾
 مِنْهَا عَدْلٌ ﴿فَدَاءٌ﴾ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿يَمْنَعُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾ وَ﴿اذْكَرْ﴾

﴿إِذِ ابْتَلَىٰ﴾ اختبر ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ و في قراءة ابراهام ﴿رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾ باوامرو نواه كلفه بها قيل هي مناسك الحج وقيل المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الراس وقلم الاظفار و نتف الابط وحلق العانة والختان والاستنجاء ﴿فَاتَمَّهُنَّ﴾ اداهن تامات ﴿قَالَ﴾ تعالى له ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ قدوة في الدين ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ اولادى اجعل ائمة ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي﴾ بالامامة ﴿الظَّالِمِينَ﴾ الكافرين منهم دل على انه يناله غير الظالم ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ﴾ الكعبة ﴿مَثَابَةً لِّلنَّاسِ﴾ مرجعا يثوبون اليه من كل جانب ﴿وَأَمْنَا﴾ مامنا لهم من الظلم والاغارات الواقعة في غيره كان الرجل يلقي قاتل ابيه فيه فلا يهيجه ﴿وَاتَّخَذُوا﴾ ايها الناس ﴿مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾ هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت ﴿مُصَلًّى﴾ مكان صلوة بان تصلوا خلفه ركعتي الطواف و في قراءة بفتح الخاء خبر ﴿وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ امرناهما ﴿أَنْ﴾ اي بَأَنْ ﴿طَهَّرَا بَيْتِي﴾ من الاوثان ﴿لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾ المقيمين فيه ﴿وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ جمع راعع و ساجد المصلين، ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا﴾ المكان ﴿بَلَدًا آمِنًا﴾ ذا امن و قد اجاب الله دعاءه فجعله حراما لا يسفك فيه دم انسان ولا يظلم فيه احد ولا يصاد صيده ولا يختلج خلاله ﴿وَارزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ و قد فعل بنقل الطائف من الشام وكان اقفر لازرع به ولا ماء ﴿مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ، بدل من اهله و خصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله لا ينال عهدي الظالمين ﴿قَالَ﴾ تعالى ﴿وَأَرْزُقْ﴾ مَنْ كَفَرَ فَاْمْتَعُهُ ﴿بِالتَّشْدِيدِ﴾ والتخفيف في الدنيا بالرزق ﴿قَلِيلًا﴾ مدة حياته ﴿ثُمَّ اضْطَرَّه﴾ الجئه في الآخرة الى عذاب النار فلا يجد عنها محيصا ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ المرجع هي ﴿و﴾ اذكر ﴿إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ﴾ الاسس او الجدر ﴿مِنَ الْبَيْتِ﴾ بينه متعلق بيرفع ﴿وَإِسْمَاعِيلَ﴾ عطف على ابراهيم يقولان ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ بناء نا ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ﴾ للقول ﴿الْعَلِيمُ﴾ بالفعل ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ﴾ منقادين ﴿لَكَ﴾ و ﴿اجْعَلْ﴾ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا ﴿أَوْلَادِنَا﴾ امة ﴿جماعة﴾ مُسْلِمَةً ﴿لَكَ﴾ و من للتبعيض و اتى به لتقدم قوله لا ينال عهدي الظالمين ﴿وَأَرْنَا﴾ علمنا ﴿مَنَاسِكَنَا﴾ شرائع عبادتنا او حجنا ﴿وَوُتِبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ سالاه التوبة مع عصمتهمما تواضعا و تعليما لذريتهما ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ﴾ اي اهل البيت ﴿رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ من انفسهم و قد اجاب الله دعاءه بمحمد صلعم ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ﴾ القرآن

﴿وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ الْقُرْآنَ ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ يَطَهِّرُهُمْ مِنَ الشَّرِكِ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ﴾ الْغَالِبُ ﴿الْحَكِيمُ﴾ فِي صَنْعِهِ۔

﴿تَرْجُمَهُ﴾

(اے اسرائیل کی اولاد، میرے احسان کو یاد کرو، جو میں نے تم پر کیا ہے، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو سارے جہان پر فضیلت دی تھی) اس جیسی آیت گزر چکی ہے (اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس دوسرے کے حق میں کچھ کام نہیں آئیگا اور نہ اس سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دیگی۔ اور نہ ان کی مدد کی جائیگی) یعنی نہ انھیں اللہ کے عذاب سے بچایا جائے گا، (اور) یاد کرو اس وقت کو (جب کہ ابراہیم کو ان کے رب نے آزما یا) اور ایک قرأت میں ابراہام ہے (چند باتوں میں) یعنی چند اوامرو انہی میں، جن کا انھیں مکلف بنایا، کہا گیا ہے کہ وہ مناسک حج تھے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کرنا، مسواک کرنا، مونچھوں کو کتر وانا، سر میں مانگ نکالنا، ناخنوں کو کاٹنا، موئے بغل کو اکھاڑنا، زیر ناف کو صاف کرنا، ختنہ کرنا اور استنجا کرنا ہے (پس انھوں نے انھیں پورا کیا) یعنی پورے طور سے انھیں ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے (فرمایا بے شک میں تمہیں) دین میں (لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، عرض کیا اور میری اولاد میں بھی) پیشوا بنائیے (فرمایا) امامت کا (میرا وعدہ ظالموں کو) یعنی ان میں سے کافروں کو (نہیں حاصل ہوگا) اس سے معلوم ہوا کہ یہ وعدہ غیر ظالم کو حاصل ہو سکتا ہے (اور جب ہم نے بیت کو) یعنی کعبہ کو (لوگوں کیلئے لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا) یعنی ایسا مرکز بنایا، جہاں لوگ بار بار آتے ہیں، ظلم و غارت گری سے جو دوسری جگہوں پر ہوتی رہتی ہے، پناہ کی جگہ بنایا کہ وہاں آدمی اپنے باپ کے قاتل کو پاتا ہے، لیکن اسے نہیں چھیڑتا (اور) اے لوگو (مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو) یہ وہ پتھر ہے، جس پر بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، اس کے پیچھے طواف کی دو رکعتیں پڑھو، اور ایک قرأت میں واتخذوا ماضی کا صیغہ ہے، جملہ خبریہ ہے، (اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا) یعنی ان دونوں کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کیلئے) بتوں سے (پاک رکھو) رکع، راع کی جمع ہے، اور سجد ساجد کی مراد نماز پڑھنے والے ہیں) اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب اس (جگہ کو) امن والا شہر بنائیے (اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ اس کو حرم قرار دیا، جس میں کسی انسان کا خون نہیں کیا جاسکتا، نہ اس میں کسی پر ظلم کیا جاسکتا، نہ اس کا شکار مارا جاسکتا، اور نہ اس کی گھاس کاٹی جاسکتی) (اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عنایت فرمائیے) چنانچہ اللہ نے یہ بھی کر دیا، ملک شام سے طائف کو یہاں منتقل کر دیا، جب کہ وہ بے آب و گیاہ جگہ تھی (اس شخص کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے) یہ اہلہ سے بدل ہے،

اور دعائیں ان کی تخصیص اس لئے کی کہ حق تعالیٰ کے ارشاد لا ینال عہدی الظالمین کی موافقت ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے (فرمایا اور اس شخص کو بھی) میں روزی دوں گا (جو کفر کرے گا، پس اسے میں) دنیا میں روزی کا (فائدہ، ایک مدت قلیلہ تک) یعنی زندگی بھر (پہو نچاؤں گا) امتعہ تشدید اور تخفیف کے ساتھ ہے۔ (پھر) آخرت میں (جہنم کے عذاب کی جانب اسے کھینچوں گا) اور وہ اس سے نجات کی کوئی شکل نہیں پائے گا (اور برا ٹھکانہ ہے) وہ (اور) یاد کرو (جب گھر کی بنیادوں کو) یاد یواروں کو (ابراہیم اور اسمعیل بلند کر رہے تھے) یعنی تعمیر کر رہے تھے، من البیت، یرفع سے متعلق ہے، وہ دونوں کہہ رہے تھے (اے ہمارے رب ہم سے) ہماری تعمیر کو (قبول فرما لیجئے، بلاشبہ آپ) باتوں کو (سننے والے اور) کاموں کو (جاننے والے ہیں، اے ہمارے رب ہم کو اپنا فرمانبردار بنا لیجئے، اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی فرمانبردار ایک امت) بنا لیجئے، من تبعیض کے لئے ہے، اور اسے اس لئے لائے کہ پہلے حق تعالیٰ ان سے ارشاد فرما چکے تھے کہ لا ینال عہدی الظالمین (اور ہم کو ہمارے مناسک) یعنی عبادت کے یا حج کے ارکان و طرق (سکھائیے، اور ہم پر توبہ قبول کر کے عنایت فرمائیے، بلاشبہ آپ توبہ قبول فرمانے والے رحم و کرم کرنے والے ہیں) ان دونوں حضرات نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی درخواست باوجودیکہ معصوم ہیں، تواضع کی وجہ سے، اور اپنی اولاد کو تعلیم دینے کے واسطے کی، (اے ہمارے رب اور ان میں) یعنی بیت اللہ کے باشندوں میں (انہیں میں سے ایک رسول بھیجئے) اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور محمد ﷺ کو بھیجا (جو انہیں آپ کی آیات پڑھ کر سنائے) یعنی قرآن اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے (یعنی قرآن کی اور جو کچھ اس میں احکام ہیں (اور انہیں) شرک سے (پاک کرے، بیشک آپ غلبہ والے) اپنے کام میں (حکمت والے ہیں)

تشریحات

باوامر و نواہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جن باتوں میں ہوئی، وہ باتیں کیا تھیں، مفسرین کے اس میں مختلف قول ہیں، مفسر نے فرمایا وہ چند اوامر و نواہی تھے، یہ قول مجمل ہے، اس کی تفصیل میں ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ حج کے ارکان ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ وہ دس چیزیں ہیں جنہیں حدیث میں خصال فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ دس یہ ہیں (۱) کلی کرنا (۲) ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کرنا (۳) مسواک کرنا (۴) مونچھوں کا کتر وانا (۵) سر میں مانگ نکالنا (۶) ناخنوں کو کاٹنا (۷) بغل کے بال اکھیڑنا (۸) زیر ناف کو صاف کرنا (۹) ختنہ کرنا (۱۰) استنجاء کرنا۔

ایک قول اور بھی ہے، اسے حضرت مفسر نے نقل نہیں کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پہلا امتحان ستاروں، چاند اور سورج کے بارے میں لیا، انہوں نے اچھی طرح غور کیا، اور صحیح راہ تلاش کی، اس کا تذکرہ

ساتویں پارے میں ہے، دوسرا امتحان آگ میں ڈالے جانے کے ذریعے ہوا، اس پر انھوں نے صبر کیا، تیسرا امتحان بڑی عمر میں ختنہ کا حکم دے کر ہوا، چوتھا امتحان بیٹے کے ذبح کرنے کا ہوا، پانچواں امتحان ہجرت کے حکم کا ہوا، ان سب پر وہ قائم رہے، اس قول میں یہی پانچ چیزیں مذکور ہیں، لیکن یہ بطور حصر کے نہیں ہیں، بلکہ بطور مثال کے ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ بڑھاپے میں اولاد ہوئی تو حکم ہوا کہ اس کو بھی اور اس کی ماں کو بھی اپنے سے دور ایک بے آب و گیاہ وادی میں جہاں کوئی آبادی نہیں ڈال آؤ، چنانچہ وہ بے تکلف وہاں پہنچا آئے، یہ سب کام مشکل ترین کام تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام ان سب میں پورے اترے۔

قدوة فی الدین :- دین میں پیشوا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے سب ان کی اولاد میں آئے اور سب کو حکم تھا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔

لا ینال عہدی الظالمین : عہد کی تفسیر مفسر نے وعدہ امامت سے کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علی علیہ السلام کو امام ہی بنانے کا وعدہ کیا تھا، یہ امامت کیا ہے؟ بجز نبوت کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لئے دوسرے حضرات نے اس کی تفسیر میں نبوت ارشاد فرمایا ہے، دونوں کا حاصل ایک ہی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ وعدہ امامت و نبوت، ظالموں کو نہیں ملے گا، ظالم کی تفسیر مفسر نے کافر سے کی ہے، اور واقعی ظالم کافر کامل، کافر ہی ہے، لیکن یہ ظلم کا آخری مرتبہ ہے۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشئی فی غیر محلہ کو، یعنی بے محل کوئی کام کرنا، اس کے درجات بہت ہیں، اس کا ادنیٰ درجہ گناہ صغیرہ ہے، اس آیت میں ظالم سے نبوت و امامت کی نفی کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں ظلم کا کوئی درجہ بھی موجود ہوگا، وہ نبوت سے سرفراز نہ ہوگا، معلوم ہوا کہ نبی وہ ہوگا، جس میں گناہ صغیرہ بھی نہ ہو، اس آیت سے عصمت انبیاء کا ثبوت ملتا ہے، چنانچہ مفسر نے فرمایا کہ دل علی انہ ینالہ غیر الظالم، نبوت کو غیر ظالم پاسکتا ہے۔

مثابة : اصل میں مثوبة ہے، واو کی حرکت ماقبل کو دے کر واو کوالف سے بدل دیا، یہ اسم مصدر ہے، یا اسم ظرف، دونوں قول ہے، تاء کو بعض لوگوں نے تاء تانیث قرار دیا ہے، اور بعض لوگوں نے تاء مبالغہ، بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ، مرکز

مامنا لهم من الظلم :- عرب میں قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا، مگر حرم کے احترام میں وہاں نہ لوٹ مار ہوتی تھی، نہ کوئی حملہ آور ہوتا، حتیٰ کہ حرم میں کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا تھا تو صرف نظر کر لیتا تھا، وہاں کچھ چھیڑ چھاڑ نہ کرتا تھا۔

مقام ابراہیم :- مقام ابراہیم جنت کا ایک پتھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں اونچی ہو گئیں تو انھوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی ہلکا پتھر اٹھا لاؤ، وہ یہی پتھر

لائے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو اس کا سینہ نرم ہو گیا، اور اس میں ان کے قدم کا نشان پڑ گیا، وہ حسب ضرورت بلند اور پست ہوتا رہتا تھا، تعمیر کعبہ کے مکمل ہونے کے بعد اس پتھر کو خانہ کعبہ کے قریب رکھ دیا گیا، حکم دیا گیا کہ اس کے پیچھے طواف کی دو رکعتیں اس طرح پڑھی جائیں کہ نمازی اور خانہ کعبہ کے درمیان مقام ابراہیم پڑے۔

وفی قراة: ایک قراة میں اتخذوا فعل امر کے بجائے فعل ماضی ہے۔

امرناہما: عہدنا کے معنی عہد لینا: اس کا ترجمہ مفسر نے امرنا سے کیا ہے، اس میں تاکید کا معنی شامل ہے، یعنی امرنا امرامو کداً۔

رب اجعل هذا المكان: مفسر نے ہذا کا اشارہ المكان کی جانب متعین کر کے اس بات پر تشبیہ کی ہے کہ یہ دعا شہر مکہ کی آبادی سے پہلے کی گئی ہے، دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ رب اجعل هذا البلد آمناً، یہ غالباً مکہ کی آبادی کے بعد کی دعا ہے۔

لا یسفک فیہ دم انسان: حرم میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ بطور قصاص کے ہو، اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم سے باہر جائے، پھر اس پر قصاص جاری ہوگا، لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک حرم میں قصاص کے طور پر قتل کرنا جائز ہے۔ یہ اختلاف اس صورت میں ہے، جب حرم کے باہر قتل کیا ہو، اور حرم میں پناہ گزین ہو گیا ہو اور اگر کسی نے حرم میں ہی قتل کیا ہو تو اس کے قصاص میں اسے حرم میں بالاتفاق قتل کیا جاسکتا ہے۔

ولا یظلم فیہ احد: ظلم تو ہر جگہ معصیت ہے، مگر حرم میں اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ، ان السيئات تضاعف فیہ کالحسنات

وقد فعل بنقل الطائف: مکہ شہر کے قریب کوئی زمین قابل کاشت نہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں والوں کیلئے پھل کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ملک شام، جو کہ نہایت سرسبز شاداب ملک ہے، اس کی زمین کا ایک حصہ اٹھا کر مکہ کے قریب رکھ دیا، اور یہاں کی زمین وہاں پہنچا دی، یہی زمین طائف کہلاتی ہے، وہاں پر ہر طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں، اہل مکہ کی وہاں زمینیں تھیں، باغات تھے، گرمیوں کے موسم میں امراء مکہ طائف چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں ٹھنڈک پڑتی ہے۔

حصہم بالدعاء لهم موافقة لقوله: رزق کی دعا میں خاص اہل ایمان کا نام لیا، کیونکہ امامت کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی نفی کر دی تھی، اسی کی موافقت میں جب انھوں نے رزق کی دعا کی تو کفار کو از خود دعا کے دائرے سے خارج کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بخشش عام میں انھیں بھی داخل رکھا۔

قلیلاً مدة حیاته: زندگی کی مدت، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، اس لئے اسے قلیل ہی کہا

جائے گا۔

یسنیہ :- یہ یرفع کا ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ نے یرفع اس لئے فرمایا کہ بنیاد پہلے سے موجود تھی، اس پر عمارت کو اٹھانا ہی تھا، خود بنیاد رکھنی نہیں تھی۔

متعلق بیرفع :- من البیت کو مفسر نے یرفع کے متعلق قرار دیا ہے۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ من البیت، القواعد کی صفت ہو، یعنی القواعد التی ہی من البیت۔

امے اهل البیت :- یہ فیہم کی ضمیر کا مرجع ہے، یعنی بیت اللہ کے باشندے۔

قد اجاب اللہ دعاه بمحمد ﷺ :- حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اس کا ظہور یوں ہوا کہ حضرت محمد ﷺ کو اللہ نے نبی بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں ہوا۔

ما فیہ من الاحکام :- قرآن کریم کے اجمال میں جو احکام و شرائع اور علوم و معارف ہیں، جن سے نفوس کے تزکیہ کی تکمیل ہوتی ہے، وہ حکمت ہے، جب رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے ان امور کا بیان ہو گیا تو آپ کا بیان سنت کہلایا، اس لئے بعض حضرات نے حکمت کی تفسیر سنت سے کی ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع جس کا آغاز یسنی اسرائیل اذ کروا نعمتی التی الخ، سے ہوا تھا، وہاں سے چودھویں رکوع تک حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی ایک شاخ بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، ان پر جو جو احسانات فرمائے، انھیں یاد دلایا، ان کی زیادتیاں، کج رویاں، اور ان کے فساد مزاج کو بیان فرمایا، ان کی اصلاح فرمائی، انھیں دعوت ایمان دی۔ اور ان کے اس گمان باطل کی تردید فرمائی کہ اللہ کا فضل و انعام انھیں کے ساتھ مخصوص ہے، اب زیر نظر رکوع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی دوسری شاخ بنی اسماعیل کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اس کے امتیازات و خصائص کو بیان فرماتے ہیں، اور چونکہ اسی شاخ میں آخری پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، اور وہ ساری کائنات کیلئے نبی ہیں، اس لئے بنی اسرائیل کو نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ اس بیان کا آغاز بھی انھیں کے خطاب سے کیا گیا ہے، اور درمیان درمیان میں بھی ان کو متوجہ فرمایا گیا ہے، اور انھیں کے علم کو ان پر پیش کیا گیا ہے، تاکہ کچھ تو غیرت آئے، اور جس نبی کے اوپر ایمان لانے کا بہت پہلے قول و قرار ہو چکا ہے، اسے مان لیں، چنانچہ ارشاد ہے کہ اے بنی اسرائیل کی اولاد! اللہ نے تم پر کتنے احسانات کئے ہیں، انھیں یاد کرو، اور اس سخت دن سے خوف کھاؤ جس میں کوئی بھی کسی کافر شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ اس کا فدیہ قبول ہوگا، نہ اس کی کوئی مدد ہوگی، اور اپنے جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، جب انھیں ان کے پروردگار نے متعدد

باتوں میں آزما یا، اور وہ سب میں پورے اترے تو اللہ نے انھیں بشارت دی کہ تمہیں لوگوں کا پیشوا بنایا جائے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی عنایت کو متوجہ پایا، تو اپنے ساتھ اپنی اولاد کو شامل فرمانا چاہا، عرض کیا کہ پروردگار میری اولاد کو بھی یہ رتبہ عطا فرمائیے، ارشاد ہوا کہ ظالم کو تو یہ رتبہ نہیں ملے گا، باقی ہماری بخشش و عنایت ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی امامت و پیشوائی کا ظہور کہاں کہاں ہوتا ہے، اسے دیکھو، انھوں نے اپنی ایک اولاد حضرت اسماعیل کو ایک بے آب و گیاہ سرزمین پر پہاڑیوں کے سلسلے کے درمیان آباد کیا، اور وہاں اللہ کا گھر بنایا، اس گھر کو اللہ نے لوگوں کیلئے ایک عظیم مرکز بنا دیا۔ اور لوگوں کی نگاہیں اس پر لگی رہتی ہیں، وہاں لوگ بار بار آتے ہیں، اور آنے کے اشتیاق میں رہتے ہیں، اور اسے ایسی محبوبیت بخشی کہ اسے لوگوں کیلئے امن و امان کا گہوارہ بنا دیا، کہیں بھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری ہو، مگر یہ جگہ محفوظ رہے گی، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بھی آپس میں نہیں الجھتے، یہیں وہ مبارک پتھر ہے، جس پر ابراہیم علیہ السلام تعمیر بیت اللہ کے وقت کھڑے ہوتے تھے، اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھا کرو، ابراہیم و اسماعیل کو ہمارا حکم تھا کہ اس جگہ اطراف و اکناف سے لوگ طواف کیلئے اعتکاف کیلئے، نماز پڑھنے کیلئے، بہت کثرت سے آئیں گے، خبردار اس گھر میں بتوں کا دخل نہ ہو، ان سے پاک ہی رہے، تاکہ خالص اللہ کی عبادت ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار! اس جگہ کو آپ محفوظ شہر بنا دیجئے، اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے ان باشندوں کو جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اس جگہ کو حرم بنا دیا کہ یہاں نہ خون بہایا جاسکتا ہے، نہ ظلم کیا جاسکتا ہے، نہ شکار کھیلا جاسکتا ہے، اور نہ یہاں کی گھاس کاٹی جاسکتی ہے، البتہ رزق کے عطیہ میں امامت والی تخصیص نہ ہوگی۔ روزی تو سب کو ملے گی، لیکن جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کریں گے، ان کو ہماری طرف سے رزق کا یہ فائدہ بس ایک قلیل مدت کیلئے یعنی زندگی کی مہلت بھر رہے گا، پھر اس کے بعد ہمیشہ کیلئے جہنم کی سزا ہے، حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور ملک شام کی سرزمین کا ایک ٹکڑا وہاں سے نکال کر مکہ کے قریب پہونچا دیا جسے طائف کہتے ہیں، یہ بہت شاداب علاقہ ہے اور وہاں ہر طرح کے باغات اور پھل ہیں، پہلے مکہ میں زیادہ تر پھل فروٹ طائف سے آیا کرتے ہیں، اب تو ساری دنیا سے سمٹ سمٹ کر پھل مکہ مکرمہ میں پہونچتے رہتے ہیں۔

مکہ مکرمہ کیلئے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور قبول ہوئیں، ان میں تقدس اور پاکیزگی کا نکھار آیا، مزید اس کی عظمت و شرف کی بنیاد یہ بنی کہ حق تعالیٰ نے انھیں حکم دیا کہ اللہ کا گھر جسے ابتداء فرشتوں نے پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، پھر طوفان نوح کے بعد اس کی بنیادیں زمین میں پوشیدہ ہو گئی تھیں، حکم ہوا کہ اس کی بنیادوں پر عمارت از سر نو تعمیر کرو، فرشتے نے آکر بنیاد دکھائی، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل

علیہ السلام باپ بیٹے نے مل کر اس کی تعمیر کا آغاز کیا، دونوں کے مقدس ہاتھ تعمیر میں مصروف تھے، زبانیں دعاؤں سے تر تھیں، کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہماری اس تعمیر کو قبول فرما لیجئے، بلاشبہ آپ سننے اور جاننے والے ہیں۔ اور اے پروردگار! ہم کو بھی اپنا فرمانبردار بنائیے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو فرمانبردار بنائے رکھئے، اور ہمیں عبادت کے طریقے اور حج کے ارکان سکھا دیجئے، اور مہربانی فرما کر ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، آپ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں، اولاد میں سے ایک جماعت کی فرمانبرداری کا سوال اس لئے کیا کہ لاینال عہدی الظالمین سے انھیں اشارہ مل چکا تھا کہ سب لوگ فرمانبردار نہ ہوں گے۔

پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اس کے باوجود انھوں نے توبہ کی درخواست کی۔ ایسا انھوں نے از راہ تواضع کیا، اور امت کو توبہ کی تعلیم دینی بھی مقصود تھی، اس وقت یہ بھی دعا کی کہ اے پروردگار! میری اولاد جو یہاں آباد ہے، ان کے درمیان انھیں کے اندر سے ایک رسول کو مبعوث فرمائیے، جو انھیں آپ کی آیات پڑھ کر سنائے، انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے۔

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور آخری پیغمبر حضرت محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ اور اس کے باشندوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور مخاطب بنی اسرائیل کو بنایا ہے، انھیں دعوت دی کہ افضل کی فضیلت کو قبول کریں، اور اب حق و ہدایت کا جس کو سرچشمہ بنایا گیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، حسد میں مبتلا ہوں گے تو خود خسارہ میں مبتلا ہوں گے، چنانچہ اگلے رکوع میں وضاحت کے ساتھ اس دعوت کو پیش کیا ہے۔



﴿وَمَنْ﴾ ای لا ﴿يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾ فیتر کہا ﴿إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ جہل انہا مخلوقہ لله یجب علیہا عبادتہ او استخف بہا و امتہنہا ﴿وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ﴾ اخترناہ ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ بالرسالة والخلۃ ﴿وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ الذین لہم الدرجات العلیٰ واذکر ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ﴾ انقد لله واخلص له دینک ﴿قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّي﴾ و فی قراءۃ اوصی ﴿بِهَا﴾ بالملۃ ﴿إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ﴾ بنیہ قال ﴿يَبْنِيَنَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ﴾ دین الاسلام ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ نہی عن ترک الاسلام و امر بالثبات علیہ الی مصادفۃ الموت ولما قال الیہود للنبی الست تعلم ان یعقوب یوم مات اوصی بنیہ بالیہودیۃ نزل ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ﴾ حضورا ﴿إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ﴾ بدل من اذ قبلہ ﴿قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي﴾ بعد موتی ﴿قَالُوا

نَعْبُدُ الْهَيْكَ وَاللهِ آبَائِكَ اِبْرَاهِيمَ وَاسْمَعِيلَ وَاسْحَقَ ﴿١﴾ عد اسمعيل من الآباء تغليب ولان العم بمنزلة الاب ﴿إِلَهًا وَاحِدًا﴾ بدل من الهك ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ وام بمعنى همزة الانكارى اى لم تحضروه وقت موته فكيف تنسبون اليه مالا يليق به ﴿تِلْكَ﴾ مبتداً والاشارة الى ابراهيم، ويعقوب و بينهما وانث لتانيث خبره ﴿أُمَّةً قَدْ خَلَتْ﴾ سلفت ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ من العمل اى جزاؤه استيناف ﴿وَلَكُمْ﴾ الخطاب لليهود ﴿مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ كما لا يسئلون عن عملكم والجملة تاكيد لما قبلها، ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا تَهْتَدُوا﴾ ، او للتفصيل و قائل الاول يهود المدينة والثانى نصارى نجران ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿بَلْ﴾ نبتع ﴿مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ حال من ابراهيم مائلا عن الاديان كلها الى الدين القيم ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا﴾ خطاب للمؤمنين ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ من القرآن ﴿وَمَا أُنزِلَ إِلَى اِبْرَاهِيمَ﴾ من الصحف العشر ﴿وَاسْمَعِيلَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾ اولاده ﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَى﴾ من التوراة ﴿وَعِيسَى﴾ من الانجيل ﴿وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ من الكتب والآيات ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ فنؤمن ببعض و نكفر ببعض كاليهود والنصارى ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا﴾ اى اليهود والنصارى ﴿بِمِثْلِ﴾ مثل زائدة ﴿مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن الايمان به ﴿فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ خلاف معكم ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ﴾ يا محمد شقاقهم ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لا قوالهم ﴿الْعَلِيمُ﴾ باحوالهم و قد كفاه الله اياهم بقتل قريظة و نفي النضير و ضرب الجزية عليهم ﴿صِبْغَةَ اللهِ﴾ مصدر مؤكد لاآمننا و نصبه بفعل مقدر اى صبغنا الله والمراد بها دينه الذى فطر الناس عليه لظهور اثره على صاحبه كالصبغ فى الثوب ﴿وَمَنْ﴾ اى لا احد ﴿أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً﴾ تمييز ﴿وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ﴾ . قال اليهود للمسلمين نحن اهل الكتاب الاول و قبلتنا اقدم و لم يكن الانبياء من العرب ولو كان محمد نبيا لكان منا فنزل ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿اتَّحِجُّونَنَا﴾ تخاصموننا ﴿فِي اللهِ﴾ ان اصفطى نبيا من العرب ﴿وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ فله ان يصطفى من عباده من يشاء ﴿وَلَنَا أَعْمَالُنَا﴾ نجازى بها ﴿وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ تجازون بها فلا يبعد ان يكون فى اعمالنا ما نستحق به الاكرام ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ الدين والعمل دونكم فنحن اولى بالاصطفاء والهمزة للانكار والجملة الثلث احوال ﴿أَمْ﴾ بل ﴿يَقُولُونَ﴾ بالياء والتاء ﴿إِنَّ اِبْرَاهِيمَ وَاسْمَعِيلَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ

وَالْأَسْبَاطُ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ لَهُمْ ﴿۱۵۱﴾ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴿۱۵۲﴾ اِی اللّٰه اعلم و قد برّاً
منهما ابراهیم بقوله ما كان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا والمذکورون معه تبع له ﴿۱۵۳﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنْ كَتَمَ ﴿۱۵۴﴾ اخفی من الناس ﴿۱۵۵﴾ شَهَادَةَ عِنْدَهُ ﴿۱۵۶﴾ كَائِنَةَ ﴿۱۵۷﴾ مِنَ اللّٰهِ ﴿۱۵۸﴾ اِی لأحد اظلم منه و هم
اليهود کتموا شهادة الله فی التوراة لابراہیم بالحنيفية ﴿۱۵۹﴾ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۶۰﴾
تهدید لهم ﴿۱۶۱﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿۱۶۲﴾ تقدم مثله۔

ترجمہ

(اور ملت ابراہیم سے بجز اس کے اور کون روگردانی) کر کے اسے ترک (کرے گا، جو اپنے آپ سے جاہل ہو) یعنی وہ نہ جانتا ہو کہ وہ اللہ کے لئے پیدا ہوا ہے، اور اس پر اللہ کی عبادت واجب ہے، یا سفہ نفسہ کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل و بے قدر بنا دیا، یعنی ایسے شخص کے علاوہ کوئی اور بھی ملت ابراہیم سے روگردانی نہیں کر سکتا (اور بیشک ہم نے انھیں دنیا میں) رسالت اور خلت کے ساتھ (منتخب کیا اور وہ آخرت میں) ان (صالحین میں ہیں) جن کے لئے بلند درجات ہیں (اور) یاد کرو (جب ان سے ان کے رب نے کہا) اللہ کے (فرمانبردار ہو جاؤ) اور اس کے واسطے اپنے دین کو خالص کرو (تو انھوں نے کہا میں رب العالمین کا فرمانبردار ہوا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے) اپنے بیٹوں کو (اسی کی) یعنی ملت ابراہیم کی (وصیت کی) ایک قرأت میں اوصی ہے، کہا (اے میرے فرزندو! بلاشبہ اللہ نے تمہارے لئے دین) اسلام (کا انتخاب فرمایا ہے، اس لئے ہرگز تمہارے موت نہ آئے، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو) یہ مرتے دم تک ترک اسلام سے ممانعت ہے، اور اسلام پر ثابت قدمی کا حکم ہے۔

اور جب نبی ﷺ سے یہودیوں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جس دن یعقوب کا انتقال ہوا تھا، اس دن انھوں نے اپنی اولاد کو یہودیت کی وصیت کی تھی، اس پر یہ ارشاد نازل ہوا (کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی تھی جب) اذما قبل کے اذکا بدل ہے (انھوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد) یعنی میرے مرنے کے بعد (تم لوگ کس کی عبادت کرو گے، انھوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود، اور آپ کے آباء واجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے) اسمعیل کو ان کے آباء میں شمار کرنا بطور تغلیب کے ہے، اور اس لئے بھی کہ چچا بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے (ایک معبود کی) یہ الھک کا بدل ہے، (اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں) ام بمعنی ہمزہ انکاری ہے، یعنی تم لوگ یعقوب کی وفات کے وقت موجود نہ تھے، تو تم کیونکر ان کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہو، جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے (وہ) تلک مبتدا ہے اور اشارہ ابراہیم اور

یعقوب اور ان کی اولاد کی جانب ہے، اور اسے مونث اس لئے لایا گیا ہے کہ اس کی خبر مونث آرہی ہے (ایک جماعت تھی، جو گزر گئی، اس کے لئے وہ) عمل (ہے جو اس نے کیا) یعنی اس کی جزا ہے، یہ جملہ مستانفہ ہے (اور تمہارے لئے) یہ خطاب یہود کو ہے (وہ ہے جو تم نے کیا، اور تم لوگوں سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے) جیسا کہ ان سے تمہارے عمل کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، یہ جملہ ماقبل کی تاکید کیلئے ہے، (اور انہوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ، یا عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے) اور تفصیل کیلئے ہے، پہلے قول کے قائل یہود مدینہ تھے، اور دوسرے کے نجران کے عیسائی (تم) ان سے (کہدو بلکہ) ہم (ملت ابراہیم) کی پیروی کرتے ہیں (جو) ابراہیم کہ (بالکل یکسو تھے) حنیفاً ابراہیم سے حال ہے، یعنی تمام ادیان سے یکسو ہو کر صرف دین قیم کی طرف تھے (اور مشرکین میں نہ تھے، تم کہدو) یہ اہل ایمان سے خطاب ہے (کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس) قرآن (پر جو ہماری جانب اتارا گیا اور اس پر جو ابراہیم کی جانب (اتارا گیا) یعنی دس صحیفے (اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی جانب اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا) یعنی توریت وانجیل (اور جو کچھ انبیاء کو ان کے رب کی جانب سے دیا گیا) یعنی کتابیں اور آیات (ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے) کہ بعض کو تو مانیں اور بعض کا انکار کر دیں، جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے کیا (اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں، پس اگر یہ اس چیز کے مثل پر) مثل زائد ہے (ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو، تب تو یہ ہدایت پر ہیں، اور اگر) اس پر ایمان لانے سے روگردانی کریں تو بلاشبہ یہ لوگ تمہارے ساتھ (جھگڑے میں ہیں، پس عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری ان سے) یعنی ان کے جھگڑے سے (کفایت کریں گے اور وہ) ان کے اقوال کو (سننے والے) ان کے احوال کو (جاننے والے) ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان سے کفایت کر دی، وہ اس طرح کہ بنی قریظہ کے لوگ قتل کئے گئے، بنی نضیر کے لوگ جلا وطن کر دیئے گئے، اور ان پر جزیہ مسلط کیا گیا (اللہ کارنگ) صبغة مصدر ہے جو آمنہ کی تاکید کرتا ہے، اور اس کا نصب ایک فعل مقدر کی وجہ سے ہے، یعنی صبغنا اللہ، اور اس رنگ سے مراد، اللہ کا وہ دین ہے، جس پر لوگ پیدا کئے گئے ہیں، اور اسے رنگ اس لئے کہا کہ جس طرح رنگ کپڑے میں نمایاں ہوتا ہے، اسی طرح اس دین کا اثر بھی دیندار پر روشن اور نمایاں ہوتا ہے (اور رنگ کے لحاظ سے اللہ سے بہتر کون ہے؟) یعنی کوئی نہیں، صبغة تمیز ہے (اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں) یہود نے مسلمانوں سے کہا ہم پہلے اہل کتاب ہیں اور ہمارا قبیلہ بھی قدیم ہے، اور انبیاء عرب میں نہیں ہوئے ہیں، تو محمد اگر نبی ہوتے، تو ہم میں ہوتے، تو یہ آیت اتری کہ (تم) ان سے (کہدو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے باب میں جھگڑتے ہو) کہ اس نے عرب میں نبی منتخب کر دیا (حالانکہ وہی ہمارا رب ہیں، اور تمہارے بھی رب ہیں) انہیں اختیار ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے منتخب کریں (اور ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں) کہ

ہمیں ان کا بدلہ دیا جائے گا (اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں) کہ تمہیں ان کا بدلہ دیا جائیگا، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ ہمارے اعمال میں کوئی ایسی خاص بات ہو کہ اس کی وجہ سے ہم مستحق اکرام ہو گئے ہوں (اور ہم انہیں کیلئے) دین اور عمل میں (مخلص ہیں) تم نہیں ہو، اس انتخاب کے مستحق ہمیں ہیں، اور ہمزہ انکاری ہے، اور تینوں جملے حال ہیں (بلکہ کیا تم لوگ کہتے ہو) یقولون یا اور تادونوں سے پڑھا گیا ہے (کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا عیسائی تھے، تم) ان سے (کہہ دو کہ کیا تم جانتے ہو یا اللہ) یعنی اللہ خوب جانتے ہیں، اور اللہ نے ان دونوں سے یعنی یہودیت و نصرانیت سے ابراہیم کی برأت ظاہر فرمادی، فرمایا ماکان ابراہیم یہودی یا نصرانی اور جو لوگ ان کے ساتھ مذکور ہیں، وہ ان کے تابع ہیں (اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو) لوگوں سے (وہ شہادت چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے) یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہ ہوگا، اور یہ یہود ہی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی اس شہادت کو چھپایا جو توریت میں ابراہیم کے حق میں حنیفیت کی گواہی موجود تھی (اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم لوگ کرتے ہو) یہ ان کیلئے تہدید ہے (وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کیلئے وہ ہے، جو اس نے کیا، اور تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے کیا اور تم سے اس چیز کے متعلق سوال نہیں ہوگا، جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے) اس جیسی آیت گزر چکی ہے۔

﴿ تشریحات ﴾

ومن ای لایرغب : من استفہام انکاری ہے، اسی لئے اس کے بعد لا آ رہا ہے جو ایجاب کیلئے ہے۔
 جہل انہا مخلوقۃ للہ : سفہ کی تفسیر دو طرح سے کی ہے، اول یہ کہ سفہ میں جہل کے معنی کی تضمین ہے، یعنی وہ اپنے آپ سے جاہل اور اپنی حقیقت سے بے خبر ہے، اس لئے اس نے اپنی ناقدری کی، اور دوسرے یہ کہ وہ جہل کے معنی کی تضمین کے بغیر ہو، یعنی اپنے آپ کو ذلیل و بے قدر کر دیا۔ سفہ کے اصل معنی خفت اور ہلکے پن کے ہیں، تو جس نے ملت ابراہیم سے اعراض کیا اس نے اپنے آپ کو بالکل ہلکا بنا دیا۔
 بالرسالة والخلۃ : حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا اور اپنا خلیل بنایا، خلۃ کا مطلب ہے، خالص اور بے میل محبت و عشق ابراہیم علیہ السلام کے گونا گوں امتحانات کی شہادت ہے کہ ان کے قلب میں حق تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا اور جو محبت تھی، اس کے سامنے دنیا کی تمام چھوٹی بڑی محبتیں معدوم اور ہیچ تھیں۔
 بالملة : یعنی ملت ابراہیم کی پیروی کی وصیت کی تھی۔

بنیہ : ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی ملت کی وصیت کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آٹھ بیٹے تھے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ حضرت ہاجرہ سے تھے، ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جو حضرت سارہ سے تھے، حضرت سارہ کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قنطورا بنت یقطن سے نکاح کیا، ان سے چھ

اولادیں ہوں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارہ اولادیں تھیں۔

نہی عن ترک الاسلام و امر بالثبات علیہ الی مصادفة الموت :- لاتموتن کی نہی سے بظاہر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، مفسر نے اسے حل کیا ہے، اشکال یہ ہے کہ بجز حالت اسلام کے انھیں مرنے سے منع کیا گیا ہے، تو کسی حالت پر مرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، پس غیر اختیاری چیز سے نہی کرنے کا کیا معنی؟ جواب یہ ہے کہ ولا تموتن الا و انتم مسلمون کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت تک اسلام کو ترک نہ کرو، بلکہ اس پر دم اخیر تک قائم رہو، ظاہر ہے کہ اسلام کو ترک نہ کرنا، اور اس پر قائم رہنا اختیاری چیز ہے، پھر آدمی اپنے ارادہ سے جس حال پر ہوگا، موت بھی اسی حال پر آئے گی۔

عد اسمعیل من الآباء تغلیب :- حضرت اسمعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلسلہ ابوت میں نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہیں، انھیں سلسلہ ابوت میں شمار کرنا بطور تغلیب ہے، یا اس لئے کہ چچا بھی بمنزلہ باپ ہی کے ہوتا ہے، اس لئے انھیں بھی آباء میں شمار کیا گیا۔
انٹ لتانیث خبرہ :- تلک کا اشارہ حضرت ابراہیم، اسمعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی جانب ہے، ان کی طرف اشارہ مذکر کا ہونا چاہئے تھا مگر چونکہ تلک مبتدا ہے اور اس کی خبر امة مونث آرہی ہے، اس لئے اسے بھی مونث ہی لائے۔

استیناف : لها ما کسبت جملہ مستانفہ ہے، ما کسبت سے مراد جزاء ما کسبت ہے۔

والجملة تاکید لما قبلها : - ولا تسئلون عما کانوا یعملون ، ما قبل کے جملہ کی تاکید ہے۔
او للتفصیل : وقالوا کونوا ہوداً او نصاریٰ، میں او تفصیل کیلئے ہے، کیونکہ یہ قول ایک جماعت کا نہیں ہے، بلکہ دو فرقوں کا ہے، یہودیوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ، اور نصرانیوں نے کہا نصرانی ہو جاؤ، ان دونوں کو ایک ہی سیاق میں جمع کر کے او کے ذریعے اس کی تفصیل کی طرف اشارہ کر دیا۔

حال من ابراہیم :- حنیفاً ابراہیم سے حال ہے، اور ملة ابراہیم، فعل مقدر نتبع کا مفعول ہے، ملت کا تلبس و تعلق چونکہ ابراہیم سے ہے، اسلئے وہ بھی حکماً مفعول ہے، گویا یوں کہا گیا بل نتبع ابراہیم ، اس لحاظ سے اسے ذوالحال بنانا درست ہے۔

مائلا عن الادیان کلها :- یہ حنیف کا ترجمہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو ہو کر وہ صرف اللہ کے ہورہے تھے۔

فنؤ من ببعض و نکفر ببعض :- یہاں اہل ایمان سے کہا گیا کہ تم یہ کہو کہ لا نفرق بین احد منهم، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم افضلیت میں کوئی فرق نہیں کرتے، یہ فرق تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے درمیان خود رکھا

ہے، اس تفریق کا مطلب یہ ہے کہ ہم انبیاء کے درمیان ایمان اور کفر کی تفریق نہیں کرتے کہ کسی نبی پر ایمان لائیں، اور کسی کا انکار کریں، بلکہ ہم سب پر یکساں ایمان رکھتے ہیں، یہ تفریق تو یہود و نصاریٰ نے کر رکھی ہے۔
 بمثل: مثل زائد:۔ فان آمنوا بمثل ما آمنتم میں مثل زائد ہے، کیونکہ اگر اس کو زائد نہ مانا جائے تو مفہوم ہوگا کہ اگر یہ لوگ اس کے مثل پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو، اور ظاہر ہے کہ جس پر ایمان لائے ہیں، وہ اللہ ہے اور اللہ کی کتابیں ہیں، اس معنی کی صورت میں لازم آئے گا کہ اللہ کا اور اللہ کی کتابوں کا کوئی مثل ہو۔
 مصدر مؤکد لا مئنا:۔ صبغة الله مصدر ہے، یعنی مفعول مطلق ہے، سابق فعل آمنا کے مضمون کی تاکید ہے، اس کا عامل فعل مقدر ہے، یعنی صبغنا الله صبغة، اور صبغة سے مراد اللہ کا دین ہے، اس کو صبغة (رنگ) اس لئے کہا گیا کہ جس طرح رنگ کا اثر کپڑے پر ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے دین کا اثر طہارت و تزکیہ، نور قلب اور نور ایمان، انسان کے اوپر نمایاں ہوتا ہے۔

عیسائیوں کے یہاں زرد رنگ کا ایک پانی ہوتا ہے جسے ”ماء معموریه“ کہتے ہیں، اس میں یہ اپنے بچوں کو رنگتے ہیں، اور خیال کرتے ہیں کہ اس طرح ایک پختہ مذہبی رنگ حاصل ہوتا ہے، اس آیت میں کنایۃً اس کی نفی ہو رہی ہے کہ یہ رنگ کچھ نہیں ہے، اصلی رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، یعنی دین اسلام، اس کا اثر قلب و روح پر آجائے تو وجود انسانی تابناک ہو جاتا ہے۔

و الجمل الثلاث احوال:۔ یعنی وهو ربنا وربکم اور ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم اور ونحن له مخلصون، یہ تینوں جملے حال ہیں۔

وقد برأ منہما ابراہیم:۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے یعنی یہودیت اور نصرانیت سے ابراہیم علیہ السلام کی برأت قرآن میں ظاہر فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، وہ تو یکسو مسلمان تھے، اور یہاں جو لوگ مذکور ہیں یعنی اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد (علی نبینا و علیہم الصلوٰۃ و السلام) یہ سب ابراہیم علیہم السلام کے تابع تھے، ان کے بھی یہودی اور نصرانی ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔

کائنة من الله:۔ کائنة کا لفظ ذکر فرما کر مفسر نے تنبیہ فرمائی ہے کہ من الله، کائنة سے متعلق ہو کر شہادۃ کی صفت ثانیہ ہے صفت اولیٰ عنده ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

پچھلے رکوع میں حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر فرمایا ہے انھوں نے اپنی اولاد کے لئے

بھی اس کی دعا فرمائی، تو ظالموں کا استثناء کر کے اللہ تعالیٰ نے اوروں کے حق میں اس نوازش کو منظور فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو شاخیں مشہور ہیں، بنی اسرائیل، اور بنی اسماعیل۔ اس رکوع میں بنی اسماعیل اور ان کے مامن و مسکن کی افضلیت مذکور ہے، اور اخیر میں نبی آخر الزماں ﷺ کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ذکر کی گئی ہے۔ اب حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بطور خاص ملت ابراہیم کی پیروی کرے۔ اور اس دور میں ملت ابراہیم کا انحصار انھیں آخری نبی کے اتباع میں ہو گیا ہے، اس لئے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں پر لازم ہے کہ آخری رسول ﷺ پر ایمان لائیں اور ان کے واسطے سے ملت ابراہیم کی پیروی کریں، مگر بنی اسرائیل اپنے حسد کی وجہ سے اس سعادت سے محرومی کے شکار ہو رہے تھے، حق تعالیٰ نے مختلف عنوانوں سے انھیں ایمان کی ترغیب دی۔ چنانچہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا حاصل یہ ہے کہ ملت ابراہیم ایسی چیز نہیں کہ دنیاوی اغراض کی وجہ سے اس سے روگردانی کی جائے، اور اگر کوئی اس سے انحراف کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل و بے قدر بنا لیا ہے۔ اور اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیوں پیدا ہوا ہے۔ جبکہ سب جانتے ہیں کہ ابراہیم دنیا میں بھی برگزیدہ تھے، اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں ہے، جن کو جنت کے بلند درجات ملیں گے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان سے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ فرمانبردار مسلم اور مخلص بنو، تو انھوں نے سراپا تعمیل ہو کر عرض کیا کہ میں پروردگار عالم کا فرمانبردار ہوں، پھر انھوں نے بھی اور ان کے پوتے یعقوب نے بھی اپنے اپنے بیٹوں کو اسی دین اسلام پر قائم رہنے کی وصیت اور تاکید کی، اور صاف صاف انھیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اسی دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، لہذا مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا۔

یہود کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہودیت پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے، یہ بتائیں تو سہی کہ جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے تھے تو یہ لوگ اس وقت موجود تھے؟ انھوں نے تو اپنے بیٹوں سے یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ بتاؤ کس کی عبادت کرو گے، ان سب نے باتفاق کہا تھا، کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اور جس کی آپ کے آباء و اجداد حضرت اسحق، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے، جو اکیلا معبود ہے، اور ہم تو اسی کے فرمانبردار ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں، اس وقت تو یہ گفتگو ہوئی اور تم نہ جانے کہاں سے جھوٹی بات گھڑ رہے ہو، وہ لوگ تو اب دنیا سے جا چکے، انھوں نے جو کچھ کیا، اس کا ثواب انھیں ملے گا اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، ان کا ثواب تمہارے کام نہ آئے گا، اور نہ تم سے ان کے اعمال کے متعلق کوئی پوچھ ہوگی۔ ان کی ترنگ دیکھو کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، یا نصرانی ہو جاؤ، یہود وہ کہتے ہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں، پس ہدایت پر آ جاؤ گے؟ تم کہو کہ جی

نہیں، ہم تو ملت ابراہیم کے پیرو ہیں، ابراہیم ہر طرف سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے، ہم بھی انہیں کے طریقے پر ہیں، ان کا کوئی تعلق مشرکین سے نہ تھا، تم لوگ ان سے کہو کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اور قرآن پر ہے، جو ہم پر اتار گیا ہے، اور ان صحیفوں پر ہے، جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارے گئے، اور ہمارا ایمان تو ریت پر بھی ہے، جو حضرت موسیٰ کو دی گئی، اور انجیل پر بھی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کو جو کچھ دیا گیا، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ہم رسولوں کے درمیان فرق و امتیاز نہیں کرتے کہ کسی کو مانیں اور کسی کا انکار کریں، ہم سب کو برحق تسلیم کرتے ہیں، اور سب پر یکساں ایمان رکھتے ہیں، اور ہم تو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اگر یہود و نصاریٰ بھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں تو انہیں بھی ہدایت کی راہ مل گئی، اور اگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں تو وہ تمہارے خلاف ہیں، پس اللہ تعالیٰ ہی تمہاری طرف سے انہیں ٹھکانے لگا دیں گے، وہ سمیع و علیم ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ بغیر کسی خاص جد و جہد کے یہود مدینہ کے تمام قبائل کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔

اللہ نے ہم کو اپنے دین کا یہی رنگ عطا فرمایا ہے، یعنی ایمان و اطاعت کا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے، قلب مومن جب نور ایمان سے لبریز ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر چمکنے لگتا ہے۔ یہود کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ ہماری کتاب قدیم ہے، اور ہمارا قبلہ پرانا ہے، اور انبیاء بھی ہمارے ہی قبیلہ میں ہوا کئے ہیں، اہل عرب میں تو کوئی نبی آیا نہیں، اس لئے اگر حضرت محمد نبی ہوتے تو ہم میں ہوتے، ان سے کہو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو کہ انہوں نے اہل عرب میں کیوں نبی کا انتخاب کیا، حالانکہ وہ ہمارے بھی رب ہیں، اور تمہارے بھی رب ہیں، انہیں اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں نبی بنائیں، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، ممکن ہے ہمارا کوئی عمل اللہ کو پسند ہو، جس کے باعث اللہ نے ہمیں اس اکرام سے نوازا، اور ہم تو انہیں کے مخلص ہیں۔

کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ ان سے پوچھو کہ تم زیادہ واقف ہو، یا اللہ تعالیٰ؟ کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ ایک شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی شہادت موجود ہو اور وہ اسے چھپالے، ان یہودیوں کے پاس شہادت موجود ہے، مگر چھپائے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنا انجام سوچ لیں وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار تھے، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو تم، سے ان کے متعلق پوچھ نہ ہوگی، اور نہ ان سے تمہارے متعلق، پس اچھی طرح اپنے معاملہ پر غور کر لو۔

(پارہ ۲)

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ﴾ الجہال ﴿مِنَ النَّاسِ﴾ أى اليهود والمشرکین ﴿مَا وَلَّهُمْ﴾ أى شئ صرف النبی والمؤمنین ﴿عَنْ قِبَلِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ على إستقبالها فى الصلوة وهى بيت المقدس والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ أى الجهات كلها فيامر بالتوجه إلى أى جهة شاء لا إعتراض عليه ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ دين الاسلام أى ومنهم أنتم دلّ على هذا ﴿وَكَذَلِكَ﴾ كما هديناكم إليه ﴿جَعَلْنَاكُمْ﴾ يا أمة محمد ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ خياراً عدولاً ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم ﴿وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ أنه بلغكم ﴿وَمَا جَعَلْنَا صِيرَانَا﴾ الْقِبْلَةَ ﴿لَكَ الْآنَ الْجِهَةَ﴾ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا ﴿أَوَّلًا﴾ وهى الكعبة وكان ^{صلى الله عليه وسلم} يصلى إليها فلما هاجر أمر بإستقبال بيت المقدس تألفاً لليهود فصلّى إليه ستة أو سبعة عشر شهراً ثم حول ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ علم ظهور ﴿مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ﴾ فيصدقه ﴿مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ﴾ أى يرجع إلى الكفر شكاً فى الدين وظناً أن النبی فى حيرة من أمره وقد ارتد لذلك جماعة ﴿وَإِنْ﴾ مخففة من الثقيلة وإسمها محذوف أى وإنها ﴿كَانَتْ﴾ أى التولية إليها ﴿لِكَبِيرَةٍ﴾ شاقة على الناس ﴿إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ منهم ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ أى صلاتكم إلى بيت المقدس بل يشيكم عليه لأن سبب نزولها السؤال عمّن مات قبل التحويل ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ﴾ المؤمنين ﴿لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ فى عدم إضاعة أعمالهم والرأفة شدة الرحمة وقدم الأبلغ للفاصلة۔

﴿ترجمہ﴾

(عنقریب بیوقوف) یعنی جاہل (لوگ) یعنی یہود اور مشرکین (کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو) یعنی نبی ﷺ اور اہل ایمان کو (ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس کے) استقبال (پروہ) نماز میں (تھے) اور وہ بیت المقدس ہے، اور سین جو مستقبل پر دلالت کرتی ہے، اسے یہاں پر لانا اخبار بالغیب کی قبیل سے ہے (تم کہہ دو کہ اللہ ہی کے لئے مشرق و مغرب ہیں) یعنی تمام جہتیں ہیں، پس وہ جس طرف چاہے رخ کرنے کا حکم دے سکتے ہیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے (ہدایت دیتے ہیں جس) کی ہدایت (کو چاہتے ہیں سیدھے راستہ کی جانب) یعنی دین اسلام کی جانب، اور تم لوگ بھی انھیں میں سے ہو، اس کی دلیل یہ اگلا ارشاد ہے (اور ایسے ہی) یعنی جیسے ہم نے تم کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، ایسے ہی (ہم نے تم کو) اے امت محمد (امت وسط بنایا) یعنی

بہترین اور صاحب عدل اور صاحب اعتدال امت (تا کہ تم لوگوں کے اوپر) قیامت کے دن (گواہ بن جاؤ) کہ ان کے رسولوں نے پیغامِ الہی ان تک پہنچا دیا تھا (اور رسول تم پر گواہ ہوں) کہ انہوں نے تم تک پیغام پہنچا دیا تھا (اور ہم نے نہیں بنایا) تمہارے لئے اس وقت (اس) جہت (کو قبلہ، جس پر) پہلے (تم تھے) اور وہ کعبہ ہے، رسول اللہ ﷺ مکہ میں اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر جب آپ نے ہجرت کی تو یہودیوں کو مانوس کرنے کے واسطے آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے رخ پر آپ نے سولہ سترہ ماہ تک نمازیں پڑھیں، پھر اسے تبدیل کر دیا گیا (مگر اس واسطے کہ ہم جان لیں) یہ علم ظہور ہے (اس شخص کو جو رسول کی پیروی کرتا ہے) پس ان کی تصدیق کرتا ہے (اس شخص کے مقابلے میں جو اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاتا ہے) یعنی دین میں شک کی وجہ سے اور اس بدگمانی کی وجہ سے کہ نبی کریم ﷺ خود اپنے امر کے سلسلے میں حیرت و تردد میں ہیں، کفر کی جانب لوٹ جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس کی وجہ سے پلٹ بھی گئے تھے (اور بے شک) **إِنْ مَخْفٍ مِنَ الثَّقِيلِ** ہے، اس کا اسم محذوف ہے، یعنی **إِنهَا** (یہ) یعنی کعبہ کی طرف رخ کرنا (بھاری ہے) یعنی لوگوں پر مشکل ہے (سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے) ان میں سے (ہدایت دی، اور اللہ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کریں) یعنی بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی تمہاری نماز کو، بلکہ وہ تمہیں اس پر ثواب دیں گے، ایمان کی تفسیر نماز سے اس لئے کی گئی ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہی ہوا کہ جو لوگ تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے تھے، ان کی نمازوں کے متعلق سوال کیا گیا تھا (بے شک اللہ ان لوگوں پر) یعنی اہل ایمان پر ان کے اعمال ضائع نہ کرنے کے حق میں (بہت مہربان، رحیم ہیں) اور رافۃ بہت زیادہ مہربانی کو کہتے ہیں۔ اس بلیغ تر لفظ کو فاصلہ کی رعایت سے مقدم کیا ہے۔

﴿ تشریحات ﴾

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ : **يَقُولُ** میں سین استقبالیہ کے لانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایسا ہی منقول ہے، اور اس کو پہلے ہی اس لئے بیان کر دیا تا کہ تحویل قبلہ کے بعد جاہلوں کی زبان درازیوں سے زیادہ تاثر نہ ہو، کیونکہ جس مصیبت کی اطلاع پہلے ہی ہو جاتی ہے، اس کے وقوع کے وقت زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔

مَا وَلَّهُمْ : میں ما کی تفسیر ای شئی سے کر کے مفسر نے بتایا کہ یہ ما استفہامیہ ہے، اور یہ استفہام برائے انکار ہے۔

عَلَىٰ اسْتِقْبَالِهَا : **كَانُوا عَلَيْهَا** میں ہا ضمیر سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی **عَلَىٰ اسْتِقْبَالِهَا**۔

مَنْ يَشَاءُ . **هُدَايَتَهُ** : **مَنْ يَشَاءُ** کا مفعول ہدایتہ محذوف ہے۔

أَيُّ وَمِنْهُمْ أَنْتُمْ دَلَّ عَلَىٰ هَذَا وَكَذَلِكَ الْخ : یعنی ان لوگوں میں جن کی ہدایت کو اللہ نے چاہا ہے، اے اہل ایمان تم بھی ہو۔

سوال: اہل ایمان کے ہدایت پر ہونے کا جو دعویٰ یہاں حضرت مفسر نے فرمایا ہے، زیر نظر آیت میں اس کا کوئی قرینہ بظاہر موجود نہیں ہے، اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟

جواب: اس کی دلیل اگلی آیت ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ الْخ ہے، اس آیت میں ذلک کا اشارہ اسی ہدایت کی جانب ہے، چنانچہ مفسر نے اس کی تفسیر میں اس مشار الیہ کو ظاہر فرمایا ہے، فرماتے ہیں: (وَكَذَلِكَ) کما ہدینا کم الیہ (جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا)۔

خیاراً عدولاً :- یہ دونوں لفظ حضرت مفسر وسطاً کی تفسیر میں لائے ہیں، یعنی وہ علم اور عمل دونوں اعتبار سے کامل ہیں، وسط کے اصل معنی درمیان کے ہیں، یعنی نہ اس میں افراط ہو اور نہ تفریط ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسی جماعت جو افراط و تفریط سے خالی ہو علم میں بھی اور عمل میں بھی، وہ خیر بھی ہوگی اور صاحب اعتدال بھی ہوگی۔

لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :- حق تعالیٰ قیامت کے دن اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائیں گے، پھر ہر امت کے کفار سے دریافت فرمائیں گے اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرسانے والا نہیں آیا تھا۔ وہ انکار کریں گے، اور کہیں گے ما جاءنا من نذير، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے پوچھیں گے؟ یہ حضرات عرض کریں گے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ان سے گواہ طلب فرمائیں گے، وہ عرض کریں گے امت محمدیہ ہے، انھیں لایا جائے گا، وہ گواہی دیں گے کہ بے شک انبیاء نے حق تبلیغ ادا کیا تھا، کفار کہیں گے کہ یہ لوگ ہمارے بعد کے ہیں، انھیں کیا معلوم؟ تو یہ امت عرض کرے گی کہ پروردگار! آپ نے ان کے پاس رسول بھیجے تھے، اور ہمیں ایک کتاب آپ نے عطا کی تھی، اس میں خود آپ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، اور آپ سے بڑھ کر کون سچا ہوگا، پھر محمد ﷺ کو بلایا جائے گا، آپ اپنی امت کی تصدیق فرمائیں گے۔

ان سطور کا راقم یہاں ایک بات عرض کرتا ہے، اگر وہ درست ہے تو اللہ کا احسان ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو میرے نفس کی سفاهت ہے۔

عموماً حضرات مفسرین نے لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کی وہی تفسیر کی ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس گواہی کا ظہور آخرت میں ہوگا، اور یہ کہ الناس سے مراد گذشتہ امتوں کے کفار ہیں، لیکن ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیت کا انحصار اسی تفسیر میں نہیں کہ شہادت کا ظہور صرف آخرت ہی میں ہو، اور گذشتہ امتوں کے کفار ہی پر ہو، بلکہ یہ اس آیت کا ایک مصداق ہے اور چونکہ قیامت کا دن نتائج کے ظہور اور فیصلے

کے نفاذ کا آخری دن ہے، اس لئے سب سے اہم اسی دن کی شہادت ہوگی، اس لحاظ سے اس دن کی شہادت لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کا سب سے اہم مصداق ہے، لیکن اس شہادت کو جب اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے تو اگر اس کے عموم میں اس امت کو دنیا میں بھی شاہد مانا جائے تو مضائقہ نہیں ہونا چاہئے۔ مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام دنیا کی ہر قوم کے اوپر حق و صداقت کی شاہد ہے، یعنی اسی امت کا ایمان و عمل سب کے لئے معیار ہے، جب تک اس امت کے معیار پر دوسری قومیں نہ اتریں گی وہ قابل قبول نہ ہوں گی۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کے مخاطب اول اور رسول اللہ ﷺ سے براہ راست استفادہ کرنے والی امت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور یہی جماعت اصالتاً شاہد اور معیار ہے، اور باقی تمام لوگوں کو اسی معیار پر اترنا چاہئے۔ حق کے اصل معیار یہی ہیں، جس کسی کے ایمان و عقیدہ اور قول و عمل کی شہادت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب سے مہیا ہو جائے، وہی حق پر ہے اور جو اس شہادت سے محروم ہو وہ خطرے میں ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرات صحابہ معیار حق ہیں، بعد کی امت کے افراد اور دوسری قومیں سب کے لئے میزان یہی حضرات ہیں، اسی کی طرف رسول اللہ ﷺ نے جماعت ناجیہ کے سلسلے میں اشارہ فرمایا ہے کہ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، نجات پانے والی جماعت یہی ہے جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہو۔

﴿الْقِبْلَةَ﴾ لَكَ الْآنَ الْجِهَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا ﴿أَوَّلًا﴾:۔ اس عبارت میں القبلة، جعلنا کا مفعول ثانی ہے، لیکن وہ مقدم ہے، التی صفت ہے، اس کا موصوف الجہۃ ہے، اور یہی مفعول اول ہے۔ جعلنا کی تفسیر صیرنا سے کی ہے، تصییر کا مطلب یہ ہے کہ شے کو ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کیا جائے، تو جس چیز کا تعلق حالت ثانیہ سے ہوگا، وہی مفعول ثانی ہوگی۔ یہاں غور کیا جائے تو قبلہ ہی کا تعلق حالت ثانیہ سے ہے، اس لئے وہی مفعول ثانی ہوگا، مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو جہت تمہارے لئے قبلہ تھی اور عارضی طور پر اسے تبدیل کر دیا گیا تھا، اب پھر اسی جہت کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا ہے۔

چنانچہ واقعہ یہی ہوا کہ جب تک رسول اللہ ﷺ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، اصالتاً خانہ کعبہ ہی کی طرف نماز پڑھتے رہے، لیکن خانہ کعبہ کی اس جہت میں کھڑے ہوتے تھے جدھر سے بیت المقدس کا بھی استقبال ہو جائے، پھر جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو گئے، کیونکہ مدینہ میں ممکن نہ تھا کہ دونوں کی طرف استقبال ہوتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حوالہ دیا کہ پہلے جو قبلہ تھا اب پھر اسی جہت کو قبلہ بنایا گیا۔

عَلِمَ ظَهْوَرٍ:۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ الْخِ سے بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے نہیں

جانتے تھے کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، جب قبلہ بدل گیا تب اللہ کو معلوم ہوا کہ کون پیروی رسول کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم کا حادث ہونا لازم آتا ہے۔ اس کا جواب مفسر نے علم ظہور کا لفظ لا کر دیا ہے، مراد یہ ہے کہ یہاں علم کا حادث نہیں مراد ہے، علم کا ظہور مراد ہے۔ اس طرح عبارت یہ ہوگی **إِلَّا لِيُظْهِرَ عَلْمَنَا مِنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ** یعنی تحویل قبلہ کا امتحان اس لئے ہوا کہ اتباع رسول کے سلسلے میں ہمارا علم ظاہر ہو جائے۔

يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ :- ایڑیوں کے بل پلٹنے کا مفہوم لوٹنے کا ہے، یعنی جس کفر سے نکل کر آئے تھے پھر اسی میں لوٹ جائیں۔

وَإِنْ مَخْفِفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوفٌ أَوْ وَإِنِهَا :- **إِنْ بِالْتَّخْفِيفِ** **إِنَّ** بالتشديد کا مخفف ہے، اس کے نافیہ ہونے کا بھی احتمال ہو سکتا تھا، لیکن آگے خبر لکبیرة لام کے ساتھ آرہی ہے، یہی لام **إِنْ** مخففہ اور **إِنْ** نافیہ کے درمیان فارق ہے۔

صَلَاتِكُمْ :- یہ ایمانکم کی تفسیر ہے، مفسر نے ایمان کی تفسیر **صَلْوَةٌ** سے کی ہے، کیونکہ نماز ہی کے متعلق حضرات صحابہ نے آپ سے سوال کیا تھا، اور یہ آیت اسی کے جواب میں نازل ہوئی تھی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا تو ازراہ شرارت یہود نے مسلمانوں میں وسوسہ اندازی کی کوشش کی، چنانچہ یہودیوں کے کسی بڑے عالم نے مسلمانوں سے سوال کیا کہ تم لوگوں نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں وہ ہدایت تھی یا ضلالت؟ اگر وہ ہدایت تھی تو تم اس سے منحرف ہو گئے، اور اگر ضلالت تھی تو تم اتنی مدت تک ضلالت پر رہے، اور جو اسی حالت میں مر گیا اس کی موت گمراہی پر ہوئی۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ جو اللہ کا حکم ہو، وہ ہدایت ہے اور جس سے اللہ منع کریں وہ ضلالت ہے۔ اس نے کہا کہ جو لوگ ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرنے کے بعد مر گئے ان کے بارے میں تم کس بات کی گواہی دو گے، اس دوران بنی نجار کے حضرت اسعد بن زرارہ اور بنی سلمہ کے براء بن معرور کا انتقال ہوا تھا، اور کچھ اور لوگ بھی فوت ہوئے تھے۔

وَقَدْ أَمَّا الْأَبْلَغُ لِلْفَاصِلَةِ :- قاعدہ یہ ہے کہ ایک ہی مفہوم کے دو لفظ یکجا استعمال ہوتے ہیں، تو عام کو پہلے اور خاص کو بعد میں لایا جاتا ہے، اور بلیغ کو پہلے اور ابلیغ کو بعد میں لایا جاتا ہے، تاکہ دونوں لفظوں کا یکجا استعمال جو ہم معنی ہیں بے فائدہ نہ ہو، لیکن **رَوُوفٌ** جو مہربانی کے معنی میں بلیغ تر ہے، اسے پہلے لائے اور **رَجِيمٌ** جو کہ عام ہے بعد میں لائے، یہ ترتیب منعکس ہوگئی۔

اس کا جواب مفسر نے دیا کہ یہاں ابلیغ کی تقدیم فاصلہ کی رعایت سے ہے، فاصلہ آیت کے آخری کلمہ کو کہتے ہیں، جیسے شعر میں قافیہ ہوتا ہے، اور عام نثر میں سجع، قرآن میں اس کی تعبیر فاصلہ سے کی جاتی ہے، یہ تعبیر

قرآن کریم کی آیت فصلت آیاتہ سے ماخوذ ہے۔



﴿قَدْ﴾ للتحقيق ﴿نَرَى تَقَلَّبَ﴾ تصرف ﴿وَجْهَكَ فِي﴾ جهة ﴿السَّمَاءِ﴾ متطلعا إلى الوحي ومتشوقا للامر باستقبال الكعبة وكان يؤد ذلك لأنها قبلة إبراهيم ولأنه ادعى إلى اسلام العرب ﴿فَلَنُؤَلِّيَنَّكَ﴾ نحو لَنَك ﴿قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ تحبها ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ﴾ استقبال في الصلوة ﴿شَطْرَ﴾ نحو ﴿الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أى الكعبة ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ﴾ خطاب للامة ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ فى الصلوة ﴿شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ﴾ أى التولى إلى الكعبة ﴿الْحَقُّ﴾ الثابت ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ لما فى كتبهم من نعت النبى ﷺ من أنه يتحول إليها ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ بالتأ أيها المؤمنون من إمتثال أمره وبالياء أى اليهود من انكار أمر القبلة ﴿وَلَئِن﴾ لام قسم ﴿أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ﴾ على صدقك فى أمر القبلة ﴿مَاتَبِعُوا﴾ أى لا يتبعون ﴿قِبْلَتَكَ﴾ عنادا ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ﴾ قطع لطمعه فى إسلامهم وطمعهم فى عوده إليها ﴿وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ﴾ أى اليهود قبلة النصارى وبالعكس ﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ﴾ التى يدعونك إليها ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ الوحي ﴿إِنَّكَ إِذَا﴾ إن اتبعتهم فرضا ﴿لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ اتَّبَعْتَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ﴾ أى محمدا ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾ بنعته فى كتابهم قال ابن سلام لقد عرفته حين رأيتہ كما عرف ابنى و معرفتى لمحمد أشد رواه البخارى ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ﴾ نعتہ ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ هذا الذى أنت عليه ﴿الْحَقُّ﴾ كائنا ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ فلا تكونن من المُمْتَرِينَ ﴿الشَّاكِينَ﴾ فيه أى من هذا النوع فهو أبلغ من لا تمتر ﴿وَلِكُلِّ﴾ من الامم ﴿وَجْهَةً﴾ قبلة ﴿هُوَ مُؤَلِّيَهَا﴾ وجهه فى صلاته وفى قراءه مؤلاها ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ بادروا إلى الطاعات وقبولها ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا آيَاتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ يجمعكم يوم القيمة فيجازيكم بأعمالكم ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ﴾ لسفر ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ بالتأ والياء تقدم مثله وكرره لبيان تساوى حكم السفر وغيره ﴿وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ كرره للتاكيد ﴿لئلا يكون للناس﴾ اليهود والمشركين ﴿عليكم حجة﴾ أى مجادلة فى التولى إلى

غيرها اى لينتفى مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا وقول المشركين يدعى ملة ابراهيم ويخالف قبلته ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ بالعناد فإنهم يقولون ماتحول إليها إلا ميلاً إلى دين آباءه والاستثناء متصل والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ﴾ تخافوا جدالهم فى التولى إليها ﴿وَاحْشَوْنِي﴾ بإمتثال أمرى ﴿وَلَا تَمَّ﴾ عطف على لئلا يكون ﴿نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ﴾ بالهداية إلى معالم دينكم ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ إلى الحق ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا﴾ متعلق بآتم أى إتماماً كإتمامها بإرسالنا ﴿فِيكُمْ رَسُولاً مِّنْكُمْ﴾ محمداً ﷺ ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا﴾ القرآن ﴿وَيُزَكِّيْكُمْ﴾ يطهركم من الشرك ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ﴾ القرآن ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ مافيه من الاحكام ﴿وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ فاذكرونى بالصلوة والتسبيح ونحوه ﴿أذْكُرْكُمْ﴾ قيل معناه أجازيكم وفى الحديث عن الله ”من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ومن ذكرنى فى ملاء ذكرته فى ملاء خير من ملاءه ﴿وَاشْكُرُوا لِي﴾ نعمتى بالطاعة ﴿وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ بالمعصية۔

ترجمہ

(بلاشبہ) قد تحقیق کیلئے ہے (ہم دیکھتے ہیں تمہارے چہرے کے پھرنے کو آسمان) کی جہت (میں) وحی کے انتظار اور استقبال قبلہ کے حکم کے اشتیاق میں، آپ اس کو چاہتے تھے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور اس لئے کہ وہ اہل عرب کے اسلام لانے کے لئے زیادہ داعی تھا (تو ہم تمہیں ضرور اس قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو، لہذا تم اپنا رخ پھیر لو) نماز میں (مسجد حرام کی جانب) یعنی کعبہ کی جانب (اور جہاں کہیں تم ہو) یہ امت کو خطاب ہے (پس) نماز میں (اپنا رخ اس کی جانب کر لو اور بلاشبہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی خوب جانتے ہیں کہ یہ) یعنی کعبہ کی طرف رخ کرنا (حق ہے) ثابت ہے (ان کے رب کی جانب سے) کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی ﷺ کے اوصاف میں ہے کہ ان کو اسی کی طرف متوجہ کر دیا جائے گا (اور اللہ ان کاموں سے غافل نہیں ہیں جو تم کرتے ہو) تعملون تاء سے ہے، مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو! تم جو ان کے امر کا امتثال کرتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہیں، اور یاء سے غائب کا صیغہ یعنی یہود جو امر قبلہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں ہیں (اور اگر) لئن میں لام قسم کا ہے (تم ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تمام نشانیاں لا کر دیدو) یعنی امر قبلہ کے سلسلے میں تمام نشانیاں (تب بھی یہ) عناد کی وجہ سے (تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے، اور تم بھی ان کے قبلہ کا اتباع نہیں کرو گے) ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس امید کو منقطع کر دیا جو آپ کو ان کے اسلام لانے کے متعلق تھی، اور ان کی امید کو بھی ختم کر دیا، جو آپ کے سلسلے میں انہیں تھی

کہ شاید پھر بیت المقدس کو قبلہ بنالیں (اور نہ خود ان میں سے بعض دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرے گا) یعنی یہود نصاریٰ کے قبلہ کی، اور اس کے برعکس (اور اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے) جس کی جانب وہ تمہیں بلارہے ہیں (بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم) یعنی علم وحی (آچکا ہے تب تم) اگر بالفرض تم نے ان کی پیروی کر لی (ظالموں میں ہو جاؤ گے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ انھیں) یعنی محمد کو (اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں) آپ کی ان صفات کی وجہ سے، جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تھا جیسا پہچان لیا تھا، جیسے میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں، بلکہ حضور ﷺ کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں (اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے) یعنی آپ کی صفات کو (حالانکہ وہ جانتے ہیں) یہ طریق جس پر تم ہو (حق ہے، تمہارے رب کی طرف سے، اس لئے) اس میں (شک کرنے والوں میں نہ ہو) یعنی شک کرنے والوں کی قسم میں نہ ہو، یہ جملہ لاتمتر سے زیادہ بلیغ ہے اور معنی خیز ہے (اور ہر ایک) امت (کیلئے ایک جہت) قبلہ (ہے، وہ اس کی طرف) اپنے رخ کو نماز میں (متوجہ کرتی ہے) اور ایک قرآۃ میں مُوَلَّاهَا ہے (بس بھلائیوں) یعنی طاعات اور ان کو ماننے (کی جانب سبقت کرو، جہاں بھی تم ہو گے اللہ تعالیٰ تم سب کو لائیں گے) یعنی قیامت کے دن جمع کرے گا، پھر تمہارے اعمال کا تم کو بدلہ دیں گے (بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور جہاں سے بھی نکلو) سفر کے واسطے (تو اپنے رخ کو مسجد حرام کی جہت میں کر لو اور بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور اللہ غافل نہیں ہیں اس سے جو تم کرتے ہو) تعملون تاء اور یاء دونوں سے ہے، اس جیسے الفاظ گذر چکے ہیں، اور اسے مکرر بیان کیا تا کہ سفر اور حضر کے حکم کی تساوی معلوم ہو جائے (اور جہاں سے بھی تم نکلو تو اپنے رخ کو مسجد حرام کی جہت میں کر لو، اور جہاں بھی تم ہو اپنے رخ کو اسی کی طرف رکھو) اس کو تاکید کے واسطے مکرر لائے (تا کہ لوگوں) یعنی یہود یا مشرکین (کو تم پر کوئی حجت نہ رہے) یعنی اس کے علاوہ کی طرف رخ کرنے کے سلسلے میں کوئی جھگڑا باقی نہ رہے، یعنی ان کا تم سے جھگڑا منقطع ہو جائے، چنانچہ یہود کہتے تھے کہ ہمارے دین کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے قبلہ کو تسلیم کرتے ہیں، اور مشرکین کہتے تھے کہ ملت ابراہیمی پر ہونے کے مدعی ہیں اور ان کے قبلہ کے خلاف ہیں (سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا) عناد کی وجہ سے، تو وہ کہیں گے کہ کعبہ کی طرف جو رخ کیا ہے، تو صرف اس لئے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف ان کا میلان ہے، اور استثناء متصل ہے، معنی یہ ہے کہ تم پر کسی کا کوئی کلام باقی نہ رہے، سوائے ان لوگوں کے کلام کے (پس ان سے مت ڈرو) یعنی کعبہ کی طرف رخ کرنے میں ان کے جھگڑنے سے مت ڈرو (اور مجھی سے ڈرو) میرے امر کی تعمیل کرو (اور اس لئے کہ میں تام کر دوں) یہ لئلا یكون پر عطف ہے (اپنے احسان کو تم پر) تمہارے دین کی بنیادی باتوں کی ہدایت دے کر (اور شاید تم) حق کی

جانب (راہ یاب ہو جاؤ جیسا کہ ہم نے بھیجا) کما ارسلنا، اتم سے متعلق ہے یعنی ویسا ہی اتمام جیسے ہم نے (تم میں تمہارے ہی اندر سے ایک رسول) محمد ﷺ کو بھیج کر تام کیا (جو تم کو ہماری آیات) قرآن (پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے) یعنی شرک سے تم کو پاک کرتا ہے (اور تم کو کتاب) قرآن (اور حکمت) یعنی جو اس میں احکام ہیں ان (کی تعلیم دیتا ہے، اور سکھاتا ہے تم کو جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، پس مجھ کو) نماز اور تسبیح وغیرہ سے (یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا) کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں تم کو جزا دوں گا، اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے منقول ہے کہ جو مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں اسے اپنے جی میں یاد کروں گا، اور جو کوئی مجھے کسی مجمع میں یاد کرے گا میں اسے اس سے بہتر مجمع میں یاد کروں گا (اور میرا شکر ادا کرو) یعنی میری نعمت کا شکر ادا کرو میری طاعت کر کے، اور میری معصیت کر کے (میری ناشکری نہ کرو)

﴿تشریحات﴾

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ:۔ نبی کریم ﷺ کو جب وحی کا انتظار ہوتا، تو بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھتی تھیں، کیونکہ جبریل امین کا نزول اسی جانب سے ہوتا تھا، تحویل قبلہ کے سلسلے میں بھی آپ کے انتظار و اشتیاق کی یہی کیفیت تھی۔

خطاب للامة:۔ رسول سے خطاب کے بعد امت سے خطاب فرمایا، رسول ہی والا خطاب امت کے لئے بھی کافی تھا، مگر امت وسط اور شہداء علی الامم کی اہمیت کے پیش نظر غالباً ان سے الگ بھی خطاب کیا گیا۔

﴿مَا تَبِعُوا﴾ اى لا يتبعون:۔ ماضی کی تفسیر مستقبل سے اس لئے کی کہ شرط و جزا کا تعلق مستقبل ہی سے ہے۔

قطع لطمعه فى اسلامهم:۔ مَا تَبِعُوا قَبْلَتَكَ فرما کر حق تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی اس امید کو منقطع فرمادیا جو آپ کو یہود سے ان کے صاحب علم اور اہل کتاب ہونے کی بنا پر تھی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اپنے عناد کی وجہ سے اتباع حق کا جذبہ کھو چکے ہیں، اس لئے ان سے کوئی امید نہ رکھو، بلکہ ان سے صرف نظر کر لو۔

وطمعمهم فى عوده إليها:۔ یہود اس خام خیالی میں تھے کہ شاید پھر یہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی جانب پلٹ آئیں، کسی خاص مصلحت سے بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا ہے، پھر پرانے قبلہ کی طرف لوٹ آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کو و ما انت بتابع قبلتهم کہہ کر دور فرمادیا۔

أى اليهود قبلة النصارى وبالعكس:۔ عیسائیوں کا قبلہ مشرق ہے، اور یہودیوں کا قبلہ صحرہ بیت المقدس۔ علامہ ابن قیم نے بدائع الفوائد میں لکھا ہے کہ اہل کتاب کا قبلہ اللہ کے امر سے نہ تھا بلکہ ان کے آپس کے مشورہ اور اجتہاد سے تھا، کیونکہ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں دیا ہے کہ نصاریٰ نماز میں مشرق کی جانب منہ کریں، یہ قبلہ ان کے مشائخ نے متعین کیا ہے، یہی حال یہود کا بھی ہے، انھیں اللہ نے صحرہ بیت المقدس کی

طرف رخ کرنے کا توریت میں مطلقاً حکم نہیں دیا ہے، وہ تابوت کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے، وہی تابوت جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے، اور جب بیت المقدس میں ہوتے تو اسے صحرا پر رکھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ اس کو قبلہ بنا لیا۔

بنعته فی کتبہم :- بنعته، یعرفونہ کے متعلق ہے، یعنی اس بیان اوصاف کی وجہ سے جو ان کی کتابوں میں مذکور ہے، وہ آپ کو بخوبی پہچانتے ہیں۔

هذا الذي أنت عليه :- یہ پورا جملہ بتاویل مفرد ہو کر مبتدا ہے، اور الحق من ربك خبر ہے، اس میں من ربك حال ہے، اس لئے مفسر نے کائنا گونا گوا ہر کیا ہے۔

الشاكين فيه أي من هذا النوع :- یہ من الممترين کی تفسیر ہے، یعنی جو لوگ شک کرنے والے ہیں، ان کی نوع میں مت ہو۔

فهو أبلغ من لا تمتر :- فلا تكونن من الممترين کی تفسیر لا تمتر (نہی باب افتعال) سے بھی ہو سکتی تھی، اس میں شک کرنے سے نہی بالتصریح ہوتی اور فلا تكونن من الممترين میں شک کرنے والوں میں ہونے کی نہی ہے، التزماً شک کرنے سے نہی ہے، اور قاعدہ ہے کہ الکنایة أبلغ من التصريح، اس قاعدہ کے تحت مصنف نے فرمایا ہے کہ یہ لا تمتر سے بلیغ تر ہے۔

وفی قراءۃ مؤلاھا :- ایک قرأت میں بجائے مولیہا بصیغہ اسم فاعل کے مؤلاھا بصیغہ اسم مفعول ہے، مؤلاھا میں ضمیر نائب فاعل ہے، اور ہا مفعول ثانی ہے۔

الخیرات :- منصوب بزعم الخافض ہے، یعنی فاستبقوا الی الخیرات، خیرات خیرۃ کی جمع ہے، یہ لفظ خیرۃ کا مخفف ہے، یا یہ کہ براہ راست لفظ خیرۃ بالتخفیف ہی ہے۔

کر رہ لل تاکید :- خازن میں ہے کہ کیا اس تکرار میں کوئی فائدہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس میں فائدہ عظیمہ ہے، کیونکہ یہ پہلا واقعہ ہے، جس میں نسخ کا ظہور ہوا ہے۔ حق تعالیٰ کے احکام کے سلسلے میں یہ نسخ بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے، اس لئے تکرار کی ضرورت پیش آئی تاکہ بات خوب مؤکد ہو جائے، اور کسی طرح کا شبہ ذہنوں میں باقی نہ رہے۔

اليهود أو المشركين :- الناس میں لام عہد کا ہے اور لئلا یكون کی نفی کا تعلق الناس کے ہر فرد یعنی یہود اور مشرکین دونوں سے ہے، اسی لئے ان دونوں کے درمیان لفظ أو سے عطف لائے ہیں یعنی نہ یہود کے لئے حجت باقی رہے اور نہ مشرکین کے لئے، یہ عموم نفی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نفی کا تعلق الناس کے مجموعہ کے ساتھ ہو، اس صورت میں الناس کے کسی فرد کے لئے حجت منقطع ہو جاتی، تو کہا جاسکتا تھا کہ حجت باقی نہیں رہی، گو کہ ایک

فرد کے لئے باقی رہتی۔ اس لئے یہ مراد نہیں ہے۔

أَي لِيَنْتَفِي مَجَادِلْتَهُمْ لَكُمْ : - يَه لِيَلَّا يَكُونَنَّ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ كَا حَا ص ل مَعْنَى هَ، پھر دونوں فریق کے مجادلے کو من قول اليهود الخ سے بیان کیا گیا، یہود کا مجادلہ یہ تھا کہ یہ عجیب نبی ہیں کہ قبلہ تو ہمارا اختیار کئے ہوئے ہیں اور پھر ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، اور مشرکین کا مجادلہ یہ تھا کہ دعویٰ ملت ابراہیم پر ہونے کا کرتے ہیں اور قبلہ یہودیوں کا اختیار کئے ہوئے ہیں، تحویل قبلہ کے بعد یہ دونوں مجادلے ختم ہو گئے۔

﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ بِالْعِنَادِ : - ہاں جو معاند و ظالم ہیں، ان کا مشاغبہ کبھی ختم نہ ہوگا، انھیں کوئی اور بات نہیں ملے گی تو یہی الزام رکھیں گے کہ اب یہ اپنے آباء و اجداد کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مُسْتَشَىٰ هَ اور مُسْتَشَىٰ مِنْهُ النَّاسُ هَ، اور یہ استثناء متصل ہے، یعنی لایکون لأحدٍ علیکم کلام إلا کلام هؤلاء، اس تفسیر کو تحریر کر کے مفسر نے بتایا کہ یہاں حجت اپنے حقیقی معنی یعنی دلیل کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ مجادلہ و اعتراض کے معنی میں ہے۔ اس مجادلہ کو حجت و دلیل کے ساتھ ظاہراً مشاکلت کے باعث کہا گیا ہے۔

عطف لئلا یکون : - و لاتم کا عطف لئلا یکون پر ہے، یعنی یہ تحویل قبلہ اس لئے ہوا کہ لوگوں کا مشاغبہ ختم ہو، اور اس لئے ہوا کہ تم پر اللہ کی نعمت تام ہو۔

کما أرسلنا متعلق بآتم : - کاف حرف جر تشبیہ کے لئے ہے، اس کیلئے ایک متعلق درکار ہے، مفسر نے اس کا تعلق آتم سے بیان کیا ہے، اور ما أرسلنا میں ما مصدر یہ ہے، گویا یہ إرسالنا ہے، مصدر کی تشبیہ مصدر ہی سے ہوگی، اس لئے مفسر نے اس کی تفسیر میں فرمایا ای إتماماً کإتمامها بإرسالنا، اس نعمت کا تام کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ تمہارے درمیان ایک رسول مبعوث فرما کر ہم نے نعمت تام کی ہے۔

قیل معناه أجازیکم : - اذکر کم کا معنی بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ میں تمہارے ذکر کی جزا عطا کروں گا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ أعینکم تمہاری مدد کروں گا، بعض کا قول ہے کہ أغفر لکم۔

وفی الحدیث الخ : - یہ اذکر کم کی دوسری تفسیر ہے جو بالکل ظاہر ہے یعنی ذکر سے مراد ذکر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کے مجمع سے اچھے مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

تحویل قبلہ کی تمہیدات پہلے سے چل رہی تھیں، اب وہ وقت قریب ہے کہ قبلہ کو بدل دیا جائے، مگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خبردار فرمادیا کہ جب قبلہ کی تبدیلی ہوگی تو جہالت کے مارے ہوئے بہت شور و غوغا مچائیں

گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ انھوں نے جو قبلہ اب تک اختیار کر رکھا تھا، اب وہ باقی نہ رہا۔ خدا جانے وہ حق تھا یا یہ حق ہے، حالانکہ مشرق ہو یا مغرب سب کے مالک تو اللہ ہیں، وہ جدھر چاہیں قبلہ بنا دیں، اس میں دم مارنے کی گنجائش کہاں ہے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں دین حق کی ہدایت دیتے ہیں، انھیں نے اپنے فضل سے اہل ایمان کو سیدھی راہ بخشی ہے اور امت محمدیہ کو امت وسط بنا یا ہے جو دوسرے تمام لوگوں کے لئے شاہد اور معیار ہے، اس کا ایمان و عمل دوسری امتوں کے لئے معیار ہے، اور قیامت کے دن انھیں کی شہادت معتبر ہوگی، اور ان کے ایمان و عمل کے لئے نبی شاہد اور معیار ہیں۔ نبی ان کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔

اور یہ تحویل قبلہ تو ایک آزمائش کا سامان ہے، اس سے امتحان ہو جائے گا کہ رسول کا تابع کون ہے؟ اور کون اپنی خواہش کے پیچھے دوڑتا ہے، جس نے صدق دل سے آپ کو نبی مانا ہے وہ تو بے تکلف آپ کی بات کو قبول کر لے گا، اور جو لوگوں میں ہوگا اس کو اپنی عزت و وقار کا خیال دبائے گا وہ یہ سوچے گا کہ ان کا کہاں تک ساتھ دیا جائے، یہ تو کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ، انھیں خود اپنے معاملے میں استغناء و استقلال نہیں ہے، پھر کوئی کب تک ان کے پیچھے دوڑتا رہے گا، اور دوسروں کے طعنوں کا نشانہ بنا رہے گا۔

تو یہ تحویل لوگوں پر گراں پڑ رہی ہے، مگر جنہیں اللہ نے صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے وہ مطمئن ہیں، انھیں کچھ مشکل نہیں ہے اور تم جو یہ سوچ رہے ہو، یا دوسرے لوگ شک پیدا کر رہے ہیں کہ جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی مدت میں انتقال کر چکے ہیں، ان کا کیا ہوگا، تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان اور ایمان والے اعمال کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان اور رحیم ہیں۔

حق تعالیٰ غایت رحمت و عنایت سے رسول اللہ ﷺ کو خطاب کرتے ہیں کہ ہم تمہارے شوق و انتظار کو سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا منہ وحی کے انتظار میں آسمان کی جانب بار بار اٹھتا ہے، تو لو ہم تمہارے لئے وہی قبلہ متعین کرتے ہیں جو تم چاہتے ہو، تو اب نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھا کرو۔ حضر میں ہو تو بھی سفر میں ہو تو بھی، اور اہل کتاب کو بھی اس تحویل قبلہ کی حقانیت خوب معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کارروائی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور برحق ہے، اس کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے غافل نہیں ہے جو تم لوگ کرتے ہو، یا جو اہل کتاب کرتے ہیں۔

اور ان اہل کتاب کے عناد و ضد کا حال تو یہ ہے کہ ان کے سامنے تمام دلائل و آیات کو واضح کر دیا جائے تب بھی یہ سچے قبلہ کی پیروی نہ کریں، اور نہ تمہیں ہی اجازت ہے کہ ان کے منسوخ شدہ قبلہ کی طرف رخ کرو، اور خود بعض اہل کتاب دوسرے اہل کتاب کے قبلہ کو نہیں مان سکتے۔ اب بالفرض تم نے ان کی خواہشات نفس کو کسی بھی درجہ میں تسلیم کر لیا جب کہ تمہارے پاس وحی آچکی ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔

رسول اللہ ﷺ تو معصوم تھے، ان سے تو اس بات کا تصور بھی نہ تھا کہ یہود و نصاریٰ کی موافقت کریں گے، یہ درحقیقت آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو خطاب ہے کہ جب ان کے پاس وحی الہی کے ذریعے سے علم آچکا ہے تو اب کسی دوسرے نظریہ اور انسانی افکار و خیالات کے اتباع و پیروی میں بجز ظلم اور ضلالت کچھ نہ ہوگا۔

عناد و ضد کا تو وہ حال ہے جو اوپر ذکر ہوا، اور علم و معرفت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی آسمانی کتابوں میں نبی ﷺ کے احوال و اوصاف کو پڑھ کر آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے کہ باپ کو اپنی اولاد کے پہچاننے میں کبھی اشتباہ نہیں ہوتا، اسی طرح انھیں بھی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے نبی برحق ہونے میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو سچی بات کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہ اسے خوب جانتے ہیں۔

ہم نے ہر دور میں ہر امت کے لئے ایک قبلہ اور رخ متعین کیا تھا، وہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتی تھی، اصل کام یہ ہے نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، تم کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سب کو قیامت کے دن اکٹھا کر کے اپنے سامنے حاضر کریں گے، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے، اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، اگر سفر میں نکلنا ہو تب بھی قبلہ وہی جہت کعبہ ہے۔ اور مکرر سنو کہ جہاں سے بھی نکلو اور جہاں بھی ہو نماز میں تمہارا رخ مسجد حرام کی جانب ہونا چاہئے، تاکہ اب کسی کو اس سلسلے میں مجال گفتگو باقی نہ رہے، البتہ جن کا شیوہ ہی ظلم و عناد ہے ان کی زبان کیونکر رکے گی، وہ تو الزام و اتہام کو دہراتے ہی رہیں گے، اس لئے اس سلسلے میں کسی سے کچھ اندیشہ نہ کرو، بس مجھی سے ڈرو اور میرے امر کا امتثال کرو، اور یہ بھی مقصد ہے کہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں، یعنی تمام احکام و شرائع کی تکمیل کر دوں، چنانچہ تم میں ایک رسول تمہیں میں سے بھیج چکا ہوں، وہ تم کو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بہت سی باتیں جو تم نہیں جانتے تھے تمہیں سکھاتا ہے۔ میرے ان احسانات کا حق یہ ہے کہ تم نماز اور تسبیح و تہلیل کے ذریعے سے مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، یعنی اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا، اور میرا احسان مانو، ناشکری نہ کرو یعنی میری اطاعت و فرمانبرداری میں لگے رہو، نافرمانی نہ کرو۔



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا عَلَى الْآخِرَةِ بِالصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْبَلَاءِ وَالصَّلَاةِ﴾
 خصہا بالذکر لتکررها وعظمتها ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ بالعون ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هم ﴿أَمْوَاتٌ بَلْ﴾ هم ﴿أَحْيَاءٌ﴾ أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت لحديث بذلك ﴿وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ تعلمون ما هم فيه ﴿وَلَنَبَلِّغُنَّكُمْ

بَشَائِي مِّنَ الْخَوْفِ ﴿١﴾ لِلْعَدُوِّ ﴿٢﴾ وَالْجُوعِ ﴿٣﴾ الْقَحْطِ ﴿٤﴾ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ ﴿٥﴾
 بِالْهَلَاكِ ﴿٦﴾ وَالْأَنْفُسِ ﴿٧﴾ بِالْقَتْلِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْمَوْتِ ﴿٨﴾ وَالشَّمْرَاتِ ﴿٩﴾ بِالْجَوَائِحِ أَيْ لِنَحْتَبِرْ نَكْمَ
 فَنَنْظُرُ أَتَصْبِرُونَ أَمْ لَا ﴿١٠﴾ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١١﴾ عَلَى الْبَلَاءِ بِالْجَنَّةِ هُمْ ﴿١٢﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
 مُّصِيبَةٌ ﴿١٣﴾ بَلَاءٌ ﴿١٤﴾ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ ﴿١٥﴾ مُلْكًا وَعَبِيدًا يَفْعَلْ بِنَا مَا يَشَاءُ ﴿١٦﴾ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٧﴾ فِي الْآخِرَةِ
 فَيَجَازِينَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ اسْتِرْجَاعِ عِنْدَ الْمَصِيبَةِ أَجْرَهُ اللَّهُ فِيهَا وَاخْلَفَ عَلَيْهِ خَيْرًا وَفِيهِ أَنْ
 مَصْبَاحِ النَّبِيِّ ﷺ طَفِي فَا اسْتِرْجَعَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا هَذَا مَصْبَاحٌ فَقَالَ كُلُّ مَاسَاءِ الْمُؤْمِنِ
 فَهُوَ مَصِيبَةٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَايِلِهِ ﴿١٨﴾ أَوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ ﴿١٩﴾ مَغْفِرَةٌ ﴿٢٠﴾ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴿٢١﴾
 نِعْمَةٌ ﴿٢٢﴾ وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ إِلَى الصَّوَابِ ﴿٢٤﴾ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ﴿٢٥﴾ جَبَلَانِ بِمَكَّةَ ﴿٢٦﴾ مِنْ شَعَائِرِ
 اللَّهِ ﴿٢٧﴾ أَعْلَامُ دِينِهِ جَمْعُ شَعِيرَةٍ ﴿٢٨﴾ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ ﴿٢٩﴾ أَيْ تَلَبَّسَ بِالْحَجِّ وَالْعِمْرَةِ وَأَصْلُهُمَا
 الْقَصْدُ وَالزِّيَارَةُ ﴿٣٠﴾ فَلَا جُنَاحَ ﴿٣١﴾ إِثْمٌ ﴿٣٢﴾ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ ﴿٣٣﴾ فِيهِ ادْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الطَّاءِ
 ﴿٣٤﴾ بِهِمَا ﴿٣٥﴾ بَأَنَّ يَسْعَىٰ بَيْنَهُمَا سَبْعًا نَزَلَتْ لِمَا كَرِهَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا
 يَطُوفُونَ بِهِمَا وَعَلَيْهِمَا صَنْمَانٌ يَمَسْحُونَهُمَا وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ السَّعْيَ غَيْرُ فَرَضٍ لِّمَا أَفَادَهُ
 رَفْعُ الْإِثْمِ مِنَ التَّخْيِيرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ رُكْنٌ وَبَيِّنٌ ﷺ وَجُوبُهُ بِقَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ
 السَّعْيَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ إِبْدُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ يَعْنِي الصَّفَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ
 تَطَوَّعَ ﴿٣٧﴾ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْتَحْتَانِيَّةِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ مَجْزُومًا وَفِيهِ ادْغَامُ التَّاءِ فِيهَا ﴿٣٨﴾ خَيْرًا ﴿٣٩﴾ أَيْ بِخَيْرٍ
 أَيْ فَعَلَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافٍ وَغَيْرِهِ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ ﴿٤١﴾ لِعَمَلِهِ بِالْإِثَابَةِ عَلَيْهِ ﴿٤٢﴾ عَلَيْهِمْ ﴿٤٣﴾ بِهِ
 وَنَزَلَ فِي الْيَهُودِ ﴿٤٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ﴿٤٥﴾ النَّاسَ ﴿٤٦﴾ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ ﴿٤٧﴾ كَايَةَ الرَّجْمِ
 وَنَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ ﴿٤٨﴾ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ﴿٤٩﴾ التَّورَةِ ﴿٥٠﴾ أَوْلَيْكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ ﴿٥١﴾ يَبْعَدُهُمْ
 مِنْ رَحْمَتِهِ ﴿٥٢﴾ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿٥٣﴾ الْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَوْ كُلُّ شَيْءٍ بِالْإِثَابَةِ عَلَيْهِمْ بِاللَّعْنَةِ ﴿٥٤﴾ إِلَّا
 الَّذِينَ تَابُوا ﴿٥٥﴾ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ ﴿٥٦﴾ وَأَصْلَحُوا ﴿٥٧﴾ عَمَلُهُمْ ﴿٥٨﴾ وَبَيَّنُّوا ﴿٥٩﴾ مَا كَتَمُوهُ ﴿٦٠﴾ فَأَوْلَيْكَ اتُّوبُ
 عَلَيْهِمْ ﴿٦١﴾ أَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ ﴿٦٢﴾ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٦٣﴾ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ﴿٦٥﴾
 حَالٌ ﴿٦٦﴾ أَوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٦٧﴾ أَيْ هُمْ مُسْتَحِقُّو ذَلِكَ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالنَّاسِ قِيلَ عَامٌ وَقِيلَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٦٨﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا ﴿٦٩﴾ أَيْ اللَّعْنَةُ أَوْ النَّارُ الْمَدْلُولُ بِهَا
 عَلَيْهَا ﴿٧٠﴾ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ﴿٧١﴾ طَرْفَةَ عَيْنٍ ﴿٧٢﴾ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٧٣﴾ يَمْهَلُونَ لِتَوْبَةٍ أَوْ مَعْدَرَةٍ وَنَزَلَ
 لَمَّا قَالُوا صَفْ لِنَارِكَ ﴿٧٤﴾ وَإِلَهُكُمْ ﴿٧٥﴾ أَيْ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ مِنْكُمْ ﴿٧٦﴾ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴿٧٧﴾ لَا نَظِيرَ لَهُ فِي

ذاتہ ولا فی صفاتہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾
ترجمہ

(اے ایمان والو!) آخرت پر (مدد حاصل کرو) طاعت پر اور بلاؤں پر (صبر سے اور نماز سے) خاص طور سے نماز کا ذکر کیا، کیونکہ وہ بار بار پڑھی جاتی ہے، اور اس کی بڑی شان ہے (بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں) یعنی ان کی مدد کرتا ہے (اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مقتول ہوتے ہیں انھیں مت کہو کہ وہ (مردہ ہیں بلکہ) زندہ ہیں) ان کی روحیں ہرے پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں چرتی چگتی پھرتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے (لیکن تم نہیں جانتے) جن نعمتوں میں وہ ہیں (اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کسی قدر) دشمن کے (خوف میں اور بھوک میں) یعنی قحط میں (اور مالوں کی) ہلاکت کے باعث (اور جانوں کی) قتل اور امراض کے باعث (اور پھلوں کی) آسمانی آفات کے باعث (کمی میں) یعنی ہم تمہارا امتحان لیں گے اور دیکھیں گے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں؟ (اور) بلا پر (صبر کرنے والوں کو) جنت کی (بشارت دیدو) یہ وہ (لوگ ہیں کہ جب انھیں کوئی مصیبت) یعنی بلا (پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم) ملکیت میں بھی اور بندہ ہونے میں بھی (اللہ ہی کے لئے ہیں) وہ ہمارے ساتھ جو چاہیں معاملہ کریں (اور بے شک ہم انھیں کی طرف) آخرت میں (لوٹنے والے ہیں) وہ ہمیں اس کا صلہ دیں گے، حدیث میں ہے کہ جس نے مصیبت کے وقت **إِنَّا لِلَّهِ** الخ پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے، اور اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے، اور حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ کے گھر میں چراغ جو جل رہا تھا، گل ہو گیا، آپ نے **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**، پڑھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یہ تو صرف ایک چراغ تھا، آپ نے فرمایا کہ جس چیز سے مومن کو تکلیف پہنچے وہ مصیبت ہے، اسے امام ابو داؤد نے اپنی مراسیل میں روایت کیا ہے (یہی لوگ ہیں کہ ان کے اوپر مغفرت ہے، ان کے رب کی جانب سے اور رحمت) یعنی نعمت (ہے، اور یہی لوگ) راہِ صواب کی جانب (ہدایت یاب ہیں، بے شک صفا اور مروہ) یہ دونوں مکہ میں دو پہاڑ ہیں (اللہ کے شعائر) یعنی اللہ کے دین کے نشانات (میں ہیں) شعائر، شعیرۃ کی جمع ہے (تو جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے) حج اور عمرہ دونوں کے معنی قصد اور زیارت کے ہیں (تو اس پر گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کرے) یعنی ان کے درمیان سات چکر سعی کرے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، جبکہ مسلمانوں نے اس سعی کو ناپسند کیا تھا، کیونکہ جاہلیت میں لوگ ان کے درمیان سعی کرتے تھے، اور ان دونوں پہاڑوں پر دوت رکھے ہوئے تھے، وہ انھیں تبرکاً ہاتھ لگاتے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سعی فرض نہیں ہے، کیونکہ گناہ کی نفی اختیار پر دلالت کرتی ہے، اور امام شافعی وغیرہ نے فرمایا کہ وہ رکن ہے، اس کی فرضیت رسول اللہ ﷺ کے اس قول سے ثابت ہوتی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی

کو فرض کر دیا ہے۔‘ رواہ البیہقی وغیرہ۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہیں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے ذکر کیا ہے یعنی صفا سے۔ رواہ مسلم (اور جو ازراہ نفل کوئی عمل خیر کرے) تَطَوَّعَ میں ایک قرأتِ طَوَّعَ یاء کے ساتھ اور طاء کی تشدید کے ساتھ حالت جزم میں ہے، اس میں تاء کا ادغام طاء میں ہے، یعنی وہ عمل کرے جو اس پر واجب نہیں ہے، خواہ طواف ہو یا کچھ اور (تو بے شک اللہ تعالیٰ) اس کے عمل کے (قدر دان ہیں) اس پر ثواب دیں گے، اس کو (جاننے والے ہیں) اور یہود کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی (بے شک وہ لوگ جو) عوام الناس سے (چھپاتے ہیں، جو کچھ ہم نے دلائل اور ہدایت کی باتیں اتاری ہیں) یعنی آیت رجم اور محمد ﷺ کے اوصاف و احوال وغیرہ (بعد اس کے کہ ہم نے انہیں لوگوں کے واسطے کتاب میں) یعنی توریت میں (بیان کر دیا ہے، یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے) یعنی اپنی رحمت سے انہیں دور کرتا ہے (اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں) یعنی فرشتے، یا اہل ایمان، یا ہر چیز مراد ہے، یعنی ان پر لعنت کی بددعا کرتے ہیں (مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی) یعنی اس سے رجوع کیا اور اپنے عمل کو (درست کیا اور) جو کچھ چھپایا تھا اسے (بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں جن پر میں عنایت کرتا ہوں) یعنی ان کی توبہ قبول کرتا ہوں (اور میں توبہ قبول کرنے والا) اہل ایمان پر (مہربان ہوں)

(بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے) وہم کفار حال ہے (یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی، ملائکہ کی اور لوگوں کی، ہر ایک کی لعنت ہے) یعنی وہ لوگ اس کے مستحق ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور الناس کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ وہ عام ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ صرف اہل ایمان ہیں (اس میں ہمیشہ رہیں گے) یعنی لعنت میں، یا جہنم میں جس پر لفظ لعنت سے دلالت ہو رہی ہے (ان سے) پلک جھپکنے کے بقدر بھی (عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ انہیں) توبہ یا معذرت کے لئے (مہلت دی جائے گی) اور جب ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لئے اپنے رب کے اوصاف کو بیان کیجئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی (اور تمہارا معبود) جو تمہاری عبادت کا مستحق ہے (وہ ایک معبود ہے) اس کی نظیر کوئی نہیں، ذات میں نہ صفات میں (کوئی معبود نہیں ہے بجز اس کے) وہ (رحمن و رحیم ہے)

﴿تشریحات﴾

﴿بِالصَّبْرِ﴾ علی الطاعة والبلاء :- صبر کی تشریح اسی سورہ کے پانچویں رکوع میں گزر چکی ہے۔ یعنی الحبس للنفس علی ما تکرہ، جو کچھ نفس و طبیعت پر گراں ہو، اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا صبر ہے، وہاں گزر چکا ہے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں: (۱) صبر علی البلاء (۲) صبر علی الطاعة (۳) صبر عن المعصية، یہاں مفسر نے دو ہی کا ذکر کیا ہے، لیکن صبر علی الطاعة میں طاعت کو اگر فعل اور

ترک دونوں اعتبار سے عام مانا جائے، تو صبر عن المعصية بھی اس میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ معصیت سے بالا ارادہ رکنا اور اپنے آپ کو اس سے باز رکھنا بھی طاعت ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ بالعون :- اللہ تعالیٰ کی بندوں کے تعلق سے معیت دو طرح کی ہے، ایک معیت عامہ، یہ معیت علم اور قدرت وغیرہ کے اعتبار سے ہے، یہ معیت تو دنیا کی ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ دوسری معیت خاصہ، اور وہ ہے نصرت و محبت کی معیت، یہ معیت اہل تقویٰ، اہل احسان اور اہل صبر کو حاصل ہے، اس میں نماز پڑھنے والے بھی داخل ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ**۔

ہمارے زمانہ میں بعض اہل بدعت نے غیر اللہ سے استعانت کی دلیل میں اس آیت کو پیش کیا ہے کہ صبر و صلوة سے استعانت کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ دونوں اللہ کے ماسوا ہیں، اس سے معلوم ہوا ہے کہ ماسوی اللہ سے مدد مانگی جاسکتی ہے، مگر یہ خالص جہل ہے، غیر اللہ سے استعانت جو حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ماسویٰ کو حاجت روا سمجھ کر اس کے سامنے اپنی ضرورت پیش کر کے اس میں اس سے مدد مانگی جائے، اور یہاں ہر شخص سمجھتا ہے کہ نماز اور صبر نہ حاجت روا ہیں، اور نہ کوئی نماز اور صبر سے یہ کہتا ہے کہ میری فلاں حاجت پوری کر دو، نماز اور صبر کوئی ذات اور شخصیت نہیں ہیں وہ تو فعل ہیں، ان دونوں کاموں کے انجام دینے سے اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے فشتان بینہما۔

ہم أموات :- أموات کا لفظ لا تقولوا کا مفعول بہ نہیں ہے، ورنہ وہ منصوب ہوتا، یہ اس کا مقولہ ہے، اور مبتدا محذوف ہے، اور وہ ہم ہے۔

أرواحهم فی حواصل طیور خضر :- ابتداءً جب لوگ میدان جہاد میں شہید ہوئے، تو چونکہ شہادت کا تعلق زیادہ تر نوجوانوں سے ہوتا تھا، تو افسوس کرنے والے یوں کہتے کہ بیچارے کی ابھی عمر ہی کیا تھی، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ بھی نہ اٹھا سکا اور مر گیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو تم مردہ مت کہو، ان کی دنیاوی زندگی گو کہ منقطع ہو گئی ہے، روح نے جسد عنصری کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن حق تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ روہیں پوری طرح بیدار و ہوشیار ہیں، انہیں ایک دوسرے قالب میں بطور امانت کے رکھ دیا جاتا ہے، اصل جزا کا حصول تو قیامت کے بعد ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی انہیں جنت میں داخل ہونے اور اس کی نعمتوں اور لذتوں سے تمتع حاصل کرنے کی آزادی ملتی ہے، انہیں جنت کے ہرے پرندوں کے قالب میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ پرندے جنت میں جہاں جی چاہے اڑتے پھرتے اور کھاتے پیتے رہتے ہیں، چنانچہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں باقاعدہ داخلہ سے پہلے ایک وقفہ اور بھی ہے، جس میں شہداء کو زندگی اور اس کے تمتعات سے استفادہ کا موقع ملتا ہے، یہ زندگی ”برزخی زندگی“ ہے، یہ وقفہ عالم برزخ اور عالم قبر

کہلاتا ہے۔

﴿وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ تعلمون ماہم فیہ :- لیکن تمہیں ان کے احوال اور خصوصیات کا علم نہیں ہو پاتا، کیونکہ یہ حیاتِ دنیوی نہیں ہے، اس کے بعد کی زندگی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کی حیات، دُنیوی حیات نہیں ہے، اس سے مختلف ہے، ورنہ دوسرے لوگ بھی اسے جان سکتے، نیز یہ کہ اگر حیاتِ دُنیوی ہوتی تو ان کی بیویوں کا نکاح ان سے منقطع نہ ہوتا، مال پر سے ان کی ملکیت ختم نہ ہوتی اور وراثت اس میں جاری نہ ہوتی۔

لنختبرنکم فنظر تصبرون أم لا :- آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دشمن کے خوف، قحط سالی کی وجہ سے فاقہ اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی سے تمہاری آزمائش ہوگی، اس آزمائش میں کیا پرکھنا منظور ہے، وہ صاف اور واضح ہے، مصنف نے اسے بیان فرمایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان مصائب پر تمہارا طرزِ عمل کیا ہوتا ہے، تم صبر کرتے ہو یا بے صبری میں مبتلا ہوتے ہو۔

﴿قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ﴾ ملکاً وعبیداً :- صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، تو دل سے بھی اور زبان سے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، یعنی بلحاظ ملکیت کے بھی اور بلحاظ غلامی کے بھی، یعنی وہ ہمارا مالک ہے، اور ہم اس کے بندے اور عبادت گزار ہیں، اس کلمہ کو زبان و دل سے ادا کر کے بندہ نے اپنے معاملہ کو خدا کے سپرد کر دیا، اور اس نے اقرار کر لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام تصرفات پر خواہ وہ مصائب ہی کی شکل میں ہوں، راضی ہے۔

صلوات :- کی تفسیر حضرت مفسر نے مغفرت سے کی ہے، اس کے بعد رحمت کا لفظ آ رہا ہے، بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ صلوات کے معنی تو رحمت ہی کے ہیں تو گویا رحمت ہی پر رحمت کا عطف ہو رہا ہے، اس کو حضرت مفسر نے حل کیا ہے کہ صلوات کو یہاں ایک رحمت خاصہ یعنی مغفرت کے معنی میں لیا ہے، اور رحمت کو جو معطوف علیہ ہے انعام کے معنی میں لیا ہے، اس طرح معطوف علیہ اور معطوف میں قدرے مغایرت ہوگی۔

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ﴾ جبلان بمکہ :- صفا اور مروہ مکہ مکرمہ کے اندر دو پہاڑیوں کے نام ہیں، جن کے درمیان مختصر سا فاصلہ ہے، یہ دونوں پہاڑیاں ابتداءً مسجد حرام کے باہر تھیں، اب تو سیعاتِ سعودی میں یہ دونوں اتنی متصل ہیں کہ اس کے اندر معلوم ہوتی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی شیر خوارگی کے زمانے میں جب پیاس سے بے تاب ہوئے تھے تو حضرت ہاجرہ انھیں دونوں پہاڑیوں پر دوڑ دوڑ کر چڑھتی تھیں اور تلاش کرتی تھیں کہ مسافروں کا کوئی قافلہ گزرتا ہوا نظر آجائے تو اس سے پانی حاصل کریں، پھر وہیں فرشتے نے انھیں ندا دی، اور انھوں نے دیکھا کہ بچے کی ایڑیوں کے پاس سے چشمہ ابل رہا ہے۔

أعلام دینہ :- شعائرِ شعیرۃ کی جمع ہے، شعائر ان جگہوں اور چیزوں کو کہا جاتا ہے جن سے متعلق اللہ کا کوئی

خاص امر ہوتا ہے، جس کو علی الاعلان ادا کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اسے دین کے ایک نشان کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اسی لئے اس کا ترجمہ حضرت مفسر نے اعلام سے کیا، اعلام علم کی جمع ہے، جس کے معنی علامت کے ہیں اور علامت وہی چیز بنتی ہے جسے سب جانتے ہوں، اس کی تفسیر میں دینہ بڑھا کر مفسر نے اشارہ کیا کہ شعائر اللہ میں لفظ دین محذوف ہے، یعنی شعائر دین اللہ۔

أى تلبس بالحج والعمرة :- حج کے اصل معنی قصد کرنے کے ہیں، اور عمرہ اعتمار سے ماخوذ ہے، اس کے معنی زیارت کرنے کے ہیں، لیکن اصطلاح شرع میں خاص خاص مقامات کا قصد کرنا ہے بطور عبادت کے، اور عمرہ کے معنی شرع میں بیت اللہ کی زیارت ایک مخصوص طریقے پر بہ نیت عبادت ہے، قرآن میں جو حج البیت اور أو اعتمر فرمایا گیا ہے، وہ لغوی معنی میں نہیں ہے، شرعی معنی میں ہے، اس لئے مفسر نے تلبس بالحج والعمرة کہا ہے کہ جس نے حج یا عمرہ کی عبادت کو اختیار کیا۔

بأن يسعى بينهما سبعا :- یہ طواف بین الصفا والمرہ کی تفسیر ہے۔

نزلت لما كره المسلمون ذلك :- یہ آیت سعی کی شان نزول کا بیان ہے، زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر دو بت اسف و نائلہ نامی تھے، حج کے دوران ان دونوں کی پوجا ہوتی تھی، آدمی چکر لگا کر دونوں کے پاس آتا جاتا تھا، اسلام کے غلبہ کے بعد اس کو جاہلی رسم سمجھ کر لوگوں نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کو مکروہ سمجھا، اس غلط فہمی کو قرآن کریم نے دور کیا کہ بتوں کی پوجا تو بے شک شرک ہے، اور اب بت ختم کر دیئے گئے، لیکن صفا و مروہ کے طواف میں اس کی سابق بت پرستی کی وجہ سے کوئی کراہت اور گناہ نہیں ہے، وہ اعمال حج میں ہے۔

وعن ابن عباس أن السعي غير فرضٍ لما أفاده رفع الإثم من التخيير :- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی فرض نہیں ہے، کیونکہ جب یہ فرمایا گیا کہ سعی میں کچھ گناہ نہیں، تو اس سے ظاہر ہے کہ اباحت اور اختیار کا ثبوت ہوتا ہے، فرضیت کا نہیں۔

وقال الشافعي ركن الخ :- لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سعی رکن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی رکنیت کا بیان رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد میں ہے کہ: إن الله كتب عليكم السعي (رواه البيهقي وغيره) اللہ نے تمہارے اوپر سعی لکھ دیا ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: إبدأوا بما بدأ الله يعني الصفا، سعی کا آغاز وہاں سے کرو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کا آغاز کیا ہے، یعنی صفا سے، مطلب یہ ہے کہ سعی کی ابتداء صفا سے ہے، اور اختتام مروہ پر ہے۔

﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ﴾ وفي قراءة بالتحسانية الخ :- وَمَنْ تَطَوَّعَ میں ایک قرأت وَمَنْ يَطَّوَّعَ کی ہے، یعنی ابتداء میں بجائے تاء کے یا اور طاء مشدد کے ساتھ، درحقیقت یہ يتطوع باب تفاعل سے ہے، اس میں تاء تفاعل

کو طاء سے بدل کر طاء میں ادغام کر دیا ہے، اور من شرطیہ کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہے۔

﴿خَيْرًا﴾ ای بخیرِ اٰی فعل مالم يجب عليه من طوافٍ وغيره :- **سوال**: تطوع فعل لازم ہے، اس کا مفعول بہ نہیں ہوتا، تو خیراً کے نصب کی کیا وجہ ہے؟ **جواب**: مفسر نے جواب دیا کہ یہ منصوب بزوع الخافض ہے، اصل میں ومن تطوع بخیر ہے، تطوع سے مراد وہ نیک عمل ہے جو واجب اور فرض نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ طواف نفل اگر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر دانی فرمائیں گے یعنی ثواب عطا فرمائیں گے۔

بالإثابة عليه :- اللہ تعالیٰ کے شاکر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شکر کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے اوپر کئے گئے احسان کا آدمی محبت سے اظہار کرے، ظاہر ہے کہ یہ معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے، اللہ پر کس کا احسان؟ مفسر نے جواب دیا کہ اللہ کے شاکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کرنے والے کے عمل کو قبول فرماتے ہیں اور اس پر ثواب عطا کرتے ہیں۔

كآية الرجم و نعت محمد ﷺ :- بینات و ہدی کے کتمان (چھپانے) کی مثال میں مفسر نے آیت رجم اور رسول اللہ ﷺ کے احوال و صفات کو پیش کیا ہے، یہ درحقیقت کتمان کی مختلف صورتوں کی طرف اشارہ ہے، رجم کی آیت کو انہوں نے سرے سے مٹا دیا تھا، یا اگر کہیں کسی نسخے میں باقی رہ گئی تھی تو عوام و خواص کے سامنے پیش کرنے میں اسے چھپا دیتے تھے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بعض یہودیوں نے بھی یہی حرکت کی تھی۔ کتمان کی ایک صورت یہ ہے کہ آیت بدل کر دوسری آیت اس کی جگہ لکھ دیتے تھے، یا آیت تو وہی ہوتی تھی، مگر اس کا مصداق اور اس کی مراد کچھ اور قرار دے لیتے تھے۔ اس کی مثال (نعت محمد ﷺ) حضور کے اوصاف و حالات ہیں، ان میں یہ دونوں طرح کی حرکتیں کرتے تھے، یہ سب کتمان کی صورتیں ہیں۔

أى هم مستحقوا ذلك فى الدنيا والآخرة :- یعنی یہ کفار دنیا و آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں، اس سے پہلے والی آیت میں بھی ”کاتمین بینات“ جو کہ کافر ہی ہیں، کے حق میں لعنت کا ذکر ہے، اور یہاں بھی لعنت کا تذکرہ ہے، بظاہر تکرار معلوم ہوتی ہے۔ مفسر نے فرمایا کہ پہلی آیت میں بالفعل لعنت کا ذکر ہے یعنی ان پر لعنت برس رہی ہے، اور زیر بحث آیت میں لعنت کا استحقاق ہے، پس تکرار نہیں ہے۔

أى اللعنة أو النار المدلول بها عليها :- یہ لوگ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے التزاماً سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ لعنت کی جگہ جہنم ہی ہے، یہ فیہا کی ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ضمیر النار کی طرف لوٹی ہے، جو کہ لعنت کے لئے لازم ہے، تو ذکر ملزوم کا یعنی لعنت کا، اور ضمیر راجع ہوئی لازم کی طرف یعنی النار کی طرف۔

وطلبوا آية على ذلك فنزل ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وما فيهما من العجائب ﴿ وَاختِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ بالذهاب والمجئ والزيادة والنقصان ﴿ وَالْفُلُكِ ﴾ السفن ﴿ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ﴾ ولا ترسب مؤقرة ﴿ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ﴾ من التجارات والحمل ﴿ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ ﴾ مطر ﴿ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ ﴾ بالنبات ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ يبسها ﴿ وَبَتَّ ﴾ فرق ونشر به ﴿ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ﴾ لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه ﴿ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ ﴾ تقلبها جنوباً وشمالاً حارةً وباردةً ﴿ وَالسَّحَابِ ﴾ الغيم ﴿ الْمُسَخَّرِ ﴾ المذلل بأمر الله يسير إلى حيث شاء الله ﴿ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ بلا علاقة ﴿ لآيَاتٍ ﴾ دلالات على وحدانيته تعالى ﴿ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ يتدبرون ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ أى غيره ﴿ أَنْدَادًا ﴾ أصناماً ﴿ يُحِبُّونَهُمْ ﴾ بالتعظيم والخضوع ﴿ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ أى كحبهم له ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ من حبهم للانداد لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما والكفار يعدلون فى الشدة إلى الله ﴿ وَلَوْ تَرَى ﴾ تبصر يا محمد ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ باتخاذ الانداد ﴿ إِذْ يَرُونَ ﴾ بالبناء للفاعل والمفعول يبصرون ﴿ الْعَذَابَ ﴾ لرأيت أمراً عظيماً وإذ بمعنى إذا ﴿ أَنْ ﴾ أى لأن ﴿ الْقُوَّةَ ﴾ القدرة والغلبة ﴿ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ حال ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ وفى قراءة يرى بالتحتمانية والفاعل فيه قيل ضمير السامع وقيل الذين ظلموا فهى بمعنى يعلم وأن وما بعدها سدت مسد المفعولين وجواب لو محذوف والمعنى لو علموا فى الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت معينتهم له وهو يوم القيمة لما اتخذوا من دونه أنداداً ﴿ إِذْ ﴾ بدل من إذ قبله ﴿ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾ أى الرؤساء ﴿ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾ أى أنكروا إضلالهم ﴿ وَ ﴾ قد ﴿ رَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ ﴾ عطف على تبرأ بهم عنهم ﴿ الْأَسْبَابُ ﴾ الوصل التى كانت بينهم فى الدنيا من الارحام والمودة ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً ﴾ رجعة إلى الدنيا ﴿ فَنَتَّبَرَّأَ مِنْهُمْ ﴾ أى المتبوعين ﴿ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا ﴾ اليوم ولو للتمنى وفتبرأ جوابه ﴿ كَذَلِكَ ﴾ كما أراهم شدة عذابه وتبرئ بعضهم من بعض ﴿ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ السيئة ﴿ حَسْرَاتٍ ﴾ حال ندامات ﴿ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ بعد دخولها-

ترجمہ

مشرکین نے کی وحدانیت پر کوئی نشانی طلب کی، تو یہ آیت اتری: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ السَّخِ، (بے شک آسمانوں اور زمین) اور جو کچھ ان کے درمیان عجائب ہیں، ان (کی خلقت میں اور رات و دن کی تبدیلیوں میں) یعنی ان کی آمد و شد میں اور ان کے کم و بیش ہونے میں (اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لئے سمندر میں نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں) اور بوجھ کی وجہ سے ڈوب نہیں جاتیں (اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے) یعنی بارش میں (کہ اس سے زمین کو اس کی موت) یعنی خشک ہونے (کے بعد زندگی بخشی ہے) یعنی پودے اگائے ہیں (اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلانے) کیونکہ ان کی پرورش اسی سرسبزی سے ہوتی ہے، جو بارش سے حاصل ہوتی ہے (اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان) بغیر کسی سہارے کے اللہ کے حکم سے (مسخر و مامور ہیں) کہ اللہ تعالیٰ کو جہاں منظور ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں (ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں) اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی (بہت سی نشانیاں ہیں، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ماسوا) بتوں کو (ہمسر ٹھہراتے ہیں) اور تعظیم و تذلل کے ساتھ (ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی انھیں خدا سے محبت کرنی چاہئے، اور جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں) یعنی جتنی محبت مشرکین بتوں سے رکھتے ہیں، ان کی محبت سے زیادہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ کسی حالت میں اللہ سے انحراف نہیں کرتے ہیں، اور کفار سخت حالات میں اپنے بتوں سے انحراف کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں (اور اگر تم دیکھو) اے محمد (ان لوگوں کو جنھوں نے) بتوں کو ہمسر ٹھہرا کر (ظلم کیا ہے، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے) تو تم ایک بڑا بھاری معاملہ دیکھو گے، اذ یرون میں اذ، اذ کے معنی میں ہے، اور یرون میں دو قرأت ہے، فعل معروف بھی اور فعل مجہول بھی (کیونکہ قوت) یعنی قدرت و غلبہ (تمام تر اللہ ہی کے لئے ہے، اور اس لئے کہ اس کا عذاب سخت ہے) اور ایک قرأت میں ولو تری الذین کے بجائے ولو یری الذین الخ ہے، یعنی غائب کا صیغہ ہے، اس صورت میں یری کا فاعل الذین ظلموا ہے، تو اس صورت میں یری بمعنی یعلم ہے، اور ان اور اس کا ما بعد دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہے، اور لو کا جواب محذوف ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ظالم جس وقت اللہ کے عذاب کی شدت کو اور اس بات کو کہ تمام تر قدرت اللہ ہی کے لئے ہے دیکھیں گے، اگر یہ بات وہ دنیا میں ہی جان لیتے تو کسی کو اللہ کا ہمسر نہ ٹھہراتے (جس وقت وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ہے) یعنی قوم کے سردار و مقتدا (اپنے پیروں سے اظہار برأت کریں گے) یعنی اس بات سے انکار کریں گے کہ انھوں نے ان لوگوں کو گمراہی میں ڈالا تھا (اور حال یہ ہے کہ انھوں نے عذاب کو دیکھ لیا ہوگا، اور ان کے) وہ (تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے) جو دنیا میں ان کے درمیان رہے ہوں گے، رشتہ داری کا تعلق ہو یا دوستی کا، تقطعت کا عطف تبراً پر ہے (اور وہ لوگ جنھوں نے پیروی کی کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک بار) دنیا میں (لوٹنا نصیب ہوتا تو ہم ان سے) یعنی مقتداؤں سے (اسی طرح اظہار

برأت کرتے جس طرح انھوں نے) آج (ہم سے اظہارِ برأت کیا ہے) لو ان لنا، لو تمنی کے لئے، اور تبرأ اس کا جواب ہے (اسی طرح) یعنی جیسے ان کو اپنے عذاب کی سختی کا اور ایک دوسرے سے اظہارِ برأت کا منظر حق تعالیٰ نے دکھایا ہے، (اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال) بد (کو سرمایہ حسرت بنا کر دکھائے گا، اور وہ جہنم سے) اس میں داخل ہو جانے کے بعد کبھی (نکل نہیں پائیں گے)

﴿تشریحات﴾

وما فیہما من العجائب :- قرآن کریم نے صرف زمین و آسمان کی خلقت کا ذکر کیا ہے، لیکن اس طرح کی عبارت میں آسمان و زمین بھی مراد ہوتے ہیں، اور دونوں کے اندر جو مخلوقات و عجائب ہیں وہ بھی ملحوظ ہوتے ہیں، اس لئے وما فیہما کا اضافہ کر کے مفسر نے مراد کو واضح کر دیا ہے۔

بالذہاب و المجدی و الزیادۃ و النقصان :- یہ تشریح اختلاف اللیل و النہار کی ہے، یعنی رات اور دن کا بدلتے رہنا دو طرح پر ہے، ایک تو ذات کا بدلنا ہے کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے، دوسرے وصفاً، کہ کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے اور کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے۔

لا ترسب مؤقرۃ :- بوجھل ہو کر زمین میں بیٹھ نہیں جاتی۔

بالنبات :- اس لفظ سے زمین کی حیات کی کیفیت بیان کی ہے کہ زمین کا زندہ ہونا، اس میں پیداوار کا ہونا ہے، اور اس کا مردہ ہونا اس کا سوکھ جانا ہے۔

ونشر بہ :- بٹ کی تشریح میں بہ کا اضافہ اس لئے ہے کہ وہ احیا کے اوپر معطوف ہے، وہاں فاحیا بہ ہے، پس وہ بہ یہاں بھی معتبر ہے، یعنی پانی کے واسطے سے زمین کو زندگی بخشی اور پانی ہی کے واسطے سے زمین میں عام چرند پرند بکھیرے، کیونکہ ان کے نشوونما میں پانی کا دخل ہے، پانی سے نباتات کی پیداوار ہوتی ہے جن پر جانوروں کی نشوونما کا مدار ہے۔

أنداداً :- أنداداً، ند کی جمع ہے، جس کے معنی ہمسر اور برابر کے ہیں، کفار نے عبادت میں اور عقیدے میں بتوں کو اور بعض دوسری مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دے رکھا ہے۔

کحبہم لہ :- یہ عبارت کحب اللہ کی تشریح میں مفسر نے ذکر کیا ہے، کہ کحب اللہ میں حب کا فاعل محذوف ہے، اور وہ ہم ضمیر ہے، اور اللہ مفعول بہ ہے۔ اور اس ترکیب میں مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے، یعنی جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور ہونی چاہئے، ویسی محبت یہ اپنے بتوں اور شرکاء کے ساتھ کرتے ہیں۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ من حبہم للأنداد الخ :- آیت میں أشد اسم تفضیل ہے، اس کا صلہ من آتا ہے تاکہ تفضیل کا معنی ظاہر ہو، یہاں مفضل علیہ محذوف ہے، اس کو مفسر نے حبہم للأنداد کہہ کر ظاہر کیا

ہے، یعنی اہل ایمان کو جو محبت اور تعلق اللہ کی ذات سے ہے، وہ اس محبت اور تعلق سے کہیں بڑھ کر جو مشرکین کو اپنے معبودانِ باطلہ سے ہے۔

سوال: لفظ ”محبة“ کا اسم تفضیل أحب آنا چاہئے اور آتا بھی ہے، پھر اس سے تفضیل کے معنی کو ادا کرنے کے لئے اشد کا سہارا لیا گیا، یہ سہارا تو ان الفاظ میں لیا جاتا ہے جہاں تفضیل کا معنی ادا کرنے کے لئے أفعال کا صیغہ کفایت نہیں کرتا۔

جواب: لفظ ”محبة“ کا استعمال مجرد میں مبنی للمفعول ہوتا ہے، پس أحب کے معنی محبوب تر کے ہوں گے، فاعلیت کے معنی کی تفضیل اس سے ادا نہیں ہوتی، اور یہاں فاعلیت کے معنی کی تفضیل مقصود ہے، اس لئے اشد کا سہارا لیا گیا اور اشد حباً للہ کہا گیا، یعنی یہ لوگ مشرکین کے مقابلے میں جو وہ اپنے معبودوں سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں، اور اگر یوں کہئے: **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَحَبُّهُم إِلَى اللَّهِ** تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ ایمان والے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، ظاہر ہے کہ یہ معنی مقصود نہیں ہے۔

لَأَنَّهُمْ لَا يَعْدِلُونَ عَنْهُ بِحَالٍ مَا :- اہل ایمان جو کہ اللہ کی محبت میں رسوخ رکھتے ہیں، وہ اللہ کی محبت اور اس سے تعلق کسی حال میں نہیں توڑتے، ہمہ دم اسی سے وابستہ رہتے ہیں، اور کافروں کا حال یہ ہے کہ جب کسی بڑی مصیبت میں پڑتے ہیں، اور امید کی تمام شعاعیں بجھ جاتی ہیں تو وہ اپنے معبودانِ باطلہ کو چھوڑ کر خدا کی طرف متوجہ ہو کر گریہ و زاری کرنے لگتے ہیں۔

﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ تبصر یا محمد :- تری کی تفسیر تبصر سے اس لئے کی ہے کہ یہاں رویت سے مراد رویت قلبی، سمجھ اور رائے نہیں ہے، اس سے مراد آنکھوں سے دیکھنا ہے، یہ رویت متعدی بدو مفعول نہیں، اور اس کے مخاطب نبی کریم ﷺ ہیں۔

بِاتِّخَاذِ الْإِنْدَادِ :- باءِ حرف کا تعلق **الَّذِينَ ظَلَمُوا** سے ہے، یعنی ان کا ظلم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے لئے ہمسرتجو یز کیا۔

﴿إِذْ يَرُونَ﴾ بالبناء للفاعل والمفعول **يَبْصُرُونَ** :- یرون میں دو قرأت ہے فعل معروف کی یعنی **يَرُونَ**، اور فعل مجہول کی یعنی **يُرُونَ**، اسی طرح **يَبْصُرُونَ** کو بھی دونوں طرح پڑھا جائے گا، فعل معروف کی تفسیر **يُبْصِرُونَ** سے ہوگی، اور صاحب جمل نے لکھا ہے کہ فعل مجہول کی تفسیر **يُبْصِرُونَ** سے ہوگی، جو کہ باب تفعیل سے مشتق ہے۔

لرأيت أمراً عظيماً :- یہ ولو تری کا جواب ہے۔
وإذ بمعنى إذا :- اس عبارت سے مفسر نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، سوال یہ ہے کہ **إِذْ** ظرف ہے، اور یہ

لفظ ماضی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ آیت کریمہ میں مستقبل کے لئے استعمال ہوا ہے، اس کا جواب حضرت مفسر نے یہ دیا کہ یہاں اِذ بمعنی اِذَا ہے، اور اِذ کے استعمال میں حکمت یہ ہے کہ مستقبل کے اس واقعہ کا وقوع اتنا یقینی اور قطعی ہے جتنا ماضی میں ہو چکنے والا واقعہ یقینی ہوتا ہے، پس اس کے لئے وہ لفظ استعمال ہوا ہے جو ماضی کے لئے استعمال ہوتا ہے، اور ایسا قرآن کریم میں متعدد جگہ استعمال ہوا ہے۔

﴿أَنَّ لَأَنَّ الْقُوَّةَ﴾۔ ہ ولو تری کے جواب محذوف یعنی لرأیت أمراً عظيماً کی تعلیل ہے، یعنی امر عظیم اس لئے دیکھو گے کہ قوت تمام تر اللہ کیلئے ہے، اسی تعلیل کے معنی کے لئے مفسر نے اَنَّ پر لام تعلیلیہ کو مقدر مانا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے اسی کو جواب محذوف کا معمول قرار دیا ہے، انہوں نے ولو تری کا مخاطب مطلقاً غیر متعین سامع کو قرار دیا ہے، اور عبارت اس طرح مقدر مانی ہے: ﴿وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ﴾ لعلمت أيها السامع ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً﴾ یعنی اگر تم ظالموں کو اس وقت دیکھتے جب وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو تم جان لیتے کہ قوت تمام تر اللہ ہی کے لئے ہے۔

حال :- مفسر فرما رہے ہیں کہ لفظ جمیعاً حال ہے، اور ذوالحال وہ ضمیر ہے جو جار و مجرور کے متعلق میں پوشیدہ ہے، کیونکہ تقدیر عبارت یوں ہے: أَنَّ الْقُوَّةَ كائِنَةَ اللَّهِ جَمِيعاً، للهِ جار مجرور كائِنَةَ سے متعلق ہو کر خبر ہے۔

وفى قراءة يرى بالتحانية والفاعل فيه قيل ضمير السامع :- ایک قرأت میں وَلَوْ تَرَى حاضر کے صیغے کے بجائے غائب کا صیغہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ہے، اس صورت میں یرى کا فاعل ضمیر ہے جو یرى میں مستتر ہے، اور وہ سامع کی جانب راجع ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس قرأت کی صورت میں یرى کا فاعل الذين ظلموا ہے، اس تقدیر پر یرى افعال قلوب میں سے ہوگا، یعنی يعلم، اور معلوم ہے کہ افعال قلوب میں دو مفعول ہوتے ہیں، تو یہاں یرى کے لئے دو مفعول ضروری ہیں، مفسر نے فرمایا کہ اُن اپنے مابعد کے ساتھ مل کر دونوں مفعول کے قائم مقام ہے، یعنی ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ معطوف علیہ اور معطوف کے یہ دونوں جملے دونوں مفعولوں کی نیابت کر رہے ہیں، اسی لئے اُن بافتح ہے، کیونکہ یہ جملہ مفعول بن رہا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اُن اپنے مابعد کے ساتھ بتاویل مفرد ہو تو بفتح الهمزہ ہوتا ہے۔

وجواب لو محذوف الخ :- اس صورت میں جب کہ لو یرى کا فاعل الذين ظلموا ہو تو لو کا جواب محذوف ہے، عبارت کی تقدیر یوں ہوگی: لو علموا فى الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت معابنتهم له وهو يوم القيمة لما اتخذوا من دونه أنداداً، یعنی اگر یہ ظالم دنیا ہی میں جان لیتے کہ اللہ کا عذاب اس وقت کتنا شدید ہوگا، اور تمام تر قدرت اس دن اللہ ہی کے لئے ہوگی، جس وقت اور جس دن وہ اسے دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن تو اللہ کے بالمقابل ہرگز کوئی ہمسر نہ ٹھہراتے۔

ولو یری :- کی تفسیر ولو علموا سے اس لئے کی کہ یری یہاں فعل قلب ہے جو کہ علم ہے، اور لو ماضی کے لئے آتا ہے، اس لئے مفسر نے ماضی کا صیغہ تقدیر عبارت میں ظاہر کر دیا، شدۃ عذاب اللہ کی عبارت وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ سے سے اخذ کی ہے، اور وَأَنَّ الْقُدْرَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ کی عبارت أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا سے لی ہے، مصنف کی اس تقدیر عبارت میں لف وشر غیر مرتب ہے۔

حاصل یہ ہے کہ یہ ظالم اللہ کے عذاب کی شدت اور اللہ کی عظیم قدرت کا قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے، اور اس وقت انھیں ذرا بھی شک و شبہ نہ ہوگا، اگر یہ بات انھیں دنیا میں ہی بطور یقین کے معلوم ہو جاتی، تو ہر گز شرک میں مبتلا نہ ہوتے۔

سوال: مفسر علام نے ولو تری کی قرأت میں أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا سے پہلے لو کے جواب کو مقدر مانا ہے، ولو یری بالباء کی قرأت میں أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ کے بعد لو کے جواب کی تقدیر ذکر کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب: وجہ ظاہر ہے، کیونکہ تری بالفوقانیہ کی قرأت میں أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ولو تری کے جواب محذوف کی علت ہے، اس لئے مفسر نے لَأَنَّ الْقُوَّةَ میں لام تعلیلیہ کو محذوف مانا ہے اور ظاہر ہے کہ علت بعد ہی میں بیان ہوتی ہے، اس کے برخلاف ولو یری بالختانیہ کی قرأت میں أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یری کا مفعول ہے، پس گویا وہ شرط کا جز ہے، اس لئے جواب شرط پر مقدم ہونا ہی چاہئے۔

أَيُّ أَنْكَرُوا إِضْلَالَهُمْ :- یہ عبارت اللہ تعالیٰ کے ارشاد: إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، کی تفسیر ہے، آیت کے کلمات کا ترجمہ یہ ہے، جب وہ لوگ جن کی اقتداء کی گئی تھی، ان لوگوں سے جنھوں نے اقتداء کی تھی برأت ظاہر کر دیں گے، اسی برأت کی تفسیر میں مفسر نے فرمایا کہ وہ اس بات سے انکار کر دیں گے کہ انھوں نے ان کو گمراہ کیا تھا۔

﴿وَقَدْ رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ :- رَأَوْا سے پہلے قد کو اس لئے مقدر مانا ہے کہ یہ تبرأ کے فاعل الذین سے حال ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ فعل ماضی اسی وقت حال بن سکتا ہے جب اس پر قد داخل ہو، خواہ لفظاً ہو یا تقدیراً۔
﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ عَنْهُمْ﴾ :- بہم کی تفسیر عنہم سے کی ہے، یہ درحقیقت اشارہ ہے کہ باء حرف مجاوزہ کے معنی میں ہے، اس معنی کو لفظ عن ادا کرتا ہے، یعنی اسباب و علائق ان سے منقطع ہو گئے۔ صاحب جمل نے لکھا ہے کہ اس باء کو اگر سببیت کے معنی میں لیا جائے تو بات اور واضح ہو جائے گی، لیکن اس صورت میں کفر کو محذوف ماننا پڑے گا، عبارت اس طرح ہوگی: وتقطعت بسبب کفرهم الاسباب التي كانوا يرجون بها النجاة۔ ان کے کفر کی وجہ سے وہ تمام تعلقات و ذرائع ختم ہو جائیں گے، جن سے انھیں نجات کی امید تھی۔

الوصل التي كانت بينهم في الدنيا الخ:- یہ اسباب کی تشریح ہے، اسباب سے مراد قرابت اور دوستی کے وہ تعلقات ہیں جو دنیا میں قائم تھے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

کفار کو اللہ کی وحدانیت پر دلیل چاہئے، وہ رہ رہ کر توحید کے دلائل مانگتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کو دلیل چاہئے تو نگاہ اٹھاؤ اور زمین و آسمان کی بناوٹ اور ان میں ان گنت عجائبات کو دیکھو، دن اور رات کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے جاتے رہنے کو دیکھو، پانی کے جہازوں اور کشتیوں کو دیکھو کہ وہ سمندر اور دریا میں بے تکلف لوگوں کے نفع کی چیزوں یعنی سامان تجارت اور بھاری بھاری بوجھوں کو اپنی پشت پر اٹھائے رواں دواں ہیں، اور پھر بارش کو دیکھو جسے اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتے ہیں، اور اس کے واسطے سے زمین کو دوبارہ زندگی نصیب فرماتے ہیں، جبکہ وہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے، اور اسی کے واسطے زمین میں ہر طرح کے جانور بکھیرے، اور ہواؤں کے اٹنے پلٹنے کو دیکھو کہ کبھی شمالی ہے، کبھی جنوبی ہے، کبھی گرم ہے، کبھی سرد ہے، اور بادلوں کو دیکھو کہ زمین و آسمان کے درمیان کس طرح مسخر ہیں ان تمام چیزوں میں، سمجھداروں کے لئے اللہ کی وحدانیت پر دلائل موجود ہیں، کہ اتنا منظم اور مرتب نظام جو بغیر کسی تبدیلی کے مسلسل چل رہا ہے، ضرور ہے کہ یہ ایک قادر مطلق کے زیر تصرف ہو، ورنہ اگر کئی شرکاء ہوتے تو ہمہ وقت توڑ پھوڑ، تقدیم و تاخیر کا ہنگامہ گرم رہتا۔

سمجھ والوں کے لئے ان تمام چیزوں میں اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں اور دلائل ہیں، اور جو بے سمجھ ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ دوسرے بے جان بتوں کو خدا قرار دے لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ محبت و تعظیم اور خشوع و تذلل کا وہ معاملہ اختیار کرتے ہیں، جو صرف خدا کے ساتھ مناسب ہے، لیکن وہ خواہ کتنا ہی بتوں سے تعلق رکھیں اس تعلق سے بدرجہا کم ہے، جو اہل ایمان کو اللہ کی ذات کبریاء کے ساتھ ہے، کیونکہ ایمان والے ہر حال میں اللہ کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، اور مشرکین بسا اوقات اپنے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں۔

یہ شرک میں ملوث ظالم اگر اس بات کو جان لیتے کہ قیامت کے دن تمام تر قدرت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگی، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا تو ہرگز شرک میں مبتلا نہ ہوتے، مگر انھیں اس کا یقین ہی نہیں ہے، جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ شرک و کفر کے پیشوا اپنے مریدوں سے اور متبعین سے بیزار ہوں گے، اور ان کے باہمی تعلقات سب ختم ہو جائیں گے، تب انھیں یقین آئے گا، اس وقت ان کے پیروکار حسرت سے کہیں گے کہ کاش ایک مرتبہ اور دنیا میں لوٹنے کا موقع ملتا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کرتے، جیسے انھوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یونہی ہم ان کے اعمالِ بد کو حسرت و ندامت کی صورت

میں انھیں دکھائیں گے اور یہ لوگ آگ سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔



ونزل فیمن حرم السوائب ونحوها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا﴾
 حال ﴿طَيِّبًا﴾ صفة مؤكدة أو مستلذا ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتٍ﴾ طرق ﴿الشَّيْطَانِ﴾ أى تزيينه
 ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ بين العداوة ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ﴾ الاثم ﴿وَالْفَحْشَاءِ﴾ القبيح
 شرعاً ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ من تحريم مالم يحرم وغيره ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ أى
 الكفار ﴿اتَّبِعُوا مَا نَزَلَ اللَّهُ﴾ من التوحيد وتحليل الطيبات ﴿قَالُوا﴾ لا ﴿بَلْ نَتَّبِعُ﴾
 مَا الْفَيْنَا ﴿وَجَدْنَا﴾ عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴿من عبادۃ الاصنام وتحريم السوائب والبحائر قال تعالى﴾
 ﴿أَتَتَّبِعُونَ﴾ يتبعونهم ﴿وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا﴾ من أمر الدين ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ إلى الحق
 والهمزة للإنكار ﴿وَمَثَلُ﴾ صفة ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ومن يدعوهم إلى الهدى ﴿كَمَثَلِ الَّذِي﴾
 يَنْعِقُ ﴿يَصوت﴾ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ﴿أى صوتاً لا يفهم معناه أى هم فى سماع﴾
 الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه، هم ﴿صُمُّ بكم﴾ عُمى فهم لا
 يَعْقِلُونَ ﴿الموعظة﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ ﴿حَلالات﴾ مَارَزَقْنَكُمْ
 وَاشْكُرُوا لِلَّهِ ﴿على ما أحل لكم﴾ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ أى أكلها
 إذالكلام فيه وكذا ما بعدها وهى مالم تذك شرعاً والحق بها بالسنة ما بين من حى وخص
 منها السمك والجراد ﴿وَالْدَّمَ﴾ أى المسفوح كما فى الانعام ﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ خص
 اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تبع له ﴿وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ﴾ أى ذبح على اسم غيره
 تعالى والاهلال رفع الصوت وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ﴾ أى ألجأته
 الضرورة إلى أكل شىء مما ذكر فأكله ﴿غَيْرِ بَاغٍ﴾ خارج على المسلمين ﴿وَلَا عَادٍ﴾ متعد
 عليهم بقطع الطريق ﴿فَلَا تَمُّ عَلَيْهِ﴾ فى أكله ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لأوليائه ﴿رَحِيمٌ﴾ بأهل طاعته
 حيث وسع لهم فى ذلك وخرج الباغى والعادى ويلحق بهما كل عاصٍ بسفره كالآبق
 والمكاس فلا يحل لهم أكل شىء من ذلك مالم يتوبوا وعليه الشافعى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾
 مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ ﴿المشتمل على نعت محمد ﷺ وهم اليهود﴾ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا
 قَلِيلًا ﴿من الدنيا ياخذونه بدله من سفلتهم فلا يظهرونه خوف فوته عليهم﴾ أُولَئِكَ
 مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ﴿لأنها مآلهم﴾ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴿غضباً عليهم﴾

﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ يطهرهم من دنس الذنوب ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ مؤلم هو النار ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾ أخذوها بدله في الدنيا ﴿وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ﴾ المغفرة لهم في الآخرة لولم يكتموا ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ أى ما أشد صبرهم وهو تعجب للمؤمنين من إرتكابهم موجباتها من غير مبالاة وإلا فأى صبر لهم ﴿ذَلِكَ﴾ الذى ذكر من أكلهم النار وما بعده ﴿بِأَنَّ﴾ بسبب أن ﴿اللَّهُ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ متعلق بنزل فاختلّفوا فيه حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ﴾ بذلك وهم اليهود وقيل المشركون في القرآن حيث قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم كهانة ﴿لَفِي شِقَاقٍ﴾ خلاف ﴿بَعِيدٍ﴾ عن الحق۔

ترجمہ

وہ لوگ جنہوں نے سوائب وغیرہ کو حرام قرار دیا تھا، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی (اے لوگو! زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے کھاؤ اس حال میں کہ وہ حلال و پاکیزہ ہیں) حلالاً حال ہے، طیباً اس کی تاکید صفت ہے، یا یہ کہ طیباً کے معنی لذت والی چیز ہے (اور شیطان کی راہوں) یعنی اس کی تزیین (پرمت چلو، بلاشبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے) جس کی عداوت بالکل ظاہر ہے (وہ تم کو محض بری بات کا) یعنی گناہ کی بات کا (اور بے حیائی کا) یعنی شرعاً قبیح بات کا (اور اس بات کا کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات بولو جس کا تمہیں علم نہیں، حکم دیتا ہے) یعنی جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، اس کی تحریم اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں (اور جب ان سے) یعنی کفار سے (کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو) یعنی توحید کی، اور حلال چیزوں کو حلال سمجھنے کی (تو وہ کہتے ہیں کہ) نہیں (بلکہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے) یعنی بتوں کی پوجا اور سوائب و بحائر کی تحریم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (کیا) وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے (اگرچہ ان کے باپ دادے) دین کے سلسلے میں (نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ حق کی جانب راستہ پاتے ہوں) اُولُو میں ہمزہ استفہام انکار کیلئے ہے۔

وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ جو انہیں ہدایت کی جانب دعوت دیتے ہیں (ان) دونوں (کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو جانور کو آواز لگاتا ہے، جو بجز آواز اور پکار کے کچھ نہیں سنتا) اور اس کا معنی نہیں سمجھتا، یعنی یہ کفار نصیحت کے سننے کے اور اس میں تدبر نہ کرنے کے سلسلے میں جانوروں کی طرح ہیں، جو اپنے چرانے والے کی آواز کو تو سنتے ہیں، مگر اس کا معنی نہیں سمجھتے، وہ (بہرے، گونگے، اندھے ہیں، اس لئے) نصیحت کو بالکل (نہیں سمجھتے)۔

(اے ایمان والو! ان پاکیزہ) یعنی حلال (چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور اس چیز پر جو تمہارے لئے حلال کی گئی ہے) اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اللہ نے تو تم پر صرف مردار کو حرام کیا ہے) یعنی مردار کے کھانے کو، کیونکہ کلام کھانے کے ہی بارے میں ہے، اور یہی چیز مابعد کی چیزوں میں بھی مراد ہے، یعنی کھانے کی تحریم، مردار وہ ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، سنت سے ثابت ہے کہ مردار ہی کے حکم میں وہ گوشت بھی ہے جو زندہ جانور سے کاٹ کر نکال لیا گیا ہو، مردار میں سے مچھلی اور ٹڈی کی تخصیص ہے، یعنی ان دونوں کا کھانا حلال ہے (اور خون کو) یعنی بہنے والا خون، جیسا کہ سورہ انعام میں ہے (اور خنزیر کے گوشت کو) گوشت کو بطور خاص اس لئے ذکر کیا کہ وہی مقصود ہوتا ہے، باقی چیزیں تابع ہوتی ہیں (اور اس جانور کو جو غیر اللہ کے لئے نامزد کیا گیا ہو) یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اہلال کے معنی آواز بلند کرنے کے ہیں، کفار جب اپنے معبودوں کے نام پر کوئی جانور ذبح کرتے تھے، تو بلند آواز سے پکارتے تھے (پھر جو کوئی مجبوری میں پڑ جائے) یعنی اسے ان حرام چیزوں میں سے کسی ایک کو کھانے کی مجبوری پیش آجائے، اس لئے وہ کھالے (بشرطیکہ وہ باغی نہ ہو) یعنی مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے والا نہ ہو (اور نہ تعدی کرنے والا ہو) یعنی رہزنی کرنے والا نہ ہو (تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے) اس کے کھالینے میں (بلاشبہ اللہ تعالیٰ) اپنے دوستوں کی مغفرت فرمانے والے ہیں) اور اپنے اطاعت گزاروں پر (رحم کرنے والے ہیں) کہ ان پر وسعت فرمادی، اس حکم سے بغاوت وعدوان کرنے والا نکل گیا، اور انھیں دونوں کے حکم میں وہ بھی ہے جس کا سفر معصیت کا سفر ہو، جیسے بھاگا ہوا غلام اور ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا، ان کے لئے ان حرام چیزوں کو مجبوری کی حالت میں بھی کھانا جائز نہیں، جب تک اپنی معصیت سے تائب نہ ہو جائیں۔ یہی امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک ہے۔

(بے شک جو لوگ اس کتاب کو جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، چھپاتے ہیں) جو محمد ﷺ کے حالات و صفات پر مشتمل ہے، یہ یہود ہیں (اور اس کے عوض میں ثمن قلیل خریدتے ہیں) یعنی دنیا کا ثمن قلیل، جسے وہ اپنے ماتحتوں سے وصول کرتے ہیں، اور اس کے فوت ہو جانے کے اندیشے سے اسے ظاہر نہیں کرتے (یہ لوگ اپنے شکم میں بجز آگ کے اور کچھ نہیں کھاتے) کیونکہ یہی ان کا انجام کار ہے (اور اللہ ان سے بروز قیامت) ان پر غصے کی وجہ سے (بات نہیں کریں گے اور نہ انھیں) گناہوں کی نجاست سے (پاک کریں گے، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے) اور وہ جہنم ہے (یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا) یعنی دنیا میں ہدایت کے عوض میں گمراہی کو لیا (اور عذاب کو) اس (مغفرت کے بدلے میں خریدا) جو آخرت میں انھیں حاصل ہوتی، اگر وہ نہ چھپاتے (بس وہ آگ پر کتنے صابر ہیں) فما أصبرهم فعل تعجب ہے، اہل ایمان کے لئے یہ

بات باعث حیرت ہے کہ یہ لوگ آگ میں جانے کے اسباب کے ارتکاب پر کس بے پروائی کے ساتھ جرأت کر رہے ہیں، ورنہ صبر کہاں ہے؟ (یہ) جو کچھ ذکر کیا گیا، یعنی آگ کا کھانا وغیرہ (اس واسطے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی) بالحق، نزل کے متعلق ہے، پھر وہ اس میں مختلف ہو گئے کہ اس کے بعض اجزاء پر ایمان لائے، اور بعض اجزاء کا انکار کیا، یعنی اس کو چھپایا (اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا) یعنی اوپر ذکر کردہ اختلاف پیدا کیا، اور یہ یہود ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اختلاف کرنے والے مشرکین ہیں کہ بعض نے قرآن مجید کو شعر قرار دیا، کسی نے سحر کہا اور کسی نے کہانت کہا (اس میں کوئی شبہ نہیں کہ) وہ حق سے بہت (دور جھگڑے میں ہیں)

﴿ تشریحات ﴾

ونزل فیمن حرّم السوائب ونحوها :- اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا: ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حامٍ ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب و اکثرهم لا یعقلون۔ مفسر نے فیمن حرّم السوائب وغیرہا میں اسی کی طرف اشارہ کیا، تفصیلی بحث تو وہیں اصل موقع پر آئے گی، لیکن اس جگہ اتنا مناسب ہے کہ مفسر نے ہر ایک کی جو تشریح کی ہے، اسے درج کر دیا جائے۔ مفسر علام نے سورہ مائدہ کی مذکورہ آیت کے تحت بخاری شریف کے حوالے سے مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ:

(۱) بحیرہ: وہ جانور ہے، جس کا دودھ بتوں کیلئے مختص کر دیا جاتا، اسے بتوں پر چڑھایا جاتا تھا، وہ کسی اور کیلئے حلال نہ تھا۔

(۲) سائبہ: وہ جانور ہے جسے اپنے معبودوں کے نام پر کفار آزاد کر دیتے تھے، پھر اس پر نہ سوار ہوتے تھے، اور نہ اسے کسی چراگاہ سے روکا جاتا تھا۔

(۳) وصیلة: وہ اونٹنی ہے جو پہلی اور دوسری مرتبہ مسلسل اونٹنی ہی جنے، اسے بھی بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے تھے۔

(۴) حام: وہ اونٹ ہے جو دس مرتبہ جفتی کر کے اونٹنی کو گا بھن کر دے، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔

ان میں سے بعض کو مطلقاً حرام قرار دیتے تھے، اور بعض کو بعض حالات میں عورتوں کے لئے حرام اور مردوں کے لئے جائز قرار دیتے تھے، چونکہ ان جانوروں کی حرمت پر ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی، اس لئے فرمایا گیا کہ اے لوگو! زمین میں جو چیزیں ہیں، ان میں سے حلال و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو،

شیطان کی پیروی یہی ہے کہ حلال کو حرام قرار دو۔

صفة مؤکدة :- حلالاً کا جملہ تو حال ہے، اس کے بعد طیباً کے کلمہ میں دو احتمال ہے، ایک یہ کہ وہ حلال لگی کی صفت مؤکدہ ہو، یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ طیباً اور حلالاً دونوں مترادف ہوں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ طیباً، مستلذاً کے معنی میں ہو، اس صورت میں وہ دوسرا حال ہوگا۔

﴿بِالسُّوءِ﴾ الاثم :- سوء کی تفسیر اثم سے کی، اس کا اطلاق ہر طرح کے گناہ پر ہوتا ہے، اور فحشاء کی تفسیر القبیح شرعاً سے کی ہے، یعنی وہ گناہ جو شرعاً قبیح ہو، غالباً یہ بے حیائی والے گناہ ہیں، جیسے زنا، بدکاری وغیرہ۔
ومن يدعوهم إلى الهدى :- مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا کے بعد مذکورۃ الصدر عبارت ذکر کر کے مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ تشبیہ صرف کفار کی مقصود نہیں ہے، بلکہ کفار اور ان کے ہادی ﷺ کی مجموعی حالت کی ہے، یعنی رسول اللہ ﷺ کفار کو جو ہدایت کی دعوت دیتے، اور کفار جو اس سے گونگے، بہرے بنے اعراض کرتے ہیں، یہ حالت ایسی ہے، جیسے چرواہا اپنی بکریوں کو پکارے، تو وہ بکریاں بجز الفاظ کے سننے کے کیا اس سے کچھ سمجھ لیتی ہیں، یہی حال کفار کا ہے کہ وہ ہادی اکرم ﷺ کی بات تو سنتے ہیں مگر کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ أَي أَكَلَهَا :- اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میتہ کو اللہ نے حرام کیا، اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرمت وحلت کا تعلق شے کی ذات سے نہیں ہوتا، یعنی ذات حرام و حلال نہیں، ذات سے متعلق کوئی فعل حرام ہوتا ہے، تو یہاں میتہ کے حرام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حرمت کا تعلق ذات میتہ سے تو ہے نہیں، مفسر نے فرمایا کہ یہاں میتہ کی حرمت بول کر اس کے کھانے کی حرمت مراد ہے، چونکہ کلام اس جگہ کھانے ہی کے بارے میں ہے، یہی تقریر ان چیزوں کی حرمت کے بارے میں بھی ہوگی، جس کا ذکر میتہ کے بعد ہے۔

والدم المسفوح :- یہاں پر حرام کے ذیل میں مطلق دم کو ذکر کیا گیا، مفسر نے اس کی تشریح میں المسفوح یعنی بہنے والے کی قید بڑھادی ہے، کیونکہ سورہ انعام میں دَمًا مَسْفُوحًا فرمایا گیا ہے، وہ قید یہاں بھی ملحوظ ہوگی۔

يذبح على اسم غيره :- إهلال کے معنی آواز بلند کرنے اور شور کرنے کے ہیں، عام طور پر یہ دستور تھا، اور اب بھی ہے کہ جانور جب بطور عبادت کے ذبح کیا جاتا ہے تو خود ذبح کرنے والا، دوسرے دیکھنے والے بلند آواز سے معبود کا نام پکارتے ہیں، آج بھی قربانیوں میں یہ منظر دیکھا جاتا ہے کہ ذبح کرنے والا بسم اللہ، اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھتا ہے، اور دوسرے بھی اسی آواز میں پڑھتے ہیں، جاہلیت میں جب کفار اپنے معبودوں کے نام پر قربانی کرتے تھے تو باواز بلند اس معبود کا نام لیتے تھے، جس کے لئے قربانی کرتے تھے، اور پاس والے بھی شور مچاتے تھے، پھر مجازاً یہ ذبح ہی کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔

ماأهل به میں صاحب جمل نے لکھا ہے کہ بقاء، فی کے معنی میں ہے۔ اس صورت میں مضاف محذوف ہوگا، اصل عبارت یوں ہوگی، وماأهل فی ذبحہ لغير الله، یعنی جانور ذبح کرنے میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔

أى ألبأته الضرورة إلى أكل شىء مما ذكر فأكله :- یعنی کسی شخص کو کوئی ایسی مجبوری پیش آجائے کہ مذکورہ حرام کردہ اشیاء میں سے کسی ایک کے کھائے بغیر چارہ نہ ہو، یعنی جان چلی جائے گی، تو اس پر کھالینے میں گناہ نہیں۔ فأكله کے تفسیری لفظ کا اضافہ فلا إثم عليه کے تقاضے سے کیا ہے، یعنی فمن اضطر فأكل فلا إثم عليه، جو کوئی مجبور ہوا اور کھالیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ فمن اضطر پر فلا إثم عليه متفرع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اضطرار کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر کسی گناہ کا تصور ہو کہ اس کی نفی کی جائے۔ اضطرار کے بعد حرام چیزوں کا کھالینا إثم بن سکتا تھا، تو اس سے گناہ کی نفی کر دی۔

خارج على المسلمین :- یہ تفسیر لفظ باغ کی ہے، جو بغی علیہ سے مشتق ہے، یعنی مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے والا اس استثنائی حلت کا مورد نہیں ہے۔

﴿وَلَا عَادٍ﴾ متعدٍ علیہم بقطع الطريق :- اور نہ مسلمانوں پر زیادتی اور عدوان کرنے والا ہو، اس سے مراد ہرنی کرنے والا ہے، یعنی اگر کوئی شخص رہن ہو، اور ڈکیتی کے لئے نکلا ہو، اور اس دوران اس کو کوئی ایسی مجبوری پیش آگئی کہ حرام کھائے بغیر چارہ نہیں پاتا، تب بھی اس کے لئے مذکورہ بالا چیزیں حلال نہیں ہیں، وہ اس استثنائی حلت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

(تنبیہ) مفسر نے یہ تفسیر امام شافعی علیہ الرحمہ کے مسلک کے مطابق کی ہے، ان کا مسلک یہی ہے کہ مذکورہ الصدر استثنائی حلت سے کوئی باغی اور ڈاکو جبکہ وہ بغاوت اور ڈاکہ کے واسطے سفر پر ہو، فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس تفسیر کی صورت میں غَيْرَ باغٍ وَلَا عَادٍ، فَمَنْ اضْطُرَّ کی ضمیر سے جو کہ نائب فاعل ہے حال ہوگا، ترجمہ اس کا ہوگا کہ پس جو کوئی مجبور ہو جائے، اس حال میں کہ وہ نہ باغی ہے نہ ڈاکو ہے، تو اس پر گناہ نہیں ہے۔

لیکن حنفیہ کے نزدیک غَيْرَ باغٍ وَلَا عَادٍ کا کلمہ فَمَنْ اضْطُرَّ کے بعد اس کے اقتضاء سے جو فعل مقدر ہے، یعنی فأكل اس کی ضمیر فاعلی سے حال ہے، اس صورت میں غَيْرَ باغٍ وَلَا عَادٍ، اكل کی قید ہوگی، اور پہلی صورت میں اضطرار کی قید ہوگی، جب اسے اكل کی قید مانیں گے تو اس کے مناسب باغ کا ماخذ اشتقاق بغاوت نہ ہوگا بلکہ بغی ہوگا جو کہ چاہنے کے معنی میں ہے، اور عَادٍ کے معنی حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح ہوگی کہ جو شخص مجبوری میں ان حرام اشیاء کو کھالے بشرطیکہ وہ طالب لذت نہ ہو اور نہ ضرورت کی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس پر گناہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ حرام شے کی حلت جو مجبوری کی حالت میں ہے، وہ بس

بقدر مجبوری ہی ہے، مجبوری ختم ہو جائے تو پھر وہ چیز حلال نہیں رہتی۔ ظاہر ہے کہ جس کی جان پر بن رہی ہو، وہ پیاس دور کرنے کیلئے اگر شراب کا گھونٹ لے گا، تو جان بچانے کیلئے لے گا، طلب لذت کا کوئی داعیہ نہ ہوگا، ہاں جان بچنے کے بقدر پی لینے کے بعد طلب لذت کا داعیہ پیدا ہو سکتا ہے، تو اگر اس سے زائد ہوگا تو وہ بہ تقاضائے لذت ہی ہوگا، اس لئے وہ حرام ہے، اور وہ ضرورت کی حد سے متجاوز ہے، اس لئے بھی حرام ہے۔

عبارت کی دونوں تفسیر سامنے ہے، دونوں میں کون سی تفسیر سیاق و سباق سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے، اہل فہم خود ہی غور کر لیں۔

وخرج الباغی والعادی ویلحق بہما کل عاص بسفرہ :- مفسر کی تفسیر کے لحاظ سے باغی اور رہزن اس استثنائی حلت کے حکم سے خارج ہیں، اور انہیں دونوں کے حق میں ہر وہ شخص ہے جو سفر معصیت میں ہو، جیسے بھاگا ہو غلام اور ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا۔

فلا یحل لہم اکل شیء من ذلک مالہم یتوبوا :- پس ان کے لئے یعنی باغی، ڈاکو اور معصیت کے سفر والوں کے لئے جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، اس استثنائی حلت سے فائدہ اٹھانے کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔

علیہ الشافعی :- مفسر فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اسی تفسیر کی بنیاد پر ہے۔

المشتمل علی نعت محمد ﷺ وہم الیہود :- ما أنزل اللہ من الكتاب میں الکتاب سے مراد تورات ہے، اور چھپانے والے یہود ہیں، الکتاب سے مراد تورات کا وہ حصہ اور اس کی وہ آیات ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے احوال و صفات کے بیان پر مشتمل ہیں۔

﴿وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ من الدنيا یاخذونہ بدلہ من سفلتہم فلا یظہرونہ خوف فوتہ علیہم :- یَشْتَرُونَ بہ میں ضمیر مجرور کتمان کی جانب راجع ہے، یعنی اس کتمان (آیات کے چھپانے) کے عوض میں دنیاوی قیمت جو کہ قلیل ہے، وصول کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں سے یہ کہتے ہوں کہ ہم نے یہ آیات تم سے چھپالی ہیں، ان کی قیمت ہمیں دو، بلکہ اپنے مریدوں اور ماتحتوں کو اپنے جال میں پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان سے مختلف قسم کے نذرانے اور ہدیے وصول کرتے رہتے ہیں، اگر وہ رسول اللہ ﷺ کے احوال و علامات کو ظاہر کر دیں گے، تو ان کے عقیدت مند، اندیشہ ہے کہ ان کے جال سے نکل کر دین حق کو قبول کر لیں گے، اور یہ اپنے ان نذرانوں سے محروم ہو جائیں گے، جو انہیں ملتے ہیں۔ آیات کے چھپانے کی صورت میں نذرانوں کا ملنا برقرار رہے گا، اسی بات کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ: وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔

لأنہا مالہم :- یہ لوگ حرام کے نذرانے جو کھا رہے ہیں درحقیقت آگ کھا رہے ہیں، کیونکہ ان کا انجام آگ

ہی ہے۔

أخذوها بدله في الدنيا :۔ ضلالت کو ہدایت کے عوض خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت کو اختیار کرتے ہیں۔

أى ما أشد صبرهم وهو تعجيب للمومنين :۔ فما أصبرهم تعجب کا صیغہ ہے، ترجمہ یہ ہوگا کہ حیرت ہے، ان کو جہنم کے اوپر صبر کتنا زیادہ ہے، اس پر ایک سرسری اشکال ہے، یہ حیرت اور تعجب کس کو ہے؟ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حیرت اللہ تعالیٰ کو ہے، حالانکہ حیرت اور تعجب اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ اس کا جواب مفسر نے یہ دیا کہ وهو تعجيب للمومنين، یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کو حیرت نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کو حیرت دلانی مقصود ہے کہ دیکھو تمہارے لئے کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ اہل کتاب جہنم پر کتنے صبر کرنے والے تھے، یعنی جہنم میں لے جانے والے اعمال پر کتنے جری ہیں، اس سلسلے میں ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی، ورنہ جہنم پر صبر کیسے ہو سکتا ہے؟

ذَلِكَ الَّذِي ذَكَرَ مِنْ أَكْلِهِمُ النَّارَ وَمَا بَعْدَهُ :۔ ذلک اسم اشارہ ہے، اس کا مشاڑ الیہ ما قبل کے کلام کا مجموعہ ہے، یعنی کتاب اللہ کے چھپانے کی وجہ سے ان کا آگ کھانا، اور چھپانے کے بدلے میں کچھ تھوڑی سی دنیا حاصل کرنا، اور اس کی وجہ سے ان کا عذاب میں مبتلا ہونا، اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا، اور انھوں نے اسے چھپایا، اس وجہ سے وہ لوگ بتلائے عذاب ہوئے۔

بِالْحَقِّ متعلق بنزل فاختلّفوا فيه الخ :۔ ذلک بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ان کلمات ربانی میں بالحق کا تعلق نزل سے ہے، یعنی جو کچھ اترا ہے وہ برحق ہے، اس کے بعد ان اہل کتاب نے اختلاف کیا، اور اختلاف کی صورت یہ ہوئی کہ بعض اجزاء پر تو ان کا ایمان رہا اور بعض اجزاء کے منکر ہوئے اور ان کا انکار کیا ہے، یہی کہ وہ آیات الہی کو اپنے عوام سے چھپاتے تھے۔

وَإِنَّ الَّذِينَ اٰخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ ﴿۱۰﴾ بَذَلِكُمْ وَهُمْ الْيَهُودُ وَقِيلَ الْمَشْرِكُونَ :۔ بذلک کا اشارہ اختلاف کی اس صورت کی جانب ہے، جس کا اوپر تذکرہ کیا گیا، یعنی کتاب کے بعض اجزاء پر ایمان اور بعض کا انکار، اس کے مصداق یہود ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے مصداق مشرکین ہیں، انھوں نے قرآن کے بارے میں اختلاف کیا، بعضوں نے کہا کہ یہ شعر ہے، بعض نے اسے کہانت کہا، بعض نے سحر کہا۔



﴿۱۱﴾ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ ﴿۱۲﴾ فِي الصَّلَاةِ ﴿۱۳﴾ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴿۱۴﴾ نَزَلَ رَدًّا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ حَيْثُ زَعَمُوا ذَلِكَ ﴿۱۵﴾ وَلَكِنَّ الْبِرَّ ﴿۱۶﴾ أَىٰ ذَا الْبِرِّ وَقَرَأَ الْبَارَ ﴿۱۷﴾ مَنْ آمَنَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ ﴿۱﴾ أَى الْكُتُبِ ﴿۲﴾ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ ﴿۳﴾
 مَعِ ﴿۴﴾ حُبِّهِ ﴿۵﴾ لِلَّهِ ﴿۶﴾ ذَوَى الْقُرْبَىٰ ﴿۷﴾ الْقَرَابَةِ ﴿۸﴾ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴿۹﴾ الْمَسَافِرِ
 ﴿۱۰﴾ وَالسَّائِلِينَ ﴿۱۱﴾ الطَّالِبِينَ ﴿۱۲﴾ وَفَىٰ ﴿۱۳﴾ فَكِ ﴿۱۴﴾ الرَّقَابِ ﴿۱۵﴾ الْمَكَاتِبِينَ وَالْأَسْرَىٰ ﴿۱۶﴾ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
 وَآتَى الزَّكَاةَ ﴿۱۷﴾ الْمَفْرُوضَةَ وَمَاقْبَلَهُ التَّطَوُّعَ ﴿۱۸﴾ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴿۱۹﴾ اللَّهُ أَوْ النَّاسِ
 ﴿۲۰﴾ وَالصَّابِرِينَ ﴿۲۱﴾ نَصَبَ عَلَى الْمَدْحِ ﴿۲۲﴾ فِى الْبَأْسَاءِ ﴿۲۳﴾ شِدَّةِ الْفَقْرِ ﴿۲۴﴾ وَالضَّرَّاءِ ﴿۲۵﴾ الْمَرَضِ
 ﴿۲۶﴾ وَحِينَ الْبَأْسِ ﴿۲۷﴾ وَقَتِ شِدَّةِ الْقِتَالِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ﴿۲۸﴾ أَوْلَئِكَ ﴿۲۹﴾ الْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذَكَرَ ﴿۳۰﴾ الَّذِينَ
 صَدَقُوا ﴿۳۱﴾ فِى إِيْمَانِهِمْ أَوْ إِدْعَاءِ الْبِرِّ ﴿۳۲﴾ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۳﴾ اللَّهُ -

ترجمہ

(یہ نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ) نماز میں (اپنا رخ مشرق اور مغرب کی جانب کرو) یہ آیت یہود و نصاریٰ کی تردید میں نازل ہوئی ہے، جن کا ایسا ہی کچھ خیال تھا (لیکن نیکی) یعنی نیکی کرنے والا اور ایک قرأت شاذہ میں البار پڑھا گیا ہے (وہ ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور ملائکہ پر اور کتاب پر) کتاب ہے تو واحد مگر جمع کے معنی میں ہے (اور انبیاء پر، اور مال دیا باوجود یکہ اس کو اس کی محبت ہے، قرابت داروں کو، اور یتیموں کو، اور مساکین کو، اور مسافر کو، اور مانگنے والوں کو، اور گردنوں) کے چھڑانے (میں) مکاتب اور قیدیوں کو (اور نماز قائم کی اور فرض (زکوٰۃ ادا کی) اور اس سے پہلے جو مال خرچ کرنے کا ذکر ہے، اس کا تعلق نفل سے ہے) اور وہ لوگ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، جبکہ وہ) اللہ سے یا لوگوں سے (کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں) یہ نصب مدح کی بنا پر ہے (سخت تنگی میں اور مرض میں، اور) اللہ کے راستے میں (قتال و جنگ کی شدت کے وقت یہی لوگ) جن کے مذکورہ اوصاف بیان کئے گئے ہیں (وہ ہیں جو) اپنے ایمان میں یا نیکی کے دعویٰ میں سچے ہیں اور یہی لوگ) اللہ سے (ڈرنے والے ہیں)۔

تشریحات

فی الصلوة :- مطلقاً پورب پچھم رخ کرنے کو کوئی عبادت اور نیکی کا کام نہیں سمجھتا، بلکہ اپنی مخصوص عبادت میں مختلف اہل مذاہب کا حال الگ الگ ہے، کوئی مشرق کو رخ کرنا عبادت سمجھتا ہے کہ ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور کوئی مغرب کی جانب رخ کرنے کو مقصود بنائے ہوئے ہے کہ سورج ادھر ہی غروب ہوتا ہے۔ مفسر نے فی الصلوة کا لفظ اسی لئے بڑھایا ہے کہ مطلق کسی سمت رخ کرنے سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔

نزل ردّاً علی اليهود والنصارى :- جب کسی قوم سے حقائق گم ہو جاتے ہیں تو رسوم و ظواہر کو وہ مقصود و معبود بنا لیتی ہے، چنانچہ یہود و نصاریٰ کا یہی حال تھا کہ عبادت کے حقائق یہ لوگ کھو چکے تھے، تو پورب اور پچھم

کے مسئلے کو لے کر نزاع میں مبتلا تھے۔

أى ذا البر :- بر کے معنی نیکی کے ہیں، یہاں البر مبتداء ہے اور من آمن باللہ اس کی خبر ہے، بر جو کہ اسم مصدر ہے، اس پر من آمن کا اطلاق باعث اشکال ہے۔ مفسر نے جواب دیا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی ذا البر نیکی کرنے والا، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ ایک شاذ قرأت میں خود اسم فاعل کا صیغہ پڑھا گیا ہے، یعنی لکن البار۔

الكتاب :- الكتاب سے کوئی ایک مخصوص کتاب مراد نہیں ہے، بلکہ یہ اسم جنس ہے، اس میں تمام کتب سماویہ داخل ہیں۔

مع حبه له :- علیٰ حبه میں ضمیر مجرور حب کا فاعل ہے، اور مفعول بہ محذوف ہے، ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ مال کو دیتا ہے، حالانکہ وہ مال سے محبت کرتا ہے۔

فی فك الرقاب :- رقاب، رقبة کی جمع ہے، مطلب یہ ہے کہ پھنسی ہوئی گردنوں کے چھڑانے میں مال خرچ کرتا ہے، پھنسی ہوئی گردن کے چھڑانے کی دو صورت ہے، ایک یہ کہ کسی غلام کے مالک نے اسے مکاتب بنادیا ہو، تو اس کی گردن اتنے مال میں گرفتار ہے جو بطور بدل کتابت طے ہوا ہے، یا کوئی قیدی ہے کہ اس کی گردن فدیہ کی رقم میں پھنسی ہوئی ہے، اس کے لئے رقم دی جائے۔

الزکوة المفروضة :- و آتی الزکوة میں زکوة سے مراد فرض زکوة ہے، اور پہلے جو آتی المال کہا گیا، اس سے مراد نفلی اخراجات ہیں۔

والموفون بعهدهم :- هم الذین إذا وعدوا أنجزوا وإذا نذروا وفوا وإذا حلفوا بروا فی أیمانهم وإذا قالوا صدقوا فی قولهم ولو ائتمنوا أدوا الامانة۔ (خازن)

نصب علی المدح :- اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لفظ أمدح مقدر مانا جائے، بلکہ عربوں کے یہاں دستور یہ ہے کہ جب کسی معطوف علیہ کو کسی خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا ہوتا ہے، خواہ مدح کی بنا پر یا ذم کی بنا پر، تو اس کو معطوف علیہ کے اعراب سے منقطع کر کے منصوب ذکر کرتے ہیں، ایسے موقع پر اذکر یا أخصص کو مقدر مان لینا کافی ہوتا ہے، یہ عبارت کا تفنن ہے، اس سے مخاطب متنبہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی خاص بات ملحوظ ہے، اس جگہ صبر کے اہتمام شان کی بنا پر علیحدہ اعراب کے ساتھ ذکر کیا، کیونکہ صبر ایک طرف تو مبداء فضائل و مناقب ہے، کیونکہ خواہ کوئی بھی فضل و کمال ہو اس کے حصول میں صبر و استقلال کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف نفس پر گراں ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ المماثلة ﴿فِي الْقَتْلِ﴾ و صفاء و فعلاً ﴿الْحُرُّ﴾ يقتل ﴿بِالْحُرِّ﴾ ولا يقتل بالعبد ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ و بينت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبداً بكافراً ولو حراً ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ﴾ من القاتلين ﴿مِنْ﴾ دم ﴿أَخِيهِ﴾ المقتول ﴿شَيْءٍ﴾ بأن ترك القصاص منه و تنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه و من بعض الورثة و في ذكر أخيه تعطف داع إلى العفو و إيدان بأن القتل لا يقطع أخوة الايمان و من مبتدأ شرطية أو موصولة و الخبر ﴿فَاتَّبَاعٌ﴾ أى فعلى العاقب اتباع القاتل ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ بأن يطالبه بالدية بلا عنف و ترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولى الشافعى و الثانى الواجب القصاص و الدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء و رجح ﴿و﴾ على القاتل ﴿أَدَاءً﴾ للدية ﴿إِلَيْهِ﴾ الى العاقب و هو الوارث ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ بلا مطل و لا بخس ﴿ذَلِكَ﴾ الحكم المذكور من جواز القصاص و العفو عنه على الدية ﴿تَخْفِيفٌ﴾ تسهيل ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ عليكم ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ بكم حيث وسع فى ذلك و لم يحتم واحداً منهما كما حتم على اليهود القصاص و على النصارى الدية ﴿فَمَنْ اعْتَدَى﴾ ظلم القاتل بأن قتله ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أى العفو ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ مؤلم فى الآخرة بالنار أو الدنيا بالقتل ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ أى بقاء عظيم ﴿يَا أُولَى الْأَلْبَابِ﴾ ذوى العقول لأن القاتل إذا علم أنه يقتل إرتدع فأحیی نفسه و من أراد قتله فشرع لكم ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ القتل مخافة القود.

ترجمہ

(اے ایمان والو! تم پر مقتول کے سلسلے میں قصاص) یعنی مماثلت کو (لکھ دیا) یعنی فرض کر دیا (گیا ہے) وصف اور فعل دونوں اعتبار سے (آزاد کو آزاد کے بدلے میں) قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں نہیں قتل کیا جائے گا (اور غلام کو غلام کے بدلے میں، اور عورت کو عورت کے بدلے میں) اور سنت نے وضاحت کی ہے کہ عورت کے بدلے میں مرد کو بھی قتل کیا جائے گا، نیز مماثلت دین میں بھی معتبر ہے، اس لئے کسی مسلمان کو خواہ وہ غلام ہی ہو، کسی کافر کے بدلے میں خواہ وہ آزاد ہی ہو قتل نہیں کیا جائے گا (پس) قاتلوں میں سے (جس کسی کو اس کے) مقتول (بھائی کے خون سے کچھ معافی دیدی گئی) جس کی صورت یہ ہے کہ اس کا قصاص ترک کر دیا، یا یہ کہ کسی وارث نے اپنے حصہ کا قصاص معاف کر دیا، تو پورا قصاص ساقط ہو جائے گا، اور اخیہ کے ذکر سے مہربانی کے جذبہ کو ابھارنا ہے جو معافی دیدینے کا باعث ہے، اور اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قتل

کردینے کی وجہ سے ایمانی اخوت ختم نہیں ہوتی، اور من مبتدا شرطیہ ہے یا موصولہ ہے، اور اس کی خبر فاتبعہ بالمعروف ہے، یعنی (تو پیچھے لگنا ہے) یعنی معاف کرنے والے کو حق ہے کہ وہ قاتل کے پیچھے (شریعت کے مطابق) لگے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے بغیر کسی تشدد کے دیت کا مطالبہ کر لے، اور معاف کرنے پر پیچھے لگنے کو مرتب کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں یعنی قصاص اور دیت میں سے ایک چیز برابری کے طور پر واجب ہے، اس سلسلہ میں امام شافعی علیہ الرحمہ کے دو قول میں سے یہ ایک قول ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اصل واجب تو قصاص ہے، البتہ دیت اس کے عوض میں آئے گی، لہذا کسی نے قصاص کو معاف کر دیا اور دیت کا ذکر نہیں کیا تو دیت واجب نہیں ہوگی، اسی دوسرے قول کو ترجیح دی گئی ہے (اور) معاف کرنے والے یعنی وارث کو دیت اچھے طریقہ پر (ادا کر دینا) قاتل کی ذمہ داری (ہے) یعنی نہ ٹال مٹول کرے اور نہ اس میں کوئی کمی کرے (یہ) مذکورہ بالا حکم یعنی قصاص کا جواز اور دیت لے کر معاف کر دینے کا حق (تمہارے رب کی طرف سے) تم پر (تخفیف اور رحمت ہے) کہ اتنی گنجائش رکھ دی ان میں سے کسی ایک کو فرض قطعی نہیں قرار دیا، جبکہ یہود کے مذہب میں صرف قصاص ہی فرض تھا عفو کی گنجائش نہ تھی، اور نصاریٰ کے مذہب میں صرف دیت فرض تھی قصاص نادر تھا (پھر جو کوئی اس کے بعد) یعنی معافی کے بعد (زیادتی کرے) یعنی قاتل پر ظلم کرے یعنی اسے قتل کر دے (اس کے لئے دردناک عذاب ہے) آخرت میں جہنم کا، یا دنیا میں قتل کا (اور تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے) یعنی بقاء عظیم ہے (اے عقل والو!) کیونکہ جب قاتل جانتا ہوگا کہ وہ قتل کر دیا جائے گا، تو قتل کرنے سے باز رہے گا، اس طرح وہ اپنے آپ کی بھی زندگی بچالے گا، اور جس کے قتل کا ارادہ کیا ہے اس کی زندگی بھی محفوظ رہے گی، اس لئے قصاص کو مشروع کیا (شاید تم) قصاص کے خوف سے قتل کرنے سے (بچ جاؤ)

﴿تشریحات﴾

المماثلة: - قصاص کے لغوی معنی مماثلت کے ہے، شریعت کی طرف سے قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کئے جانے کو قصاص کہتے ہیں، یہاں مفسر نے قصاص کی تفسیر لغوی معنی کے اعتبار سے شاید اس آیت کی شان نزول کو پیش نظر رکھ کر کی ہے۔ بات یہ ہے کہ مدینہ میں اوس و خزرج دو قبیلے آباد تھے، اور دونوں عدا لٹا کرتے تھے، ان میں ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے پر غلبہ حاصل ہو گیا تھا تو اس نے زبردستی ایک قانون بنا دیا تھا کہ وہ دوسرے قبیلے کی عورتوں سے بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں اور اگر تمہارا آزاد ہمارے غلام کو قتل کرے گا، تو ہم اس آزاد کو قتل کریں گے، اور اگر ہماری عورت کو تمہارا مرد قتل کرے گا تو اسے بھی قتل کیا جائے گا، اور ایک آزاد مرد کے بدلے دو مرد قتل کئے جائیں گے، اور ادھر کے زخم ادھر کے زخم کے دو گنے شمار کئے جائیں گے۔ رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری کے بعد لوگوں نے اس قانون کو آپ کے حضور پیش کیا، تو مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی، اور یہ ظالمانہ قانون باطل کر دیا

گیا۔ (جمل)

فی القتلیٰ :- ای بسبب القتلیٰ، فی سبب کے معنی میں آتا ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: إن امرأة دخلت النار فی ہرة، أي بسببها، قتلیٰ قتیل کی جمع ہے۔

وصفاؤ فعلاً :- ان دونوں لفظوں کا تعلق مماثلت سے ہے، مماثلت فی الوصف کا بیان آیت میں یہ ہے: الحر بالحر والعبد بالعبد اور مماثلت فی الفعل کا مطلب یہ ہے کہ قاتل نے اگر تلوار سے قتل کیا ہے، تو اس کو بھی تلوار سے مارا جائے گا، اور اگر کسی اور چیز سے مارا ہے تو اسی چیز سے اسے بھی مارا جائے گا۔

ولایقتل بالعبد :- یہ الحر بالحر کے مفہوم مخالف کا بیان ہے، حضرات شوافع نے کتاب و سنت میں مفہوم مخالف کا اعتبار کیا ہے، تو جب یہ کہا گیا کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، تو گویا کنایہ یہ بھی کہا گیا کہ آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، حنفیہ کے نزدیک قرآن و سنت میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، اس کے حکم کے لئے علیحدہ دلیل کی ضرورت ہے، کیونکہ کتاب اللہ ہو یا سنت رسول اللہ ان میں قانونی زبان، قیود و ضوابط والی نہیں استعمال کی گئی ہے، اس لئے اصل عبارت سے مفہوم مخالف کا حکم نکالنا صحیح نہیں ہے۔

وبینت السنة أن الذکر یقتل بہا :- والعبد بالعبد والانشی بالانشی میں مفہوم مخالف کا حکم خود حضرات شوافع کے نزدیک نہیں بنتا، اس لئے مفسر نے تاویل فرمائی کہ چونکہ سنت سے ثابت ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس لئے صریح سنت کے ہوتے ہوئے مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا۔

وأنه تعتبر المماثلة فی الدین :- مفسر فرماتے ہیں کہ سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ قصاص میں مماثلة فی الدین کا بھی اعتبار ہے، پس اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کیا ہو، تو اس کے بدلے میں مسلمان کو نہیں قتل کیا جائے گا، اگرچہ مقتول کافر آزاد ہو اور قاتل مسلم غلام ہو۔

(نوٹ) یہ تفسیر مفسر نے امام شافعی علیہ الرحمہ کے مسلک کے مطابق تحریر کی ہے، احناف کے نزدیک چونکہ کتاب اللہ سے مفہوم مخالف کا حکم نہیں نکلتا، اس لئے اس کے لئے جیسی دلیل ملے گی، عمل کیا جائے گا۔ تفصیلات کتب فقہ میں ملاحظہ ہوں۔

وتسکیر شیء :- اللہ تعالیٰ نے شیء کو جو نکرہ ذکر کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وارث نے آدھا، تہائی یا قصاص کا کوئی ایک حصہ معاف کر دیا تو، یا کئی ورثہ تھے ان میں سے کسی ایک نے اپنا ایک حصہ معاف کر دیا تو پورا قصاص ساقط ہو جائے گا۔

وفی ذکر أخیه :- مقتول کو لفظ اخ سے ذکر کرنے سے قاتل اور مقتول کی بھائی چارگی یعنی ایمانی اخوت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے باطنی طور پر معاف کر دینے کا جذبہ ابھرتا ہے کہ بھائی کو معاف کر دینا ہی مناسب

ہے۔

وایدان بأن القتل لا یقطع إخوة الايمان :- اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قتل عمد کی وجہ سے گو کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، ایمان ختم نہیں ہوتا، اسی لئے تو ایمانی اخوت باقی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ دیا ہے، ورنہ خوارج کے مسلک کے لحاظ سے جب کبیرہ کے ارتکاب سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو قتل کے بعد اخوت باقی نہیں رہنی چاہئے، اس سے معلوم ہوا کہ خوارج کا نظریہ غلط ہے۔

وترتيب الاتباع على العفو :- اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے معافی پر دیت دینے کو مرتب فرمایا ہے، اس سے حضرات شوافع استدلال فرماتے ہیں کہ قتل عمد میں قصاص اور دیت دونوں میں کوئی ایک واجب ہے، وارث جس کو چاہے اختیار کر سکتا ہے، اور جسے چاہے چھوڑ سکتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے قصاص اختیار کیا تو دیت ختم ہوگئی، اور اگر کسی نے قصاص ترک کیا تو خود بخود دیت لازم ہو جائے گی، خواہ اس کا ذکر کرے یا نہ کرے۔ لیکن امام شافعی کا دوسرا قول یہ ہے کہ اصل واجب تو قصاص ہے، لیکن اگر کوئی دیت کے عوض میں قصاص کو ترک کرتا ہے تو اسے اختیار ہے، دیت لے سکتا ہے، لیکن اگر اس نے قصاص تو معاف کر دیا اور دیت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تو دیت لازم نہ ہوگی، کیونکہ وہ قتل عمد کا موجب نہیں ہے۔ مفسر نے فرمایا ہے کہ اسی قول کو ترجیح دی گئی ہے، بندہ ناچیز کہتا ہے کہ احناف کا بھی یہی قول ہے۔

بقاء عظیم :- وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ مِّنْ حَيَوةٍ كِي تَتَّقُونَ تَعْظِيمَ كَلِمَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ :- یعنی حکم قصاص کی وجہ سے لوگوں کی کثیر تعداد میں زندگی محفوظ رہتی ہے، کیونکہ اگر قصاص نہ ہو تو قاتل بھی جری ہوگا، اور مقتول کے ورثاء بھی انتقام کی آگ میں جلیں گے، پھر قتل و خونریزی کا بازار گرم ہوگا، اس کی کوئی انتہاء نہ ہوگی، اس کے برخلاف جب قصاص کا حکم نافذ کر دیا گیا تو قاتل، قتل کرنے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہوگا کہ میں اگر قتل کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے بھی مار ڈالا جائے گا، یہ سوچ کر وہ قتل سے باز رہے گا، تو اس طرح دوزندگی اور اس کے طفیل بہت سی زندگیاں محفوظ رہیں گی، اور اگر اس نے فوری جوش کی بنا پر قتل بھی کر دیا تو مقتول کے ورثاء کا قصاص کی وجہ سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور انتقام کی آگ بجھ جائے گی، پھر قتل و خونریزی کا سلسلہ دراز ہونے سے بچ جائے گا۔

فشرع :- یہ لفظ مفسر نے لکھ کر دو بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اول یہ کہ قصاص مشروع ہے، دوسرے یہ کہ لعنکم تتقون اسی فشرع سے متعلق ہے۔



﴿كُتِبَ﴾ فرض ﴿عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ﴾ ﴿أَيُّ أَسْبَابِهِ﴾ ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ ﴿نِ الْوَصِيَّةِ﴾ مرفوع بكتب و متعلق بإذا إن كانت ظرفية و دال على جوابها إن

كانت شرطية وجواب إن محذوف أى فليوص ﴿ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ بالعدل بأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل لغنى ﴿ حَقًّا ﴾ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله ﴿ عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ الله وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث لا وصية لوارث رواه الترمذی ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ ﴾ أى الإيضاء من شاهد ووصى ﴿ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ﴾ علمه ﴿ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ ﴾ أى الإيضاء المبدل ﴿ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ﴾ فيه إقامة الظاهر مقام المضمرة ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ لقول الموصى ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ بفعل الوصى فمجاز عليه ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ ﴾ مخففاً ومثقلاً ﴿ جَنَفًا ﴾ ميلاً عن الحق خطأ ﴿ أَوْ إِثْمًا ﴾ بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غنى مثلاً ﴿ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ﴾ بين الموصى والموصى له بالامر بالعدل ﴿ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ فى ذلك ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

ترجمہ

(جب تم میں سے کسی پر موت) یعنی اسباب موت (آجائیں، تو اگر اس نے مال چھوڑا ہے، تو تم پر وصیت فرض کی گئی ہے) الوصیة، کتب کا نائب فاعل ہے، اس لئے مرفوع ہے، اور یہی الوصیة، إذا حضر کا متعلق ہے، یعنی اس کا عامل ہے، جبکہ إذ محض ظرف کے لئے ہو، اور اگر شرطیہ مانا جائے تو الوصیة اس کے جواب پر دلیل ہوگا، اور وہ فلیوص ہے، یہ وصیت کن لوگوں کے لئے واجب ہے؟ (والدین کے لئے اور قریبی رشتہ داروں کے لئے انصاف کے ساتھ) اس کا طریقہ یہ ہے کہ وصیت تہائی سے زائد میں نہ کرے اور مالدار کو ترجیح نہ دے (واجب ہے) حقاً ما قبل کے مضمون جملہ کی تاکید ہے (اللہ سے ڈرنے والوں پر) یہ آیت، آیت میراث کے بعد منسوخ ہے، نیز حدیث لا وصیة لوارث کی وجہ سے بھی منسوخ ہے، حدیث مذکور امام ترمذی نے روایت کی ہے، (پس جو کوئی اس کو) یعنی وصیت کو (بدل دے) خواہ وہ گواہ ہو یا وصی ہو (اس کے سن لینے) یعنی جان لینے کے بعد (تو اس کا) یعنی بدلی ہوئی وصیت کا (گناہ انھیں لوگوں پر ہوگا، جو اسے بدلیں گے) اس میں اسم ظاہر کو ضمیر کے بدلے میں ذکر کیا گیا ہے (بلاشبہ اللہ تعالیٰ) وصیت کرنے والے کی بات کا (سننے والا ہے) وصی کے فعل کو (جاننے والا ہے) پس اس کو اس کا بدلہ ملے گا (پھر جو کوئی وصیت کرنے والے کی طرف سے) خطا، حق سے (انحراف کر جانے کا یا) قصداً (گناہ کا اندیشہ رکھتا ہو) یعنی یہ ڈر ہو کہ وہ ثلث سے زائد کی وصیت کر دے گا، یا مالدار کو ترجیح دے گا (تو وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے) یعنی عدل کا حکم دے کر موصی اور موصی لہ کے درمیان صحیح رائے قائم کر دے (تو) اس سلسلے میں (اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں)

تشریحات

أى أسبابه :- موت کے آجانے کے بعد وصیت کرنا ممکن نہیں ہے، اس لئے مراد اس سے موت کے اسباب و آثار ہیں۔

مالاً :- خیراً کی تفسیر مالاً سے کی گئی ہے، اس میں اشارہ ہے کہ وصیت کا محل مال حلال و طیب ہے، حرام مال تو وبال ہے

مرفوع بكتب ومتعلق بإذا :- الوصية كالكلمة آیت کریمہ میں كتب کا مفعول مالم یسم فاعله ہے، پھر إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ میں، إذا کے اندر دو احتمال ہے۔ اول یہ کہ إذا ظرفیہ ہو، اس صورت إذا کا تعلق الوصیة سے ہوگا کیونکہ یہ مصدر ہے، یا اسم مصدر (حاصل مصدر) پس وہ ظرف میں عامل ہوگا، گویا عبارت یوں ہوگی، كتب علیکم أن یوصی أحدکم وقت حضور الموت له۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ إذا شرطیہ ہو، اور إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور إن ترک خیراً ان دونوں شرطوں میں سے کسی کی جزا لفظوں میں موجود نہیں ہے، اس لئے الوصیة کا کلمہ شرط کی جزا پر دلیل ہوگا، اور وہ جزا محذوف فلیوص ہے، یہی لفظ إذا اور ان دونوں کا جواب ہے، اس کا قرینہ الوصیة ہے، اس طرح مفسر نے اپنی مختصر عبارت میں تین باتیں ذکر کیں۔ اول یہ کہ إذا اگر محض ظرف کے لئے ہو تو اس میں عامل الوصیة ہے، اور اگر إذا میں شرط کا معنی بھی ہے تو اس کی جزا محذوف ہے، اور وہ فلیوص ہے، اور ان ترک کی جزا بھی محذوف ہے، اور وہ بھی فلیوص ہی ہے، ان دونوں کے لئے قرینہ الوصیة ہے، اور جواب ان مجرور ہے، کیونکہ وہ جو ابہا پر معطوف ہے۔

بأن لا یزید علی الثلث ولا یفضل لغنی :- وصیت میں عدل کا لحاظ مفسر نے دو طریقے سے کرنے کو بتایا ہے، ایک یہ کہ تہائی سے زیادہ کی وصیت نہ کرے، دوسرے یہ کہ وصیت میں غنی کے ساتھ ترجیحی معاملہ نہ کرے، لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ حکم اس وقت کا ہے جبکہ آیت میراث ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اور والدین اور اقربین کے حصے متعین نہیں ہوئے تھے، اس صورت میں وصیت کرنے کا امر ہوا تھا، اس میں یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا کہ تہائی سے زیادہ کی وصیت کی جائے۔ ہاں غنی کی ترجیح کا مسئلہ ضرور پیدا ہوتا ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود سب کا حصہ متعین کر دیا ہے تو اصحاب حصص کیلئے وصیت جائز ہی نہیں ہے، ہاں ان کے علاوہ اگر کسی کو وصیت کرنی ہے تو تہائی سے زیادہ نہ کی جائے، لیکن یہاں مسئلہ غیروں کے لئے نہیں ہے، خود وارثوں کے لئے ہے، اس لئے بأن لا یزید علی الثلث کی عبارت بر محل نہیں معلوم ہوتی، فلیتأمل۔

مصدر مؤکد لمضمون الجملة قبله :- یہ ارشاد حقاً کے بارے میں ہے کہ وہ ما قبل کے مضمون جملہ

یعنی کتب علیکم الوصیۃ کی تاکید کے لئے ہے۔

وهذا منسوخ بآية الميراث :- یہ مرنے کے وقت وصیت کا وجوب منسوخ ہے، اور اس کے لئے ناسخ سورہ نساء کی آیت: یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الخ ہے، نیز لا وصیۃ لوارث والی حدیث بھی ہے، جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے: إن اللہ اعطى لكل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔

﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾ أي الإیصاء :- بدللہ میں ضمیر کا مرجع الایصاء ہے، جو الوصیۃ سے مفہوم ہوتا ہے۔

فیه إقامة الظاهر مقام المضمرة :- سیاق کے لحاظ سے عبارت اس طرح ہوگی: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَيْهِ، لیکن حق تعالیٰ نے بجائے ضمیر کے الذین یبدلونہ اسم ظاہر ذکر کیا ہے، اور اس کا نکتہ یہ ہے کہ یہ گناہ محض تبدیل کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، لہذا وصیت کو بدلنا سخت گناہ ہے اور یہ کہ اس گناہ میں وصیت کرنے والا شریک نہ ہوگا۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اس رکوع میں حق تعالیٰ نے قبلہ کی کشمکش سے قلوب و اذہان کو ہٹا کر نیکی اور تقویٰ کے اصول کو قدرے تفصیل سے ذکر کیا ہے، خواہ وہ اصول حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہوں یا حقوق العباد سے، آدمی کو زیادہ اہتمام ان حقوق کا کرنا چاہئے، اور یہ دیکھنا چاہئے کہ اس کی زندگی میں ان باتوں کا کتنا اہتمام ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ساری نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنی عبادات میں کسی خاص طرف رُخ کر لیا کرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تمہارا ایمان اللہ پر ہو، یوم آخر پر ہو، ملائکہ اور کتب الہیہ پر ہو، انبیاء پر ہو، اور پھر آدمی باوجود مال کی محبت اور ضرورت کے اپنے رشتہ مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، ضرورت مند مانگنے والوں کو عطیہ دیتا رہے، اور غلاموں اور قیدیوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے، نیز نماز اور فرض زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتا ہو، پھر قول و عمل میں اتنی پختگی ہو کہ عہد و میثاق کو ہر حال میں پورا کرنے کا اہتمام ہو، اور مصائب و آفات میں صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور جہاد فی سبیل اللہ میں ثبات قدمی اس کا شعار ہو۔ حقیقت میں یہی لوگ سچے بھی ہیں اور متقی بھی ہیں۔

ایمان والوں پر مقتول کے بدلے میں قصاص فرض کیا گیا ہے، ہاں اگر مقتول کے ورثہ قصاص کو معاف کر دیں تو وہ ساقط ہو جائے گا، ورثہ کو اختیار ہے کہ دیت کی شرط کے ساتھ قصاص کو معاف کریں یا بغیر دیت کے اللہ کیلئے معاف کر دیں، اگر دیت کی شرط کی ہے تو قاتل کو چاہئے کہ نہایت احسان مندی کے ساتھ بغیر کسی حیلہ حوالہ کے دیت ادا کر دے، اور مقتول کے ورثہ کو بھی چاہئے کہ معاف کر دینے کے بعد درپے انتقام نہ ہوں۔ حق تعالیٰ نے اس طرح خاص اپنے فضل و کرم سے حکم میں آسانی پیدا کر دی ہے، اور قصاص کا حکم اللہ کا احسان عظیم

ہے، اس کی بدولت زندگیاں محفوظ رہتی ہیں۔ اسی طرح ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے مال کے بارے میں والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کر جاؤ، اور جسے وصیت کا ذمہ دار بنایا گیا ہو، وہ اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہ کرے، ورنہ اس پر اس کا وبال پڑے گا، ہاں اگر وصیت کرنے والا اپنی وصیت میں اعتدال سے منحرف ہو رہا ہو، خواہ جان بوجھ کر یا ناواقفیت کے باعث، تو اس کی اصلاح کر دینا مناسب ہے، وہ رب کی مغفرت و مہربانی کا مستحق ہوگا۔



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ من الامم ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ المعاصی فانہ یکسر الشهوة التي هی مبدؤها ﴿أَيَّامًا﴾ نصب بالصيام أو بصوموا مقدرًا ﴿مَعْدُودَاتٍ﴾ أي قلائل أي موقتات بعدد معلوم وهي رمضان كما سيأتي وقلله تسهياً على المكلفين ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ﴾ حين شهوده ﴿مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ أي مسافراً سفر القصر وأجهد الصوم في الحالين فأفطر ﴿فَعِدَّةً﴾ فعليه عدد ما أفطر ﴿مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ يصومها بدله ﴿وَعَلَى الَّذِينَ﴾ لا ﴿يُطِيقُونَهُ﴾ لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ﴿فَدْيَةٌ﴾ هي ﴿طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ أي قدر ما ياكله في يوم وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم وفي قراءة بإضافة فدية وهي للبيان وقيل لا غير مقدرة و كانوا منحيرين في صدر الاسلام بين الصوم والفدية ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ قال ابن عباس إلا الحامل والمرضع إذا افطرتا خوفاً على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ بالزيادة على القدر المذكور في الفدية ﴿فَهُوَ﴾ أي التطوع ﴿خَيْرٌ لَهُ أَنْ تَصُومُوا﴾ مبتدأ خبره ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ من الافطار والفدية ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنه خير لكم فافعلوه تلك الايام ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ﴿هُدًى﴾ حال هادياً من الضلالة ﴿لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ﴾ آيات واضحات ﴿مِّنَ الْهُدَى﴾ مما يهdy إلى الحق من الاحكام ﴿وَ﴾ من ﴿الْفُرْقَانِ﴾ مما يفرق بين الحق والباطل ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ تقدم مثله وكرره لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر ولكون ذلك في معنى العلة أيضاً للأمر بالصوم عطف عليه ﴿وَلِتُكْمِلُوا﴾ بالتخفيف والتشديد

﴿الْعِدَّةَ﴾ اے عده صوم رمضان ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ عند اكمالها ﴿عَلَىٰ مَا هَدَّكُمْ﴾ ارشدكم لمعالم دينه ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ الله على ذلك وسأل جماعة النبي ﷺ اقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزل ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ منهم بعلمي فأخبرهم بذلك ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ﴾ بإنالته ماسأل ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ دعائي بالطاعة ﴿وَلْيُؤْمِنُوا﴾ يديموا على الايمان ﴿بِئْتَابِهِمْ يَرُشِدُونَ﴾ يهتدون۔

ترجمہ

(اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، جیسا کہ ان) امتوں (پر فرض کیا گیا تھا، جو تم سے پہلے تھیں، شاید تم) معاصی سے (بچو) کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے، اور شہوت ہی معاصی کی بنیاد ہے (چند دن) ایاماً کا نصب الصیام کی وجہ سے ہے یا صوموا مقدر کی وجہ سے، یعنی تھوڑے دن، یعنی اتنے دن جو عدد معلوم کے ساتھ متعین ہیں، اور وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور مکلفین پر آسان کرنے کے لئے اس کا قلیل ہونا ذکر فرمایا (پس جو کوئی تم میں سے) اس مہینے کے اندر (مریض ہو یا سفر پر ہو) یعنی ایسے سفر پر ہو جس میں قصر ہوتا ہے، اور ان دنوں حالتوں میں روزہ رکھنا مشکل ہو، اس بنا پر روزہ نہ رکھے (تو دوسرے دنوں میں اتنی تعداد) اس کے ذمے (ہے) یعنی اس پر دوسرے دنوں میں اتنی تعداد میں روزہ رکھنا ہوگا جتنا اس نے نہیں رکھا ہے، وہ ان دنوں کے بدلے میں رکھے گا (اور ان لوگوں پر جو روزہ کی طاقت) نہیں (رکھتے) خواہ بڑھاپے کی وجہ سے، یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے شفا کی امید نہیں ہے (فدیہ ہے) وہ (ایک مسکین کا کھانا ہے) یعنی اتنی مقدار میں کھانا جتنا وہ ایک دن میں کھاتا ہے، اور وہ شہر کی عام غذا کا ایک مد ہے، اور ایک قرأت میں فدیہ کی اضافت طعام کی جانب ہے، اور یہ اضافت بیانیہ، اور ایک قول یہ ہے کہ لا مقدر نہیں ہے، لوگوں کو شروع میں اختیار تھا کہ وہ روزہ رکھیں یا فدیہ دیں، پھر جب اللہ تعالیٰ کے ارشاد: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کی بنیاد پر روزہ متعین ہو گیا، تو یہ اختیار منسوخ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ حاملہ اور مرضہ کے حق میں یہ اجازت اب بھی باقی ہے، اگر اسے بچے کے سلسلے میں اندیشہ ہو تو روزہ افطار کر کے فدیہ دے سکتی ہے (پھر جو کوئی اپنی طرف سے اچھا کام کرے) یعنی فدیہ کی مقدار مذکور میں اضافہ کر دے (تو یہ اس کیلئے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، تمہارے لئے) افطار اور فدیہ سے (بہتر ہے) ان تصوموا مبتداء ہے اور خیر لکم خبر ہے (اگر تم سمجھتے ہو) کہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے، تو ایسا ہی کرو۔ یہ زمانہ (رمضان کا مہینہ ہے، جس میں) لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی جانب لیلة القدر میں (قرآن نازل کیا گیا، وہ ہدایت ہے) یعنی گمراہی سے ہدایت دینے والا ہے (لوگوں کے واسطے، اور ہدایت کے واضح دلائل ہیں) جن سے سچے اور برحق احکام کی ہدایت ہوتی ہے (اور)

حق و باطل کے درمیان واضح (انتیاز ہے) جس سے حق و باطل دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں (پس جو کوئی تم میں سے اس مہینہ میں موجود ہو، اُسے چاہئے کہ اس کا روزہ رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، تو دوسرے دنوں میں اتنی گنتی پوری کرنی چاہئے) یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، یہاں دوبارہ اس کو اس لئے ذکر کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ من شہد کی نعیم کی وجہ سے یہ رخصت منسوخ ہو گئی ہے (اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سہولت کا ارادہ فرماتے ہیں اور دشواری کا ارادہ نہیں فرماتے) اسی لئے مرض اور سفر میں افطار کو مباح قرار دیا، اور چونکہ یہ بات بھی روزہ کے امر کیلئے علت کے معنی میں ہے، اس لئے اس پر وَلْتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ كَاعْتِافٍ كَمَا (اور اس لئے تاکہ تم) روزہ رمضان کی (گنتی پوری کرو، اور اس لئے کہ) اس کی تکمیل کے وقت (اللہ کی بڑائی بولو، اس بات پر کہ اس نے تم کو) اپنے دین کے معاملہ کی (ہدایت دی، اور شاید تم) اس پر اللہ کا (شکر ادا کرو)

اور کچھ لوگوں نے نبی ﷺ سے سوال کیا کہ کیا ہمارا رب قریب ہے کہ اس سے آہستہ آہستہ مناجات کریں، یا دور ہے کہ اسے بلند آواز سے پکاریں، اس پر اگلی آیت نازل ہوئی، فرمایا (جب تم سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں) علم کے اعتبار سے (ان کے قریب ہوں) یہ بات انھیں بتادو (میں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے قبول کرتا ہوں) جو کچھ مانگتا ہے، عطا کرتا ہوں (تو انھیں بھی چاہئے کہ وہ میری بات قبول کریں) یعنی جو انھیں طاعت کیلئے بلاتا ہوں اسے بھی مانیں (اور چاہئے کہ مجھ پر ایمان رکھیں) یعنی ایمان پر دائم رہیں (شاید وہ ہدایت یاب ہوں)

تشریحات

من الامم :- اگلی تمام امتوں پر روزہ فرض رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام پر روزہ فرض ہوا، یہ عبادت قدیم ترین ہے۔

نصب بالصیام :- آیاماً معدودات، مفعول فیہ ہے، اس میں عامل الصیام مصدر ہے، یا یہ کہ یہاں صوموا امر کا صیغہ مقدر مانا جائے۔

قلائل :- معدودات کی تفسیر دو طرح کی ہے، معدود عرفاً کم گنتی والی چیز کو کہتے ہیں، لیکن اس کم گنتی کی تعین نہیں ہوتی، تو مراد یہ ہے کہ تھوڑے دن، دوسرے یہ کہ معدود متعین تعداد والی چیز کو بھی کہتے ہیں، اس لحاظ سے اس کی تفسیر موققات سے کی، یعنی اتنے روزے جن کا وقت متعین ہے۔

فی الحالین :- یعنی مرض اور سفر کی حالت میں۔

لا یطیقونہ :- وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ میں یطیقون سے پہلے لانا فیہ مقدر ہے۔

وهو مد من غالب قوت البلد :- جس شہر میں جو غذا عام طور پر استعمال کی جاتی ہے، وہی غذا ایک مسکین کو

دی جائے گی، احناف کے نزدیک فدیہ کی مقدار وہی ہے جو صدقہ فطر کی ہوتی ہے۔

وفی قراءۃ یا ضافۃ فدیۃ :- ایک قرأت میں فدیۃ مضاف ہے، اور طعام مسکین مضاف الیہ، یعنی ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے، یہ اضافت بیانہ ہے، کیونکہ کھانا ہی فدیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ ذاتاً شے واحد ہیں، اور پہلی قرأت میں طعام مسکین، فدیۃ کا بیان ہے، یا یہ کہ بدل ہے۔

وقیل لا غیر مقدرۃ :- یہاں بطریقونہ کی تفسیر لانا فیہ مقدر مان کر کی گئی ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ لانا فیہ مقدر نہیں ہے، بلکہ اوائل میں اختیار تھا کہ روزہ کی طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھیں اور اس کا فدیہ ادا کر دیں، اب یہ حکم منسوخ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزہ متعین کر دیا ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

قال ابن عباس :- لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فدیہ کا اختیار اب بھی حاملہ اور مرضہ کے حق میں باقی ہے، گو کہ وہ روزہ رکھنے کی بذات خود طاقت رکھتی ہوں، لیکن انھیں ڈر ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں بچے کو ضرر پہنچے گا، تو وہ روزہ نہ رکھ کر فدیہ دے سکتی ہیں۔

من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فی لیلة القدر :- قرآن پورا بیک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان میں شب قدر کے اندر نازل ہوا، اس نزول کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے لوح محفوظ سے آسمان اول کے ملائکہ کو املا کرایا ہے، پھر وہاں سے حسب الحکم تیسیس [۲۳] سال میں زمین پر اتارا گیا۔

﴿هُدًى﴾ حال بمعنی ہادیاً :- قرآن کریم کا کلمہ ہدی، القرآن سے حال ہے، اور یہ مصدر بمعنی اسم فاعل ہے، کیونکہ مصدر بذات خود حال نہیں ہوتا۔

بینات :- بمعنی واضحات یہ ہدی سے حال ہے۔

﴿مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ :- یہ جار اور مجرور ہدی اور بینات کی صفت ہے، پس محلاً یہ منصوب ہے، اس کا متعلق کائناتاً محذوف ہے۔

تقدم مثله و کرره لئلا يتوهم :- وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّوْمِ فَيُضَاعَفْ :- یہ کلمات ابتداء رکوع میں بھی گزرے ہیں، یہاں دوبارہ اس لئے ذکر کیا کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کے عموم میں مریض اور مسافر بھی داخل ہیں، تو شبہ ہوتا ہے کہ شاید ان کے حق میں افطار کی رخصت منسوخ ہو تو اسے مکرر لا کر واضح کر دیا کہ ان دونوں کی یہ رخصت علیٰ حالہ قائم ہے۔

ولذا أباح لكم الفطر :- اس بات سے مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ رَمَضَانَ كَسَمِينِ فِيهِ افْطَارِ صَوْمِ كِي عِلْت هِي كِه مَرِيضِ اَوْر مَسَافِرِ كُو حَقِّ تَعَالَى نِي جَوِ افْطَارِ كِي رِخْتِ دِي تُو اَس لِي كِه اللّٰهُ تَعَالَى بِنْدُوں كِي سَاتھ عِبَادَتِ كِي مَعَامَلِه كُو سَهْلِ كَرْنَا چَاہَتِي هِي۔

وَلَكُونِ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ أَيْضاً لِلأَمْرِ بِالصَّوْمِ عَطْفٌ عَلَيْهِ :۔ اس عبارت سے مصنف ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ كَا كَلْمِه عِلْتِ هُونِي پَر دِلَالَتِ كَرْتَا هِي، اَوْر يِه مَعْطُوفِ هِي، تُو اَس كَا تَقَاضَا يِه هِي كِه مَعْطُوفِ عَلِيَه بِي كُوئی اَسِي كِي مَنَاسِبِ كَلْمِه هُو، تَا كِه دُونُوں اِيكِ سِيَاقِ مِيں مَنْدَرَجِ هُو سَكِيں، مَفْسَرِنِي جَوَابِ دِيَا كِه اَس كَلْمِه يَعْنِي وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ كَا يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ پَر عَطْفِ هِي، اَوْر اُو پَر بَتَا يَا جَا چُكَا هِي كِه آيْتِ كَا مَذْكُورِه حَصِه افْطَارِ صَوْمِ كِي لِي عِلْتِ هِي جَسِ كِي لِي اَبَاحِ لِكُمِ الْفِطْرِ مَشِيْرِه هِي، اَسِي كِي سَاتھ يِه كَلِمَاتِ صَوْمِ قِضَا كِي اَمْرِ كِيلِيَه بِي عِلْتِ هِي، كِيونكِه حَقِّ تَعَالَى نِي قِضَا كُو مَطْلَقًا افْطَارِ كِي اَيَامِ كِي بَقْدَرِ فَرَضِ كِيَا هِي، اَس مِيں تَتَابِعِ يَا تَفْرُقِ اَوْر تَرَاحِي يَا عَدَمِ تَرَاحِي كِي كُوئی قِيدِ نِهِيں لِكَا ئِي هِي، اَس سِي مَعْلُومِ هُوَا كِه يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، مَطْلَقِ صَوْمِ قِضَا كِي اَمْرِ كِيلِيَه بِي عِلْتِ هِي، پَس اَسِي عِلْتِ پَر دُوسَرِي عِلْتِ يَعْنِي وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ كَا بِي عَطْفِ كِيَا۔

أَيُّ عِدَّةٍ صَوْمِ رَمَضَانَ :۔ الْعِدَّةُ سِي مَرَادِ رَمَضَانَ كِي اِنِ اَيَامِ كِي تَعْدَادِ هِي، جِن مِيں رُوزِه نِهِيں رُكْه سَكَا تَهَا، پَس الْعِدَّةُ مِيں الْفِ لَامِ عَهْدِ كَا هِي، يَعْنِي جِن اَيَامِ كَا ذِكْرِ پَهْلِي فَعِدَّةٍ مِّنْ اَيَامِ اٰخِرِ مِيں آچُكَا هِي، اَنھِيں پُورَا كَرْنَا هِي۔ يِه تِمَامِ تَقْرِيرِ اَس بِنْيَادِ هِي كِه وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ كَا تَعْلُقِ مَرِيضِ اَوْر مَسَافِرِ كِي حَقِّ مِيں رُوزِه كِي افْطَارِ اَوْر اَس كِي قِضَا سِي هُو، لِيكِن اِگْرَا سِي پُورِي مِهِنِي رُوزِه كِي اَدَايِيگِي كِي اَمْرِ كِي عِلْتِ قَرَارِ دِيَا جَائِي اَوْر مُحْضِ قِضَا رُوزِه پَرَا سِي مَقْصُودِ وَمَحْدُودِ نِي كِيَا جَائِي، جِيسا كِه مَفْسَرِ كِي عِبَارَتِ وَلَكُونِ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ أَيْضاً لِلأَمْرِ بِالصَّوْمِ سِي پَتِي چَلْتَا هِي، تُو مَذْكُورِه بَا اَسْوَالِ كِي جَوَابِ كِي تَقْرِيرِ اَس طَرَحِ هُوگِي كِه:

”اللّٰهُ تَعَالَى نِي جُو صَرَفِ كِنْتِي كِي چِنْدَا اَيَامِ كَا يَعْنِي اِيكِ مَاهِ كَا رُوزِه فَرَضِ كِيَا هِي، اَس كِي عِلْتِ يِه هِي كِه حَقِّ تَعَالَى نِي تَمَهَارِي حَقِّ مِيں آسَانِي كَا اِرَادِه فَرَمَا يَا هِي، اَوْر اَتْنِي هِي سِي تَمِ پَر تَقْوَى كِي رَاہِ كُھولْنَا چَاہَتِي هِيں، ورنہ چَاہَتِي تُو تَقْوَى جِيسي مَهْتَمِ بَالشَانِ چِيَزِ كِي حَصُولِ كِيلِيَه تَمِ پَر پُورِي سَالِ كَا يَا سَالِ كِي زِيَادِه تَر حَصِي كَا رُوزِه فَرَضِ كَر دِيَتِي، وُه تَمِ پَر مَشْكَلِ هُو جَاتَا، لِيكِن اللّٰهُ نِي تَمِ پَر آسَانِي چَا هِي تُو صَرَفِ اِيكِ مَاهِ كَا رُوزِه فَرَضِ كِيَا، اَوْر اَس لِي كِه تَمِ يِه كِنْتِي پُورِي كَر لُو گِي، اَس تَقْرِيرِ كِي بِنْيَادِ پَر يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ الْخِ كَا رُوزِه كِي حَكْمِ كِي لِي عِلْتِ كِي مَعْنِي مِيں هُونَا وَاضِحِ هُو جَاتَا هِي، اَس صُورَتِ مِيں الْعِدَّةُ سِي اِشَارِه اَيَامًا مَعْدُودَاتِ كِي طَرَفِ هُوگا۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِنْدَ اِكْمَالِهَا :۔ اِكْمَالِهَا مِيں دُو اَحْتِمَالِ هِي، اِيكِ يِه كِه قِضَا كِي تَعْدَادِ پُورَا كَرْنِي كِي وَاقْتِ اللّٰهُ كِي بَرَأِي بِيَانِ كَرُو، تُو اَس كِي تَكْبِيْرِ سِي اللّٰهُ كِي حَمْدِ وِثْنَاءِ مَرَادِ هِي كِه جَبِ قِضَا كُو كَمْلِ كَر لِيَا، تُو اَس پَر اللّٰهُ تَعَالَى كِي حَمْدِ

وثناء بیان کرو۔ اس صورت میں یہ امر بالقضاء کی تیسری علت ہوگی، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ادا کی تکمیل کے وقت تکبیر مراد ہو، تو اس کا مطلب عید کی تکبیر مراد ہوگی، یعنی نماز عید کی تکبیرات، اس صورت میں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کی علت ہوگی

﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ منہم بعلمی :- قرب کا اطلاق اصل میں قرب مکانی کیلئے ہوتا ہے، لیکن حق تعالیٰ مکان و زمان کی تحدیدات سے پاک اور برتر ہیں، اس لئے مفسر نے فرمایا کہ اس سے مراد قرب علمی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندوں کے تمام احوال و افعال کا علم تام حاصل ہے، اس لحاظ سے وہ ان کے قریب ہیں۔

بِإِنَّا لَنَسْأَلُ :- إنالة باب افعال کا مصدر ہے، نیل بمعنی پانا سے مشتق ہے، مراد عطا کرنا ہے۔

﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ دعائی بالطاعة :- استجابت باب استفعال سے ہے، جس میں طلب کا معنی ہوتا ہے، لیکن مفسر کی تفسیر کے مطابق اس میں طلب کا معنی اس جگہ نہیں ہے، ان کی تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ میرے بندوں کو چاہئے کہ انھیں جو اپنی طاعت کی جانب دعوت دے رہا ہوں، اسے وہ قبول کریں، اور اگر اس میں طلب کا معنی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، بندے میری قبولیت کو میری اطاعت کے ذریعے طلب کریں، یعنی جب وہ میری اطاعت و عبادت کریں گے تو میں ان کی دعا قبول کروں گا۔

يَدِيمُوا عَلَيَّ الْإِيمَانَ :- وَلْيُؤْمِنُوا فِي أَحَادِثِ الْإِيمَانِ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حاصل ہی ہے، کیونکہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فِي عِبَادِي سے مراد اہل ایمان بندگانِ خدا ہیں، یہاں مراد ایمان پر برقرار رہنا اور استقامت ہے۔



﴿أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ﴾ بمعنی الإفشاء ﴿إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ بالجماع نزل نسخاً لما كان في صدر الاسلام من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء ﴿هَنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ﴾ كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ﴾ تخونون ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ بالجماع ليلة الصيام وقع ذلك لعمر وغيره واعتذروا إلى النبي ﷺ ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ قَبْلَ تَوْبَتِكُمْ ﴿وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَنَ﴾ إِذَا أَحَلَّ لَكُمْ ﴿بَاشِرُوهُنَّ﴾ جَامِعُوهُنَّ ﴿وَابْتَعُوا﴾ أَطْلَبُوا ﴿مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أَي أَبَاحَهُ مِنَ الْجَمَاعِ أَوْ قَدَرَهُ مِنَ الْوَلَدِ ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ اللَّيْلَ كُلَّهُ ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ﴾ يَظْهَرُ ﴿لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ أَي الصَّادِقُ بَيَانُ لِلْخَيْطِ الْأَبْيَضِ وَبَيَانُ الْأَسْوَدِ مُحْذُوفٌ أَي مِنَ اللَّيْلِ شَبَهَ مَا يَبْدُو مِنَ الْبَيَاضِ وَمَا يَمْتَدُّ مَعَهُ مِنَ الْغَبْشِ بِخَيْطَيْنِ أَبْيَضِ وَأَسْوَدِ فِي الْإِمْتِدَادِ

﴿ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ﴾ من الفجر ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ أى إلى دخوله بغروب الشمس ﴿وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ﴾ أى نساءكم ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ﴾ مقيمون بنية الاعتكاف ﴿فِي الْمَسْجِدِ﴾ متعلق بعاكفون نهى لمن كان يخرج وهو معتكف في جامع امرأته ويعود ﴿تِلْكَ﴾ الاحكام المذكورة ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ حدّها لعباده ليقفوا عندها ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ أبلغ من لا تعتدوها المعبر به فى آية أخرى ﴿كَذَلِكَ﴾ كما بين لكم ما ذكر ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ محارمه ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم﴾ أى لا ياكل بعضكم مال بعض ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ الحرام شرعاً كالسرقة والغصب ﴿وَلَا تَدُلُّوا﴾ تلقوا ﴿بِهَا﴾ أى بحكومتها أو بالاموال رشوة ﴿إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا﴾ بالتحاكم ﴿فَرِيْقًا﴾ طائفة ﴿مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ متلبسين ﴿بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ إنكم مبطلون۔

ترجمہ

(تمہارے لئے روزہ کی رات میں تمہاری بیویوں کے پاس جانے کو) یعنی جماع کرنے کو (حلال کیا گیا) ابتداء اسلام میں عشاء کے بعد رمضان کی رات میں جماع کرنا اور کھانا پینا حرام تھا، اس آیت سے وہ حکم منسوخ کر دیا گیا (وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو) یہ ان دونوں کے شدت تعلق اور ہر ایک کے دوسرے کے محتاج ہونے سے کنایہ ہے (اللہ نے جان لیا کہ تم) روزہ کی شب میں جماع میں مبتلا ہو کر (اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتے تھے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ بعض حضرات کو یہ ابتلاء پیش آیا تھا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معذرت پیش کی تھی (پس اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی) کہ تمہاری توبہ قبول فرمائی (اور تم سے عفو و درگزر فرمایا پس) جبکہ تمہارے لئے یہ بات حلال کر دی گئی تو (اب تم ان سے مباشرت کرو، اور جو کچھ تمہارے لئے اللہ نے لکھ دیا ہے) یعنی جماع کی اباحت یا اولاد (اسے تم طلب کرو، اور) پوری رات (کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لئے صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح طور پر نکل آئے) من الفجر، الخیط الابيض کا بیان ہے، اور الخیط الاسود کا بیان من اللیل ہے، جو کہ محذوف ہے، صبح صادق کی روشنی اور باقی ماندہ رات کی سیاہی دونوں ایک ساتھ دکھائی دیتی ہیں، انھیں دونوں کو سفید و سیاہ دھاگے سے تشبیہ دی ہے (پھر روزے کو) صبح صادق سے (رات تک) یعنی غروب شمس کی وجہ سے رات کے داخل ہونے تک (پورا کرو اور تم ان سے) یعنی اپنی عورتوں سے (اس حال میں مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجد میں معتکف ہو) فی المساجد کا تعلق عاکفون سے ہے، یہ اس بات سے ممانعت ہے کہ کوئی بحالت اعتکاف مسجد سے نکل کر عورت سے جماع کرے اور پھر لوٹ کر مسجد میں آجائے (یہ) مذکورہ احکام (اللہ کی حدیں ہیں) جنہیں اللہ نے

اپنے بندوں کے لئے اس واسطے مقرر کیا ہے کہ لوگ ان حدوں کے پاس ٹھہر جائیں (پس تم ان کے قریب نہ جاؤ) (اس کلمہ یعنی فلا تقربوہا میں فلا تعدوہا سے زیادہ تاکید ہے جو کہ ایک دوسری آیت میں وارد ہے (ایسے ہی) یعنی جیسا کہ تمہارے لئے مذکورہ بالا باتیں بیان کی گئیں، ایسے ہی (لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ) حرام چیزوں سے (بچیں، اور تم لوگ مالوں کو آپس میں) یعنی ایک دوسرے کے مال کو (غلط طور پر) یعنی اس طریقے پر جو شرعاً حرام ہو (نہ کھاؤ) جیسے چوری اور غصب کے طریقے پر (اور ان کو) یعنی ان کے مقدمے کو یا مال کو بطور رشوت کے (حاکموں کے پاس مت لے جاؤ کہ) اس مقدمہ بازی کے ذریعہ (لوگوں کے مال کے ایک حصہ کو بطور گناہ کے کھا جاؤ، حالانکہ تم) اس کے بطلان کو (جانتے ہو)

﴿تشریحات﴾

الرفث بمعنی الإفضاء :- الرفث کے معنی وہ کلام ہے، جو میاں بیوی کے درمیان جماع کے وقت اس کے جذبہ کو ابھارنے کے لئے ہوتا ہے، عام اوقات میں اس قسم کا کلام برا اور شرمناک سمجھا جاتا ہے، پھر اس کا اطلاق التزاماً جماع پر ہونے لگا، الرفث کا صلہ بقاء آتا ہے، لیکن آیت کریمہ میں اس کا صلہ إلی آیا ہے، اس سے إفضاء کے معنی کی تضمین ہوتی ہے، اور جماع کا معنی کنایۃً اس میں شامل ہو گیا ہے۔

بعد العشاء :- روزہ کی فرضیت جب ہوئی تھی تو عشاء کی نماز کے بعد اور اسی طرح سو جانے کے بعد گو وہ عشاء کی نماز سے پہلے ہی ہو کھانا پینا اور جماع کرنا حرام ہو جاتا تھا، یعنی عشاء کی نماز کے بعد یا سو جانے کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا، لیکن یہ حکم مشکل تھا، بعض صحابہ کو اس میں ابتلاء پیش آیا، تو وہ بہت روئے اور توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے سہل فرمادیا۔

کنایۃ عن تعانقہما الخ :- عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے سے چسپاں ہوتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، اسی کو حق تعالیٰ نے بطور کنایہ کے لباس سے تعبیر فرمایا ہے۔

إحتیاج کل منہما إلی صاحبه :- مرد و عورت میں سے ہر ایک گناہ سے بچنے میں دوسرے کا اسی طرح محتاج ہوتا ہے، جیسے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کے لئے لباس کا محتاج ہوتا ہے۔

لعمر و غیرہ :- حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیز حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو ایسا حادثہ پیش آیا تھا۔ (خازن)

فتاب علیکم :- فتاب کا عطف ایک لفظ محذوف پر ہے، یعنی تبتم فتاب علیکم۔

باشروہن :- یہ امر، اور اس کے بعد امر یعنی ابتغوا اور کلوا و اشربوا و جوب کے لئے نہیں اباحت کیلئے ہیں۔

أباحہ من الجماع :- ما کتب اللہ لکم سے مراد جماع ہے، اس صورت میں کتب سے مراد أباح ہے، اور اس کا قرینہ لکم ہے، اور جب کتب بمعنی فرض آتا ہے، تو اس کے لئے علی استعمال ہوتا ہے، اس

مطلب کی صورت میں ابتغوا، باشر وھن کی تاکید ہے۔

أو قدره من الولد :- دوسرا معنی یہ ہے کہ ما کتب اللہ سے مراد ولد ہے، تو کتب کے معنی قدر کے ہیں۔
 أی الصادق بیان للخیط الابيض :- من الفجر میں من بیان یہ ہے، اور خیط ابیض کا بیان ہے، اور فجر سے مراد فجر صادق ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ ابتداء اس آیت کا نزول اس طرح ہوا تھا: حتّی یتبین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود، اور من الفجر کا نزول نہیں ہوا تھا، تو بعض لوگوں نے روزہ رکھنے کے لئے اپنے پاؤں میں سفید اور کالا دھاگا باندھ لیا، اور رات میں ان دونوں کو دیکھتے رہے، جب تک دونوں دکھائی دیتے تب تک وہ کھاتے پیتے رہتے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے من الفجر کا بیان اتارا، اسی طرح کا قصہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔

وبیان الاسود محذوف :- الخیط الاسود کا بیان محذوف ہے، اور وہ ہے من اللیل، ایک کا جب بیان ہو گیا تو دوسرا خود بخود سمجھ میں آ گیا، اور دونوں میں سے صرف الخیط الابيض کا بیان اس لئے ذکر کر دیا کہ روزے کے احکام کا تعلق فجر صادق سے اور دن ہی سے ہے، رات سے اس کا حکم متعلق نہیں ہے، اس لئے الخیط الاسود کے بیان کو قرینہ عقلی پر چھوڑ دیا۔

شبه ما یبدو من البیاض الخ :- صبح صادق جب ہوتی ہے تو نیچے سے سفیدی نمودار ہوتی ہے، رات کی سیاہی اوپر کوسٹھتی ہے، تو اس وقت دونوں رنگ دکھائی دیتے ہیں، ان دونوں کو سفید و سیاہ دھاگے سے تشبیہ دی ہے۔

﴿ ثُمَّ أَتَمُّوا الصَّیَامَ ﴾ من الفجر ﴿ إِلَى اللَّیْلِ ﴾ :- من الفجر کا لفظ بڑھا کر مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ روزہ کی ابتداء صبح صادق سے ہوگی، اوپر کے کلمات سے یہ بات سمجھ میں آگئی تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا، مفسر نے اسی کی وضاحت کر دی، اس سے یہ بات صاف ہوگئی کہ کھانے پینے کے ختم کرنے کے بعد سے روزہ شروع نہیں ہوتا، بلکہ صبح صادق کے نمودار ہونے سے شروع ہوتا ہے۔

﴿ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ ﴾ :- اوپر بیان کیا گیا ہے کہ رمضان کے دنوں میں جماع کرنا حرام ہے، لیکن رمضان کی راتوں میں بھی جماع کرنا حرام ہو جاتا ہے جبکہ آدمی بہ نیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرا ہو، مسجد میں تو عام حالات میں بھی جماع کرنا حرام ہے، لیکن معتکف کے لئے یہ بھی حرام ہے کہ کسی عذر سے مسجد سے نکلے جس سے اعتکاف باطل نہ ہوتا ہو، مثلاً پیشاب پاخانہ کے لئے، اور بیوی سے جماع کر لے، معتکف کو اس کی بھی اجازت نہیں۔ اسی کو مفسر نے نہی لمن کان یخرج وهو معتکف الخ سے تعبیر کیا ہے۔

﴿ فَلَا تَقْرُبُوهَا ﴾ أبلغ من لاتعتدوها :- فَلَا تَقْرُبُوهَا میں لاتعتدوها سے زیادہ تاکید بلیغ ہے، کیونکہ اس کے قریب جانے سے منع کیا ہے، اور لاتعتدوها اس حد سے آگے بڑھنے سے منع کیا ہے، قریب

جانے سے نہیں۔

أى لایا کل بعضکم مال بعض :- اس تفسیر سے مفسر نے اشارہ فرمایا کہ لاتا کلوا أموالکم میں مقابله الجمع بالجمع نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا ہے تم لوگ اپنے اپنے مال کو غلط طریقے پر مت کھاؤ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: فاغسلوا وجوهکم، اس میں مقابله الجمع بالجمع ہے، یعنی تم لوگ اپنے اپنے چہروں کو دھوؤ، زیر بحث آیت شریفہ کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ تم لوگ آپس میں کوئی بھی دوسرے کے کسی مال کو غلط اور حرام طریقے پر نہ کھائے۔

﴿بِهَاءٍ﴾ أى بحکومتها أو بالاموال رشوةً :- تَدُلُّوْا بِهَاءٍ كَاعْطَفَ تَاكُلُوْا پْرَهے، پس یہ بھی لائے نہیں کے تحت ہے اور بہا میں دو احتمال ہے۔ ایک یہ کہ مضاف محذوف ہے، وہ ہے حکومت یعنی مقدمہ اور تدلوا کے معنی لے جانا، مطلب یہ ہوا کہ لاتدلوا بحکومة الاموال، اموال کے مقدموں کو حکام کے پاس اس لئے نہ لے جاؤ کہ ناحق کو حق ثابت کر کے دوسرے کے مال کو تلف کرو۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ مضاف محذوف نہ ہو تو اس وقت مراد یہ ہوگی: ولا تدلوا بالاموال رشوةً إلى الحکام، کہ مال حکام کے پاس بطور رشوت کے نہ لے جاؤ کہ اسے حرام کھانے کا ذریعہ بنا لو۔

متلبسین ﴿بِالْاِثْمِ﴾ :- بالاثم میں باء مصاحبت کے لئے ہے، اور وہ حال ہے، اس کا تعلق متلبسین سے ہے، یعنی ﴿لَتَاكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ﴾ متلبسین ﴿بِالْاِثْمِ﴾، تاکہ تم لوگوں کے مال کے ایک حصہ کو گناہ میں ملوث ہو کر کھاؤ۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام و متعلقات کو بیان فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ روزہ تم پر بھی اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، اس سے تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی، اور یہ کوئی بہت مشکل امر نہیں ہے، بس گنتی کے چند دن ہیں اور اس میں بھی سہولت یہ ہے کہ اگر کوئی مریض یا مسافر ہے، تو اسے اجازت ہے کہ مرض اور سفر کے بقدر روزہ نہ رکھے، بعد میں سہولت کے وقت اتنا رکھ لے جتنا چھوڑا ہے، اور یہ بھی سہولت ہے کہ اگر طاقت نہ ہو تو سرے سے نہ رکھے، البتہ اس کے بدلے فدیہ ادا کرے، جو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر کوئی مرض یا مسافرت کے باوجود روزہ رکھ لے یا ناطقی کے باعث جو فدیہ واجب ہے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دے تو اور بہتر ہے، یہ روزہ کب رکھنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کیلئے رمضان کا مہینہ ہے، جس میں اللہ کا کلام لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا جو کہ لوگوں کے واسطے ہدایت کا سامان ہے، نیز سیدھی راہ اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی واضح دلیل ہے، تو جو شخص رمضان کا

مہینہ پائے وہ اس میں روزہ رکھے، البتہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اسے موخر کرنے کی اجازت ہے، حق تعالیٰ کا ارادہ تمہارے حق میں دشواری کا نہیں سہولت کا ہے، اسی لئے سفر اور مرض میں روزہ نہ رکھنے اور بعد میں رکھ لینے کی ہدایت فرمائی، اور اس لئے کہ اس پر تم اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تمہاری ہدایت کا سامان عطا کیا، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار رہو۔

رمضان المبارک کا مہینہ اور روزہ کی حالت خاص طور سے اللہ کے قرب اور دعاؤں کی قبولیت کی ہے، جب بندے میرے متعلق سوال کریں کہ ہمارا رب قریب ہے یا بعید ہے، تو تم بتا دو کہ میں قریب ہوں، میں ان کا سوال سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، ان کو بھی چاہئے کہ میری دعوت کو قبول کریں اور ایمان پر جمے رہیں، اسی سے ان کو ہدایت ملے گی، اور رمضان کی راتوں میں عورتوں سے صحبت کرنے کو حلال کیا گیا ہے، تم اور وہ سب ایک دوسرے کیلئے بمنزلہ لباس کے ہیں، کہاں تک ان سے پرہیز کرو گے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس سلسلے میں خطا کے اندر مبتلا ہو چکے ہو، اب تم کو اجازت ہے کہ ان سے صحبت کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لئے اولاد مقدر کر دی ہے اس کا انتظام کرو، اور صبح صادق ہونے تک کھانا پینا اور جماع کرنا مباح ہے، پھر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ کی حالت میں رہو، ہاں اگر مسجد میں معتکف ہو تو اعتکاف کے ایام میں رات میں بھی جماع کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات و احکام کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ، ہاں! رمضان کا مہینہ خاص طور سے پاکیزگی کا ہے، اس میں ہر طرح کی احتیاط ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق کھانا حرام ہے، اس کے واسطے نہ حکام کے پاس جاؤ، نہ رشوت لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جانتے بوجھتے حرام کے مرتکب ہو جاؤ، یہ عام حالات میں حرام ہے، پھر رمضان کے اندر کیا کہنا جو کہ سر اپنا تقویٰ کا مہینہ ہے۔



﴿يَسْئَلُونَكَ﴾ يا محمد ﴿عَنِ الْآهْلِ﴾ جمع هلالٍ لِمَ تَبْدُو دَقِيقَةً ثُمَّ تَزِيدُ حَتَّى تَمْتَلِي نَوْرًا ثُمَّ تَعُودُ كَمَا بَدَتْ وَلَا تَكُونُ عَلَيَّ حَالَةً وَاحِدَةً كَالشَّمْسِ ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿هِيَ مَوَاقِيتُ﴾ جمع مِيقَاتٍ ﴿لِلنَّاسِ﴾ يَعْلَمُونَ بِهَا أَوْقَاتَ زُرْعِهِمْ وَمَتَاجِرِهِمْ وَعَدَّةَ نِسَاءِهِمْ وَصِيَامِهِمْ وَإِفْطَارِهِمْ ﴿وَالْحَجَّ﴾ عَطَفَ عَلَى النَّاسِ أَي يَعْلَمُ بِهَا وَقْتَهُ فَلَوْ اسْتَمَرَّتْ عَلَيَّ حَالَةً وَاحِدَةً لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ فِي الْإِحْرَامِ بِأَنْ تَنْقُبُوا فِيهَا نِقْبًا تَدْخُلُونَ مِنْهُ وَتَخْرُجُونَ وَتَتْرَكُوا الْبَابَ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَيُزْعَمُونَ بِرًّا ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ﴾ أَي ذَالِ الْبِرِّ ﴿مَنْ اتَّقَى﴾ اللَّهُ بَتَرَكَ مَخَالَفَتَهُ ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ فِي

الاحرام كغيره ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ تفوزون۔ ولما صدق الله عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ويخلوا له مكة ثلاثة أيام وتجهز لعمرة القضاء وخافوا أن لا يفي قريش ويقاتلوهم وكره المسلمون قتالهم في الحرم والاحرام والشهر الحرام نزل ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أى لإعلاء دينه ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ من الكفار ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ عليهم بالابتداء بالقتال ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ المتجاوزين ما حد لهم وهذا منسوخ بآية براءة أو بقوله ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفْتَمُوهُمْ﴾ وجدتموهم ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمْ﴾ أى من مكة وقد فعل بهم ذلك عام الفتح ﴿وَالْفِتْنَةُ﴾ الشرك منهم ﴿أَشَدُّ﴾ اعظم ﴿مِنَ الْقَتْلِ﴾ لهم فى الحرم والاحرام الذى استعظمتوه ﴿وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أى فى الحرم ﴿حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ﴾ فيه ﴿فَأَقْتُلُوهُمْ﴾ فيه وفى قراءة بلا ألف فى الافعال الثلاثة ﴿كَذَلِكَ﴾ القتل والاخراج ﴿جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهَوْا﴾ عن الكفر وأسلموا ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لهم ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم ﴿وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ﴾ توجد ﴿فِتْنَةٌ﴾ شرك ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ﴾ العبادة ﴿لِلَّهِ﴾ وحده لا يعبد سواه ﴿فَإِنْ انْتَهَوْا﴾ عن الشرك فلا تعتدوا عليهم دل على هذا ﴿فَلَا عُدْوَانَ﴾ إعتداء بقتل أو غيره ﴿إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ومن انتهى فليس بظالم فلا عدوان عليه ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾ المحرم مقابل ﴿بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم فى مثله رد لإستعظام المسلمين ذلك ﴿وَالْحُرْمَاتُ﴾ جمع حرمة ما يجب احترامه ﴿قِصَاصٌ﴾ أى يقتص بمثلها إذا انتهكت ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ بالقتال فى الحرم أو الاحرام أو الشهر الحرام ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ سَمَّى مقابله إعتداء لشبهها بالمقابل به فى الصورة ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فى الانتصار وترك الاعتداء ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ بالعون والنصر ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ طاعته الجهاد وغيره ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ﴾ أى أنفسكم والباء زائدة ﴿إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ الهلاك بالامساك عن النفقة فى الجهاد أو تركه لانه يقوى العدو عليكم ﴿وَأَحْسِنُوا﴾ بالنفقة وغيرها ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ أى يشيهم۔

ترجمہ

(تم سے) اے محمد (یہ لوگ ہلال کے متعلق سوال کرتے ہیں) اہلہ، ہلال کی جمع ہے، کہ وہ کیوں باریک سا طلوع ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ روشنی سے بھر جاتا ہے، پھر وہ جیسا ابتداء میں تھا اسی طرح

ہو جاتا ہے، اور سورج کی طرح ایک حال پر کیوں نہیں رہتا (تم) ان سے (کہہ دو کہ یہ اوقات پہچاننے کا ذریعہ ہے) موافقت، میقات کی جمع ہے (لوگوں کے واسطے) کہ اس سے لوگ اپنی کھیتی، تجارت، عورتوں کی عدت، روزے، عید وغیرہ کے اوقات کا علم رکھتے ہیں (اور حج کے واسطے) یہ الناس پر عطف ہے، یعنی اسی سے حج کے وقت کا بھی تعین ہوتا ہے، اگر وہ ایک حال پر رہتا تو یہ باتیں حاصل نہ ہوتیں (اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں) حالت احرام میں (ان کے پچھوڑے سے داخل ہو) اس طرح کہ ان میں پچھوڑے کی جانب سے سوراخ کر کے اس سے داخل ہو، اور اس سے نکلو اور دروازے کا استعمال ترک کر دو، اہل مکہ ایسا ہی کرتے تھے اور اسے نیک عمل گمان کرتے تھے (لیکن نیکی) یعنی نیکی والا (وہ ہے جو) اللہ سے (ڈرے) اس طرح کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کو ترک کرے (اور گھروں میں) حالت احرام میں بھی (دروازوں ہی سے آؤ) جیسے کہ عام حالات میں آتے ہو (اور اللہ سے ڈرو شاید تم کامیاب ہو)

شان نزول :- اور جب نبی کریم ﷺ کو صلح حدیبیہ کے سال بیت اللہ سے روک دیا گیا، اور کفار نے اس بات پر صلح کر لی کہ آپ اگلے سال آئیں، اور مکہ ان کے لئے تین دن کے لئے خالی ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے عمرہ القضاء کی تیاری کی، اور صحابہ کرام ﷺ کو اندیشہ ہوا کہ قریش اپنا قول و قرار شاید نہ پورا کریں اور لڑائی کرنے لگیں، اور مسلمانوں کو اس سے گرانی ہوئی کہ ان سے حرم میں، حالت احرام میں اور محترم مہینہ میں لڑنا پڑے، تو اس پر اگلی آیت نازل ہوئی (اور اللہ کے راستے میں) دین کی سر بلندی کے لئے (ان) کفار (سے لڑو، جو تم سے لڑیں اور) ان پر ابتدا بالقتال کر کے (حد سے تجاوز نہ کرو، بیشک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے) یہ آیت سورہ براءۃ کی آیت سے منسوخ ہے، یا یہ کہ اگلی ہی آیت کی وجہ سے منسوخ ہے، اور وہ اگلی آیت یہ ہے (اور ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انھوں نے تم کو نکالا ہے) یعنی مکہ مکرمہ سے، چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر اس کی تعمیل کر دی گئی (اور فتنہ) یعنی ان کا شرک کرنا (ان کو) حرم میں یا احرام میں (قتل کرنے سے) جس کو تم بھاری سمجھ رہے ہو (بڑھ کر ہے اور ان سے مسجد حرام کے پاس) یعنی حرم میں (اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ تم سے اس میں نہ لڑیں، پس اگر وہ اس میں تم سے لڑیں، تو تم انھیں) اس میں (قتل کرو) اور ایک قرأت میں تینوں افعال بغیر الف کے ہیں، یعنی وَلَا تَقْتُلُوهُمْ اور حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ اور فَإِنْ قَتَلُوكُمْ (ایسا ہی) یعنی قتل اور اخراج (کافروں کا بدلہ ہے، پس اگر وہ) کفر سے (باز آجائیں) اور اسلام قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو (بخشنے والے) ان پر (رحم کرنے والے ہیں) اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ) یعنی شرک (نہ رہے اور دین) یعنی عبادت صرف (اللہ کے لئے ہو جائے) اس کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو (پس اگر وہ) شرک سے (باز آجائیں) تو ان پر زیادتی نہ کرو، اس جو اب شرط پر دلیل اللہ تعالیٰ کا قول فلا عدوان ہے،

یعنی (تو) قتل وغیرہ کی (کوئی زیادتی نہیں بجز ظالموں کے) اور جو باز آ گیا وہ ظالم نہیں ہے، اس لئے اس پر کوئی زیادتی نہیں ہے (محترم مہینہ، محترم مہینے کے مقابلہ میں ہے) پس جبکہ وہ تم سے اس میں لڑیں تو تم انھیں مارو، اس آیت میں مسلمانوں کے اس خیال کی تردید ہے کہ محترم مہینوں میں مطلقاً لڑنا گناہ عظیم ہے (اور حرمتموں کا بدلہ برابری سے ہے) حرمتوں کی جمع ہے، حرمت وہ چیز ہے جس کا احترام واجب ہے، یعنی حرمتموں کا احترام توڑا جائے گا تو اس کا انتقام لیا جائے گا (پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے) یعنی حرم میں، یا حالت احرام میں، یا محترم مہینہ میں تم سے لڑے (تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے) اعتداء کے انتقام کو بھی اعتداء ہی کہا گیا کیونکہ وہ صورت اسی کے مشابہ ہے (اور) بدلہ لینے میں اور زیادتی نہ کرنے میں (اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ) مدد اور نصرت کے ساتھ (اہل تقویٰ کے ہمراہ ہیں، اور اللہ کی راہ میں) یعنی اس کی طاعت جہاد وغیرہ میں (خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو) یعنی اپنے آپ کو (ہلاکت میں نہ ڈالو) ولا تلقوا بأیدیکم میں باء زائدہ ہے، اس ہلاکت کا معنی یہ ہے کہ جہاد میں خرچ سے بخل کر کے یا جہاد کو ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ اس سے دشمن طاقتور ہو جائے گا (اور نیکی کرو) یعنی جہاد وغیرہ میں خرچ کرو (بے شک اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کو پسند کرتا ہے) یعنی انھیں ثواب عطا فرماتا ہے۔

﴿ تشریحات ﴾

أهلة جمع هلال لم تبدو دقيقة: - أهلة، هلال کی جمع ہے، ہلال کے معنی آواز بلند کرنے کے آتے ہیں، چونکہ جب چاند نظر آتا ہے، تو دیکھنے والے شور کرتے ہیں، اس مناسبت سے ابتدائی چاند کو ہلال کہتے ہیں، دو تین راتوں تک ہلال رہتا ہے، پھر اسے قمر کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا تھا کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ایک حالت پر سورج کی طرح برقرار کیوں نہیں رہتا۔ بعض مفسرین کا ارشاد ہے یہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت کا سوال تھا، اور بعض دوسرے حضرات جیسے ابو سعود اور خازن کا خیال ہے کہ یہ اس کی حکمت اور فائدہ کا سوال تھا۔

یعلمون بها أوقات زرعهم الخ: - قرآن کریم نے جواب میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت ہی کو ذکر کیا، دوسرے قول کے لحاظ سے یہ جواب سوال پر ہو بہو منطبق ہے، لیکن پہلے قول کے لحاظ سے یہ جواب سوال پر منطبق نہیں ہے، کیونکہ سوال علت کے متعلق ہے اور جواب حکمت کا دیا گیا ہے، تو اس جواب میں بھی ایک حکمت ہے، وہ یہ کہ سائل کو متنبہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو بینات کی علت بیان کرنے کیلئے مبعوث نہیں کئے گئے، اور نہ اس کا احکام شرع میں کوئی خاص دخل ہے، نبی نے ان حکمتوں کو ظاہر کیا ہے تاکہ ان پر احکام شرع کی بنا رکھی جاسکے، اس لئے سائل کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ حکمت کا سوال کرے، اور اس کا جواب معلوم کرے۔ اس طرزِ خطاب کا

نام بلاغت میں جواب علیٰ اسلوب الحکیم ہے، چاند کے گھٹنے بڑھنے سے تاریخوں کا تعلق ہے، اس سے کھیتی، تجارت، عدت، روزہ اور حج وغیرہ کے اوقات کا علم ہوتا ہے۔

﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ :- سوال کرنے والوں نے دو سوال کئے تھے، ایک ہلال کے متعلق، دوسرا حالت احرام میں گھر سے پچھواڑے سے داخل ہونے کے متعلق، اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کو ذکر کیا۔ اور دوسرے کا صرف جواب ارشاد فرمایا۔

جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیتا تھا تو لازم سمجھتا تھا کہ اس کے درمیان اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو، نہ چھت کا نہ سائبان کا نہ شامیانہ کا، اگر اس کو مکان میں جانے کی ضرورت ہوتی، تو اگر مٹی کا یا پتھر کا مکان ہوتا، تو پیچھے کی جانب اس میں بڑا سا سوراخ کر لیتا یا پتھر نکال دیتا اور ادھر سے مکان میں داخل ہوتا، تاکہ دروازے کی چھت حائل نہ ہو جائے، اور اگر خیمہ ہوتا تو اس کے دروازے سے نہ داخل ہوتا، اور نہ نکلتا پیچھے کی جانب سے مجبوری میں جاتا اور صحن میں کھڑا ہوتا۔

ذالبر :- لکن البر من اتقىٰ میں مضاف محذوف ہے کیونکہ البر جو کہ حاصل مصدر ہے، اس پر من کا حمل درست نہیں ہے، یعنی نیکی والا وہ ہے، جو اللہ سے ڈرے، گھر کے پچھواڑے سے گھسنا کوئی نیکی نہیں ہے۔

وكره المسلمون قتالهم في الحرم والاحرام والشهر الحرام :- حدیبیہ کی صلح کے موقع پر چونکہ عمرہ نہیں ہو سکا تھا، مسلمانوں نے دمِ احصار دے کر خود کو احرام سے آزاد کر لیا تھا، اس لئے دوسرے سال اس عمرہ کی قضا کی گئی۔ یہ عمرۃ القضاء ذوقعدہ کے مہینہ میں ہوا تھا جو کہ شہر حرام ہے، شہر حرام چار ہیں۔ ذوقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔

﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ علیہم بالابتداء بالقتال :- شہر حرام میں قتال کی ابتدا کرنا تعدی ہے، اس سے منع کیا گیا، لیکن جو ابی کارروائی ممنوع نہیں ہے۔

بآية برأة :- وہ آیت یہ ہے: وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اس آیت سے ابتداء بالقتال کی بھی اجازت ہوگئی، پس پہلی آیت منسوخ ہے۔

أو بقوله :- پہلی آیت یا تو سورہ برأة سے منسوخ ہے، یا اسی سورہ کی اس آیت سے جو متصلاً آئی ہے، یعنی ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُمُوهُمْ﴾ الخ۔

وقد فعل بهم ذلك عام الفتح :- ۸ھ میں مکہ فتح ہوا، اس وقت جو مسلمان نہیں ہوئے وہ یا تو مارے گئے، یا مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔

﴿وَالْفِتْنَةُ﴾ الشرك :- شرک کو فتنہ اس لئے کہا گیا کہ تمام شرور و فتن کی جڑ وہی ہے۔

الذی استعظمتوه :- یہ القتل کی صفت ہے۔

﴿وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ :- عند بمعنی فی ہے، اسی لئے فی الحرم سے تفسیر کی۔
 فیہ وفی قراءۃ بلا ألف فی الافعال الثلثة :- یعنی وَلَا تَقْتُلُوهُمْ اور حَتَّى یَقْتُلُوْكُمْ اور فَاِنْ قَتَلُوْكُمْ ۔

فلا تعتدوا علیہم دل علیٰ هذا الخ :- فَاِنْ اَنْتَهُوَ اشرط کی جزا موجود نہیں ہے، فلا عُذْوَانَ اِلَّا عَلٰی الظَّالِمِیْنَ چونکہ جملہ اسمیہ ہے، اس لئے وہ جزا نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ جزا کا فعل ہونا ضروری ہے، بس یہ جملہ جزا تو نہیں ہے، البتہ دلیل جزا ہے، جزا فلا تعتدوا علیہم ہے، جس پر مذکورہ جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے۔
 فکما قاتلوکم فیہ :- الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ کا مطلب یہ ہے کہ محترم مہینہ محترم مہینے کے عوض میں ہے، یعنی ذوالقعدہ ۶ھ میں حدیبیہ میں تم سے کفار نے جنگ آزمائی کی تھی، تو تم ۷ھ میں عمرۃ القضا کے لئے ذوالقعدہ ہی میں جا رہے ہو، تو اگر ضرورت پڑے تو بے تکلف انھیں قتل کرو، کوئی اندیشہ دل میں نہ لاؤ۔

سَمَّى مَقَابِلَتِهِ اِعْتِدَاءً لِّشَبْهِهَا بِالمَقَابِلِ بِه فِی الصُّورَةِ :- اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَیْكُمْ، یعنی جو تم پر زیادتی کرے، اس پر اتنی ہی زیادتی کرو، جتنی اس نے کی ہے۔ حق تعالیٰ نے جو ابی کارروائی کو بھی زیادتی کے عنوان سے بیان فرمایا ہے، حالانکہ وہ زیادتی تو کیا ہوتی عین ضروری اور ثواب ہے، اس کا مفسر نے جو اب دیا کہ صورۃً جو ابی کارروائی بھی اعتداء ہی کے مثل ہے، اس لئے صورت کے لحاظ سے اس کو اعتداء کہہ دیا، جیسے فرمایا گیا ہے: وَجَزَاءٌ سِیِّئَةٍ سِیِّئَةٌ مِّثْلُهَا، حالانکہ جزا حقیقت میں سیئہ نہیں ہے۔

طاعته الجہاد وغیرہ :- فی سبیل اللہ کا اطلاق اللہ کی طاعت میں خرچ کرنے یا محنت کرنے پر ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں عموماً اور اس جگہ خصوصاً جہاد کے معنی میں ہے۔

﴿وَلَا تَلْقُوا بِاَیْدِیْكُمْ﴾ ﴿اٰی اَنْفُسِكُمْ﴾ :- ایدی سے مراد ذات ہے، اور اس میں باء زائد ہے، اس نہی کا تعلق وقاتلوہم سے بھی ہے، اور اَنْفُقُوا سے بھی ہے، چنانچہ مفسر نے بالامساک عن النفقة فی الجہاد او ترکہ، کہہ کر ان دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی جہاد میں مال کا خرچ نہ کرنا یا جہاد کا ترک کرنا تمہارے لئے باعث ہلاکت ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں دشمن کو قوت حاصل ہوگی، اور وہ تمہیں فنا کرنا چاہے گا۔
 یشیہم :- یحب کی تفسیر محبت سے نہ کر کے إعطاء ثواب سے کی ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ محبت اپنی ابتداء میں ایک انفعالی اور تاثیراتی جذبہ ہے، جو کمزوری کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کمزوری سے پاک ہے، اور اپنی انتہاء کے لحاظ سے یہ ہے کہ محبت اپنے محبوب کو پسندیدہ چیز سے نوازتا ہے، اس لحاظ سے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی

ذات والا صفات متصف ہے۔ مفسر نے اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں محبت اپنے انتہائی درجہ کے اعتبار سے ثابت ہے، اسی بنا پر یشیہم فرمایا۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

نبی ﷺ سے بعض صحابہ نے سوال کیا کہ چاند کیوں کم و بیش ہوتا ہے، اور حالت احرام میں گھر سے پچھوڑے سے داخل ہونا کیا ثواب ہے؟ اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم انہیں بتادو، چاند کے کم و بیش ہونے پر لوگوں کے بہت سے معاملات کا، اور حج کا مدار ہے، اسی سے تاریخیں متعین ہوتی ہیں، یہ تاریخیں انسان کے مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں کسی حساب و کتاب کا دخل نہیں ہے، اس سے ہر انسان براہ راست خود استفادہ کر سکتا ہے، برخلاف سورج کے لحاظ سے تاریخوں کے کہ وہ بہت دقیق حساب پر مبنی ہیں۔ اور حالت احرام میں گھر کے پچھوڑے سے داخل ہونا کچھ نیکی نہیں ہے، نیکی تو تقویٰ کا نام ہے، گھروں میں تو دروازوں ہی سے آمد و رفت رکھو اور ہر معاملہ میں اللہ سے ڈرو، اسی سے کامیابی ملے گی۔ اور اللہ کے راستے میں کفار سے لڑو، البتہ ان پر زیادتی اور ظلم نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اور جہاں انہیں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انھوں نے تم کو نکالا ہے وہاں سے تم ان کو نکال دو، یہ فتح مکہ کے ہنگامی حالات میں ہوا تھا، اور حرم کو کفار و مشرکین سے پاک کرنا مقصود تھا، شرک میں مبتلا ہونا حرم میں قتل کرنے سے بڑا جرم ہے، البتہ یہ ہے کہ تم حرم میں لڑائی کی ابتداء نہ کرو، وہ لڑیں تو تم بھی جواب دو، کفار کا بدلہ یہی ہے، اور اگر وہ کفر و شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت و رحم فرمانے والے ہیں، اور یہ قتال اس وقت تک ہے، جب تک شرک فنا نہ ہو جائے اور عبادت خالص اللہ کے لئے نہ ہونے لگ جائے، پھر اگر یہ لوگ شرک سے باز آجائیں تو ان پر زیادتی نہ کرو، جو ابی کار روئی کا تعلق صرف ظالموں سے ہے، تم حرمت کے مہینے میں لڑنے سے نہ گھبراؤ، انھوں نے حرمت کے مہینے میں لڑائی چھیڑی تو اس کے بدلے میں تم بھی کار روئی کر سکتے ہو، اور ہر واجب الاحترام معاملہ میں کار روئی ہو سکتی ہے، تو جتنی زیادتی ان کی طرف سے ہو، اسی کے بقدر کار روئی تم بھی کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اگر خرچ نہ کرو گے تو دشمن کی طرف سے ہلاکت میں پڑو گے، اور نیکی کا عمل اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔



﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ أَدْوَهُمَا بِحَقْوَهُمَا ﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ﴾ مَنَعْتُمْ عَنِ إِتْمَامِهَا بَعْدَ أَوْ نَحْوَهُ ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ﴾ تَيْسَرَ ﴿مِنَ الْهَدْيِ﴾ عَلَيْكُمْ وَهُوَ شَاةٌ ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ﴾ أَيْ لَا تَحْلِقُوا ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ الْمَذْكُورَ مَحَلَّهُ﴾ حَيْثُ يَحِلُّ ذَبْحُهُ وَهُوَ

مکان الاحصار عند الشافعی فیذبح فیہ بنیۃ التحلل ویفرق علیٰ مساکینہ ویحلق وبہ
یحصل التحلل ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ﴾ كقمل وصداع فحلق فی
الاحرام ﴿فَفِدْيَةٌ﴾ عليه ﴿مِّن صِيَامٍ﴾ لثلاثة أيام ﴿أَوْ صَدَقَةٌ﴾ لثلاثة أصع من غالب قوت
البلد علی ستة مساکین ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ أى ذبح شاةٍ وأو للتخیر والحق به من حلق بغير
عذر لأنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحق كالطيب واللبس والدّهن لعذر أو غيره
﴿فإذا أمتتم﴾ العدو بأن ذهب أو لم يكن ﴿فَمَنْ تَمَتَّع﴾ استمتع ﴿بِالْعُمْرَةِ﴾ أى بسبب
فراغه منها والتحلل عنها بمحظورات الاحرام ﴿إِلَى الْحَجِّ﴾ أى الاحرام به بأن يكون أحرم
بها فی أشهره ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ﴾ تيسر ﴿مِنَ الْهَدْيِ﴾ عليه وهو شاة يذبحها بعد الاحرام به
والافضل يوم النحر ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ﴾ الهدى لفقده أو فقد ثمنه ﴿فَصِيَامٌ﴾ أى فعليه صيام
﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ أى فى حال أحرامه به فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذى
الحجة والافضل قبل السادس لكرهة صوم يوم عرفة للحاج ولايجوز صومها أيام التشريق
على أصح قولى الشافعى ﴿وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم
من أعمال الحج وفيه إلتفات عن الغيبة ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ جملة تأكيد
لما قبلها ﴿ذَلِكَ﴾ الحكم المذكور من وجوب الهدى أو الصيام على من تمتع ﴿لِمَنْ لَّمْ
يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ بأن لم يكونوا على مرحلتين من الحرم عند الشافعى
فإن كان فلام عليه ولاصيام وإن تمتع وفى ذكر الاهل إشعار بإشتراط الاستيطان فلو أقام
قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك وهو أحد الوجهين عندنا والثانى لا
والاهل كناية عن النفس والحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من يحرم بالعمرة
والحج معاً أو يدخل الحج عليها قبل الطواف ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فيما يامركم به وينهاكم عنه
﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لمن خالفه -

ترجمہ

(حج اور عمرہ کو اللہ کے لئے پورا کرو) یعنی ان دونوں کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا کرو (پس اگر تم کو) ان دونوں کے اتمام سے دشمن وغیرہ کی وجہ سے (روک دیا جائے تو جو ہدی کا جانور تمہیں میسر آجائے) وہ تمہارے اوپر لازم ہے، اور وہ بکری ہے (اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ) یعنی احرام نہ کھولو (یہاں تک کہ وہ ہدی) مذکور (اپنی جگہ) یعنی جہاں اس کا ذبح کرنا درست وہاں (پہنچ جائے) اور وہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک مکان احصار ہے،

پس اس میں احرام کھولنے کی نیت سے ذبح کر دے، اور وہاں کے مساکین پر تقسیم کر دے، اور سرمنڈوا دے، اس سے احرام کھل جائے گا (پھر اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو) مثلاً جوئیں ہوں یا در دوسر ہو، اور اس کی وجہ سے حالت احرام میں سرمنڈوا لیا (تو) اس پر (فدیہ ہے) تین دن (روزے کا یا) تین صاع (صدقے کا) جو اس جگہ کی عام غذا سے چھ مسکینوں کو دیا جائے گا (یا ایک قربانی کا) یعنی ایک بکری ذبح کرے، اور او، تخییر کے لئے ہے، اور اسی کے ساتھ وہ شخص بھی ملحق ہے، جس نے بغیر عذر کے سرمنڈوا دیا ہو، کیونکہ وہ تو بدرجہ اولیٰ کفارہ کے لزوم کا مستحق ہے، اور یہی حکم اس شخص کا بھی ہے، جس نے حلق کے علاوہ کسی اور محظور احرام کا ارتکاب کیا ہو، جیسے خوشبو لگانا، سلا ہوا لباس پہننا اور تیل لگانا، عذر سے ہو یا بغیر عذر کے ہو، (پس جب تم) دشمن سے (مامون ہو جاؤ) کہ وہ تھا، لیکن اب نہیں رہا، یا سرے سے کوئی دشمن تھا ہی نہیں (تو جو کوئی عمرہ سے فائدہ اٹھائے) یعنی عمرہ سے فارغ ہو کر محظورات احرام سے آزاد ہوا (حج) کے احرام (تک) بشرطیکہ عمرہ کا احرام حج کے مہینوں میں باندھا ہو (پس جو ہدی کا جانور میسر ہو) اس کے ذمے ہے، اور وہ ایک بکری ہے جسے حج کا احرام باندھنے کے بعد ذبح کرے گا، اور افضل یوم نحر ہے (پس جو کوئی) ہدی (نہ پائے) خواہ اس لئے کہ ہدی کا جانور ہی نہیں ملا، یا یہ کہ اس کے پاس خریدنے کے لئے قیمت نہیں تھی (تو) اس پر (ایام حج میں تین دن روزہ لازم ہے) یعنی احرام کی حالت میں، لہذا واجب ہے کہ ۷ ذی الحجہ سے پہلے احرام باندھے، اور افضل یہ ہے کہ ۶ سے پہلے حج کا احرام باندھے، کیونکہ یوم عرفہ کا روزہ حاجی کے لئے مکروہ ہے، اور تینوں روزے ایام تشریق میں رکھنے جائز نہیں ہیں۔ امام شافعیؒ کے دو قولوں میں اصح قول یہی ہے (اور سات روزے جب تم) اپنے وطن کی جانب (لوٹو) خواہ مکہ ہو یا غیر مکہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رجعتم کے معنی فرغتم ہے، یعنی جب تم اعمال حج سے فارغ ہو جاؤ، اور اس میں غیبت سے خطاب کی جانب التفات ہے (یہ کامل دس) روزے (ہوئے) یہ جملہ ماقبل کی تاکید ہے (یہ) حکم جو مذکور ہوا، یعنی تمتع کرنے والے پر ہدی یا روزے کا وجوب (اس شخص کے لئے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں) یعنی حرم سے دو مرحلے سے کم کے رہنے والے نہ ہوں..... امام شافعیؒ کے نزدیک..... پس اگر وہ ایسا ہو تو اس کے ذمہ نہ دم ہے، نہ روزہ ہے، اگرچہ وہ تمتع کرے، اور اہل کے ذکر میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ وطن ہونا شرط ہے، لہذا اگر کسی نے اشہر حج کے پہلے سے حرم میں اقامت اختیار کر رکھی ہے، مگر اسے وطن نہیں بنایا تو اگر یہ تمتع کرے گا تو اس پر دم لازم ہوگا، اور یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک دو وجہوں میں ایک ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس پر بھی دم واجب نہ ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ وطن بنانا شرط نہیں ہے، اور اہل کنایہ ہے خود اس کی ذات سے، اور مذکورہ احکام میں تمتع کے ساتھ سنت سے ثابت ہے کہ قارن بھی ملحق ہے، اور وہ، وہ شخص ہے جو حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھے، یا عمرہ کا احرام باندھا تھا، اور اسکے

طواف سے پہلے اس پر حج کا احرام باندھ لیا (اور اللہ سے) اس بارے میں (ڈرو) جس کا تم کو حکم دیتے ہیں، اور اس بارے میں بھی جس سے تم کو منع کرتے ہیں (اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ) اس شخص کو جو خلاف ورزی کرتا ہے (سخت سزا دینے والے ہیں)

﴿تشریحات﴾

أَدْوَهُمَا بِحَقْوَقِهِمَا: وَأَتَمُّوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ كِي تَفْسِيْرُ أَدْوَهُمَا بِحَقْوَقِهِمَا سِي جُو مَفْسِرِنِي كِي هِي، اِس مِي اِمَام شَانَعِي عَلِيهِ الرِّحْمَةُ كِي مَسْلِك كِي رِعَايَت هِي، اِن كِي نَزْدِيك عِمْرَه وَاجِب هِي، اِس وَجُوب كِي لِنِي اِس آيْت سِي اسْتِدْلَال كِيَا هِي كِي حَج وَعِمْرَه كُو اللّٰهِ كِي لِنِي تَام كُرُو، اُور تَام كُرِنِي كَا مَطْلَب يِي بِيَان كِيَا هِي كِي اَنْحِيْس پُورِي طُور پُر حَقْوَق وَآدَاب كِي رِعَايَت كِي سَاتِه اِدَا كُرُو۔ اِس سِي مَعْلُوم هُوَا كِي حَج بِي وَاجِب هِي اُور عِمْرَه بِي۔

ليكن يه تفسير خلاف ظاهر هيه، ظاهر يه هيه كه يه حكم اس حالت سي متعلق هيه جبكه حج وعمره كو احرام باندھ كر شروع كر چكا هو، كيونكه اتمام كا حكم و هين هوتا هيه جهاں شروعات هو چكي هو، پس جب كسي نِي احرام باندھ ليا، خواه حج كا يا عمره كا، تو اس سي مكمّل كرنِي كا امر كيا گيا هيه، يهي اس كا متبادر معني هيه، اُور اس كِي مراد لِنِي كا ايك قُوي قَرِيْبِه يِي هِي كِي يِه آيْت احْصَار كِي حَكْم كِي لِنِي نَص هِي، اُور احْصَار كا حَقْق احْرَام كِي بَعْد هِي هوتا هيه، اُور وَأَتَمُّوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ كَا جَمْلَه اِسِي حَكْم احْصَار كِي لِنِي بطور تمهيد ذكر كيا گيا هيه، يعنِي كهنا يه هيه كه حج وعمره كو احرام باندھنِي كِي بَعْد اللّٰهِ كِي لِنِي پُورَا كَرْنَا وَاجِب هِي، مگر يه كه اكر احْصَار كا عِذْرُ پِش آگيا تو احرام سي آزاد هُونِي كا يه طَرِيقَه هِي، جُو بِيَان كِيَا جَار هَا هِي۔

منعتم عن إتمامها بعدو :- احْصَار يِي هِي كِي احْرَام باندھنِي كِي بَعْد كِي دِشْمَن يِي اِدْمَنِي يَا كِي شِدِيد مَرَض كِي وَجِه سِي حَرْم تَك پِهُونِچْنِي سِي مَجْبُورِي هُو جَائِي تُو احْرَام سي آزاد هُونِي كا طَرِيقَه يِي هِي كِي اِيك هِدِي يعنِي بَكْرِي يَا گَائِي يَا اُونٹ كَا سا تُو اِن حَصَه قَرْبَان كِيَا جَائِي، اِس كِي بَعْد سِرْمَنْدُ وَا لِيَا جَائِي۔

﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ :- قَرْبَانِي كِهَاں كِي جَائِي كِي، حَق تَعَالِي نِي اَجْمَالِي يِه اِرْشَاد فَرْمَا يَا كِي سِرْمَنْدُ اَنَا يعنِي حَلَال هُونَا اِس وَقْت تَك نِهِيْس هُو كَا جَب تَك كِي هِدِي كَا جَانُور اِس جِگَه تَك نِه پِهُونِچ جَائِي، جهاں اِس كِي قَرْبَانِي دَرَسْت هِي، لِيكِن وَه مَحَل كِيَا هِي؟ قُرْآن مِي اِس كِي صِرَاحْت نِهِيْس هِي۔ اِمَام شَانَعِي عَلِيهِ الرِّحْمَةُ كِي نَزْدِيك وَه ”مَكَان احْصَار“ هِي، يعنِي جهاں ”احْصَار“ هُوَا هِي وَهِيْن جَانُور قَرْبَان كِيَا جَائِي، لِيكِن اِس پَر اَشْكَال هِي كِي اكر حَاجِي اِسِنِي سَاتِه سَاتِه هِدِي كَا جَانُور رَكْهِي هُوِي هِي تُو اِس وَقْت حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ كِهَنَا بِي مَحَل هُو جَائِي كَا، دُوسَرِي يِي كِي هِدِي اِس جَانُور كُو كِهْتِي هِيْن جُو حَرْم مِي ذَنْح كِيَا جَائِي۔ اِمَام ابُو حَنِيفَه عَلِيهِ الرِّحْمَةُ كِي نَزْدِيك اِس جَانُور كُو حَرْم مِي بِيْحَا جَائِي كَا، اُور اِس كِي ذَنْح كِي لِنِي دِن تَارِيخ مَقْرُر كَر لِي جَائِي كِي، اِس وَقْت كِي آنِي كِي بَعْد مَحْرَم

سرمنڈوا کر آزاد ہو جائے گا۔

امام شافعیؒ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا احصار حدیبیہ میں ہوا تھا، اور آپ نے وہیں قربانی کی تھی، جبکہ حدیبیہ حرم میں نہیں حل میں ہے، ہمارا جواب یہ ہے کہ حدیبیہ کا ایک بڑا حصہ حرم میں ہے، اور رسول اللہ ﷺ اسی حرم کے حصے میں تھے، اس لئے وہاں آپ نے جانور قربان کئے، امام زہری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جانوروں کو حرم میں قربان کیا تھا۔

جانور قربان کر کے اس کا گوشت اسی جگہ فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا، محصر خود نہیں استعمال کرے گا۔

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾: مریضاً موصوف ہے، اس کی صفت محتاجاً إلى الحلق ہے، جو کہ محذوف ہے، یعنی ایسا مریض ہو، جسے سرمنڈوانے کی ضرورت ہو، یا اس کے سر میں ایسی تکلیف ہو کہ بغیر سر منڈائے کوئی چارہ نہ ہو، مثلاً جوئیں اتنی ہو گئی ہیں کہ اس سے آدمی پریشان ہو گیا، ایسی صورت میں سرمنڈانے کی اجازت ہے، لیکن اس کے عوض میں فدیہ دینا ہے، فدیہ تین طرح کا ہے، جو چاہے اختیار کر لے۔ (۱) تین روزے۔ (۲) تین صاع اس جگہ کا عام غلہ جو نصف نصف صاع چھ مسکینوں کو تقسیم کیا جائے۔ (۳) ایک قربانی۔

فَإِذَا أَمْتَمَ الْعَدُو: یہ حج تمتع کا بیان ہے، حج کے مہینے میں پہلے عمرہ کا حرام باندھا، اس سے فارغ ہو کر احرام کھول لیا، اس کے بعد وقت پر حج کا احرام باندھا تو اس صورت میں ایک ”دم شکر“ واجب ہوگا۔ اس دم شکر کو حج کا احرام باندھنے کے بعد ذبح کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ۱۰ اذی الحجہ کو ذبح کرے، اور یہ قربانی بہر حال حرم میں ہے۔

﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾: حج تمتع میں اگر کسی کو قربانی کا جانور نہیں مل سکا، خواہ قیمت نہ ہونے کی وجہ سے، یا یہ کہ جانور ملا ہی نہیں تو اس کو چاہئے کہ حج کا احرام باندھ کر تین روزے رکھے، اس کے لئے اسے زیادہ سے زیادہ ۶ اذی الحجہ کو احرام باندھ لینا چاہئے تاکہ ۷/۸/۹ کو روزہ رکھ سکے۔ ۱۰ سے ۱۳ تک روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور اتنے میں حج سے فارغ ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ ۶ سے پہلے احرام باندھ لے تاکہ ۷/۸/۹ کو روزہ رکھ سکے، جس نے حج کا احرام باندھ رکھا ہے، اس کے لئے ۹ کو روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

﴿وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾: اور جب وطن کو لوٹو تب سات روزے رکھو، خواہ مکہ میں رکھ لیا جائے یا گھر جا کر، رجعت کا مطلب فرغتم بھی بتایا گیا ہے، یعنی جب حج سے فارغ ہو جائیں تب سات روزہ رکھیں، اس جملہ میں غیبت سے خطاب کی جانب التفات ہے، یعنی پہلے غائب کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا گیا ہے: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ اور اس کے بعد اسلوب کلام بدل کر وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ فرمایا جو کہ حاضر کا صیغہ ہے۔

بأن لم يكونوا على مرحلتين من الحرم : - اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تمتع کا حکم کہ وہ قربانی نہ کر سکے تو روزہ رکھے، یہ حکم اس شخص کے لئے ہے جس کے گھر والے حرم کے رہنے والے نہ ہوں، حرم کے نہ رہنے والے وہ ہیں جو حرم سے دو مرحلے سے کم مسافت کے رہنے والے نہ ہوں، بلکہ اس سے زیادہ مسافت کے رہنے والے ہوں، اگر دو مرحلے سے کم کے رہنے والے ہوں، وہ اگر اشہر حج میں عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ بھی کر لیں تب بھی ان پر دم لازم نہ ہوگا اور نہ روزہ ہوگا، کیونکہ وہ حرم کے رہنے والے ہیں۔ یہ تفصیل امام شافعی علیہ الرحمہ کے مسلک کے مطابق ہے، امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک مکہ میں جو کوئی مقیم ہے، اس کے لئے نہ تمتع جائز ہے نہ قرآن! تفصیل کتب مناسک میں دیکھیں۔

وفى ذكر الاهل إشعار : - اہل کے ذکر سے اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے کہ حرم کو وطن بنا نا شرط ہے، اگر کسی نے اشہر حج کے پہلے حرم میں اقامت اختیار کی، مگر وطن بنانے کا ارادہ نہیں کیا تو اگر وہ تمتع کرے گا، تو اس پر دم شکر واجب ہوگا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے دو قولوں میں سے ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایسے شخص پر بھی دم شکر واجب نہ ہوگا، اس صورت میں اہل خود اس کی ذات سے کننا یہ ہے، یعنی وہ خود حرم کا رہنے والا نہ ہو، اور موجودہ صورت میں وہ خود حرم کا مقیم ہے، کیونکہ وہ حج کے مہینوں کے پہلے ہی سے وہاں مقیم ہے۔

وَالْحَقُّ بِالْمَتَمِّعِ فِيمَا ذَكَرَ بِالسَّنَةِ الْقَارِنِ : - سنت سے ثابت ہے کہ تمتع کے ہی کے حکم میں قارن بھی ہے، قارن وہ شخص ہے جس نے حج اور عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا ہو، یا پہلے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ کا طواف کرنے سے پہلے اس نے حج کا احرام باندھا۔



﴿ الْحَجُّ ﴾ وقته ﴿ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ﴾ شوال وذو القعدة وعشر ليلٍ من ذى الحجة
وقيل كله ﴿ فَمَنْ فَرَضَ ﴾ على نفسه ﴿ فِيهِنَّ الْحَجُّ ﴾ بالاحرام به ﴿ فَلَارْفَتْ ﴾ جماع فيه
﴿ وَلَا فُسُوقٌ ﴾ معاصي ﴿ وَلَا جِدَالٌ ﴾ خصام ﴿ فِي الْحَجِّ ﴾ وفي قراءة بفتح الاولين والمراد
في الثالثة النهي ﴿ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ كصدقة ﴿ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴾ فيجازيكم به ونزل في اهل
اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون كلاً على الناس ﴿ وَتَزَوَّدُوا ﴾ ما يبلغكم بسفركم
﴿ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ ما يتقى به سوال الناس وغيره ﴿ وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ ذوى
العقول ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ فى ﴿ أَنْ تَبْتَغُوا ﴾ تطلبوا ﴿ فَضْلاً ﴾ رزقاً ﴿ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ بالتجارة
فى الحج نزل ردّاً لكرهتهم ذلك ﴿ فَإِذَا أَفْضُتُمْ ﴾ دفعتم ﴿ مِنْ عَرَفَاتٍ ﴾ بعد الوقوف بها
﴿ فَادْكُرُوا اللَّهَ ﴾ بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء ﴿ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ هو

جبل فى آخر المزدلفة يقال له قُرْحُ وفى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جداً رواه مسلم ﴿وَأذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾ لمعالم دينه ومناسك حجه والكاف للتعليل ﴿وَإِنْ﴾ مخففة ﴿كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ﴾ قبل هداه ﴿لِمَنِ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا﴾ ياقريش ﴿مَنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ أى من عرفة بأن تقفوا بها معهم وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعاً عن الوقوف معهم وثم للترتيب فى الذكر ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ من ذنوبكم ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ للمؤمنين ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم ﴿فَإِذَا قُضِيَتْمْ﴾ أديتم ﴿مِنَاسِكِكُمْ﴾ عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وحلقتم وطفتم واستقرتم بمنى ﴿فَازْكُرُوا اللَّهَ﴾ بالتكبير والثناء ﴿كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخر ﴿أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ من ذكركم إياهم ونصب أشد على الحال من ذكر المنسوب بأذكروا إذ لو تأخر عنه لكان صفة له ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا﴾ نصيبنا ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ فيؤتاه فيها ﴿وَمَالَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾ نصيب ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ نعمة ﴿وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ وهو الجنة ﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ بعدم دخولها وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين والقصد به الحث على طلب خير الدارين كما وعد بالشواب عليه بقوله ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ﴾ ثواب من أجل ﴿مِمَّا كَسَبُوا﴾ عملوا من الحج والدعاء ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ يحاسب الخلق كلهم فى قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك ﴿وَأذْكُرُوا اللَّهَ﴾ بالتكبير عند رمى الجمرات ﴿فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ أى أيام التشريق الثلاثة ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ﴾ أى استعجل بالنفر من منى ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ أى فى ثانى أيام التشريق بعد رمى جماره ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ بالتعجيل ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ﴾ بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ بذلك أى هم مخيرون فى ذلك ونفى الاثم ﴿لِمَنِ اتَّقَى﴾ الله فى حجه لأنه الحاج على الحقيقة ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ فى الآخرة فيجازيكم بأعمالكم-

ترجمہ

(حج) اس کا وقت (چند معلوم مہینے ہیں) وہ شوال، ذوقعدہ اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں، اور کہا گیا ہے کہ پورا ذی الحجہ ہے (پس جو کوئی) اپنے اوپر (ان مہینوں میں حج فرض کر لے) یعنی حج کا احرام باندھ لے (پس حج میں جماع نہیں ہے، اور نہ معصیت ہے، اور نہ جھگڑا ہے) اور ایک قرأتہ میں پہلے دونوں کلموں کے فتح کے

ساتھ ہے، اور مراد تینوں میں نہیں ہے (اور جو کچھ تم خیر کا عمل کرو گے) جیسے صدقہ (اللہ اس کو جانتے ہیں) پس تم کو اس کا بدلہ دیں گے، اور اہل یمن کے بارے میں اگلی آیت نازل ہوئی، وہ لوگ بغیر سامان سفر کے حج کے لئے نکل جاتے تھے، اور لوگوں پر بوجھ بنتے تھے (اور سامان سفر لے لو) جو تم کو منزل سفر تک پہنچادے (بلاشبہ بہترین سامان سفر وہ ہے جس سے بچاؤ ہو سکے) یعنی جس کے ہوتے ہوئے لوگوں سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے (اور اے عقلمندو! مجھی سے ڈرو، تم پر کوئی حرج نہیں ہے) اس بارے میں (کہ تم) حج میں تجارت کر کے (اللہ کا فضل) یعنی روزی طلب کرو، چونکہ وہ سفر حج میں اس کو مکروہ سمجھتے تھے، اس لئے اس کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی (پس تم جب عرفات سے) اس میں وقوف کرنے کے بعد (کوچ کرو) مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد تلبیہ، تہلیل اور دعا میں (مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو) مشعر حرام مزدلفہ کے آخری حصہ میں ایک پہاڑی ہے جسے قزح کہا جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وہیں وقوف کیا تھا، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور دعا فرما رہے تھے، یہاں تک کہ خوب اجالا پھیل گیا رواہ مسلم (اور اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو) اپنے دین کے احکام اور حج کے مناسک (سکھائے ہیں) اور کاف تعلیل کے لئے ہے (اور بلاشبہ) ان مخففہ ہے (تم لوگ اس سے پہلے) یعنی اس کی ہدایت سے پہلے (گم کردہ راہ تھے، پھر) اے قریش (تم وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹے ہیں) یعنی میدان عرفات سے یعنی لوگوں کے ساتھ وہیں وقوف کرو، قریش مکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ وقوف کرنے سے اپنے کو بلند سمجھتے تھے اس لئے وہ مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے۔ ثم ذکر کی ترتیب کے لئے ہے (اور اللہ سے) اپنے گناہوں کی (مغفرت چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ) مومنین کی (مغفرت کرنے والے) ان پر (رحم کرنے والے ہیں، پس جب تم اپنے مناسک) یعنی ارکان و افعال حج (کو ادا کر چکو) یعنی جمرہ عقبہ کی رمی اور طواف زیارت کر چکو، اور منیٰ میں مقیم ہو چکو (تو) تکبیر اور ثناء کے ساتھ (اللہ کو اسی طرح یاد کرو جیسا کہ) حج سے فارغ ہو کر فخر و ناز کے ساتھ (اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ) یعنی اپنے باپ دادوں کی یاد سے زیادہ، اور اشد حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے ذکر آگ، جو کہ اذکروا کا مفعول ہے، کیونکہ اگر اسے بعد میں لایا جائے تو وہ صفت بن جائے گا (تو بعض آدمی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب! ہم کو) ہمارا حصہ (دنیا میں عطا فرما) پس اس کو دنیا میں دیدیا جاتا ہے (اور اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بعض آدمی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب! ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما) یعنی نعمت (اور آخرت میں بھلائی عطا فرما) اور وہ جنت ہے (اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا) یعنی اس میں داخل نہ ہوں۔ یہ مشرکین کے حال اور اہل ایمان کے حال کا بیان ہے، اور مقصود دارین کے خیر کی طلب کی ترغیب ہے، چنانچہ اس پر ثواب کا وعدہ فرمایا، چنانچہ فرمایا (یہی لوگ ہیں کہ ان کے واسطے حصہ ہے) یعنی ثواب ہے (اس کام کی وجہ سے) یعنی حج اور دعا کے

عمل کی وجہ سے (جو انہوں نے کیا، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں) تمام مخلوق کا حساب دنیاوی دن کے آدھے وقت میں لے لیں گے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے (اور) رمی جمرات کے وقت تکبیر کے ساتھ (اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند ایام میں) یعنی تشریق کے تین دنوں میں (پس جو کوئی عجلت کرے) یعنی منیٰ سے نکلنے میں جلدی کرے (دو دن میں) یعنی تشریق کے دوسرے دن میں، اس کے رمی جمار کے بعد (تو اس پر کوئی حرج نہیں، اور جو کوئی) اس میں (تاخیر کرے) اور تشریق کی تیسری رات گزارے اور اس دن میں بھی رمی کرے (تو) اس کی وجہ سے (اس پر کوئی گناہ نہیں) انہیں اس سلسلے میں اختیار ہے، اور گناہ کا نہ ہونا (اس شخص کے لئے ہے جو) اپنے حج میں اللہ سے (ڈرے) اس لئے کہ حقیقت میں حاجی وہی ہے (اور اللہ سے ڈرو اور سمجھ لو کہ تم) آخرت میں (اسی کے پاس جمع کئے جاؤ گے) پس وہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔

﴿تشریحات﴾

وقتہ :- حج ایک عبادت ہے، اور اُشہر معلومات زمانہ ہے، اُشہر کا حمل الحج پر بظاہر درست نہیں معلوم ہوتا ہے، مفسر نے بتایا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی وقت الحج۔

بالاحرام بہ :- آدمی جب احرام باندھ لیتا ہے، تو اپنے اوپر حج کو لازم کر لیتا ہے۔

وفی قراءۃ بفتح الاولین :- مفسر نے جو قرأت اختیار کی ہے، اس میں رفت، مرفوع مع التئوین ہے، اور جدال مفتوح ہے، فرمایا کہ ایک قرأت میں رفت اور فسوق بھی مفتوح ہیں، روایت حفص میں یہی ہے۔

والمراد فی الثلثة النهی :- فَلَارَفَتْ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جَدَالٌ، جملہ خبریہ ہے، لیکن مراد اس سے نہی ہے، مائتقی 'بہ، یہاں تقویٰ کا معنی وہ نہیں ہے جو شریعت کی اصطلاح ہے، بلکہ لغوی معنی مراد ہے، یعنی ایسا زاد سفر کہ آدمی سوال کی ذلت سے محفوظ رہے۔

بالتجارة فی الحج :- عبادات میں غلو کرنے والے جس طرح توکل کا نام لے کر بغیر سامان سفر کے حج کے لئے نکل پڑتے تھے، پھر لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے اور تنگ کرتے تھے، اسی طرح وہ سفر حج میں تجارت کو گناہ سمجھتے تھے، اللہ نے ان کے اس خیال کی تردید فرمائی کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کیلئے کچھ تجارت کر لی جائے، تو کوئی حرج نہیں۔

بعد المبيت بمزدلفة :- یہ وقوف مزدلفہ کا بیان ہے، دسویں ذی الحجہ کی رات گزر جانے کے بعد صبح صادق سے طلوع آفتاب تک اس کا وقت ہے، رات مزدلفہ میں گزارنی مسنون ہے، اور وقوف مزدلفہ واجب ہے۔

والکاف للتعلیل :- کما ہد اکم میں کاف تعلیلیہ ہے، یعنی چونکہ تم کو ہدایت دی ہے اس لئے اللہ کو یاد کرو۔

﴿ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ : قریش اپنے کو اہل حرم کہتے تھے، باہر کے لوگ تو عرفات کا وقوف کرتے تھے، مگر اہل حرم مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ عرفات حرم سے باہر ہے، باہر والے وہاں وقوف کریں، اور ہم اہل حرم ہیں، ہمارا وقوف حرم ہی میں ہوگا، اور مزدلفہ حرم کے اندر ہے، اس طرح انھوں نے اپنا ایک امتیاز قائم کر رکھا تھا، اس کے علاوہ اور بھی ان کے امتیازات تھے، مثلاً باہر والوں پر لازم تھا کہ وہ اہل حرم کے دیئے ہوئے کپڑوں میں طواف کریں، اور اگر انھیں منظور نہ ہو تو ننگے بدن طواف کریں، اس طرح باہر کے زائرین کو اپنے رحم و کرم کا پابند بنا رکھا تھا۔

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ ﴾ أَدَيْتُمْ : قضیتم کی تفسیر اذیتم سے کر کے متنبہ کیا ہے کہ یہ قضاء، اداء کے معنی میں ہے، قضا کے معنی میں نہیں۔

ثم للترتيب في الذكر : یہ ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ وقوف مزدلفہ بعد میں ہوتا ہے، وقوف عرفات پہلے ہوتا ہے، اور یہاں ترتیب الٹ گئی ہے، وقوف مزدلفہ کے بعد فرمایا کہ تم وہاں سے کوچ کرو جہاں سے لوگ لوٹیں، اس کا جواب مفسر نے یہ دیا کہ یہ ترتیب ذکر میں ہے، یعنی وقوف مزدلفہ کے بیان کے بعد قریش کو متنبہ کیا گیا کہ تم جو مزدلفہ ہی سے لوٹے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، عرفات تم بھی جاؤ، اور وہاں سے لوٹو، اس سے اعمال حج کی ترتیب بیان کرنی مقصود نہیں ہے، اس کو قریش کی غلطی پر تنبیہ کے لئے ذکر کیا گیا ہے۔

جمرة العقبة : وقوف مزدلفہ کی بعد یوم نحر میں صرف ایک جمرہ کی رمی ہے، اور وہ، وہ جمرہ ہے جو مکہ مکرمہ کی طرف واقع ہے، اسے جمرۃ العقبة کہتے ہیں۔

طفتم : یہ طواف زیارت، حج کا آخری رکن اور فرض ہے، اس کے بعد آدمی احرام کی تمام پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کا وقت ۱۰/۱۱/۱۲ ذی الحجہ ہے

واستقررتم بمنى : ۱۰/۱۱/۱۲ کو منیٰ میں ٹھہرنا مسنون ہے، طواف زیارت سے فارغ ہو کر منیٰ میں آجانا چاہئے۔

كما كنتم تذكروناهم عند فراغ حجكم بالمفاخر : كفار منیٰ کے دنوں میں مشاعرے کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے سلسلے میں فخریہ نظمیں پڑھتے تھے۔

ونصب أشد على الحال من ذكر المنصب بأذكروا : أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا کی ترکیب بنا رہے ہیں، لفظ أشد حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے، سوال یہ ہے کہ تب ذوالحال کون ہے؟ اس کا جواب دیا کہ ذکر کا کلمہ جو أشد کے بعد ہے، وہی ذوالحال ہے جو کہ اذکروا کا مفعول مطلق ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ ذوالحال عموماً معرفہ ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی وہ نکرہ ہوتا ہے تو حال اس پر مقدم ہو جاتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو اس کا التباس صفت سے

ہوتا ہے، یہاں اگر ذکر اشد فرماتے تو اشد صفت بن جاتا۔

والقصد به الحث :- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کے بیان کا مقصود یہ ہے کہ لوگ یہی دعا اختیار کریں، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ثواب کا وعدہ کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے: ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا﴾

بالتكبير عند رمي الجمرات :- جمرہ کی رمی کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہئے۔

أيام التشريق الثلاثة :- ایام تشریق تین ہیں، ۱۱/۱۲/۱۳ رذی الحجہ، تشریق کے معنی دھوپ میں گوشت سکھانے کے ہیں، اہل عرب ۱۰ کو قربانی کرتے تھے، اور ۱۱/۱۲/۱۳ کو قربانی کا گوشت پتھروں پر ڈال کر سکھا کر رکھ لیتے تھے، اور پھر انھیں بہت دنوں تک کھاتے رہتے تھے۔

استعجل بالنفر من منى :- اگر کوئی منیٰ سے دو ہی دن میں رخصت ہونا چاہے، یعنی ۱۲ کو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس دن جمرات کی رمی کر کے چلا جائے، اور کوئی ایک روز اور ٹھہرنا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں، وہ تیسرے دن یعنی ۱۳ کو رمی کر کے جائے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

حج و عمرہ کا اصل حکم یہ ہے کہ جب اس کا احرام باندھ لیا جائے تو اس کے تمام ارکان کو پورا کرنا لازم ہے، اس کے بغیر احرام سے آزاد نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کبھی مجبوری ہو جائے کہ احرام تو باندھا مگر حرم تک پہنچنے کی کوئی سبیل نہیں، جنگ کی وجہ سے، بدامنی کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، تو اب کیا کرے، احرام کی پابندی میں کب تک رہے، تو اس کا حل حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا ایک جانور حرم میں بھیج دیا جائے، اس کا وقت مقرر کر دیا جائے، اس وقت پر وہ جانور وہاں ذبح کر دیا جائے، اس کے بعد یہ محرم اپنے سر کو منڈوالے، اس سے احرام کھل جائے گا، بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی، اس قربانی کا گوشت فقراء حرم میں تقسیم کیا جائے گا۔

اور اگر کسی نے احرام باندھا مگر مرض یا سر کی تکلیف کی وجہ سے سر منڈوانے کی مجبوری ہے، یا ممنوعات احرام میں سے کسی اور کے ارتکاب کی مجبوری پیش آگئی تو سر منڈوالے، لیکن بطور کفارے کے اس کا فدیہ دینا ہوگا، فدیہ میں تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دے سکتا ہے، یا تو تین روزے رکھ لے، یا صدقہ دے، امام صاحب کے نزدیک اس کی مقدار صدقہ فطر کی مقدار ہے، چھ مسکینوں کو دیا جائے گا، یا ایک دم دیدے، اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے یہ کام کئے ہیں تو اسے بھی یہی کفارہ دینا ہوگا۔

اور اگر احرام باندھنے کے بعد رکاوٹ ہوئی، لیکن پھر وہ زائل ہوگئی، یا سرے سے رکاوٹ ہی نہیں ہوئی اور اس نے تمتع کا احرام باندھا ہے، یعنی عمرہ کا احرام باندھا اور اسے کر کے احرام سے آزاد ہونے کا ارادہ ہے، اور

پھر وقت پر حج کا احرام باندھے گا، اس کے لئے ایک دم شکر واجب ہے، جو حج کا احرام باندھنے کے بعد حرم میں ذبح کیا جائے گا، اس کے لئے ۱۰ ارذی الحجہ بہتر ہے، اور اگر وہ کسی وجہ سے قربانی کرنے سے مجبور ہے، جانور نہیں ہے، یا پاس میں رقم نہیں ہے، تو اس کو چاہئے کہ حج کا احرام زیادہ سے زیادہ ۵ ارذی الحجہ کو باندھ لے، اور ۸/۷۱۶ کو روزہ رکھے، اس سے پہلے بھی احرام باندھ کر رکھ سکتا ہے، ۹ کو روزہ رکھنا جائز تو ہے مگر مکروہ ہے، اور ۷ روزے حج سے فراغت کے بعد رکھے۔

حج تمتع وہی شخص کر سکتا ہے، جو حرم کارہنے والا نہ ہو، جس نے حج قرآن کا احرام باندھا ہو اس کے لئے بھی یہی حکم ہے۔

حج کا وقت شوال، ذوقعدہ اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں، جس نے ان دنوں میں حج کا احرام باندھا، وہ حالت احرام میں نہ جماع کرے اور نہ اس کی گفتگو بیوی سے کرے، نہ معصیت کا ارتکاب کرے اور نہ جھگڑا کرے، اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اور حج کا سامان سفر توشہ وغیرہ ساتھ میں لے لیا کرو، اتنا سامان بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا نا پڑے، اور عقل والو! مجھی سے ڈرو، حج کے سفر میں تلاش رزق میں کوئی حرج نہیں، تجارت اور خرید و فروخت کر سکتے ہو، اور عرفات سے لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس رات گزارنے کے بعد وقوف کرو، اور اس میں خوب اللہ کا ذکر کرو، اور ہاں اے اہل مکہ! تم کو بھی وہیں سے لوٹنا ہے، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے اس مسئلے میں تمہاری خصوصیت نہیں ہے، اور اللہ کے حضور میں استغفار کرتے رہو، وہ غفور رحیم ہے، جب حج کے فرائض ادا کر چکو تو منیٰ میں رہ کر اللہ کو یاد کرو، اس طرح جیسے پہلے اپنے باپ دادوں کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ! بعض لوگ صرف دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بعض لوگ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، انھیں ان کی عبادات کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں، اور رمی جمرات کے وقت اللہ کو یاد کرو یعنی بسم اللہ اکبر پڑھو، ایسا چند دن کرنا ہے یعنی ۱۱/۱۲/۱۳ کو اگر کوئی دوسرے ہی دن رمی کر کے جانا چاہے تو جاسکتا ہے، اور کوئی تیسرے دن بھی رمی کر کے جائے تو بھی حرج نہیں، بشرطیکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح جان لو کہ تم سب اسی کے پاس جمع کئے جاؤ گے۔



﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وَلَا يُعْجِبُكَ فِي الْآخِرَةِ
 ﴿لَمُخَالَفَتِهِ لِإِعْتِقَادِهِ﴾ وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ﴿أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ﴾ وَهُوَ الَّذِي الْخَصَامُ
 شَدِيدُ الْخَصُومَةِ لَكَ وَلَا تَبَاعُكَ لِعِدْوَاتِهِ لَكَ وَهُوَ الْإِخْنَسُ بْنُ شَرِيْقٍ كَانَ مُنَافِقًا

حلوا الكلام للنبي ﷺ يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدني مجلسه فأكذبه الله تعالى في ذلك ومرّ بزرعٍ وحرّ لبعض المسلمين فأحرقه وعقرها ليلاً كما قال تعالى ﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ﴾ انصرف عنك ﴿سَعَىٰ﴾ مشى ﴿فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾ من جملة الفساد ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ أي لا يرضى به ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ﴾ في فعلك ﴿أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ﴾ حملته الأنفة والحمية على العمل ﴿بِالْإِثْمِ﴾ الذي أمر باتقائه ﴿فَحَسْبُهُ﴾ كافيته ﴿جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ الفراش هي ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي﴾ يبيع ﴿نَفْسَهُ﴾ أي يبذلها في طاعة الله تعالى ﴿ابْتِغَاءَ﴾ طلب ﴿مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ رضاه وهو صهيب لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله ﴿وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ حيث أرشدهم لما فيه رضاه ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبوت وكرهوا الأبل وألبانها بعد الإسلام ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ﴾ بفتح السين وكسرهما الإسلام ﴿كَافَّةً﴾ حال من السلم أي في جميع شرائعه ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ﴾ طرق ﴿الشَّيْطَانِ﴾ أي تزيينه بالتفريق ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ بين العداوة ﴿فَإِن زَلَلْتُمْ﴾ ملتئم عن الدخول في جميعه ﴿مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَ تَكُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ الحجج الظاهرة على أنه حق ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم ﴿حَكِيمٌ﴾ في صنعه ﴿هَلْ﴾ ما ﴿يَنْظُرُونَ﴾ ينتظر التاركون الدخول فيه ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ أي أمره كقوله أوتيتي أمر ربك أي عذابه ﴿فِي ظُلْمٍ﴾ جمع ظلة ﴿مِّنَ الْغَمَامِ﴾ السحاب ﴿وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ تم أمر إهلاكهم ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ بالبناء للمفعول والفاعل في الآخرة فيجازى.

ترجمہ

(اور کوئی کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی بات تم کو دنیاوی زندگی میں بھلی معلوم ہوتی ہے) اور آخرت میں بھلی معلوم نہ ہوگی، کیونکہ وہ اس کے اعتقاد کے خلاف ہے (اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر شاہد بناتا ہے) کہ وہ اس کے قول کے موافق ہے (اور وہ سخت جھگڑا لو ہے) تمہارے حق میں بھی اور تمہارے پیروؤں کے حق میں بھی، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، یہ اخنس بن شریق تھا، یہ منافق تھا، نبی ﷺ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور قسم کھایا کرتا تھا کہ وہ آپ پر ایمان رکھتا ہے، اور آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اس کو اپنے قریب بیٹھاتے تھے، اللہ نے اسے جھوٹا قرار دیا۔

وہی آدمی رات میں بعض مسلمانوں کی کھیتی اور ان کے پالتو گدھوں کی طرف گزرا تو کھیتی میں آگ

لگادی اور گدھوں کی کوچپیں کاٹ دیں، اللہ نے اس کا حال ذکر فرمایا کہ (جب وہ تمہارے پاس سے لوٹتا ہے تو زمین میں اس لئے پھرتا ہے تاکہ اس میں خرابی پیدا کرے، اور کھیتی اور جانوروں کو برباد کرے) یہ منجملہ اس کی شرارتوں کے ایک ہے (اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا) یعنی اس پر راضی نہیں ہے (اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ) اپنے اس کام میں (اللہ کا خوف کرو تو اس کو غرورِ نفس) گناہ کے کام پر جس سے بچنے کے لئے کہا گیا تھا (پکڑ لیتا ہے، تو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ برا بچھونا ہے، اور بعض آدمی ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی) کی طلب (میں فروخت کر دیتا ہے) یعنی اللہ کی طاعت میں اسے صرف کرتا ہے، یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو جب مشرکین مکہ نے ستایا تو انھوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی اور اپنا سارا مال کفار کے حوالے کر دیا (اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہیں) کہ انھیں ایسی بات کی ہدایت دی جس میں اس کی رضا ہے۔

اور عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اگلی آیت نازل ہوئی، جبکہ انھوں نے یوم السبت کی تعظیم کو اور اونٹوں کی کراہیت کو برقرار رکھا (اے ایمان والو! پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ) سلم سین کے فتح اور کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی شریعت کے تمام احکام میں، کافۃ، المسلم سے حال ہے (اور شیطان) کے راستوں (کی پیروی نہ کرو) یعنی شیطان جو اعمال میں تفریق کرنے کو بنا سنوار کر پیش کرتا ہے اس کے پیچھے نہ لگو (کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے) اس کی عداوت ظاہر ہے (پس اگر پھسل جاؤ) یعنی پوری شریعت میں داخل ہونے سے منحرف ہو جاؤ (بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے) اس بات پر کہ یہ حق ہے (تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہیں) ان کو کوئی چیز انتقام لینے سے عاجز نہیں کر سکتی اپنے تصرف میں (حکیم ہے، کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں) یعنی پوری شریعت میں نہ داخل ہونے والے کسی اور چیز کا انتظار نہیں کرتے (بجز اس کے کہ اللہ ان کے پاس آجائے) یعنی اللہ کا امر آجائے، ایک دوسری جگہ ارشاد ہے: أو یاتى أمر ربک یعنی عذابہ (بدلیوں کے سائبان میں) ظلل ظلة کی جمع ہے (اور فرشتے آجائیں اور معاملہ کا فیصلہ کر دیا جائے) یعنی ان کی بربادی مکمل ہو جائے (اور اللہ کی جانب آخرت میں امور کو لوٹایا جاتا ہے) پس وہ سزا دے گا، توجع فعل مجہول بھی پڑھا گیا، اور فعل معروف بھی۔

﴿ تشریحات ﴾

ولایعجبک فی الآخرة :- بعض لوگ اتنے چرب زبان ہوتے ہیں کہ ان کا کلام اچھا معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ نبی ﷺ کو بھی ان کا کلام بھلا معلوم ہونے لگتا ہے، لیکن آخرت میں وہ اچھا نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ وہاں پتہ چلے گا کہ اس کا یہ کلام خواہ کتنا ہی شیریں ہو، اس کے دلی اعتقاد کے موافق نہ تھا، مشہور منافق اخنس بن شریق تھا، رسول اللہ ﷺ کے سامنے خوب چکنی چڑی باتیں کرتا تھا، اور قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا کہ میں آپ پر سچے دل سے ایمان

رکھتا ہوں، آپ سے مجھے دلی محبت ہے، اس سے متاثر ہو کر آپ اس کو اپنے قریب جگہ دیتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے جھوٹ کی قلعی کھول دی۔ اس کی شرارت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاس سے رات کو اٹھا اور مسلمانوں کی کچھ کھیتی اور کچھ جانوروں کو دیکھا تو مارے جلن اور غصہ سے کھیتی میں آگ لگا دی اور گدھوں کی کونچیں کاٹ دی۔

عقرھا :- باب ضرب سے زخمی کرنا، پاؤں کی شہ رگ کاٹ دینا، جس سے جانور مر جاتا ہے، عقر کے معنی ذبح اور نحر بھی ہے۔

من جملة الفساد :- یعنی یہی اس کا کل فساد نہیں ہے، اس کے فسادوں اور خرابیوں میں سے ایک ہے۔

حملته الانفة والحمية :- اس کا غرورِ نفس اور غیرت جاہلیت اسے مزید گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، متکبر آدمی کا یہی حال ہوتا ہے۔

الفراش ہی :- ہی مخصوص بالذم ہے، جو لبس المهاد کے بعد محذوف ہے، مهاد کے معنی بچھونا ہے۔

يبدلها في طاعة الله :- باب نصر سے ہے، بخوشی کسی چیز کو صرف کرنا، دوسرے کو دینا، یہ لوگ خوشی خوشی اپنی جان اللہ کی طاعت میں لگاتے ہیں۔

وترك لهم ماله :- یشری کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو اوپر لکھا گیا، یعنی بیچنا، اس کے لحاظ سے تفسیر کی گئی تھی کہ يبدلها في طاعة الله، یعنی اللہ کی طاعت میں بخوشی اپنے نفس کو لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے ہاتھ اسے فروخت کر دیتے ہیں۔ اب وہ خود اپنا کوئی تصرف نہیں کرتے۔

لیکن وترک لهم ماله کہہ کر ایک دوسری تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ یشری کے معنی یہاں یشتری کے ہیں، حضرت صہیب نے جب ہجرت کرنی چاہی تو کفار مانع ہوئے، انہوں نے اپنا سب مال دے کر اپنے آپ کو ان کے ہاتھ سے خرید لیا اور مدینہ پہنچے۔

ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه :- حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی عالم تھے، وہ مسلمان ہوئے، ان کے ساتھ اور بھی یہودی مسلمان ہوئے، یہ حضرات مخلص تھے، لیکن چونکہ یہ لوگ پہلے ایک اور شریعت پر تھے، اس لئے مسلمان ہونے کے بعد بھی کچھ شریعت کے بعض احکام پر کار بند رہے، یہ سمجھ کر کہ یہ اسلام کے احکام کے خلاف نہیں ہے، مثلاً یہود کے مذہب میں یوم سبت کی تعظیم ہے، اور اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہے، ان حضرات نے یہ خیال کیا کہ شریعت موسوی میں سینچر کی تعظیم فرض ہے، اور شریعت محمدی میں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں ہے، لہذا ہم عملاً اس کی تعظیم پر برقرار رہیں، مچھلی وغیرہ کا شکار نہ کریں، اور اعتقاد وہی رکھیں جو شریعت محمدی کا ہے، تو دونوں شریعتوں میں توافق ہو جائے گا۔ اسی طرح شریعت موسوی میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہے، اور شریعت محمدی میں اس کا استعمال واجب نہیں ہے، پس اسے حرام تو نہ سمجھیں لیکن استعمال بھی نہ

کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نکیر فرمائی، شریعت محمدی کے تمام احکام کو اختیار کرو۔ ان میں تفریق نہ کرو۔
کافۃ :- یہ السلم سے حال ہے، یعنی اس کے تمام احکام میں داخل ہو، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ کافۃ،
 أدخلوا کی ضمیر سے بھی حال ہو سکتا ہے، تب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، کچھ
 اسلام میں اور کچھ دوسرے مذہب میں نہ رہو، یہ احتمال قریب ہے، کیونکہ ذوالحال میں کوئی تاویل نہیں کرنی ہوگی۔
تزیینہ :- یہ خطوات کی تفسیر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ محذوف ہے، یعنی تزیین خطوات الشیطن، یعنی شیطان جو
 اپنی راہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے تو اس کے دھوکے میں نہ آؤ۔

بالتفریق :- باء ملا بست کے لئے ہے، یعنی شیطان کی تزئین تفریق احکام کے ساتھ ہے کہ بعض چیزوں کو اچھا
 کر کے پیش کرتا ہے حالانکہ وہ اچھی نہیں ہیں، اور بعض احکام جو برحق ہیں ان سے منحرف کر دیتا ہے۔
بین العداوة :- مبین کی تفسیر بین سے مفسر نے اس لئے کی ہے کہ یہ مبین، اَبان فعل لازم کا فاعل ہے، اَبان
 فعل متعدی بھی ہوتا ہے، بین کا لفظ لا کر مفسر نے تنبیہ کر دی کہ یہ فعل متعدی سے مشتق نہیں ہے۔
هل ما ينظرون :- هل ينظرون میں استفہام انکار و توبيخ کے لئے ہے، اسی لئے ما سے تفسیر کی۔
ينتظر التاركون :- التاركون، ينظرون کے فاعل ضمیر جمع کی تفسیر ہے، اس کے بجائے اگر الزالون کہے
 ہوتے تو قرآن کے لفظ کے مناسب ہوتا۔

السحاب :- سفید ہلکی بدلی جو رحمت لایا کرتی ہے۔
ترجع :- فعل معروف بھی ہے، اس صورت میں یہ فعل لازم ہوگا، اس کا مصدر رجوع ہے، اور فعل مجہول بھی
 ہے، اس صورت میں فعل متعدی ہے، اس کا مصدر رجوع ہے، بمعنی لوٹانا۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

پہلے دو طرح کے آدمیوں کا ذکر ہوا تھا، ایک وہ جو صرف دنیا کی بھلائی کا طالب ہے، دوسرے وہ جو دنیا
 اور آخرت دونوں کی بھلائی کا طالب ہے۔ ایک محض دنیا دار ہے، اور ایک خالص دیندار ہے۔ ان آیتوں میں دو
 قسمیں اور ذکر کی گئی ہیں۔ ایک وہ جو ظاہر اَدیندار ہے لیکن باطناً دنیا دار ہے، ایسا شخص منافق ہوتا ہے، یہ خوب
 میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، بات بات پر قسم کھاتا ہے، سننے والوں کو اس کی باتیں خوب لبھاتی ہیں، لیکن حقیقت میں
 وہ صرف زبان کا قول ہوتا ہے، دل کا اعتقاد نہیں ہوتا۔ تنہائیوں میں ان کے دل کی شرارت اور خباثت ظاہر ہوتی
 ہے، چنانچہ جب موقع ملتا ہے تو ہر طرح کی خرابی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تکبر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر ان
 سے کوئی کہہ دے کہ اللہ سے ڈرو تو ایک دم آگ بگولہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ضد میں آ کر وہی کام کرتے ہیں جس
 سے ان کو منع کیا گیا ہوگا، ایسے لوگوں کی اصلاح مشکل ہے، ان کی سزا کے لئے جہنم ہی مناسب اور کافی ہے۔

اور دوسرا آدمی وہ ہے جو نہ صرف یہ کہ دیندار ہے بلکہ دنیا کو اپنی نظر سے ساقط کر چکا ہے، وہ دنیا سے منہ موڑے ہوئے ہے، ایسے بندوں پر اللہ کی مہربانیاں بہت ہیں۔

پھر ایک عام حکم ہو رہا ہے کہ اسلام کو پورے طور پر تھا مو اور اس سے منحرف ہو کر شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ کھلا ہوا دشمن ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اسے اللہ کے فیصلے سے ڈرنا چاہئے، اس لئے کہ سب کاموں کا اختیار اسے ہی ہے۔



﴿سَلِّ يَا مُحَمَّدُ﴾ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿تَبَكُّيْتَا﴾ كَمْ آتَيْنَهُمْ ﴿كَمْ اسْتَفْهَامِيَّة مَعْلَقَةٌ لِسَلِّ مِنَ الْمَفْعُولِ الثَّانِي وَهِيَ ثَانِي مَفْعُولِي آتَيْنَا وَمُمِيزَهَا﴾ مِنْ آيَةِ بَيِّنَةٍ ﴿ظَاهِرَةٌ كَفَلَقَ الْبَحْرَ وَإِنْزَالَ الْمَنَ وَالسَّلْوَى فَبَدَلُوهَا كَفَرًا﴾ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ ﴿أَي مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْآيَاتِ لِأَنَّهَا سَبَبُ الْهُدَايَةِ﴾ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ ﴿كَفَرًا﴾ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿لَهُ﴾ زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴿مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ﴾ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴿بِالْتَمْوِيهِ فَأَحْبَوْهَا﴾ وَ﴿هُمْ﴾ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴿لِفَقْرِهِمْ كَعَمَّارٍ وَبِلَالٍ وَصَهِيْبٍ أَيْ يَسْتَهْزُونَ بِهِمْ وَيَتَعَالَوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْمَالِ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ الشَّرْكَ وَهُمْ هَؤُلَاءِ ﴿فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أَيْ رِزْقًا وَاسِعًا فِي الْآخِرَةِ أَوْ الدُّنْيَا بِأَنْ يَمْلِكَ الْمَسْخُورُ مِنْهُمْ أَمْوَالَ السَّاحِرِينَ وَرِقَابَهُمْ ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ عَلَى الْإِيمَانِ فَاخْتَلَفُوا بِأَنْ آمَنَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾ إِلَيْهِمْ ﴿مُبَشِّرِينَ﴾ مِنَ آمَنَ بِالْجَنَّةِ ﴿وَمُنْذِرِينَ﴾ مِنَ كَفَرَ بِالنَّارِ ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ بِمَعْنَى الْكُتُبِ ﴿بِالْحَقِّ﴾ مَتَعَلِّقٌ بِأَنْزَلَ ﴿لِيُحْكَمَ﴾ بِهِ ﴿بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ مِنَ الدِّينِ ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ﴾ أَيْ الدِّينِ ﴿إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ﴾ أَيْ الْكُتُبِ فَآمَنَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ الْحُجُجُ الظَّاهِرَةُ عَلَى التَّوْحِيدِ وَمِنْ مَتَعَلِّقَةٌ بِاخْتَلَفَ وَهِيَ وَمَا بَعْدَهَا مَقْدَمٌ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الْمَعْنَى ﴿بُغْيًا﴾ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿بَيْنَهُمْ﴾ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ ﴿الْحَقِّ بِإِذْنِهِ﴾ بِإِرَادَتِهِ ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ هِدَايَتِهِ ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ طَرِيقِ الْحَقِّ وَنَزَلَ فِي جَهْدِ أَصَابِ الْمُسْلِمِينَ ﴿أُمَّ﴾ بَلْ أ ﴿حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا﴾ لَمْ ﴿يَأْتِكُمْ مَثَلٌ﴾ شَبِهَ مَا أَتَى ﴿الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُحَنِّ فَتَصَبَرُوا كَمَا صَبَرُوا ﴿مَسْتَهُمْ﴾ جَمَلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ مَبِينَةٌ لِمَقْبَلِهَا ﴿الْبَاسَاءُ﴾ شِدَّةُ الْفَقْرِ ﴿وَالضَّرَّاءُ﴾ الْمَرَضُ ﴿وَزُلْزُلُوا﴾ أَزْعَجُوا بِأَنْوَاعِ الْبَلَاءِ

﴿حَتَّى يَقُولَ﴾ بالنصب والرفع أى قال ﴿الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ استبطاً للنصر لتناهى الشدة عليهم ﴿مَتَى﴾ ياتى ﴿نَصْرُ اللَّهِ﴾ الذى وعدناه فأجيبوا من قبل الله تعالى ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ إتيانه ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ يا محمد ﴿مَاذَا﴾ أى الذى ﴿يُنْفِقُونَ﴾ والسائل عمرو بن الجموح وكان شيخاً ذاملاً فسأل النبي ﷺ عما ينفق وعلى من ينفق ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾ بيان لما شامل للقليل والكثير وفيه بيان المنفق الذى هو أحد شقى السؤال وأجاب عن المصرف الذى هو الشق الآخر بقوله ﴿فَلِللَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ أى هم أولى به ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ إنفاق وغيره ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ فمجاز عليه ﴿كُتِبَ﴾ فرض ﴿عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ﴾ للكفار ﴿وَهُوَ كُرْهُ﴾ مكروه ﴿لَكُمْ﴾ طبعاً لمشقتة ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكاليفات الموجبة لسعادتها فعمل لكم فى القتال وإن كرهتموه خيراً لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والاجر وفى تركه وإن احبتموه شراً لأن فيه الذل والفقر وحرمان الاجر ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ ما هو خير لكم ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ذلك فبادروا إلى ما يامركم به۔

﴿ترجمہ﴾

اے محمد (تم پوچھو بنی اسرائیل سے) انہیں چپ کرنے کے لئے (کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دی تھیں) کم استفہامیہ ہے، جو سئل کے مفعول ثانی پر عمل کرنے سے مانع ہے، اور وہ خود آتینا کا دوسرا مفعول ہے، اور کم کی تمیز ہے مِنْ آيَةِ بَيِّنَةٍ، واضح نشانیاں، جیسے سمندر پھاڑ کر راستہ نکال دینا، من وسلویٰ کا اتارنا، لیکن ان لوگوں نے ان نشانیوں کے عوض کفر کی راہ اختیار کی (اور جو اللہ کی نعمت کو اس کے آجانے کے بعد) کفر سے (بدلے تو اللہ تعالیٰ) اس کے حق میں (سخت سزا دینے والے ہیں) اللہ کی نعمت سے مراد وہ واضح نشانیاں ہیں جو اللہ نے انعام فرمائی ہیں، انعام اس لئے کہ وہ ہدایت کا ذریعہ ہیں۔

(کافروں) یعنی اہل مکہ (کے لئے دنیاوی زندگی مزین کر دی گئی ہے) اس لئے وہ اسے چاہتے ہیں اور وہ (ایمان والوں) مثلاً بلال، عمار اور صہیب (سے) ان کے فقر کی وجہ سے (استہزاء کرتے ہیں) اور مال کی وجہ سے ان پر برتری ظاہر کرتے ہیں (اور وہ لوگ جو) شرک سے (بچے) اور وہ یہی لوگ ہیں (قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے روزی بے حساب دیتا ہے) یعنی آخرت میں کشادہ روزی دیتا ہے، یا دنیا ہی میں پھیلی ہوئی روزی دیتا ہے، اس طرح کہ جن کا استہزاء کیا گیا انہیں ان استہزاء کرنے والوں کے

اموال اور ان کی ذات کا مالک بنا دیتا ہے۔

(لوگ) ایمان لانے میں (ایک ہی جماعت تھے) پھر اختلاف کیا کہ بعض ایمان پر رہے اور بعض نے کفر کیا (پھر اللہ نے) ان کی طرف (انبیاء کو اٹھایا) (جو کہ) ایمان لانے والوں کو جنت کی (بشارت دینے والے اور) کفر کرنے والوں کو (جہنم سے ڈرانے والے ہیں اور ان کے ساتھ کتابیں اتاری حق کے ساتھ تاکہ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جس میں انھوں نے اختلاف کیا) یعنی دین کی حقانیت کا (اور اس میں) یعنی دین میں (نہیں اختلاف کیا مگر انھیں لوگوں نے جن کو وہ) یعنی کتاب (دی گئی) پس بعض ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا، اور یہ سب (اس کے بعد کہ ان کے پاس) توحید کے اوپر (واضح دلائل آ گئے) (مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ، وَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُ، اور وہ اور اس کا مابعد معنی کے لحاظ سے استثناء پر مقدم ہے) (آپس کی ضد کی وجہ سے، پھر اللہ نے اپنے ارادے سے ایمان والوں کو اس حق کی ہدایت دی جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جس) کی ہدایت (کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے)

اور اگلی آیت ان مصائب کے سلسلے میں نازل ہوئی جن میں اہل اسلام کو مبتلا ہونا پڑا تھا (بلکہ کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ پا جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان جیسے حالات نہیں آئے ہیں جیسے ان لوگوں پر آئے، جو تم سے پہلے گزرے ہیں) یعنی پچھلے مومنین پر جو مشقتیں آئیں کہ تم بھی اسی طرح صبر کرو، جیسے انھوں نے صبر کیا تھا (وہ تنگدستی، فقر و فاقہ اور امراض کی شدت میں مبتلا ہوئے اور) مختلف بلاؤں میں (وہ جھنجھوڑے گئے) یہ جملہ مستانفہ ہے اور اپنے ماقبل کا بیان ہے (یہاں تک کہ رسول نے اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انھوں نے) یہ سمجھتے ہوئے کہ مدد کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، کیونکہ شدائد انتہا کو پہنچ گئے ہیں (کہا) (یقول نصب کے ساتھ ہے، اور رفع کے ساتھ بھی، انھوں نے کہا) (کہ کب اللہ کی مدد آئے گی) جس کا ہم سے وعدہ کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے جواب مرحمت فرمایا گیا (سنو! اللہ کی مدد قریب ہے) یعنی اس کا آنا قریب ہی ہے۔

اے محمد (تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں) یعنی وہ مال بتائیے، جسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، پوچھنے والے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ تھے جو ایک مال دار بوڑھے تھے، انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کون سا مال خرچ کریں؟ اور کن لوگوں پر خرچ کریں؟ (تم ان سے کہو کہ جو بھی مال تم نے خرچ کیا) (من خیر، ما أنفقتم) کا بیان ہے، جو قلیل و کثیر دونوں کو عام ہے، اور اس میں خرچ کئے جانے والے مال کا بیان ہے، جو سوال کا ایک جز ہے، اور کن پر خرچ کریں یعنی مصرف کے متعلق جواب، جو کہ دوسرا جز ہے، ان الفاظ میں جواب دیا کہ (وہ والدین کیلئے ہے، اور رشتہ داروں کیلئے ہے، یتیموں اور مساکین کیلئے، اور مسافروں کیلئے ہے) یعنی یہ لوگ اس کے زیادہ مستحق ہیں (اور جو کچھ تم بھلا کام کرتے ہو) یعنی دوسروں پر خرچ کرنا وغیرہ (اللہ

تعالیٰ سے جانتا ہے) وہ اس کی جزا عطا فرمائے گا (تم پر قتال فرض کیا گیا ہے) یعنی کفار سے جنگ کرنی (اور وہ تم پر) دشوار ہونے کی وجہ سے طبعاً (گراں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو گراں سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے لئے شر ہو) کیونکہ نفس کا میلان عموماً شہوات و خواہشات کی طرف ہوتا ہے، جو اس کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہیں، اور وہ ان تکلیفات سے بھاگتا ہے، جو اس کی سعادت کے سامان ہوتے ہیں، پس ہو سکتا ہے کہ تمہارے حق میں قتال و جنگ میں ہی، گو کہ وہ تم پر گراں ہے، خیر ہو، کیونکہ اس پر اجر عظیم ہوگا، اور جنگ کے ترک میں اگرچہ وہ تمہیں مرغوب و محبوب ہے، شر ہو، کیونکہ اس میں ذلت و فقر ہے، اور اجر سے محرومی ہے (اور) جو کچھ تمہارے لئے خیر ہے، اسے (اللہ جانتے ہیں، اور تم اس کو نہیں جانتے) اس لئے اللہ تعالیٰ جس چیز کا تم کو حکم دیتے ہیں، اس کے کرنے میں سبقت کرو۔

تشریحات

تبکیتاً:۔ رسول اللہ ﷺ سے فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو، تو یہ پوچھنا، اس لئے نہیں کہ آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے، ان سے پوچھ کر معلوم کیجئے، کیونکہ آپ کو تو وحی الہی کے ذریعے سب باتیں معلوم ہی تھیں، پوچھنے کا یہ حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی گمراہیوں پر متنبہ ہوں، اور جو کٹ حجتیاں وہ کیا کرتے تھے اس میں لا جواب ہوں، اور ان کی سرزنش ہو، تبکیت کے معنی لا جواب کرنا۔

کم استفہامیۃ:۔ کم آتینہم میں کم استفہام تقریری ہے، استفہام تقریری کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آدمی اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تبکیت استفہام تقریری کے منافی نہیں ہے۔

معلقة لسل من المفعول الثانی:۔ استفہام چونکہ صدر کلام میں آتا ہے، اس لئے اس کا ماقبل اس میں عمل نہیں کرتا، پس سل کا عمل اس پر وارد نہیں ہوگا جبکہ وہ سل کے مفعول ثانی کے محل پر ہے، اس کا پہلا مفعول بنسی اسرائیل ہے، عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ کم استفہامیہ نے مفعول ثانی سے سل کے عمل کو معلق کر دیا ہے، یعنی روک دیا ہے۔

وہی ثانی مفعولی آتینا:۔ اور یہ کم، آتینا کا مفعول ثانی ہے، اس کا مفعول اول ہم ضمیر ہے، اور کم استفہامیہ کی تمیز من آية بینة ہے۔

فبدلوها کفراً:۔ جو واضح نشانیاں بنی اسرائیل کو عطا فرمائی گئی تھیں، جن کے بارے میں سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے، اور ان پر برقرار رہتے، اور جہاں یہ دولت ملتی، اس کی طرف سبقت کرتے، مگر سوال کا لہجہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، اسی لہجے کی ترجمانی میں مفسر فبدلوها کفراً کا لفظ تحریر کیا ہے، اور اس کا لفظی قرینہ آگے بھی موجود ہے، اور وہ ہے: وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةً

اللہ الخ،

لأنها سبب الهداية :- آیات کو نعمت اس لئے فرمایا کہ وہ ہدایت کیلئے سبب ہیں۔

کفراً :- یہ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ كَمَا مَفْعُولِ ثَانِي ہے، تبدیل دو مفعول کو چاہتا ہے، ایک وہ جس کو بدلا گیا، اور دوسرے وہ جس سے بدلا گیا۔

﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ له :- مفسر نے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کے بعد لہ کا اضافہ کیوں فرمایا؟

جواب: وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ الخ شرط ہے، اور شرط کے لئے جزا چاہئے، لیکن جزا میں کوئی لفظ ضروری ہے

جو اس کو شرط کے ساتھ مربوط کر سکے، یہاں فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ محل جزا پر ہے، مگر اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں

ہے جو اسے شرط کے ساتھ مربوط کر سکے، تو مفسر نے فرمایا کہ یہاں رابطہ لہ ہے جس کی ضمیر شرط کی جانب راجع ہے۔

بالتعمیہ :- بآسمیہ ہے، تعمیہ کے معنی کسی چیز کے ظاہر کو مزین کرنا ہے، چونکہ دنیا بظاہر بہت رنگین اور رعنائی

وزیبائی لئے ہوئے ہے، اس لئے کم نظر لوگ اس پر فریفتہ ہیں۔

﴿وَهُمْ يَسْخَرُونَ﴾ :- يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا یہ جملہ حالیہ ہے، لیکن فعل مضارع کا حال بنانا

اسی وقت صحیح ہوتا ہے جبکہ اس سے پہلے مبتدا ہو، یعنی وہ جملہ اسمیہ ہونا چاہئے، اسی لئے مفسر نے وہم مبتدا کو مقدر

مانا ہے۔

بأن يملك المسخور منهم :- رزق بغیر حساب کی ایک صورت یہ ہے کہ جن کا استہزاء کیا گیا ہے، وہ

استہزاء کرنے والوں کی ذات اور ان کے مال کے منجانب اللہ مالک ہو جاتے ہیں، مثلاً جنگ ہو اور یہ لوگ غلام

بنائے جائیں اور ان کا مال، مال غنیمت بن جائے۔

﴿الْكِتَابِ﴾ بمعنی الْكُتُبِ :- وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ میں الْكِتَابِ پر الف لام جنس بمعنی استغراق ہے،

اس سے مراد وہ سب کتابیں ہیں، جو رسولوں پر اتاری گئی تھیں، اس کی صراحت مفسر نے اس لئے کی کہ بعض لوگوں

نے الْكِتَابِ سے مراد صرف توریت کو قرار دیا ہے، مفسر نے اس کی تردید کر دی۔

فَأَمَّنْ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ :- مفسر علام نے اختلف فیہ کا مصداق متعین کیا ہے کہ یہ اختلاف جو لوگوں میں

کتاب کے اترنے اور علم حاصل ہونے کے بعد ہوا، یہ کفر و ایمان کا اختلاف تھا، اور یہ مذموم ہے، اس اختلاف

کے دائرے میں وہ اختلاف نہیں آتا جو مجتہدین کے درمیان احکام فرعیہ میں ہوتا ہے، وہ مذموم نہیں ہے۔

ومن متعلقة باختلف وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى :- وَمَا اختلف فيه

إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ آیت کریمہ کے اس جزء کی ترکیب بتاتے ہیں کہ مِنْ بَعْدِ

مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ کا تعلق أُوتُوهُ سے نہیں وَمَا اختلف سے ہے، اور اس لحاظ سے یہ پورا حصہ یعنی مِنْ بَعْدِ

مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغِيًّا بَيْنَهُمْ مَعْنَى لِحَاطٍ سَعِ إِلَّا الَّذِينَ اسْتَنَاءَ سَعِ پهلے آجائے گا، یعنی وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغِيًّا بَيْنَهُمْ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ۔

أم بل أحسبتم :۔ أم کی تفسیر میں بل اذکر کر کے مفسر نے بتایا کہ یہ ام منقطعہ ہے، یہاں بل اور اہمزہ استفہام دونوں مقدر ہیں، بل تو ایک بات سے دوسری بات کی جانب انتقال کے لئے ہے، اور ہمزہ انکار و توبیخ کے لئے ہے۔

شبه ما أتى ﴿الَّذِينَ﴾ :۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ أم حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہارے پاس ان لوگوں جیسا نہیں آیا ہے، جو تم سے پہلے گزرے۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اگلوں جیسے لوگ تمہارے پاس نہیں آئے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے، اس عبارت کا مقتضایہ ہے کہ الذین سے پہلے ایک مضاف محذوف ہو، مفسر نے اس کو ماأتی الذین کہہ کر ظاہر کیا ہے، اور شبہ، مثل کی تفسیر ہے، یعنی وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ (ماتئی) الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، یعنی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان پر جو حالات آئے تھے ان کے جیسے حالات ابھی تم پر نہیں آئے ہیں۔

من المؤمنين من المحن :۔ من المؤمنین، الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، کا بیان ہے، اور من المحن، ماأتی الذین کا بیان ہے۔

فتصبروا كما صبروا :۔ اس کا عطف لما کے مدخول یا تم پر ہے، اور یہ بھی نفی کے تحت ہے، یعنی لما یاتکم مثل ما أتاهم ولم تصبروا، مطلب یہ ہے کہ اگلوں پر جیسے حالات آئے تھے وہ ابھی تم پر نہیں آئے ہیں، اور نہ تم نے ابھی وہ صبر و ضبط کیا ہے۔

جملة مستانفة :۔ یہ جملہ یعنی مَسَّتْهُمْ الْبِاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ جملہ مستانفہ ہے، اس میں اگلے لوگوں پر جو حالات پیش آئے، ان کا بیان اور ان کی تفصیل ہے۔

بالنصب والرفع :۔ حتیٰ 'بمعنی الیٰ' ہے، اور اس کے بعد أن مقدر ہے، اس لئے یقول منصوب ہے، اور دوسری قرأت میں وہ مرفوع ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یقول فعل حال ہے، اور حتیٰ کے بعد جب فعل ہو اور اس میں زمانہ حال پایا جاتا ہو تو وہ منصوب نہیں ہوتا، مرفوع ہوتا ہے۔

أى الذى ينفقونه :۔ ماذا ينفقون میں ذا اسم موصول ہے، الذى کے معنی میں، اور صلہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے، جو یہاں محذوف ہے، مفسر نے ینفقونہ کہہ کر اسے ظاہر کیا ہے۔

فسأل النبى ﷺ عما ينفق وعلیٰ من ينفق :۔ مفسر نے فرمایا کہ سوال کرنے والے نے یہاں دو

سوال کئے تھے۔ اول یہ کہ کیا خرچ کریں، دوسرے یہ کہ کن لوگوں پر خرچ کریں؟ حق تعالیٰ نے دونوں سوال کے جواب دیئے، پہلے سوال کا اجمالاً، اور دوسرے کا جواب تفصیلاً۔

بیان لما شامل للقلیل والكثیر :- ما أنفقتم من خیر، یہ کیا خرچ کریں؟ کا اجمالی جواب ہے، اس میں ما عام ہے، اس میں قلیل و کثیر سب شامل ہیں، یعنی جو بھی خرچ کرو، کم ہو یا زیادہ بہر حال اللہ کے یہاں معتبر ہے، اور دوسرے سوال کا تفصیلی جواب فلولو الدین والاقربین والیتمی الخ سے دیا، اور اس اجمال و تفصیل میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ کیا خرچ کریں؟ سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کس پر خرچ کریں، اس پر اہتمام سے دھیان دینا چاہئے۔

أی ہم اولیٰ بہ :- یہی لوگ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان پر خرچ کیا جائے، یہ کہہ کر مفسر نے اشارہ کیا کہ یہ مسئلہ نفقات واجبہ کا نہیں ہے بلکہ نفقات نافلہ کا ہے، نفقات نافلہ میں زیادہ استحقاق رکھنے والے یہی لوگ ہیں، اور غالباً ان میں ترتیب مذکور بھی ملحوظ ہے۔

وهو کره لکم طبعاً :- جہاد و قتال کو حق تعالیٰ نے گراں فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل ایمان اس حکم کی تعمیل میں کوتاہی کرتے تھے، بلکہ یہ ہے، چونکہ اس میں مشقت ہے، اس لئے انسانی طبیعت پر بھاری پڑتا ہے، طبیعت کا کسی چیز کا بھاری پڑنا جبکہ اس کو خوش دلی سے انجام دینے کے لئے آدمی تیار ہو، مذموم نہیں ہے، اور نہ ان دونوں میں کچھ منافات ہے۔

لمیل النفس إلی الشهوات الموجبة لهلاكها :- انسانی طبیعت عموماً ایسی خواہشات کے پیچھے دوڑتی ہے جن میں پڑ کر آدمی اور آدمیت کی بربادی ہوتی ہے، اور جن احکام و اعمال میں اس کی دائمی سعادت مضمر ہوتی ہے، ان سے انسانی نفس بھاگتا ہے، تو لڑائی اگرچہ گراں ہے، مگر وہ سراپا خیر و برکت ہے، کیونکہ یا تو فتح و نصرت ہوگی، اور مال غنیمت ہاتھ آئے گا، ورنہ شہادت جیسی نعمت عظمیٰ حاصل ہوگی، اور آدمی اجر عظیم کا مستحق ہوگا، اور لڑائی سے جی چرانے میں، اگرچہ وہ طبیعت کو پسند ہے لیکن اس میں شر ہے، کیونکہ جب دشمن کے مقابلہ سے آدمی بیٹھ رہے گا تو ذلیل ہوگا، دشمن اس پر حملہ کر کے مال چھین لے گا، تو تنگدستی بھی لازم ہوگی، اور اجر سے محرومی تو ظاہر ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

یہود بنی اسرائیل جو نبوت اور کلام الہی کے انکار میں بڑی تیزی دکھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تشبیہ و نصیحت کے لئے اور اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلیں، اور اپنی حرکات سے باز آجائیں، یا کم از کم اپنی یا وہ گونیوں سے باز آجائیں۔ ایک سوال ان کے سامنے رکھا، وہ یہ کہ وہ خود بتائیں کہ حق تعالیٰ نے ان کو کتنی کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، اور انھیں خوب معلوم ہے کہ جو شخص یا جو گروہ احسانات کا بدلہ ناشکری کی صورت میں

دیتا ہے، اس پر اللہ کی گرفت کتنی سخت ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کفر و انکار میں جو لوگ گرفتار ہیں، خواہ کفار ہوں یا اہل کتاب، ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی چمک دمک مزین ہو کر آتی ہے، اور اسی چمک دمک کی بنا پر اہل ایمان سے استہزا کرتے ہیں، کیونکہ انھوں نے اس رونق پر دھیان نہیں دیا۔ اور دیکھ لینا یہی شرک و کفر سے بچنے والے، خواہ دنیا میں کتنے ہی بے رونق دکھائی دیتے ہوں، ایک دن آئے گا کہ ان دنیا داروں سے بدرجہا بڑھ کر ہوں گے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت ہے کہ جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی عنایت فرماتے ہیں، ایک زمانہ وہ تھا کہ ایمان کے باب میں تمام لوگ ایک جماعت تھے، لیکن بعد میں لوگ مختلف راہوں پر ہو گئے۔ بعض تو ایمان پر قائم رہے، اور بعض نے کفر کا راستہ پکڑ لیا، تب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ قائم فرمایا کہ وہ اہل ایمان کو بشارت سنائیں اور مشرکین کو جہنم کا خوف دلائیں، اور اللہ نے ان کے پاس کتابیں نازل فرمائیں تاکہ وہ ان کے اختلافات کا سچا فیصلہ صادر کریں، اور عجیب بات یہ ہے کہ پھر اختلاف کرنے والی وہی قومیں ہوئیں، جنہیں کتاب الہی ملی تھی، حالانکہ ان کے پاس دلائل موجود تھے، اور یہ اختلافات انھوں نے باہمی کشمکش اور نفسانیت کی وجہ سے کیا تھا، پھر اللہ نے اپنے فضل و ارادہ سے ایمان والوں کی حق و صداقت کی جانب رہنمائی فرمائی، اور یہ اللہ کی مشیت ہے، جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ کی ہدایت دیتے ہیں، لیکن ہدایت کا یہ راستہ آزمائشوں اور دشواریوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھ لو کہ تم یونہی جنت پا جاؤ گے، جبکہ ابھی تم ان بلاؤں اور مصیبتوں سے دوچار نہیں ہوئے ہو، جن سے اگلی امتوں کے لوگ دوچار ہو چکے ہیں، انہیں تو اتنی سختیوں اور دشواریوں میں مبتلا ہونا پڑا تھا، اور اس طرح وہ بلاؤں میں جھنجھوڑ دیئے گئے تھے، اور اس حد تک پریشان کئے گئے تھے کہ رسول بھی اور اہل ایمان بھی گھبرا کر کہنے لگے کہ اب کب اللہ کی مدد آئے گی، جب ایسی حالت ہو گئی تو اللہ کی طرف سے فوراً جواب آیا کہ ٹھہرو بس نصرت خداوندی آیا ہی چاہتی ہے۔

بعض لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے واسطے کیا چیز خرچ کریں، اور کن پر خرچ کریں؟ حکم ہوا کہ قلیل و کثیر جو بھی خرچ کرو اس کے مستحق والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم بچے ہیں، مساکین ہیں اور مسافر ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی نیک کام تم سے صادر ہوگا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔

جس طرح اللہ کے لئے مال خرچ کرنا ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں جان کی بازی بھی لگانی ہے، اس کے لئے تم پر کفار سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، اگرچہ وہ تمہارے اوپر طبعاً گراں ہے، لیکن دیکھو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز طبعاً تمہیں ناپسند ہو، مگر وہ تمہارے لئے خیر کا سامان ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ باعث ہلاکت ہو، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا چیز خیر ہے اور کیا چیز شر ہے، تمہیں اس کی کیا خبر؟

وأرسل النبي ﷺ أول سراياه وأمر عليها عبد الله بن جحش فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي في آخر يوم من جمادى الآخرة والتبس عليهم برجب فغيرهم الكفار بإستحلاله فنزل ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ بدل إشتمال ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ عظيم وزراً مبتدأ وخبر ﴿وَصَدٌّ﴾ مبتدأ منع للناس ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ دينه ﴿وَكُفْرٌ بِهِ﴾ بالله وصد ﴿عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أى مكة ﴿وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ﴾ وهم النبي ﷺ والمؤمنون وخبر المبتدأ ﴿أَكْبَرُ﴾ أعظم وزراً ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ من القتال فيه ﴿وَالْفِتْنَةُ﴾ الشرك منكم ﴿أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ لكم فيه ﴿وَلَا يَزَالُونَ﴾ أى الكفار ﴿يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ أيها المؤمنون ﴿حَتَّى﴾ كى ﴿يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ﴾ إلى الكفر ﴿إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ﴾ بطلت ﴿أَعْمَالُهُمْ﴾ الصالحة ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ فلا إعتداد بها ولا ثواب عليها والتقييد بالموت عليه يفيد أنه لورجع إلى الاسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلاً وعليه الشافعي ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ولما ظن أنهم أن أسلموا من الاثم فلا يحصل لهم أجر نزل ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ فارقوا أوطانهم ﴿وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ لإعلاء دينه ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ ثوابه ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ للمؤمنين ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ القمار ما حكمهما ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿فِيهِمَا﴾ أى فى تعاطيهما ﴿إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ عظيم وفى قراءة بالمثلثة لما يحصل بسبيهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ باللذة والفرح فى الخمر وإصابة المال بلاكد فى الميسر ﴿وَإِثْمُهُمَا﴾ أى ما ينشأ عنهما من المفساد ﴿أَكْبَرُ﴾ أعظم ﴿مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ ولما نزلت شربها قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ أى ما قدره ﴿قُلْ﴾ أنفقوا ﴿الْعَفْوُ﴾ أى الفاضل عن الحاجة ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم وفى قراءة بالرفع بتقدير هو ﴿كَذَلِكَ﴾ كما بين لكم ما ذكر ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ فى أمر ﴿الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ فتأخذون بالاصح لكم فيهما ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ وما يلقونه من الحرج فى شأنهم فإن واكلوهم ياتموا وإن عزلوا مالهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاماً وحدهم فحرج ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ﴾ فى أموالهم بتنميتها ومداخلتكم ﴿خَيْرٌ﴾ من ترك ذلك ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ﴾ أى تخلطوا بنفقتهم بنفقتكم ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ أى إفاخوانكم فى

الدين ومن شان الاخ أن يخالط أخاه أى فلکم ذلک ﴿ وَاللّٰهُ يَعْزِمُ الْمُفْسِدَ ﴾ لا موالهم بمخالطته ﴿ مِنْ الْمُصْلِحِ ﴾ لها فيجازى كلاً منهما ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَغْتَكُمُ ﴾ لضيق عليكم بتحريم المخالطة ﴿ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ ﴾ غالب على أمره ﴿ حَكِيمٌ ﴾ فى صنعه ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا ﴾ تتزوجوا أيها المسلمون ﴿ الْمُشْرِكِ ﴾ أى الكافرات ﴿ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَامَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ ﴾ حرة لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة مومنة والترغيب فى نكاح حرة مشركة ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ لجمالها ومالها وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا ﴾ تزوجوا ﴿ الْمُشْرِكِينَ ﴾ أى الكفار المؤمنات ﴿ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ ﴾ لجمالها وماله ﴿ أُولَئِكَ ﴾ أى أهل الشرك ﴿ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ بدعائهم إلى العمل الموجب لها فلا تليق مناكحتهم ﴿ وَاللّٰهُ يَدْعُو ﴾ على لسان رُسُلِهِ ﴿ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ ﴾ أى العمل الموجب لهما ﴿ بِإِذْنِهِ ﴾ بإرادته فتجب إجابته بتزويج أوليائه ﴿ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ يتعظون۔

ترجمہ

نبی ﷺ نے اپنا پہلا سر یہ بھیجا، اور اس پر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا، اور جمادی الاخریٰ کی آخری تاریخ میں انھوں نے مشرکین سے جنگ کی اور ابن حضرمی کو قتل کر ڈالا، اس تاریخ پر رجب کی پہلی تاریخ کا شبہ ہوا، تو کفار نے اس کو حلال سمجھنے کی مسلمانوں کو شرم دلائی، اس پر اگلی آیات نازل ہوئیں۔

(تم سے یہ محترم مہینوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، یعنی ان میں جنگ کرنے کے سلسلے میں) قتال فیہ، الشہرا الحرام سے بدل اشتمال ہے (تم) ان سے (کہہ دو کہ اس میں جنگ کرنی بڑی بات ہے) یعنی بڑا گناہ ہے، یہ مبتداء اور خبر ہے (اور) لوگوں کو (اللہ کی راہ) یعنی دین (سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام) مکہ (سے) روکنا (اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا) مکہ کے رہنے والے نبی ﷺ اور اہل ایمان ہیں، مبتداء کی خبر اکبر عند اللہ ہے (اللہ کے نزدیک) اس میں جنگ کرنے سے (بڑا) گناہ ہے، اور فتنہ (یعنی تمہارا شرک کرنا اس میں) قتل سے بڑھ کر ہے، اور) اے مومنو! یہ کفار (تم سے مسلسل جنگ کرتے رہیں گے تاکہ تم کو تمہارے دین سے واپس پلٹا دیں، اگر ان سے ہو سکے) یعنی کفر میں لوٹا دیں (اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے لوٹ جائے، اور وہ کفر کی حالت میں مرجائے تو سمجھ لو کہ ایسے ہی لوگوں کے اعمال) صالحہ (دنیا اور آخرت میں برباد ہوئے) بس نہ وہ قابل اعتبار ہیں، اور نہ ان پر کوئی ثواب ہے، اور کفر کی حالت پر مرنے کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ پھر اسلام کی طرف لوٹ آیا تو اس کا عمل ضائع نہ ہوگا، اس پر ثواب بھی ملے گا، اور اسے

دہرانا بھی نہ پڑے گا، مثلاً حج، اور اسی کے مطابق امام شافعیؒ کا مسلک ہے (اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے) اتنے کے باوجود اہل سریہ کو یہ خدشہ رہا کہ اگرچہ وہ لوگ گناہ سے تو محفوظ رہے، لیکن غالباً وہ اجر سے محروم رہیں گے، اس پر اگلی آیت نازل ہوئی (بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کی) یعنی اپنے وطنوں کو چھوڑا (اور اللہ کی راہ میں) اس کے دین کے سر بلند کرنے کے واسطے (جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کی رحمت) یعنی ثواب (کے امیدوار ہیں، اور اللہ) اہل ایمان کی (مغفرت فرمانے والے) ان پر (رحم فرمانے والے ہیں، تم سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں) کہ ان دونوں کا حکم کیا ہے (تم) ان سے (کہو کہ ان دونوں میں) یعنی ان دونوں کے ارتکاب میں (بڑا گناہ ہے) اور ایک قرأت میں مثلثہ یعنی ثناء ہے (کثیر) مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں بہت سے گناہ ہیں، مثلاً نزاع و کشمکش، گالی گلوچ اور بے حیائی کی باتیں وغیرہ (اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں) مثلاً شراب میں لذت و سرور ہے، اور جوئے میں کبھی بغیر محنت کے مال حاصل ہو جاتا ہے (اور ان دونوں کا گناہ) یعنی جو مفسدان سے وجود میں آتے ہیں (وہ ان کے فائدوں سے بڑھ کر ہے) جب یہ آیت اتری، تو بعض لوگ تو اپنے حال پر پیتے رہے، لیکن بعض حضرات اس سے رُک گئے، تا آنکہ سورہ مائدہ کی آیت نے اسے قطعاً حرام کر دیا (اور پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں) یعنی کتنی مقدار (تم کہہ دو کہ اپنی ضرورت سے زائد مال کو خرچ کرو) جو کچھ تمہاری ضرورت کی چیز ہے اسے نہ خرچ کرو کہ خود اپنی بربادی لازم ہو، اور ایک قرأت میں العفو رفع کے ساتھ ہے، تب یہ خبر ہے اور مبتدا ہو ہے (ایسے ہی) یعنی جیسے تمہارے لئے مذکورہ بالا امور بیان کئے گئے اسی طرح (اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آیات کا بیان کرتے ہیں، تاکہ تم دنیا و آخرت) کے معاملہ (میں غور کرو) اور دونوں جہان میں اس چیز کو اختیار کرو، جو تمہارے لئے زیادہ مناسب ہے (اور تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں) کہ ان کے متعلق انھیں تنگی پیش آتی ہے کہ اگر ان کا کھانا پینا اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو بتلائے گناہ ہوتے ہیں، اور اگر ان کے مال الگ کر دیں اور علیحدہ ان کے کھانے کا انتظام کریں، تو بڑی دشواری پیش آتی ہے (تم ان سے کہو کہ ان کے لئے) ان کے مال میں اضافہ اور بڑھوتری کی راہ اختیار کر کے (اچھائی پیدا کرنا) اور تمہارا مداخلت کرنا اس کے ترک سے (بہتر ہے، اور اگر تم) اپنے اخراجات کے ساتھ ان کے اخراجات کو بھی (شامل کر لو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں) اور بھائی بھائی کے مل کر رہنے کا دستور ہی ہے، یعنی تمہیں اس کا اختیار ہے (اور اللہ جانتا ہے کہ) اس کے حکم کے خلاف کر کے (کون) ان کے مالوں کو (برباد کرنے والا ہے، اور کون اصلاح کرنے والا ہے) ہر ایک کو اس کے مطابق جزا دے گا (اور اگر اللہ چاہتا تو) مخالفت کو حرام قرار دے کر (تمہیں تنگی میں ڈال دیتا، بیشک اللہ تعالیٰ) اپنے امر پر (غالب ہیں) اپنے کام میں (صاحب حکمت ہیں، اور) اے مسلمانو! (تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو تا آنکہ وہ ایمان لائیں، اور مومن باندی) آزاد (مشرک

عورت سے بہتر ہے) مشرک کی تفسیر میں آزاد کی قید اس لئے بڑھائی کہ اس آیت کا سبب نزول یہی ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے مومن باندی سے نکاح کرنے کو عیب شمار کیا، اور اس کے برخلاف مشرک آزاد عورت سے نکاح کی ترغیب دی (اگرچہ وہ تم کو پسند آئے) مال کی وجہ سے، یا جمال کی وجہ سے یہ آیت غیر کتابی مشرکات کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ کتابی عورت کو والمحصنات من الذین او تو الکتاب کی آیت نے جائز قرار دیا ہے (اور) مومن عورتوں کو (مشرکین کے نکاح میں مت دو، تا آنکہ وہ ایمان لائیں، اور صاحب ایمان غلام مشرک سے بہتر ہے خواہ وہ) اپنے مال اور جمال کی وجہ سے (تمہیں پسند آئے، یہ لوگ) یعنی اہل شرک (جہنم کی طرف بلاتے ہیں) یعنی وہ ایسے عمل کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو جہنم میں جانے کے اسباب ہیں، اس لئے ان سے رشتہ مناکحت مناسب نہیں ہے (اور اللہ) اپنے ارادہ سے اپنے رسولوں کی زبان پر (جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے) یعنی ایسے عمل کی دعوت دیتا ہے جو جنت اور مغفرت کے اسباب ہیں، لہذا اس کے دوستوں کے ساتھ رشتہ مناکحت قائم کر کے، اس کے حکم کی تعمیل واجب ہے (اور وہ اپنی آیات کو لوگوں کے لئے بیان فرماتا ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں)

تشریحات

بدل اشتمال :- لفظ قتال فیہ ، الشهر الحرام سے بدل اشتمال ہے، کیونکہ مسئول عنہ خود شہر حرام نہیں، اس سے متعلق فعل قتال ہے۔

ای مکة :- المسجد الحرام سے مراد محض مسجد حرام نہیں ہے، بلکہ مکہ مکرمہ ہے، بلکہ پورا حرم ہے۔
فلا إعتداد بها ولا ثواب علیها مرتد ہو جانے کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی آدمی کا سب نیک عمل برباد ہو جاتا ہے، دنیاوی بربادی کو مفسر نے فلا إعتداد بها سے بیان کیا ہے، اور آخروی بربادی کو ولا ثواب علیها سے بیان کیا ہے۔

والتقیید بالموت علیہ الخ :- حضرات شوافع علیہم الرحمہ کے نزدیک آیات واحادیث میں بھی چونکہ مفہوم مخالف کا اعتبار ہوتا ہے، اور اس سے وہ مسئلہ بھی ان کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے، جس کے ذکر سے آیت اور حدیث خاموش ہے، اس لحاظ سے مفسر فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ”حبط اعمال“ کے لئے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ كَمَا فُتِنَ بِهِ فَسُخَّرَ لَهُ ذُلًّا ذَلِيلًا وَهُوَ كَافِرٌ كَيْفَ يَكْفُرُ كَيْفَ يَكْفُرُ“ کے لئے مرتد ہو جانے کی قید لگائی ہے، اس لئے مرتد جب کفر کی حالت میں مرے گا بھی اس کے اعمال باطل ہوں گے، اور اگر وہ واپس مسلمان ہو گیا تو اس کے اعمال ضائع نہ ہوں گے، بلکہ ان پر ثواب ملے گا، اور جو عمل سابق اسلام کے زمانے میں کر چکا ہے اسے بعد کے دور اسلام میں دہرانا واجب نہ ہوگا، مثلاً کسی نے دور اول میں حج فرض ادا کر لیا تھا، مرتد ہونے کے بعد پھر مسلمان ہوا تو حج کا فریضہ

دوبارہ اس پر عائد نہ ہوگا، وہی پہلا حج معتبر ہوگا، اور اس پر ثواب بھی ملے گا۔

شارح عرض کرتا ہے کہ صاحب جمل نے لکھا ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی جانب اس مسلک کی نسبت ضعیف ہے۔ معتمد مذہب ان کا یہ ہے کہ ارتداد کے پہلے والا عمل ثواب کا مستحق نہ ہوگا، البتہ دنیاوی اعتبار سے اس کو معتبر مانا جائے گا، یعنی اسے اس عمل کو دہرانا نہیں پڑے گا۔

احناف کے نزدیک چونکہ قرآن کی آیات اور حدیث کی روایات میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس سے سکوت اختیار کیا گیا ہے، اور سکوت سے موقع بیان کے علاوہ اور کہیں کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اس لئے یہ بات تو قرآن نے بیان کر دی ہے کہ حالت ارتداد میں اگر موت واقع ہوگئی، تو اس کے تمام اعمال صالحہ باطل ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ پھر مسلمان ہو گیا تو سابقہ اعمال کا کیا حال ہوگا، اس سے آیات قرآنی خاموش ہے، پس اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہ ہوگا، اس کے لئے علیحدہ دلیل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ - اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ: لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَ عَمَلُكَ - ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ نفس ارتداد سے عمل حبط ہو جاتا ہے، پھر اسلام لانے کے بعد حبط شدہ عمل دوبارہ کیونکر معتبر ہوگا۔

بالمثلثة:- اس سے مراد ثاء ہے، جس پر تین نقطے ہوتے ہیں، یعنی کبیر کے بجائے کثیر۔

ولما نزلت شربها قوم و امتنع آخرون :- اس آیت نے شراب کو اور جوئے کو چونکہ قطعی طور پر حرام نہیں کیا، اس لئے بعض لوگ منافع اور فوائد کے پیش نظر پیتے اور کھیتے رہے، لیکن دوسرے لوگوں نے اثم کبیر پر نظر کی، تو اسے بالکلیہ ترک کر دیا۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ نے اسے بالکلیہ ہی حرام کر دیا۔

وتضيعوا أنفسكم :- تضيعوا کا عطف تنفقوا پر ہے، اور یہ بھی لائے نہی کے تحت ہے، یعنی خود کو ضائع نہ کرو۔

وفى قراءه بالرفع بتقدير هو :- ایک قرأت میں العفو منصوب ہے، اس صورت میں أنفقوا مقدر تھا، یہاں دوسری قرأت بیان کی ہے کہ العفو مرفوع ہے، اس صورت میں یہ خبر ہے، اور اس کا مبتداء ہو محذوف ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي ﴿أَمْرٍ﴾ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴿﴾ :- لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴿﴾ کے درمیان امر کا اضافہ مفسر نے اس لئے کیا کہ کہیں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت

دونوں جگہ میں غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہیں یہ دونوں تفکرون کا ظرف نہیں ہیں، بلکہ یہ غور کرنا دنیا و آخرت کے معاملے میں ہے، اور اس غور کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فتاخذون بالاصح لکم فیہما کہ دنیا و آخرت میں جو بات زیادہ عمدہ ہو، اسے اختیار کرو۔

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ﴾ وما يلقونه من الحرج في شأنهم :- یتیموں کے سلسلے میں جب اللہ تعالیٰ کا یہ تہدید فرماں نازل ہوا کہ: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَّا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، وہ اپنے شکم میں بجز آگ کے اور کچھ نہیں کھاتے، اور عنقریب دہکتی آگ میں جا پڑیں گے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے یتیموں کے مال سے اتنا اجتناب برتا کہ ان کا کھانا الگ پکاتے، اگر کچھ بچ جاتا تو اسے کوئی استعمال نہ کرتا، وہ یونہی ضائع ہو جاتا، یہ بات ان کو گراں گزرتی، انھوں نے اس باب میں آپ ﷺ سے دوبارہ مراجعت کی، تب زیر نظر آیت نازل ہوئی۔

﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ﴾ في أموالهم بتتميتها ومداخلتكم :- حکم ہوا کہ ان کے لئے بھلائی اور درستگی کا معاملہ بہتر ہے، درستگی کی صورت یہ بیان کی گئی کہ ان کے مال کو تجارت وغیرہ سے بڑھانے کی تدبیر کی جائے، اور اس کے واسطے ان کے مال میں مداخلت کی جائے تو یہ بہتر ہے۔

خیر من ترک ذلک :- خیر اسم تفضیل ہے، اس کا صلہ من سے مفسر نے ظاہر کیا ہے۔

فإخوانکم فی الدین :- اللہ تعالیٰ کے ارشاد: وَإِنْ تَخَالَطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ میں فَإِخْوَانُكُمْ جزاء کے موقع پر ہے، اور جزاء کے لئے جملہ ہونا ضروری ہے، تو مفسر نے اسے خبر قرار دیا، اور مبتداهم محذوف ہے، یعنی وَإِنْ تَخَالَطُوهُمْ فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ - یہ جملہ اسمیہ جزائیہ محلاً مجزوم ہے، وَإِنْ تَخَالَطُوهُمْ کی اصل جزاء توفلکم ذلک ہے، اور فَإِخْوَانُكُمْ اس کی تعلیل ہے، یعنی چونکہ یہ یتیم دینی اعتبار سے تمہارے بھائی ہیں، اس لئے اگر ضرورت اور مصلحت متقاضی ہو تو ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ شامل کر کے انھیں بڑھانے کا انتظام کرو۔

خیر من مشرکة حرة :- مومن باندی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، مشرک کے ساتھ حرہ کی قید اس لئے بڑھائی کہ اس آیت کا نزول اسی طرح کے مسئلہ سے متعلق ہے، بعض لوگوں نے مومن باندی سے نکاح کرنے کو معیوب گردانا، اور اس کے مقابلے میں آزاد عورت سے گو کہ وہ مشرک ہو نکاح کرنے کو بہتر جانا، اس کا جواب اس آیت کریمہ سے دیا گیا۔

وهذا مخصوص بغير الكتابیات :- مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو یہ مطلقاً عام نہیں ہے، بلکہ ان مشرک عورتوں کے حق میں یہ حکم خاص ہے، جو اہل کتاب نہ ہوں، رہا اہل کتاب کا مسئلہ، تو ان سے

نکاح کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنت من المومنات والمحصنت من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهم محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخذان۔** (آج تمہارے واسطے ستھری چیزیں حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لئے اور تمہارا ذبیحہ اہل کتاب کے لئے حلال ہے، اور پاک دامن عورتیں حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے۔ جبکہ تم نے ان کو ان کی مہر دی ہو، اس حال میں کہ تم نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ زنا کرنے والے اور چوری چھپے دوستی کرنے والے۔) اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب عورتیں مسلمانوں کے لئے حلال ہیں۔

﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ بدعائهم إلى العمل الموجب لها :- مشرکین جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ آج تک تو کسی شخص نے کسی کو جہنم میں جانے کی دعوت نہیں دی ہے۔ اس کا جواب مفسر نے بدعائهم الخ سے دیا ہے، کہ مشرکین ایسے عمل کی دعوت دیتے ہیں جس کا انجام سیدھا جہنم ہے، تو ایسے عمل کی دعوت دینا جہنم ہی کی دعوت دینا ہے۔ اس لئے ایسی عورت سے نکاح کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔
﴿وَاللَّهُ يَدْعُو﴾ على لسان رُسُلِهِ :- اللہ تعالیٰ جنت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی یہ دعوت رسولوں کے واسطے سے بندوں تک پہنچتی ہے۔

مضامین آیات و تفسیر

رسول اللہ ﷺ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں مشرکین کے مقابلے میں پہلا سریہ بھیجا، ان حضرات نے یہ سمجھ کر کہ آج ۳۰ جمادی الاخریٰ ہے، ایک مشرک کو قتل کر دیا، بعد میں تصدیق ہوئی کہ وہ پہلی رجب تھی۔ رجب کا مہینہ محترم مہینہ ہے، جس میں قتل و قتال درست نہیں، مشرکین بھی محترم مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے، ایسے محترم چار مہینے ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان مہینوں میں لڑنے بھڑنے کو بالکل روا نہیں رکھتے تھے، اب جو ظاہر ہوا کہ مسلمانوں نے رجب میں ایک مشرک کو قتل کر دیا، تو انھیں بدنام کرنے اور پروپیگنڈہ کرنے کا موقع مل گیا۔ بہت چہ میگوئیاں ہوئیں، مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا، اللہ نے خود ہی جواب کا تکفل فرمایا، کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس ماہ میں لڑنا سخت بات ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ یہ جو مشرکین حرکتیں کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالتے ہیں، یہ سب بھی تو اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، اور شرک کرنا تو محترم مہینوں میں قتل و قتال سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور ان کفار کے طعنوں اور زبان درازیوں سے متاثر نہ ہو، ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ تم سے مسلسل لڑیں گے، تاکہ تم اسلام سے

کفر کی جانب پلٹ جاؤ، اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ ضرور ایسا کر لیتے، لیکن سن لو جو کوئی اپنے دین اسلام سے مرتد ہو گیا اور پھر اسی ارتداد کی حالت میں مر گیا تو اس کے تمام اعمال باطل ہو جائیں ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نہ وہ دنیا میں قابل اعتبار ہیں اور نہ آخرت میں لائق ثواب! یہ اہل جہنم ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اصولی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تو غفور رحیم ہیں ہی۔

یہ لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں بتادو کہ ان میں بڑا گناہ ہے، گو کہ قدرے قلیل نفع بھی ہے، لیکن گناہ، نفع سے بڑھ کر ہے، اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے لئے کتنا خرچ کریں، تم بتادو کہ اپنی ضرورت اور حاجت سے جو زائد ہے، اسے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اپنے احکام و آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا و آخرت کے معاملات میں غور و فکر سے کام لو، اور جو بہتر ہو اسے اختیار کرو۔

اور یہ لوگ یتیموں کے متعلق بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے معاملے میں بڑی پریشانی ہے، اگر ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کی پرورش اور تربیت کا اہتمام کریں تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اور اگر ان کا ہر انتظام جدا کرتے ہیں تو بہت پریشانی لاحق ہوتی ہے، تم انہیں سمجھا دو کہ ان کے مال کو ٹھیک ٹھاک رکھنا اور ان کے بڑھانے کا انتظام کرنا بہتر ہے۔ اگر بہ نیت اصلاح ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، کیا حرج ہے؟ لیکن یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ بد نیتی کو اور حسن نیت کو خوب جانتے ہیں، خدا کی مہربانی ہے کہ اتنی وسعت دے دی ہے، ورنہ ان کی مشیت ہوتی تو تم تنگی میں ہی پڑے رہتے، اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہیں۔ اور ہاں مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اس سے اچھی تو مومن باندی ہے اگرچہ مشرک عورت تمہیں مال و جمال کے لحاظ سے اچھی معلوم ہوتی ہو، اور مومن عورتوں کا نکاح مشرک مرد سے مت کرو، اگرچہ وہ اچھا معلوم ہوتا ہے، اس سے اچھا تو مومن غلام ہے۔ یہ مشرکین جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور جنت کی دعوت دیتے ہیں، اس لئے مشرکین سے بچے رہو۔



﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ أَي الْحَيْضِ أَوْ مَكَانِهِ مَاذَا يَفْعَلُ بِالنِّسَاءِ فِيهِ ﴿قُلْ هُوَ أَذَىٌّ﴾ قَدْرٌ أَوْ مَحَلَةٌ ﴿فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ﴾ أْتِرُوا وَطَيْهِنَ ﴿فِي الْمَحِيضِ﴾ أَي وَقْتَهُ أَوْ مَكَانَهُ ﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ﴾ بِالْجَمَاعِ ﴿حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ بِسُكُونِ الطَّاءِ وَتَشْدِيدِهَا وَالْهَاءِ وَفِيهِ ادْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الطَّاءِ أَي يَغْتَسِلْنَ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ لِلْجَمَاعِ ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ بِتَجْنِبِهِ فِي الْحَيْضِ وَهُوَ الْقَبْلُ وَلَا تَعْدُوهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ﴾ يَثِيبُ

ويكرم ﴿التَّوَّابِينَ﴾ من الذنوب ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ من الاقدار ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾
 أى محل زرعكم للولد ﴿فَاتُوا حَرْثَكُمْ﴾ أى محله وهو القبل ﴿أَنَّى﴾ كيف ﴿شِئْتُمْ﴾ من
 قيام وعود وإضطجاع وإقبال وإدبار نزل ردّاً لقول اليهود من أتى امرأته فى قبلها من جهة
 دبرها جاء الولد أحول ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ﴾ العمل الصالح كالتسمية عند الجماع
 ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فى أمره ونهيه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ﴾ بالبعث فيجازيكم باعمالكم ﴿وَبَشِّرِ
 الْمُؤْمِنِينَ﴾ الذين اتقوه بالجنة ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ﴾ أى الحلف به ﴿عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ﴾ أى
 نصباً لها بأن تكثروا الحلف به ﴿أَنْ﴾ لا ﴿تَبْرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ فتكره
 اليمين على ذلك ويسن فيه الحنث ويكفر بخلافها على فعل البر ونحوه على طاعة المعنى
 لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفت عليه بل إئتوه وكفروا لأن سبب نزولها
 الامتناع من ذلك ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لأقوالكم ﴿عَلِيمٌ﴾ بأحوالكم ﴿لَا يَأْخُذُكُمْ اللَّهُ
 بِاللَّغْوِ﴾ الكائن ﴿فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو لا والله
 وبلى والله فلا إثم فيه ولا كفارة ﴿وَلَكِنْ يَأْخُذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ أى قصده من
 الايمان إذا حلفتكم ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ لما كان من اللغو ﴿حَلِيمٌ﴾ بتأخير العقوبة عن مستحقها
 ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ أى يحلفون أن لا يجامعوهن ﴿تَرْبُصٌ﴾ انتظار ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
 فَإِنْ فَاءَ وَآ﴾ رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطى ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لهم ما أتوه من
 ضرر المرأة بالحلف ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ أى عليه بأن لم يفيئوا فليوقعوه
 ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لقولهم ﴿عَلِيمٌ﴾ بعزمهم المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة
 أو الطلاق ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ أى لينتظرن ﴿بأنفسهن﴾ عن النكاح ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾
 تمضى من حين الطلاق جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان وهذا فى
 المدخول بهن أما غيرهم فلا عدة لهن لقوله تعالى "فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا" وفى
 غير الآئسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما فى سورة
 الطلاق والإماء فعدتهن قرآن بالسنة ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾
 من الولد أو الحيض ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ﴾ أزواجهن ﴿أَحَقُّ
 بِرَدِّهِنَّ﴾ أى بمراجعتهن ولوأبين فى ذلك أى فى زمن التربص ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾
 بينهما لا ضرر المرأة وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا فى الطلاق

الرجعى وأحق لا تفضيل فيه إذ لاحق لغيرهم فى نكاحهن فى العدة ﴿وَلَهُنَّ﴾ على الأزواج ﴿مِثْلُ الَّذِى﴾ لهم ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ من الحقوق ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ شرعاً من حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ فضيلة فى الحق من وجوب طاعتهم لهم لما ساقوه من المهر والانفاق ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ فى ملكه ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما دبره لخلقه۔

﴿ترجمہ﴾

(اور تم سے حیض کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں) یعنی حیض سے متعلق، یا مکانِ حیض سے متعلق، کہ اس حالت میں عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے (تم کہو کہ وہ اذیٰ ہے) یعنی نجاست ہے یا محل نجاست ہے (پس عورتوں سے الگ رہو) یعنی ان سے وطی نہ کرو (حیض میں) یعنی حیض کے دوران، یا مراد مکانِ حیض ہے، یعنی حیض آنے کی جگہ میں وطی نہ کرو (اور) جماع کے لئے (ان کے قریب نہ جاؤ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں) یطہرن میں دو قرأت ہے، ایک تو طاء کے سکون کے ساتھ مجرد باب نصر سے یعنی يَطْهَرْنَ، دوسری قرأت طای اور یاء کی تشدید کے ساتھ یعنی يَطْهَرْنَ، اس قرأت کے اعتبار سے تاء تفعّل کا طاء حرف اصلی میں ادغام ہے، پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حیض بند ہو جائے اور وہ غسل کر لیں (پس جب پاک ہو جائیں تو) جماع کے لئے (ان کے پاس آؤ، جس طرح کہ اللہ نے حکم دیا ہے) وہ یہ کہ حالتِ حیض میں پرہیز کرو، اور جماع قبل میں کرو، اس کے علاوہ تجاوز مت کرو (بلاشبہ اللہ تعالیٰ) گناہوں سے (توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں) یعنی انھیں ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ان کا اکرام فرماتے ہیں (اور نجاستوں سے پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں) یعنی اولاد کے لئے بیج ڈالنے کی جگہ ہیں (تو اپنی کھیتی پر) یعنی بیج کے ڈالنے کے محل پر جو کہ قبل ہے (جیسے چاہو آؤ) کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، سامنے کی طرف سے، پیچھے کی جانب سے۔ یہودیوں کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے پیچھے کی جانب سے قبل میں وطی کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، اس آیت نے اس کی تردید کر دی (اور اپنے واسطے) عمل صالح کو (آگے بھیجو) مثلاً جماع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا (اور اللہ سے) اس کے امر و نہی کے سلسلے میں (ڈرو، اور یقین کرو کہ تم) دوبارہ زندہ ہو کر (ان سے ملو گے) وہ تمہارے اعمال کا بدلہ دیں گے (اور اہل ایمان کو) جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جنت کی (خوش خبری سنادو، اور اللہ کو) یعنی اللہ کے نام کو (اپنی قسموں کے لئے رکاوٹ کی چیز مت بناؤ) عرضة کے معنی رکاوٹ پیدا کرنے والی علت ہے، یعنی اسے اپنا مقصد نہ بنا لو کہ ہر بات پر قسم بکثرت کھاؤ (اس لئے کہ نیکی اور تقویٰ) نہ (اختیار کرو گے) پس اس پر قسم کھانا مکروہ ہے، اور اس میں قسم توڑ دینا ضروری ہے، اور اس کے

خلاف نیک عمل کر کے کفارہ ادا کرے، کیونکہ وہ طاعت ہے (اور یہ کہ لوگوں کے درمیان صلح) نہ (کراؤ) مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھالی ہے، تو قسم کی وجہ سے اسے ترک مت کرو، بلکہ اس کو کڑواؤ، اور کفارہ ادا کر لو، یہ ہم نے اس لئے کہا کہ اس آیت کے نزول کا سبب کسی اچھے کام کی قسم کھا کر لوگ اسے چھوڑ دیتے تھے، اور اپنی قسم کی مجبوری بیان کر دیتے تھے (اور اللہ) تمہارے اقوال کو (سننے والے) تمہارے احوال کو (جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں جو لغو قسم ہے، اس پر مواخذہ نہیں کرتے) لغو قسم وہ ہے، کہ بغیر ارادہ کے زبان سے قسم کا لفظ ادا ہو جائے، جیسے لا واللہ، بلسی واللہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ کفارہ ہے (لیکن تمہارا مواخذہ ان قسموں پر کرتا ہے جن کا تمہارے قلوب نے قصد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ) لغو قسم کی (معفرت کرنے والے، حلیم ہیں) یعنی مستحق عذاب سے بھی عذاب کوٹالتے رہتے ہیں۔

(وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ایلاء کرتے ہیں) یعنی قسم کھا لیتے ہیں کہ ان سے جماع نہ کریں گے (ان کے لئے چار ماہ کا انتظار ہے، پس اگر) چار ماہ کے دوران یا اس کے بعد یمین سے (رجوع کر لیا) اور ان سے وطی کر لی تو اللہ تعالیٰ) ان کے اس گناہ کو کہ قسم کھا کر عورت کو دکھ پہنچایا (معفرت فرمانے والے ہیں) ان پر (رحم فرمانے والے ہیں، اور اگر انہوں نے طلاق کا عزم کر رکھا ہے) یعنی ان سے رجوع نہیں کیا تو چاہئے کہ طلاق دیدیں (تو اللہ تعالیٰ) ان کے قول کو (سننے) ان کے عزم کو (جانتے ہیں) مطلب یہ ہے کہ جتنے انتظار کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد وہی راستہ ہے، یا تو فئے یعنی رجوع یا طلاق (اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو) نکاح سے (تین قروء تک روک کر انتظار کریں گی) جن کی ابتداء طلاق کے وقت سے ہوگی۔ قروء جمع ہے قروء بفتح القاف کی، اس کے معنی طہر ہے یا حیض ہے، اس مسئلہ میں یہ دو قول ہے، عدت کا یہ مسئلہ مدخول بہا کے حق میں ہے، غیر مدخول بہا مطلقہ پر کوئی عدت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فما لکم علیہن من عدۃ (سورۃ الاحزاب) نیز عدت کا یہ تعین اس عورت کے حق میں ہے جو آئسہ اور نابالغہ نہ ہو، ان دونوں کی عدت تین ماہ ہے، اور حاملہ کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے، جیسا کہ سورہ طلاق میں ہے، اور باندی مطلقہ ہو تو اس کی عدت دو قروء ہے، یہ سنت سے ثابت ہے (اور ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے) خواہ بچہ ہو یا حیض (اسے وہ چھپائیں، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہران سے رجعت کرنے کے حقدار ہیں) اگرچہ عورتوں کو انکار ہو (اس) مدت یعنی عدت (میں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو) نہ کہ عورت کو تکلیف پہنچانے کا، یہ شرط جواز رجعت کے لئے شرط نہیں ہے، بلکہ اصلاح کی ترغیب و تحریض ہے، رجعت کا یہ مسئلہ صرف طلاق رجعی میں ہے، أحق صیغہ تفضیل کا ہے، مگر تفضیل کا معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ عدت کے دوران کسی اور کو نہ نکاح کا حق ہے اور نہ رجعت کا (اور ان کیلئے) شوہروں پر (اسی

طرح کا حق ہے جیسا) شوہروں کیلئے (ان پر حق ہے) شرعی (دستور کے مطابق) یعنی حسن معاشرت اور ترک ضرار وغیرہ کے تقاضوں کے موافق (اور مردوں کے لئے ان پر ایک درجہ) حق میں فضیلت کا (ہے) یعنی عورتوں کے ذمہ شوہروں کی فرمانبرداری ہے، کیونکہ مرد کی جانب سے انھیں مہر ملتی ہے اور نفقہ ملتا ہے (اور اللہ) اپنے ملک میں (غالب ہیں) اور اپنی مخلوق کے لئے جو تدبیر کرتے ہیں، اس میں (حکمت والے ہیں)

﴿تشریحات﴾

﴿عَنِ الْمَحِيضِ﴾ أى الحيض أو مكانه :- محيض مصدر میمی بھی ہے، اور ظرف بھی، اگر مصدر ہے تو اس کے معنی حیض کے ہیں، یعنی خون کا بہنا، اور اگر ظرف ہے، تو حیض کی جگہ معنی ہے، یعنی سوال یہ ہے کہ حالت حیض میں قبل میں وطی کرنے کا کیا حکم ہے؟

أذى قدر أو محله :- محيض اگر مصدر ہے، تو جواب میں اسے قدر کہا گیا ہے، اور اگر ظرف ہے، تو اسے محل قدر کہا گیا ہے۔

أترکوا وطیہن :- فاعتزلوا النساء میں بظاہر اعتزال کا حکم مطلق ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ حالت حیض میں مطلقاً عورتوں سے جدا رہنا چاہئے۔ مفسر نے واضح کر دیا کہ جواب، سوال پر وارد ہے، یہاں وطی کا سوال تھا تو جواب میں بھی وہی بات ہے، یعنی اس حالت میں وطی کرنے سے علیحدہ رہو۔

فی المحيض أى وقتہ :- اس جگہ محيض ظرف زمان ہے، ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے۔

لا تقربوہن بالجماع :- یہاں قربت بمعنی جماع ہے، مطلق قربت مراد نہیں ہے۔

یطہرن الخ :- مجرد کی قرأت میں اس کا اطلاق حیض کے بند ہونے پر ہے، اور مزید کی قرأت میں اس کا اطلاق غسل کر لینے پر ہے۔

ولا تعدواہ الی غیرہ :- ﴿مَنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمْ اللَّهُ﴾ سے مراد یہ ہے کہ وطی قبل میں کی جائے، اور اس کو چھوڑ کر بدن کے کسی اور حصے کو وطی کا محل نہ بنایا جائے۔

یحب یثیب ویکرم الخ :- یحب محبة سے ماخوذ ہے، لیکن مفسر نے اس کا ترجمہ یثیب اور یکرم سے کیا ہے، اس کا ایک نکتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبت اپنی ابتداء میں ایک انفعالی جذبہ ہے، وہ ایک تاثر ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی انتہا یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس پر بخشش و نوازش ہوتی ہے، اس کا اکرام ہوتا ہے، تو محبت اپنے ابتدائی معنی کے لحاظ سے باری تعالیٰ کے شایان شان نہیں، لیکن اپنی انتہا کے اعتبار سے محبت بارگاہ حق کے شایان شان ہے، مفسر نے ترجمہ میں انتہائی معنی کا لحاظ کیا ہے۔

أى محل زرعکم :- حرث کے معنی بیج ڈالنے کے ہیں، عورتیں محل حرث ہیں، کیونکہ اولاد کا بیج ان کے رحم میں

ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد والے جملہ ﴿فَاتُوا حَرْتَكُمْ﴾ میں بھی حرت کے معنی محل حرت کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ محل حرت قبل ہے، دبر نہیں۔ اُنّیٰ بمعنی کیف ہے، مطلب یہ ہے کہ وطی کا محل تو قبل ہے، باقی جماع کی ہیئت میں اختیار ہے، بیٹھ کر، لیٹ کر، سامنے سے، اور پیچھے کی جانب سے۔

یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ پیچھے سے عورت کے قبل میں وطی کی جائے تو لڑکا بھینگا پیدا ہوتا ہے، اس آیت سے اس غلط عقیدہ کا انسداد ہو گیا۔

الذین اتقوا بالجنة :- یہ عبارت ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ کے بعد مومنین کی تشریح کے طور پر لکھی گئی ہے، بالجنة کا تعلق بشر سے ہے، ترجمہ اس طرح ہوگا، مومنین جنہوں نے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا، انہیں جنت کی خوشخبری سنادو۔ ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ﴾ ای الحلف بہ ﴿عُرْضَةً﴾ علة مانعة ﴿لَا يَمَانِكُمْ﴾ ای نصباً لها بأن تكثروا الحلف بہ ﴿أَنْ﴾ لا ﴿تَبْرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ فتكره اليمين على ذلك:

شان نزول: حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور ان کے رشتہ دار حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ ناچانی ہوئی، حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھالی کہ نہ اب ان کے پاس جائیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، اور نہ ہی ان کے کسی معاملہ کے درمیان پڑیں گے۔ اس طرح انہوں نے قطع تعلق کر لیا، اس صورت حال کی اصلاح کے لئے یہ آیت نازل ہوئی۔ (جمل)

عُرْضَةً :- بروزن فعلة اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی وہ چیز جو کسی مقصد کے لئے آڑ اور رکاوٹ بن جائے، یعنی اللہ کے نام کو اعمال خیر کے سامنے رکاوٹ مت بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کار خیر کے سلسلے میں قسم کھا کر اس کو کار خیر کے سامنے رکاوٹ مت بناؤ، مثلاً تقویٰ اور نیکی کا کوئی کام، اس پر جب قسم کھا لو گے تو قسم کے بچانے کے لئے خواخواہ اس سے اجتناب کرنا پڑے گا، تو ایسی قسم نہ کھاؤ، اس معنی کے لحاظ سے ﴿عُرْضَةً لَا يَمَانِكُمْ﴾ میں اَيْمَان سے مراد قسم نہیں ہے، بلکہ وہ کار خیر ہے جس کے سلسلے میں نہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ اس تفسیر کے اعتبار سے کار خیر کے سلسلے میں قسم کھانے کی علی الاطلاق ممانعت ہے، اور عمل مخلوف علیہ کو یمنین مجازاً کہا گیا ہے، کیونکہ اس کا اس سے تعلق ہے۔

عُرْضَةً :- بمعنی مفعول بھی ہو سکتا ہے، وہ شے ہے جس کو کسی مقصود کے سامنے حائل بنا دیا جائے، مراد اس سے نشانہ ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، یعنی اللہ کے نام کو بار بار اپنی قسموں کیلئے استعمال نہ کرو، اس سے اللہ کے نام کی بے توقیری ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ بکثرت قسمیں نہ کھاؤ، اور اللہ کے نام کو ایسا معمولی نہ سمجھ لو کہ ادنیٰ ادنیٰ بات پر قسم کھاتے پھرو۔ اس تفسیر کے لحاظ سے اَيْمَان اپنے

حقیقی معنی میں ہے، اور اس میں کثرتِ حلف سے منع کیا گیا ہے۔

پہلی تفسیر کے لحاظ سے اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا میں لا مقدر ہے، جسے مفسر علام نے عبارت میں ظاہر فرما دیا ہے، اور دوسری تفسیر کے اعتبار سے لا کی تقدیر کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ نیکی، تقویٰ اور اصلاح بین الناس کے لئے سہی، مگر اللہ کے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اور بہت زیادہ قسم نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے، بکثرت قسم کھانے والے کے دل میں اللہ کی حرمت باقی نہیں رہتی۔

اس آیت کریمہ کی یہ دو تفسیریں ہیں۔ مفسر کے ایجاز عبارت نے دونوں تفسیروں کو خلط کر دیا ہے، اَنْ تَبَرُّوا کے ساتھ لا کو مقدر مان کر اور پھر فتکرہ الیمین علیٰ ذلک ویسن فیہ الحنث کہہ کر کسی فعل خیر کے سلسلے میں قسم کھانے کی ممانعت کر دی ہے، یہ تو پہلی تفسیر کا بیان ہوا۔

لیکن نصباً لہا بأن تکثروا الحلف بہ سے دوسری تفسیر کا بیان ہے کہ بکثرت قسم مت کھاؤ۔

ویسن فیہ الحنث :- کسی نے عمل خیر کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، تو اسے توڑ دینا مسنون ہے، اس عمل خیر کو کر لے، اور کفارہ ادا کر لے۔

وہو ما یسبق إلیہ اللسان الخ :- مفسر نے بیمن لغوی تفسیر امام شافعی علیہ الرحمہ کے مسلک کے مطابق کی ہے، بیمن لغویہ ہے کہ قسم کا ارادہ نہ ہو، یونہی بلا ارادہ زبان پر قسم کے الفاظ جاری ہو جائیں، اہل عرب کی عادت تھی کہ بات بات پر لا واللہ اور بلسی واللہ کہہ دیا کرتے تھے۔ اس بیمن لغوی پر امام شافعی علیہ الرحمہ کے اعتبار سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، کفارہ نہ گناہ۔ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک بیمن لغوی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے بارے میں یہ سمجھ کر کہ کام ہو گیا ہے، قسم کھائے کہ واللہ ایسا ہوا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کام نہیں ہوا ہے، تو یہ بیمن لغوی ہے، اس میں قسم کھانے والے نے جھوٹ کا قصد نہیں ہے۔ اس قسم میں امام ابوحنیفہ کے نزدیک نہ کفارہ ہے نہ گناہ!

شوافع نے جو بیمن لغوی تعریف کی ہے، اگر وہ آئندہ کسی کام کے متعلق ہے، اور اس نے اس کے خلاف کر دیا، تو امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک کفارہ واجب ہوگا، اور احناف نے جو بیمن لغوی تعریف کی ہے اس میں اگر قسم کا خلاف واقعہ ہونا ثابت ہوا، تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک کفارہ واجب ہوگا۔

أی قصدتہ من الایمان إذا حنثتم :- بیمن لغوی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن وہ قسم جو قصد اَدل کے ارادہ کے ساتھ کھائی گئی ہو، اس پر خدا کا مواخذہ ہے، لیکن یہ کیا مواخذہ ہے، اس کا یہاں پر بیان نہیں ہے۔

درحقیقت بیمن کی ابتداء دو صورتیں ہیں۔ ایک وہ جو دل کے ارادہ سے قسم کھائی گئی ہو۔ دوسرے وہ جو ارادہ کے بغیر زبان سے ادا ہوئی، دوسری کا نام بیمن لغوی ہے۔ پہلی قسم کی دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ مستقبل کے کسی

کام پر ہو۔ دوسرے یہ کہ ماضی کے کسی عمل سے متعلق جھوٹی قسم قصداً ہو۔ مستقبل والی قسم کو یمن منعقدہ کہتے ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ بذات خود اس قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے اس قسم کے خلاف کر لیا، تو گناہ ہے، اور اس گناہ کا ایک کفارہ متعین ہے، جس کا ذکر ساتویں پارے میں آ رہا ہے۔ اور ماضی کے متعلق جھوٹی قسم کا نام یمن غموس ہے۔ اس میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک شدید گناہ ہے، مگر دنیوی کوئی جزاء، کفارہ وغیرہ نہیں ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اس میں بھی کفارہ ہے۔

أى يحلفون أن لا يجامعوهن :- یہ ایلاء کی تعریف ہے، ایلاء کے معنی قسم کھانے کے ہیں۔ یہاں ایک خاص طرح کی قسم مراد ہے، وہ یہ کہ شوہر قسم کھالے کہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کرے گا۔ اگر اس میں کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے، یا چار ماہ یا اس سے زیادہ مدت مقرر کی ہے، تب وہ اصطلاح شرع میں ایلاء ہے، اور اگر چار ماہ سے کم مدت مقرر کی ہے تو وہ مطلق یمن ہے، ایلاء نہیں ہے۔

انتظار أربعة أشهر :- ایلاء کرنے والا خواہ اس نے سرے سے کوئی مدت متعین نہیں کی ہے، یا چار ماہ یا اس سے زیادہ کی مدت مقرر کی ہے، دونوں صورتوں میں شوہر ایلاء کرنے والا چار ماہ تک جماع سے رکاوٹ رکھتا ہے۔

﴿فَإِنْ فَاءٌ وَا﴾ رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطى :- یہ تفسیر مفسر نے امام شافعی علیہ الرحمہ کے مسلک پر کی ہے۔ چار مہینے کے اندر یا چار ماہ کے بعد اگر اس نے اپنے قسم کے خلاف وطی کر لی، تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے رحیم ہیں، یعنی اس قسم کے ذریعے عورت کو جو تکلیف شوہر نے دی ہے، فئے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرمادیں گے۔ یہ مسلک امام شافعی علیہ الرحمہ کا ہے، کہ چار ماہ کے بعد بھی قسم سے رجوع کیا جاسکتا ہے، لیکن اس تفسیر کے لحاظ سے چار ماہ کی تحدید اور فیہا کا کوئی فائدہ معلوم نہیں ہوتا، یہ دونوں لفظ اگر نہ ہوتے، تب تو یہ مسئلہ بنتا، مگر ان دونوں لفظوں کی موجودگی اس تفسیر سے مانع ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ چار ماہ تک اس قسم کا عمل تبرص ہے، یعنی چار ماہ کے اندر عورت اس کی بیوی ہے، چاہے تو قسم توڑ کر نکاح کو برقرار رکھے، اور چاہے تو چار ماہ تک قسم برقرار رکھے۔ اس کے بعد نکاح برقرار نہ رہے گا، بلکہ از خود طلاق بائن پڑ جائے گی، توفاء و فیہا کا مطلب یہ ہے کہ چار ماہ کے اندر رجوع کرنے سے ایلاء سے رجوع محقق ہوگا، اور اگر چار ماہ کے اندر رجوع نہیں کیا، تو اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی ہے کہ ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، اور اگر طلاق کا عزم ہے تو اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ طلاق کا یہ عزم کیا ہے؟ اس کی تفسیر مفسر نے یہ کی ہے کہ بَأْن لَمْ يَفِئُوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رجوع نہ کرنا ہی عزم طلاق ہے، چار ماہ گزر جانے کے بعد یہ عزم طلاق، طلاق بن کر عورت کو نکاح سے جدا کر دے گا، الگ سے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

لیکن مفسر نے فلیوقعوه کا لفظ لا کر امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک ظاہر کیا کہ چار ماہ رک رجوع نہ کرنے کی صورت میں اسے طلاق دے دینی چاہئے، یا یہ کہ رجوع کر لینا چاہئے، چنانچہ فرماتے ہیں: المعنیٰ لیس لهم بعد تبصص ما ذکر إلا الفیئة أو الطلاق، مذکورہ بالاتر تبصص یعنی چار ماہ کے بعد فئے (رجوع) یا طلاق کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے، اب حالت انتظار میں رکھنا جائز نہیں ہے۔

هو الطهر أو الحيض:۔ لفظ قروء، قراء کی جمع ہے، یہ لفظ حیض اور طہر کے معنی کے درمیان مشترک ہے، طہر امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول ہے، اور حیض امام ابوحنیفہ اور امام مالک علیہما الرحمہ کا قول ہے۔

وهذا فی المدخول بہن الخ:۔ عدت طلاق کے سلسلے میں آیت بظاہر عام ہے، لیکن اس میں تخصیص ہے، اصل یہ ہے کہ مطلقہ عورتیں چھ طرح کی ہو سکتی ہیں۔ (۱) حرہ بالغہ مدخول بہا (۲) حرہ بالغہ غیر مدخول بہا (۳) حرہ نابالغہ مدخول بہا (۴) حرہ آئسہ مدخول بہا (۵) حاملہ (۶) باندی۔

ان چھ قسموں میں سے تین قروء والی عدت صرف قسم اول کی ہے۔ دوسری قسم کے لئے سرے سے عدت ہی نہیں ہے۔ تیسری اور چوتھی قسم کے لئے عدت تین ماہ ہے۔ پانچویں قسم کی عدت وضع حمل ہے۔ چھٹی قسم کی عدت دو قروء ہے۔

دلائل علی الترتیب یہ ہیں: (۱) وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا (سورة الاحزاب ۴۹) (۳، ۴، ۵) وَاللَّائِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (سورة الطلاق: ۴) (۶) طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔ سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن مسئلہ طلاق میں تمام ائمہ کے نزدیک یہ حدیث مقبول و معمول بہ ہے۔ اس لئے معنی قوی ہے۔

ولوأبين الخ: رجعت کرنے کیلئے عورت کی رضا اور اجازت شرط نہیں ہے، طلاق سے رجوع میں شوہر بااختیار ہے۔ وهو تحريض على قصدہ: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شوہروں کو رجعت کا حق کسی اور کے مقابلے میں زیادہ ہے، مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں ظاہر معنی مراد نہیں ہے، أحق گو کہ اسم تفضیل ہے، مگر تفضیل والا معنی یہاں معتبر نہیں ہے، کیونکہ شوہروں کے علاوہ کسی اور کو رجعت کا استحقاق ہی نہیں ہے، نہ کم نہ زیادہ، عدت کے دوران نہ تو کسی اور کو رجعت کا حق ہے اور نہ نکاح کا۔ اور إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا سے بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ ارادۃ اصلاح رجعت کے لئے شرط ہے، اس ارادہ کے بغیر رجعت درست نہ ہوگی، مفسر

نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ شرط ارادہ اصلاح کے لئے ترغیب ہے۔

فضیلة فی الحق من وجوب طاعتہن لہم :- عورتوں کے اوپر مردوں کا ایک درجہ زائد ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حقوق میں انھیں ایک فضیلت حاصل ہے، وہ یہ کہ عورتوں کے اوپر مردوں کی اطاعت لازم ہے، کیونکہ مردوں پر ان کیلئے انفاق مالی واجب ہے، عطاء مہر اور نان و نفقہ کی وجہ سے۔ اس کی بنیاد پر انھیں عورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

رسول اکرم ﷺ سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا تھا کہ حالت حیض میں عورت کس سلوک کی مستحق ہے؟ اور یہ سوال اس لئے ہوا تھا کہ مدینہ میں یہودیوں کے معاشرہ میں حیض کے دوران عورت اچھوت بن جاتی تھی۔ اس کا کھانا پینا، رہن سہن حتیٰ کہ برتن تک الگ کر دیا جاتا تھا، ظاہر ہے کہ یہ عورتوں پر ایک ظلم تھا، اور مردوں کے لئے اس صورت حال میں بڑی تنگی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سوال کا یہ جواب دیا گیا کہ حیض تو ایک نجاست ہے، اس لئے اس حالت میں عورتوں سے صحبت نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، اس سے زیادہ احتراز کی ضرورت نہیں۔ پاک ہو جانے کے بعد خدا کے حکم کے مطابق ان سے ملنے کی آزادی ہے، تو بہ اور طہارت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز ہے۔

عورتیں تمہارے لئے بمنزلہ کھیتی کے ہیں، اولاد کا بیج تمہیں ڈالنا ہے، تمہیں اختیار ہے، جس طرح چاہو تخم ریزی کرو، اس میں لیٹنے، بیٹھنے، کھڑے ہونے، آگے پیچھے کی کوئی قید نہیں ہے، بس یہ ہے کہ صحبت تخم ریزی کے محل ہی میں ہو، بے محل نہ ہو۔ اور اس میں عمل صالح کا خیال رکھو، یعنی اللہ کا نام لے کر عورتوں سے ملو۔ مقصود صرف لذت نفس نہ ہو بلکہ طلب اولاد کی نیت ہو، اور زندگی کے ہر موقع پر اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ خوب سمجھ لو کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے، اور ہر عمل کی جزا پائی ہے، تو اللہ پر ایمان کی وجہ سے جنت کی بشارت ہو۔

اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اور اس کی آڑ میں خود کو نیکی، تقویٰ اور اصلاح بین الناس سے بچانے کی کوشش نہ کرو، اور اگر کبھی ایسی کسی بات پر جس میں نیکی و تقویٰ ہو قسم کھا بیٹھے تو قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال و احوال کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ تم جو قسمیں کھاتے ہو، ان میں جو لغو ہیں، یعنی بلا ارادہ زبان سے نکلتی رہتی ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر دل کے ارادہ کے ساتھ قسم کھائی ہے، اس پر مواخذہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے بھی ہیں، حلیم بھی ہیں، فوراً سزا نہیں دیتے۔

اور اگر تم نے اس بات کی قسم کھالی ہے کہ بیوی کے پاس نہ جاؤ گے، تو اس قسم میں بیوی کے پاس نہ جانے کی مدت چار ماہ ہے، اگر چار ماہ کے اندر اندر بیوی سے صحبت کر لی تو قسم ختم، کفارہ واجب، بیوی حلال، اور

اگر چار ماہ گزر گئے اور تم بیوی کے پاس نہ گئے تو بیوی نکاح سے نکل گئی، ایک طلاق بائن پڑ گئی۔ (۱)
 اور مطلقہ عورتوں کی عدت جس میں کسی اور مرد سے عورت کا نکاح جائز نہیں ہے، تین حیض ہے۔ اس
 دوران اگر طلاق رجعی ہے تو بہ نیت اصلاح حال مرد رجعت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ مطلقہ عورت کو اپنا حال چھپانا
 نہیں چاہئے، یعنی اگر پیٹ میں بچہ ہے، یا خالی ہے، دونوں کو ظاہر کر دینا چاہئے، تاکہ اسی کے حساب سے عدت کا
 تعین ہو۔ جس طرح مردوں کے عورتوں پر کچھ حقوق ہیں، اسی طرح عورتوں کے مردوں پر بھی کچھ حقوق ہیں، البتہ
 مردوں کو ایک گونہ فضیلت اس لئے حاصل ہے کہ عورت مرد کی کفالت میں ہوتی ہے، تو جب مرد عورت کا کفیل ہے
 تو اس پر مرد کی اطاعت واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحبِ غلبہ و حکمت ہے۔

(۱) یہ خلاصہ مذہب حنفی کے مطابق لکھا گیا ہے، صاحب تفسیر نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چار ماہ تک تو مہلت ہے، خواہ بیوی
 کے پاس جائے یا نہ جائے، لیکن اس کے بعد دوبارے میں سے ایک بات لازم ہے، یا تو قسم توڑ دے اور رجوع کرے، یا طلاق دیدے۔



﴿الطَّلَاقُ﴾ أَي التَّطْلِيقِ الَّذِي يَرَجَعُ بَعْدَهُ ﴿مَرَّتَانِ﴾ أَي اثْنَتَانِ ﴿فَإِمْسَاكٌ﴾ أَي
 فَعَلَيْكُمْ إِمْسَاكُهُنَّ بَعْدَهُ بِأَنْ تَرَا جَعُوهُنَّ ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ مِنْ غَيْرِ ضَرَارٍ ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ إِسْرَافٌ
 لِهِنَّ ﴿بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ أَي هَذَا لِزَوْجٍ ﴿أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ مِنْ
 الْمَهْرِ ﴿شَيْئاً﴾ إِذَا طَلَقْتُمُوهُنَّ ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ أَي الزَّوْجَانِ ﴿أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أَي
 لَا يَأْتِيَا بِمَا حُدَّ لَهُمَا مِنَ الْحُقُوقِ وَفِي قِرَاءَةِ يُخَافَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَإِنْ لَا يُقِيمَا بَدَلَ
 اشْتِمَالٍ مِنَ الضَّمِيرِ فِيهِ وَقُرِئَ بِالْفَوْقَانِيَةِ فِي الْفَعْلَيْنِ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ نَفْسَهَا مِنَ الْمَالِ لِطَلْقِهَا أَي لِأَحْرَجِ عَلَى الزَّوْجِ فِي أَخْذِهِ وَلَا الزَّوْجَةَ
 فِي بَدَلِهِ ﴿تِلْكَ﴾ الْإِحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ ﴿حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ الثَّنِينَ ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ﴾ بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثَةِ ﴿حَتَّى
 تَنْكِحَ﴾ تَتَزَوَّجَ ﴿زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ وَيَطَّأُهَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ رَوَاهُ الشَّيْخَانُ ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾
 الزَّوْجُ الثَّانِي ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أَي الزَّوْجَةُ وَالزَّوْجُ الْأَوَّلُ ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ إِلَى النِّكَاحِ
 بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ﴾ أَي الْمَذْكُورَاتُ ﴿حُدُودُ اللَّهِ بَيْنَهُمَا
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ يَتَدَبَّرُونَ ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجْلَهُنَّ﴾ قَارِبِينَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ
 ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ بِأَنْ تَرَا جَعُوهُنَّ ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ مِنْ غَيْرِ ضَرَارٍ ﴿أَوْ سَرَّحُوهُنَّ
 بِمَعْرُوفٍ﴾ أَتْرَكَوهُنَّ حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتِهِنَّ ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ﴾ بِالرَّجْعَةِ ﴿ضَرَاراً﴾ مَفْعُولٌ
 لَهُ ﴿لَتَعْتَدُوا﴾ عَلَيْهِنَّ بِاللَّجَاءِ إِلَى الْإِفْتِدَاءِ أَوِ التَّطْلِيقِ وَتَطْوِيلِ الْحَبْسِ ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾

فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿بِتَعْرِيفِهَا إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴿مَهْزُوءًا بِهَا بِمُخَالَفَتِهَا﴾ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴿بِالْإِسْلَامِ﴾ وَمَا نَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ ﴿الْقُرْآنِ﴾ وَالْحِكْمَةِ ﴿مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ﴾ يَعِظُكُمْ بِهَا ﴿بِأَنْ تَشْكُرُوا بِهَا بِالْعَمَلِ﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ

ترجمہ

(طلاق) یعنی وہ تطلق جس کے بعد رجعت ہو سکتی ہے (دو مرتبہ ہے) یعنی دو طلاق ہے (پھر روک لینا ہے) یعنی اس کے بعد انھیں روک لینا تم پر لازم ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے رجعت کر لو (دستور شرع کے مطابق) تکلیف دینے کے لئے نہیں (یا چھوڑ دینا ہے) یعنی انھیں آزاد کر دینا ہے (اور) اے شوہرو! (تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ) مہر (تم نے انھیں دے رکھی ہے، اس میں سے کچھ بھی واپس لو) جبکہ تم نے انھیں طلاق دیدی ہے (مگر یہ کہ زوجین) اس بات کا اندیشہ محسوس کریں کہ اللہ کے حدود کو برقرار نہ رکھ سکیں گے) یعنی اللہ نے جو حقوق ایک دوسرے کے متعین کئے ہیں وہ ادا نہ کر سکیں گے، اور ایک قرأت میں یخافا فعل مجہول ہے، اس صورت میں ألا یقیمما، یخافا کی ضمیر سے بدل اشتمال ہے، اور ایک قرأت شاذہ میں دونوں فعلوں کو تاء کے ساتھ پڑھا گیا ہے یعنی إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَنْ لَا تُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، (پس اگر تم لوگوں کو اندیشہ ہو کہ یہ دونوں اللہ کے حدود کو برقرار نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس بات میں کوئی مضائقہ نہیں کہ عورت) اپنے آپ کا مالی (فدیہ دیدے) تاکہ شوہر اسے طلاق دیدے، یعنی اس کے لینے میں شوہر کو حرج نہیں، اور دینے میں عورت پر کوئی مضائقہ نہیں (یہ) مذکورہ بالا احکام (اللہ کے حدود ہیں، پس ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے، وہی لوگ ظالم ہیں، پھر اگر) شوہر نے دو کے بعد تیسری (طلاق دیدی، تو عورت اس کے لئے) تیسری طلاق کے بعد (حلال نہ ہوگی تا آنکہ وہ اس کے علاوہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے) اور اس سے وطی بھی کر لے جیسا کہ حدیث میں ہے، اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے (پھر اگر) شوہر ثانی (اسے طلاق دیدے، تو ان دونوں) یعنی بیوی اور شوہر اول (پر کوئی حرج نہیں کہ) عدت کے ختم ہونے کے بعد نکاح کی جانب (رجوع کر لیں، اگر وہ سمجھتے ہوں کہ اللہ کے حدود کو برقرار رکھ سکیں گے، اور یہ) مذکورہ چیزیں (اللہ کے حدود ہیں، انھیں وہ ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں) یعنی تدبر کرتے ہیں (بیان فرماتے ہیں، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں) یعنی عدت کے پورا ہونے کا وقت قریب ہو جائے تو (انھیں روک لو) یعنی (دستور شرع کے مطابق) بغیر تکلیف کے قصد کے ان سے رجعت کر لو (یاد دستور شرع کے مطابق ان کو آزاد کر دو) یعنی انھیں چھوڑے رکھو، یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے (اور انھیں) رجعت کر کے (تکلیف پہنچانے کے

لئے نہ روکو) ضرراً مفعول لہ ہے (تا کہ تم) انہیں فدیہ پر مجبور کر کے اور پھر طلاق دے کر اور عدت کی قید لمبی کر کے (ان پر زیادتی کرو، اور جو یہ کام کرے گا، اس نے) اپنے آپ کو اللہ کے عذاب پر پیش کر کے (خود اپنے اوپر ظلم کیا، اور اللہ کی آیتوں کو) ان کے خلاف کر کے (مذاق) کی چیز (نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کے احسان) یعنی اسلام (کو یاد کرو اور) یاد کرو (جو کچھ اللہ نے تم پر کتاب اتاری ہے) یعنی قرآن نازل فرمایا ہے (اور حکمت) اتاری ہے، یعنی وہ احکام جو اس میں ہیں (اللہ تم کو اس سے نصیحت کرتے ہیں) کہ ان پر عمل کر کے ان کی قدر کرو (اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں) ان پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

﴿تشریحات﴾

التطليق الذي يراجع بعده :- طلاق مصدر ہے، اس کا تعلق عورت سے بھی ہوتا ہے، اس صورت میں اس کو طالق کہتے ہیں، اور اس کا تعلق مرد سے بھی ہوتا ہے، اس صورت میں یہ تطليق کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی طلاق دینا۔ ظاہر ہے طلاق دینا مرد ہی سے متعلق ہوتا ہے۔

مرتان أى اثنتان :- مرتان کا لفظ اشارہ کرتا ہے کہ طلاق رجعی صرف وہ ہے، جو دو مرتبہ میں دی، بیک مجلس یا بیک لفظ نہ دی جائے، اس لئے کہ دو بار اسی طلاق کو کہا جائے گا، جو الگ الگ دی گئی، اور طلاق سنت ہے بھی یہی کہ ہر طلاق علیحدہ ایسے طہر میں دی جائے جس میں عورت سے صحبت نہ کی گئی ہو، اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دی گئی دو طلاق یا تو پڑتی ہی نہیں، یا پڑتی ہے تو اس سے رجعت نہیں ہو سکتی، حضرت مفسر نے اس کی تفسیر ثنتان سے کر کے بتا دیا کہ دو طلاق رجعی ہوتی ہے، خواہ وہ علیحدہ علیحدہ دی گئی ہو، جبکہ وہی بہتر ہے، یا بیک دفعہ دی گئی ہو، گو کہ وہ نامناسب ہے، مگر وہ پڑ بھی جائے گی، اور رجعت کا حق بھی رہے گا۔

فعلیکم إمساکھن :- فعلیکم کا لفظ لا کر مفسر علام نے بتایا کہ امساک مبتداء ہے، اور اس کی خبر محذوف ہے، جو کہ علیکم ہے، اور اس علیکم مقدر کا تعلق امساک سے بھی ہے، اور تسریح سے بھی ہے۔

إرسال لهن :- دو طلاق کے بعد عورت کو اسی حالت پر چھوڑے رکھیں، عدت کے بعد اسی سے بائٹہ ہو جائے گی۔

من المهور :- مما آتیتموهن میں ما سے مراد مہر ہے، یعنی شوہر نے عورت کو جو مہر دیدیا ہے، اسے طلاق دینے کے بعد واپس لینا درست نہیں ہے۔

أى لاياتيا بما حدہ لهما من الحقوق :- ہاں مہر کے واپس لینے کی ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ زوجین میں آپسی مناسبت نہیں اور نباہ کی کوئی صورت نہ ہو، لیکن طلاق دینے میں شوہر ہچکچا رہا ہو کہ عورت اس کا دیا ہوا مال لے کر چلی جائے گی، تو عورت بھی گئی اور مال کا نقصان بھی ہوا، اس کی وجہ سے وہ طلاق نہیں دیتا اور نکاح کے باقی رکھنے کی صورت میں اس کے حقوق کی ادائیگی بہت مشکل ہے، ایسی صورت میں عورت اپنی جان کا

چھٹکارا اس طرح حاصل کر سکتی ہے کہ مہر میں لیا ہوا مال وہ واپس کر دے، اور شوہر اسے آزاد کر دے، اس کا مال اس کے پاس آ گیا اور بیوی نے اپنی جان چھڑالی۔ اب حقوق میں خیانت کا کوئی مسئلہ نہ رہا، یہ صورت قانون شریعت میں ”خلع“ کہلاتی ہے۔

اس آیت کا حضرات مفسرین ایک خاص سبب نزول ذکر فرماتے ہیں، وہ یہ کہ عبداللہ بن ابی بن ابی سلول رئیس المنافقین کی بیٹی جمیلہ جو کہ مسلمان تھیں، ایک دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا تو میں، یا تو ثابت! میرے سر کو اور ان کے سر کو کوئی چیز جمع نہیں کر سکتی۔ واللہ میں ان کے دین اور ان کے اخلاق میں کوئی عیب نہیں دیکھتی، لیکن میں اسلام کے اندر کفر سے ڈرتی ہوں، یعنی مجھے ان سے اتنی ہی نفرت ہے کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے معصیت میں مبتلاء ہو جاؤں گی، میں نے چند آدمیوں کے درمیان انھیں دیکھا، تو وہ سب سے سیاہ فام، کوتاہ قد اور بدنما چہرے والے تھے، اس شکایت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت جمیلہ کو مہر میں ایک باغ ملا تھا، انھوں نے باغ واپس دے کر اپنا چھٹکارا کرالیا۔

وفی قراءۃ یُخافا بالبناء للمفعول :- مفسر نے جس قرأت کو بنیاد بنا کر تفسیر کی ہے وہ یخافا فعل معروف ہے، اور ضمیر فاعلی کا مرجع زوجان ہے، دوسری قرأت میں یہ فعل مجہول ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ دونوں سے ڈرا جائے، یعنی دونوں کے بارے میں اندیشہ ہو کہ حدودِ الہی کو برقرار نہ رکھ سکیں گے، اس قرأت میں أن لا یقیمما، یخافا کی ضمیر سے بدل اشتمال ہوگا۔ بدل اشتمال کا مطلب یہ ہے کہ بدل مبدل منہ کے متعلقات میں سے ہو، یہاں یخافا کی ضمیر زوجین کی طرف راجع ہے، عدم اقامت حدود کا تعلق ظاہر ہے کہ انھیں دونوں سے ہے اور اندیشہ کی چیز یہی ہے، تو یہ بدل اشتمال ہے۔

قریٰ :- فعل مجہول قریٰ سے اشارہ قرأت شاذہ کی جانب ہے۔

فإن خفتم :- یہاں خطاب حکام اور ذمہ داروں سے ہے، کلامِ الہی میں عبارت کا اُسلوب مختلف ہوا ہے، اس کو بلاغت کی اصطلاح میں ”التفات“ کہتے ہیں، ولا یحل لکم میں مخاطب شوہر ہیں، پھر الا أن یخافا میں صیغہ غائب کا استعمال ہوا ہے، اور وہ تشبیہ ہے، یہاں میاں بیوی دونوں مراد ہیں، اور فإن خفتم میں حکام اور ذمہ داروں سے خطاب ہے۔

ویطأھا :- تیسری طلاق کے بعد عورت سے نکاح کرنا اس وقت جائز ہے، جب اس کا کسی اور سے نکاح ہو جائے، اتنی بات تو قرآن میں مذکور ہے، لیکن دوسرے شوہر کا اس سے وطی کرنا بھی ضروری ہے، یہ بات حدیث سے ثابت ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اجماع کے شمول کی وجہ سے یہ حدیث اور حدیث کا یہ حکم قطعی اور یقینی ہو گیا، بلکہ بشمول اجماع خبر متواتر ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رفاعہ بن وہب قرظی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی، انھوں نے عبدالرحمن بن زبیر سے نکاح کیا، پھر رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں شکایت لائیں کہ عبد الرحمن کے اندر عورت کی اہلیت نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ کیا تم رفاعہ کے پاس واپس ہونا چاہتی ہو، انھوں نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ تمہاری لذت اور تم ان کی لذت سے نہ چکھ لو، (شوہراول کے پاس نہیں جاسکتی) رواہ الشیخان۔

قَارِبِنِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ :- بَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ كَمَا مَطْلَبٌ يَهِيَ هِيَ كَمَا أَنَّ كِيَّ عِدَّتِ پُورِي هُوَ جَائِي، اس صورت ميں تو عِدَّتِ كِي گنجائش نهيں رهي، بلکہ مطلب يه هِيَ كَمَا عِدَّتِ پُورِي هُونِي كَا وَقْتِ قَرِيْبِ آ لَگِي۔

بالالجماء إلى الافتداء :- رجعت کر کے عورت کو ضرر پہونچانے کی صورتیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عِدَّتِ پُورِي هُونِي كَا وَقْتِ آ گِيَا، تو اس خيال سے رجعت کر ليا کہ عورت پر نشان ہو کر خلع پر مجبور ہوگی، اس طرح کچھ مال ہاتھ آجائے گا۔ دوسری صورت يه هِيَ كَمَا اس نيت سے رجعت کی کہ بعد ميں پھر طلاق دیدے گا، اس سے عورت کو پریشانی ہوگی۔ اور تيسری پریشانی يه هُوَ كِي كَمَا عِدَّتِ لَمْبِي هُوَ كِي، پریشان کرنے كيلئے رجعت کرنا گناہ کا کام ہے۔

بتعريضها إلى عذاب الله تعالى :- اپنے اوپر ظلم کرنا اس لئے ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی عذاب الہی کی زد ميں آجاتا ہے۔

ما فيه من الاحكام :- يه حكمت كِي تشریح هِيَ، يعنى كتاب تو قرآن كريم هِيَ، اور اس ميں جو احكام هيں انهيں حكمت كها گيا هِيَ۔ قسطلاني نے شرح بخاری ميں لکھا هِيَ كَمَا ابْنِ وَهْبِ نِي اَمَامِ مَالِكِ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ سِي دَرِيَا فِت كِيَا كَمَا حكمت كِيَا چيز هِيَ؟ اَمَامِ مَالِكٍ نِي فَرَمَا يَا: دِينِ كِي مَعْرِفَتِ اور اس كِي سَمَجْهِ۔ اور اَمَامِ شَافِعِي نِي فَرَمَا يَا كَمَا حكمت، سنت رسول اللہ ﷺ هِيَ۔ مشهور صاحب تفسير مقاتل نِي فَرَمَا يَا كَمَا قرآن كريم ميں مذكوره لفظ حكمت كِي چار صورتیں هيں، اوّل قرآن كريم كِي نَصَاحِ، اللّٰهُ تَعَالَى كَا ارشاد هِيَ: ﴿وَمَا نَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾ يعنى موعظت اور نصيحت، اور ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْانْجِيلَ﴾ (سورہ آل عمران: ۴۸) دوسرے حكمت بمعنی علم اور فهم هِيَ، اللّٰهُ تَعَالَى فَرَمَاتِي هيں: اُولَئِكَ الَّذِيْنَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ (سورہ الانعام: ۸۹) آيت ميں لفظ حكم هِيَ، جو حكمت هِيَ كاشي هِيَ، مراد اس سے علم و فهم هِيَ، اسي معنی ميں سورہ ص ميں هِيَ: وَآتَيْنَا الْحِكْمَةَ (آيت: ۲۰) تيسرا معنی نبوت هِيَ۔ چوتھا معنی قرآن هِيَ كيونكہ اس ميں حكمت كِي باتیں تمام هيں، اللّٰهُ تَعَالَى فَرَمَاتِي هيں: اُدْعُ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (سورہ النحل: ۱۲۵) اور غور كيا جائے، تو چاروں معنی كا مرجع علم و فهم هِيَ۔

﴿ مضامین آیات و تفسیر ﴾

عورت کو طلاق دینے کے سلسلے میں یہ رکوع ہدایات پر مشتمل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک اور دو طلاق رجعی ہوتی ہے، عدت کے دوران اس سے رجوع کیا جاسکتا ہے، رجوع کر لینے کے بعد طلاق کا اثر ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ طلاق نہیں ختم ہوتی، یا یہ کہ اس کو اسی طلاق کی حالت پر چھوڑ دیا جائے، رجعت نہ کی جائے تو عدت ختم ہونے کے بعد وہ مرد کے نکاح سے بالکل خارج ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو طلاق دینے کی صورت میں اس سے مہر کی واپسی کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بے مناسبتی کی وجہ سے اندیشہ ہو کہ نباہ نہ ہوگا اور حقوق کی ادائیگی میں خلل ہوگا، تو عورت کے لئے جائز ہے کہ مہر واپس کر کے خلع کرالے، اور مرد کے لئے بھی جائز ہے کہ واپس کی ہوئی مہر لے لے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دو طلاق کے بعد خواہ اس سے رجعت کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو، اگر تیسری طلاق دیدی، تو اس عورت کا نکاح اس شوہر کے ساتھ اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اس کا نکاح کسی اور شوہر سے نہ ہو جائے، اور اس سے وہ وطی نہ کر لے، پھر جب شوہر ثانی اسے طلاق دیدے یا اسے چھوڑ کر مر جائے تو عدت گزرنے کے بعد شوہر اول اس سے نکاح کر سکتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کہ رجعت ہو یا طلاق ہر دو میں مرد کی نیت صالح ہونی چاہئے، عورت کو ستانے، پریشان کرنے اور کسی مالی فدیے پر مجبور کر دینے کا جذبہ بالکل نہ ہو، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے گا، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ انھوں نے اسلام جیسی دولت عنایت کی، اور کتاب و حکمت کو نازل فرمایا، اس احسان کا شکر یہ اور اس کی قدر دانی یہ ہے کہ عمل کرنے میں اسے فراموش نہ کیا جائے، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہئے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔



﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ ﴾ ﴿ انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ﴾ ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ ﴿ خُطَاب لِّلْأَوْلِيَاءِ أَى لَا تَمْنَعُوهُنَّ مِنْ ﴾ ﴿ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ ﴾ ﴿ الْمَطْلُوقِينَ لَهُنَّ لَأَنْ سَبَبَ نَزُولِهَا أَنْ أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل كما رواه الحاكم ﴿ إِذَا تَرَاضُوا ﴾ ﴿ أَى الْإِزْوَاجِ وَالنِّسَاءِ ﴾ ﴿ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ﴿ شَرْعاً ﴾ ﴿ ذَلِكَ ﴾ ﴿ النَّهْيُ عَنِ الْعَضْلِ ﴾ ﴿ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَ مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ ﴿ لِأَنَّهُ الْمَنْتَفَعُ بِهِ ﴾ ﴿ ذَلِكَ ﴾ ﴿ أَى تَرَكَ الْعَضْلَ ﴾ ﴿ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾ ﴿ لَكُمْ وَلَهُمْ لَمَا يَخْشَى عَلَى الزَّوْجَيْنِ مِنَ الرِّبَا بِسَبَبِ الْعِلَاقَةِ بَيْنَهُمَا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ ﴿ مَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلِحَةِ ﴾ ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ذَلِكَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ﴾ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ ﴾ ﴿ أَى لِيَرْضَعْنَ ﴾ ﴿ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ ﴾ ﴿ عَامِينَ ﴾ ﴿ كَامِلَيْنِ ﴾ ﴿ صِفَةُ مَوْكَدَةٍ ﴾

ذَلِكَ ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ وَلَا زِيَادَةَ عَلَيْهِ ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ أَي عَلَى الْآبِ ﴿رِزْقُهُنَّ﴾ إِطْعَامُ الْوَالِدَاتِ ﴿وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ عَلَى الْإِرْضَاعِ إِذَا كُنَّ مُطْلَقَاتٍ ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ بِقَدْرِ طَاقَتِهِ ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ طَاقَتِهَا ﴿لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا﴾ بِسَبَبِهِ بَأَن تَكْرَهُ عَلَى إِرْضَاعِهِ إِذَا امْتَنَعَتْ ﴿وَلَا يُضَارُّ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ أَي بِسَبَبِهِ بَأَن يَكْلِفُ فَوْقَ طَاقَتِهِ وَإِضَافَةُ الْوَلَدِ إِلَى كُلِّ مِنْهُمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلِاسْتِعْطَافِ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ أَي وَارِثِ الْآبِ وَهُوَ الصَّبِيُّ أَي عَلَى وِلْيِهِ فِي مَالِهِ ﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾ الَّذِي عَلَى الْآبِ لِلْوَالِدَةِ مِنَ الرِّزْقِ وَالْكَسْوَةِ ﴿فَإِنْ أَرَادَا﴾ أَي الْوَالِدَانِ ﴿فِصَالًا﴾ فَطَامَا لَهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ صَادِرًا ﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾ اتِّفَاقٍ ﴿مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ بَيْنَهُمَا لِيُظْهَرَ مَصْلَحَةَ الصَّبِيِّ فِيهِ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ فِي ذَلِكَ ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ﴾ خُطَابَ لِلْآبَاءِ ﴿أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ مَرَضِعَ غَيْرِ الْوَالِدَاتِ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فِيهِ ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ﴾ إِلَيْهِنَّ ﴿مَا آتَيْتُمْ﴾ أَي أَرَدْتُمْ إِيتَاءَهُ لِهِنَّ مِنَ الْإِجْرِ ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ بِالْجَمِيلِ كَطِيبِ النَّفْسِ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ﴾ يَمُوتُونَ ﴿مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ﴾ يَتْرَكُونَ ﴿أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ﴾ أَي لِيَتَرَبَّصْنَ ﴿بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ بَعْدَهُمْ عَنِ النِّكَاحِ ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ مِنَ اللَّيَالِي وَهَذَا فِي غَيْرِ الْحَوَامِلِ ، أَمَّا الْحَوَامِلُ فَعَدْتُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ بِأَيَّةِ الطَّلَاقِ وَالْأُمَّةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ بِالسَّنَةِ ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ انْقَضَتْ مَدَّةُ تَرَبُّصِهِنَّ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أَيُّهَا الْوَالِدِيَّةُ ﴿فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ مِنَ التَّزِينِ وَالتَّعَرُّضِ لِلْخُطَابِ ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ شَرْعًا ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ عَالِمٌ بِبَاطِنِهِ كَظَاهِرِهِ ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ﴾ لَوْحْتُمْ ﴿بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ الَّتِي تَتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فِي الْعِدَّةِ كَقَوْلِ الْإِنْسَانِ مِثْلًا إِنَّكَ لَجَمِيلَةٌ وَمَنْ يَجِدْ مِثْلَكَ وَرُبَّ رَاغِبٍ فِيكَ ﴿أَوْ أَكُنْتُمْ﴾ أَضْمَرْتُمْ ﴿فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ مِنْ قَصْدِ نِكَاحِهِنَّ ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُونَ﴾ بِالْخُطْبَةِ وَلَا تَصْبِرُونَ عَنْهُنَّ فَأَبَاحَ لَكُمْ التَّعْرِيفَ ﴿وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوا وَهُنَّ سِرًّا﴾ أَي نِكَاحًا ﴿إِلَّا﴾ لَكِنْ ﴿أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ أَي مَا عَرَفَ شَرْعًا مِنَ التَّعْرِيفِ فَلَكُمْ ذَلِكَ ﴿وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ أَي عَلَى عَقْدِهِ ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ﴾ أَي الْمَكْتُوبُ مِنَ الْعِدَّةِ ﴿أَجَلَهُ﴾ بِأَيِّ يَنْتَهِي ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ مِنَ الْعَزْمِ وَغَيْرِهِ ﴿فَاحْذَرُوا﴾ أَنْ يِعَاقِبَكُمْ إِذَا عَزَمْتُمْ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لِمَنْ يَحْذَرُهُ ﴿حَلِيمٌ﴾ بِتَأْخِيرِ الْعُقُوبَةِ عَنْ مُسْتَحَقِّهَا۔

ترجمہ

(اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں) ان کی عدت گزر جائے (تو انہیں

اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے) انھیں (شوہروں سے) جنھوں نے ان کو طلاق دی ہے (نکاح کر لیں) فلا تَعْضُلُوهُنَّ کا خطاب عورت کے اولیاء اور سرپرستوں سے ہے، اور ازواجہن سے ان کے سابق شوہر مراد ہیں، کیونکہ اسی طرح کے ایک معاملہ میں یہ آیت اتری ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت معقل بن یسار کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دیدی تھی، پھر انھوں نے دوبارہ چاہا، تو معقل بن یسار نے منع کر دیا ”رواہ الحاکم“ (جبکہ وہ) میاں بیوی (باہم رضامند ہوں، شرعی دستور کے مطابق، یہ) یعنی عضل سے نہی کی (نصیحت کی جاتی ہے، اس شخص کو، جو تم میں سے اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے) کیونکہ اسی کو اس سے نفع ہوگا (یہ) یعنی ترک عضل (تمہارے لئے بہتر اور پاکیزہ تر ہے) تمہارے لئے بھی اور ان شوہروں کے لئے بھی، کیونکہ سابقہ تعلقات کی وجہ سے تہمت کا اندیشہ رہے گا (اور اللہ جانتے ہیں) جو کچھ اس میں مصلحت ہے (اور تم لوگ) اس کو (نہیں جانتے) پس اس کے امر کی تابعداری کرو (اور مائیں اپنی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں گی) یعنی چاہئے کہ دو سال دودھ پلائیں کاملین، حولین کی صفت مؤکدہ ہے، (اس شخص کے لئے جو رضاعت کو پورا کرنا چاہے) اس سے زیادہ نہیں (اور مولودہ) یعنی والد (پر ان کا) یعنی والدات کا (کھانا اور کپڑا ہے) دودھ پلانے پر جبکہ وہ مطلقہ ہوں (دستور شرعی) یعنی اس کی طاقت (کے مطابق، کسی بھی نفس کو اس کی طاقت کے بقدر ہی مکلف بنایا جاتا ہے، کسی بھی ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے ضرر میں نہیں ڈالا جائے گا) یعنی اگر وہ انکار کرتی ہے تو اسے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا (اور نہ کسی والد کو اس کی اولاد کی وجہ سے ضرر میں مبتلا کیا جائے گا) کہ اس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بنایا جائے، اور ولد کی اضافت والدین میں سے ہر ایک کی طرف اس لئے ہے تاکہ محبت و مہربانی کا جذبہ بیدار ہو (اور وارث کے اوپر) یعنی باپ کے وارث کے اوپر اور وہ بچہ ہے، یعنی اس کے ولی کے اوپر اس کے مال میں (اسی کے مثل ہے) یعنی جتنا باپ کے ذمے والدہ کے لئے کھانا اور کپڑا ہے، اتنا ہی باپ کے وارث پر ہے (پس اگر) والدین (ارادہ کریں) دو سال سے پہلے ہی (دودھ چھڑانے کا، آپس کی باہمی رضامندی اور مشورے سے) تاکہ بچے کی مصلحت ظاہر ہو جائے (تو) اس سلسلے میں (دونوں پر کوئی مضائقہ نہیں، اور اگر تم) والد کو خطاب ہے (اپنی اولاد کو) والدہ کے علاوہ کسی اور دایہ سے (دودھ پلوانا چاہو، تو) اس بات میں (تم پر کوئی تنگی نہیں ہے، جبکہ تم) ان کو (وہ چیز حوالے کر دو جو تم نے دی ہے) یعنی جس اجرت کے دینے کا تم نے ارادہ کیا ہے (اچھے طریقے پر) خوش دلی سے (اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں) ان پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، (اور وہ لوگ جو تم میں سے انتقال کر جاتے ہیں، اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ انتظار کریں گی) یعنی چاہئے کہ انتظار کریں ان کے بعد (اپنے آپ کو) نکاح سے (روک کر چار ماہ دس دن) راتوں سمیت، یہ عدت حاملہ کے علاوہ کی ہے، حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، جیسا کہ سورہ طلاق

میں ہے، اور باندی کی عدت وفات سنت سے ثابت ہے کہ حرائر [آزاد] کے مقابلے میں نصف ہے (پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں) یعنی ان کے انتظار کی مدت پوری ہو جائے (تو تم پر) اے اولیاء (ان کاموں کے سلسلے میں کوئی حرج نہیں جو وہ اپنی ذات میں اختیار کریں) یعنی مزین ہونا، اور پیغام دینے والوں کے لئے تیار ہونا (دستور شرع کے مطابق، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتے ہیں) یعنی اس کے باطن کو بھی جانتے ہیں جیسا کہ ظاہر کو جانتے ہیں (اور تم پر اس سلسلے میں کوئی حرج نہیں کہ تم) عدت کے دوران (ان عورتوں سے نکاح کے پیغام کا اشارہ کرو) مثلاً کوئی آدمی کہے کہ تم خوبصورت ہو یا تمہارے جیسے کو کون پائے گا، اور تم کو چاہنے والے بہت ہیں وغیرہ (یا تم اپنے دل میں) ان سے نکاح کے قصد کو (پوشیدہ رکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگ عنقریب) نکاح کے پیغام کیلئے (ان کا تذکرہ کرو گے) اور تم سے صبر نہ ہو سکے گا، اس لئے اشارہ کرنے کی اجازت دے دی (لیکن ان سے نکاح کا معاہدہ مت کرو، مگر یہ کہ اچھی بات کہو) یعنی ایسی بات جو شرعاً اچھی ہو، مثلاً اشارہ، اس کی تمہیں اجازت ہے (اور نکاح کی گرہ کو پکانہ کرو، یہاں تک کہ عورت کا فریضہ اپنی مدت کو پہنچ جائے) یعنی پورا ہو جائے، (اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل) میں عزم وغیرہ ہے (اللہ اسے جانتے ہیں، پس اس سے ڈرو) کہ کہیں تمہارے عزم پر تم کو سزا نہ دینے لگیں، (اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ) اس شخص کی جو ان سے ڈرتا ہے (مغفرت فرمائیو، حکمت والے ہیں) عقوبت کو اس کے مستحق سے موخر کر دیتے ہیں۔

﴿ تشریحات ﴾

انقضت عدتھن :- یہاں بلغن أجلهن کے معنی عدت کے ختم ہونے کے ہیں۔

لما یخشی علی الزوجین من الریبة :- اگر چاہنے کے بعد باوجود سابق شوہر سے نکاح نہ کر دیا جائے، تو اندیشہ ہے کہ پچھلے تعلقات کی وجہ سے وہ تہمت میں نہ گرفتار ہو جائیں، اس سے بچنے کے لئے انھیں سے نکاح کر دینا چاہئے۔

أی لیرضعن ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ ﴾ :- میں یرضعن ہے تو خبر کا صیغہ، لیکن مراد اس سے امر ہے، اسی لئے مفسر نے تفسیر میں لیرضعن فرمایا، یعنی ماؤں کو چاہئے کہ اپنی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں، ماؤں کے ذمہ دودھ پلانا بعض حالات میں واجب ہے، مثلاً کوئی دودھ پلانے والی اجرت پر نہ مل رہی ہو، یا باپ کو اجرت دینے کی قدرت نہیں ہے، یا بچہ کسی اور کا دودھ قبول ہی نہیں کرتا، ان صورتوں میں دودھ پلانا ماں کا فریضہ ہے، اور اگر تینوں باتیں نہ پائی جاتی ہوں، تو ماں پر واجب نہیں ہے کہ دودھ پلائے۔

ولازیادة علیہ :- یہ اضافہ مفسر نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر رد کرنے کیلئے کیا ہے، امام صاحب کے نزدیک مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ ڈھائی سال ہے، مفسر نے فرمایا کہ دو سال سے زیادہ نہیں، حالانکہ اس اضافہ کی

کوئی معقول دلیل نہیں ہے۔

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ ای علی الاب :- مَوْلُودٌ لَهُ کا معنی یہ ہے کہ جس کے لئے بچہ ہے، مراد اس سے باپ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ کی نسبت باپ کے ساتھ مختص ہے، یعنی نسب میں باپ کی ہی طرف منسوب ہوگا، اور اس کے تمام اخراجات کا ذمہ دار باپ ہوگا، ماں والدہ ضرور ہے، لیکن نسبی اور خاندانی تعلق میں ماں کی طرف نسبت نہ ہوگی، اور نہ وہ بچے کے اخراجات میں باپ کے ساتھ شریک ہوگی۔

إِذَا كُنَّ مَطْلُقاتِ :- دودھ پلانے والی عورت کا کھانا کپڑا باپ کے ذمے ہے، دودھ پلانے والی اگر بچے کی ماں ہے، اور وہ بچے کے باپ کے نکاح میں ہے تو دودھ پلانے کی اجرت میں وہ کھانے کپڑے کی مستحق نہیں ہے بلکہ وہ بیوی ہونے کی وجہ سے نان و نفقہ کی مستحق ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے اس وقت اجرت کی مستحق ہوگی جبکہ وہ مطلقہ ہو کر باپ کے نکاح سے جدا ہوگئی ہو، عدت کی حالت میں بھی وہ اجرت رضاعت کی مستحق نہ ہوگی۔

﴿لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا﴾ بسببہ بان تکرہ علیٰ إرضاعه إذا امتنعت :- بچے کے سبب سے ماں کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنے کی اجازت نہیں ہے، مثلاً عورت کسی مجبوری اور تکلیف کے باعث دودھ پلانے سے معذرت کر رہی ہے تو اسے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یا دودھ پلانا چاہتی، مگر باپ زبردستی دوسرے کے حوالے بچے کو کرنا چاہے، تو ماں کو تکلیف ہوگی، یہ درست نہیں ہے، یا اگر ماں مطلقہ ہے اور بلا اجرت یا اجرت مثل پر دودھ پلانے کو تیار ہے، تو بغیر کسی ضروری وجہ کے اس سے بچے کو لے کر کسی اور مرضعہ کے حوالے کرنا جائز نہیں ہے۔

﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ ای بسببہ بأن یکلف فوق طاقته :- یعنی باپ کو بھی اس کے بچے کی وجہ سے کسی تکلیف میں نہ ڈالا جائے گا، مثلاً جتنی اجرت کی وہ استطاعت رکھتا ہے، اس سے زیادہ کا اسے مکلف نہ بنایا جائے گا۔

وَإِضافة الولد إلى كل منهما في الموضوعين للإستعفاف :- آیت کے پچھلے مضمون سے یہاں ایک سرسری اشکال ہو رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مولود، باپ کو قرار دیا ہے، یعنی بچے کی نسبت باپ کی طرف ہونی چاہئے، نسب اور نسبت کے استحقاق میں ماں شریک نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بچے کو ماں کی طرف بھی منسوب کیا ﴿لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا﴾ اور باپ کی طرف بھی نسبت ہے، یہ بظاہر ماسبق کے حکم کے خلاف ہے۔ اس اشکال کا مفسر نے مذکورہ بالا عبارت میں جواب دیا ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ دونوں کی طرف جو بچے کی نسبت کی ہے یہ بیان نسب اور بیان نسبت نہیں ہے، بلکہ ماں باپ دونوں کے اندر جذبہ مہربانی کو ہمیز کرنا اور ابھارنا مقصود ہے، کہ انھیں بچے کی بہتری کا خیال رکھنا چاہئے، کیونکہ وہ بچہ انھیں دونوں کا ہے۔

﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ اسی وارث الاب وهو الصبی اسی علیٰ ولیہ فی مالہ ﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾

الذی علی الاب للوالدة من الرزق والكسوة : اگر باپ موجود نہ ہو، اس کا انتقال ہو چکا ہو تو مرضعہ کی اجرت باپ کے وارث پر ہوگی، اور باپ کا وارث کون ہے؟ خود یہی بچہ ہے جس کی رضاعت مقصود ہے۔ ظاہر ہے کہ باپ کی وراثت اسے ملی ہے، اسی مال سے اجرت دی جائے گی، سوال یہ ہے کہ بچہ تو ابھی دودھ پی رہا ہے، اسے اجرت دینے کا شعور کہاں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس بچے کا کوئی ولی اور سرپرست ہوگا وہی ولی اور سرپرست بچے کے مال سے اجرت ادا کرے گا، بچے کے مال میں کتنی اجرت ہوگی؟ بس اتنی ہوگی جتنی باپ کے ذمے تھی، یعنی کھانا اور کپڑا۔

(اضافہ از شارح) ایک قول یہ بھی ہے کہ وارث سے مراد بچہ کا وارث ہے، یعنی جو لوگ بچے کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کا استحقاق رکھتے ہیں، باپ کے مرنے کے بعد ان کے ذمے مرضعہ کی اجرت ہوگی۔ حضرت شیخ الہند لکھتے ہیں کہ اگر باپ مر جائے تو وارثوں پر بھی یہی لازم ہے کہ دودھ پلانے کی مدت میں اس کی ماں کے کھانے کپڑے کا خرچ اٹھائیں اور تکلیف نہ پہنچائیں، اور وارث سے مراد وہ وارث ہے جو محرم بھی ہو۔ لیتربصن : لیتربصن کی تفسیر لیتربصن سے کرنے میں اشارہ ہے کہ لیتربصن گو کہ خبر کا صیغہ ہے، مگر معنی میں امر کے ہے۔

﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ من الیالی : چار ماہ دس راتیں، یہ دس راتیں دنوں سمیت ہیں، اہل عرب عموماً دنوں کی گنتی بتانے کیلئے لیل کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ قمری حساب میں دن کے چوبیس گھنٹے کی شروعات رات سے ہوتی ہے، ایسے موقع پر رات سے مراد صرف رات کا وقت نہیں ہے بلکہ چوبیس گھنٹے ہیں۔

وهذا فی غیر الحوامل ، أما الحوامل الخ : یہاں مفسر نے بتایا کہ عدت وفات کی اس آیت میں دو تخصیصیں ہیں، اول یہ کہ چار ماہ دس دن کا اطلاق حاملہ پر نہیں ہے، اس کی مدت سورہ طلاق میں بیان کی گئی ہے کہ وہ وضع حمل ہے۔ دوسرے یہ کہ باندی کی عدت دو ماہ پانچ دن ہے اور یہ تخصیص ایک ایسی سنت کی وجہ سے ہے جس پر علماء امت کا اجماع ہے، ان دونوں کے علاوہ پر متوفیٰ عہا زوجہا پر اس عدت کا اطلاق ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، مدخول بہا یا غیر مدخول بہا، جوان ہو یا بڑھیا، بالغ کی بیوی ہو یا نابالغ کی۔

للخطاب : خطاب، مخاطب کی جمع ہے، یعنی نکاح کا پیغام دینے والا۔

﴿وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُ وَهِنَّ سِرًّا﴾ اسی نکاحاً : لیکن تم ان سے صراحتاً نکاح کا معاہدہ نہ کرو، سراً کی تفسیر نکاحاً سے اس لئے کی، کہ نکاح ایک فعل سر یعنی وطی کا سبب ہوتا ہے، تو مسبب کا اطلاق مجازاً یہاں سبب پر ہوا، دوران عدت عورتوں سے نکاح کی گفتگو درست نہیں ہے، بس اشاروں میں اپنا ارادہ ظاہر کرنے کی اجازت ہے،

عدت کے بعد باقاعدہ پیغام اور بات چیت کی اجازت ہے۔

علیٰ عقدہ :- اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ اس کی میں مفسر نے وَلَا تَعْزَمُوا عَلٰی عَقْدِہ فرما کر اشارہ کیا کہ عزم کا صلہ علیٰ آتا ہے، اور اس جگہ علیٰ محذوف ہے، اور عقدہ النکاح منسوب بنزع الخافض ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

مطلقہ عورتوں کے سرپرستوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہو رہا ہے کہ اگر عورت کو شوہر نے تین سے کم طلاق دی اور اس کی عدت پوری ہوگئی، اور وہ شوہر کے نکاح سے بالکل علیحدہ ہوگئی، تب بھی اگر طلاق دینے والا شوہر دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہے تو تم غیرت اور عداوت کی وجہ سے انھیں باہمی نکاح سے نہ روکو، جبکہ وہ شرعی دستور کے مطابق آپس میں رضا مند ہوں، جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لئے یہ نصیحت ہے، یہ بات تمہارے لئے بھی اور زوجین کے لئے بھی بہتر ہے، کیونکہ اگر رکاوٹ پیدا کی گئی تو چونکہ سابقہ تعلقات رہ چکے ہیں، اس لئے تہمت کا اندیشہ ہے، اور مصلحتیں تو اللہ ہی جانتے ہیں، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں کیا کیا مصلحتیں اور حکمتیں ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ رضاعت کے سلسلے میں ہدایت فرماتے ہیں کہ اگر باپ چاہتا ہے کہ بچے کی مدت رضاعت پوری کرے، تو ماؤں کو چاہئے کہ پورے دو سال دودھ پلائیں، خواہ عورت نکاح میں ہو یا مطلقہ ہو چکی ہو، دودھ پلانے کے دوران وہ بچے کے باپ کی طرف سے کھانے اور کپڑے کی مستحق ہوگی، اگر مطلقہ ہے تو بطور اجرت کے مستحق ہوگی اور اگر منکوحہ ہے تو نکاح کی وجہ سے نان و نفقہ پائے گی، اور اجرت و نفقہ باپ کی استطاعت کے بقدر لازم ہوگا، کیونکہ دستور خداوندی ہے کہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا جاتا، اور اگر کسی معقول عذر کی بنا پر ماں دودھ پلانے سے معذرت کرے تو اسے اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس سے عورت ضرر میں مبتلا ہوگی، اور اولاد کی وجہ سے والدہ کو ہرگز تکلیف نہیں دی جائے گی، اسی طرح باپ کو اولاد کی وجہ سے ضرر میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، مثلاً اس کی وسعت سے زیادہ اجرت نہیں مقرر کی جائے گی، اور اگر باپ موجود نہ ہو، اس کا انتقال ہو گیا ہے تو جو باپ کا، اور ایک قول کے مطابق بچے کا وارث ہوگا، اس پر رضاعت کی اجرت بقدر استطاعت ہوگی، اور اگر وقت مقررہ سے پہلے ہی کسی مصلحت سے بچے کا دودھ دونوں باہمی مشورہ سے چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر بچے کا باپ اس کی ماں کے علاوہ کسی اور مرضعہ کا دودھ کسی خاص مصلحت کی بنا پر پلانا چاہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بس یہ ہے کہ ان کی اجرت پوری پوری ادا کر دی جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، یہ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔

اور وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی عدت چار ماہ دس دن ہے، بشرطیکہ وہ حاملہ نہ ہوں، اور باندی نہ ہوں، اگر حاملہ ہوں گی تو ان کی عدت وفات وضع حمل ہے، اور اگر باندی ہیں تو ان کی عدت وفات دو ماہ پانچ دن ہے، جب یہ عدت پوری ہو جائے تو وہ اگر نکاح کی تیاری کریں تو کچھ حرج نہیں۔ عدت کے دوران عورتوں سے نکاح کی گفتگو کرنی، انھیں نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے، البتہ اشارہ کنایہ میں نکاح کی خواہش کا ان سے اظہار کر دینا جائز ہے، یا کوئی دل میں یہ ٹھانے ہوئے ہے کہ عدت ختم ہونے پر نکاح کا پیغام دوں گا، تو اس میں بھی حرج نہیں، البتہ دوران عدت نکاح کا بالتصریح پیغام دینا درست نہیں ہے، جب تک عدت پوری نہ ہو جائے ہرگز نکاح نہ کرو، اور نہ اس کی بات چلاؤ، خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی بات جانتے ہیں، اور وہ غفور و حلیم ہیں۔



﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ﴾ وفي قراءة تما سوهن أي تجمعوهن ﴿أَوْ﴾ لم ﴿تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ مهراً ومصدرية ظرفية أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض باثم ولا مهر فطلقوهن ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ﴾ أي أعطوهن ما يمتنع به ﴿عَلَى الْمُوسِعِ﴾ الغنى منكم ﴿قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ﴾ الضيق الرزق ﴿قَدْرُهُ﴾ يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة ﴿مَتَاعًا﴾ تمتيعاً ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ شرعاً صفة متاعاً ﴿حَقًّا﴾ صفة ثانية أو مصدر مؤكد ﴿عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ المطيعين ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ يجب لهن ويرجع لكم النصف ﴿إِلَّا﴾ لكن ﴿أَنْ يَعْفُونَ﴾ أي الزوجات فيتركه ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ وهو الزوج فيترك لها الكل وعن ابن عباس الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك ﴿وَأَنْ تَعْفُوا﴾ مبتدأ خبره ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ أي أن يتفضل بعضكم على بعض ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فيجازيكم به ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ الخمس بأدائها في أوقاتها ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ هي العصر كما في الحديث رواه الشيخان أو الصبح أو الظهر أو غيرها أقوال وأفردها بالذكر لفضلها ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ﴾ في الصلوة ﴿قَانِتِينَ﴾ قيل مطيعين لقوله ^{صلى الله عليه وسلم} كل قنوت في القرآن فهو طاعة رواه أحمد وغيره، وقيل ساكتين لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلوة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه الشيخان ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ من عدو أو سيل أو سبع ﴿فَرَجَالًا﴾ جمع راجل مشاة صلوا ﴿أَوْ رُكْبَانًا﴾ جمع راكب أي

کیف أمکن مستقبلی القبلة و غیرها ویؤمی بالركوع والسجود ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ من الخوف ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ ای صلّوا ﴿كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ قبل تعلیمه من فرائضها و حقوقها و الکاف بمعنی مثل و ماموصولة أو مصدرية ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ فلیوصوا ﴿وَصِيَّةً﴾ و فی قراءه بالرفع ای علیهم ﴿لأَزْوَاجِهِمْ﴾ و یعطوهم ﴿مَتَاعًا﴾ ما یتمتعن به من النفقة و الکسوة ﴿إِلَى﴾ تمام ﴿الْحَوْلِ﴾ من موتهم الواجب علیهن تربصه ﴿غَيْرِ إِخْرَاجٍ﴾ حال ای غیر مخرجات من مسکنهن ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ بأنفسهن ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ یا اولیاء المیت ﴿فَإِذَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ﴾ شرعاً کالتزین و ترک الاحداد و قطع النفقة عنها ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ فی ملکه ﴿حَكِيمٌ﴾ فی صنعه و الوصیه المذكورة منسوخة بآیه المیراث و تربص الحول بآیه أربعة أشهر و عشرًا السابقة المتاخرة فی النزول، و السکنی ثابتة لها عند الشافعی ﴿وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ﴾ یعطونه ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ بقدر الامکان ﴿حَقًّا﴾ نصب بفعله المقدر ﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ اللہ کرره ليعم الممسوسة أيضاً إذ الآية السابقة فی غيرها ﴿كَذَلِكَ﴾ كما بین لكم ما ذکر ﴿يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ تتدبرون.

ترجمہ

(اگر تم عورتوں کو ایسے وقت میں طلاق دو، جبکہ تم نے انھیں ہاتھ نہیں لگایا ہے) ایک قرأت میں تم اسوہن ہے، یعنی تم نے جماع نہیں کیا (یا تم نے ان کے لئے فریضہ) یعنی مہر کو نہیں (متعین کیا ہے) ما مصدریہ ہے (تو تم پر کچھ مضائقہ نہیں) یعنی جب عورت سے صحبت نہ ہوئی ہو اور مہر مقرر نہ ہوئی، تو طلاق دینے میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ مہر کا مطالبہ ہے، تو تم انھیں طلاق دے سکتے ہو (اور انھیں متعہ دو) یعنی کچھ ایسا سامان دو جس سے وہ فائدہ حاصل کریں (وسعت والے پر) جو تم میں سے مالدار ہیں (وسعت کے بقدر، اور تنگی والے) یعنی تنگ روزی والے (پر اس کے بقدر) ضروری (ہے) اس سے معلوم ہوا کہ اس میں عورت کی حیثیت کا لحاظ نہیں ہے (دستور) شریعت (کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے) بالمعروف ترکیب میں متاعاً کی صفت ہے (فرمانبرداروں پر واجب ہے) حقاً، متاعاً کی صفت ثانیہ ہے، یا مصدر موكد ہے یعنی مفعول مطلق ہے، جو تاکید کیلئے آیا ہے (اور اگر تم نے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی اور ان کے لئے فریضہ مقرر کیا تھا، تو مقررہ فریضہ کا نصف) ان کے لئے واجب ہوگا، اور باقی نصف تم کو واپس ہوگا (مگر یہ کہ وہ درگزر کریں) یعنی بیویاں اسے چھوڑ دیں (یا وہ شخص درگزر کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے) اور وہ شخص شوہر ہے، یعنی شوہر پوری

مہر عورت کو دیدے اور واپس نہ لے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عورت اگر مجبور ہے تو ولی، وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اس سلسلے میں کوئی تنگی نہیں ہے (اور درگزر کرنا) أن تعفوا مبتدا ہے، اس کی خبر أقرب الخ ہے (تقویٰ کے قریب تر ہے، اور آپس میں احسان کرنے کو نہ بھولو) یعنی تم میں ایک دوسرے پر احسان کرنے کو نہ بھولے (بے شک جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں) تمہیں اس کی جزا دیں گے، پانچوں (نمازوں کی حفاظت کرو) یعنی ان کے اوقات پر ادا کرو، اور صلوٰۃ وسطیٰ کی (حفاظت کرو، وہ عصر کی نماز ہے، یا فجر کی، یا ظہر کی، یا اس کے علاوہ، چند اقوال ہیں، صلوٰۃ وسطیٰ کو علیحدہ اس کی خاص فضیلت کی وجہ سے ذکر کیا (اور اللہ کے لئے) نماز میں (قانت ہو کر کھڑے ہو) قانت کے معنی، کہا گیا ہے کہ فرمانبردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم میں جو بھی قنوت کا لفظ آیا ہے وہ طاعت ہے، اسے امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی خاموش رہنے کے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا، اور بات کرنے سے منع کر دیا گیا، اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے (پس اگر تم کو) دشمن یا سیلاب یا درندے کا (خطرہ ہو تو پیدل چلتے ہوئے (رجال، راجل کی جمع ہے، یعنی پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھو) یا سوار ہونے کی حالت میں) ر کبان، راکب کی جمع ہے، یعنی جیسے بھی ممکن ہو خواہ استقبال قبلہ ہو یا نہ ہو، رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے (پھر جب تم) خوف سے (بے خطر ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو) یعنی نماز پڑھو (اسی طریقے پر جیسا کہ تم کو سکھایا ہے جسے تم) اس کی تعلیم سے پہلے (نہیں جانتے تھے) یعنی نماز کے فرائض اور حقوق، اور کاف مثل کے معنی میں ہے، اور ما مصدریہ ہے، یا یہ کہ موصولہ ہے (اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں) انھیں چاہئے کہ وصیت کر جائیں (وصیت کرنا) اور ایک قرأت میں وصیۃ رفع کے ساتھ ہے، تب یہ مبتدا ہے اور علیہم اس کی خبر محذوف ہے (اپنی بیویوں کے لئے) اور انھیں (فائدہ حاصل کرنے کا سامان) دیدیں یعنی نفقہ اور کپڑا (سال) کے پورا ہونے (تک) یعنی مرنے کے وقت سے سال مکمل ہونے تک.... یہی عدت ان پر واجب تھی.... (گھر سے نکالے بغیر) یہ حال ہے، یعنی ان کے گھروں سے انھیں اس مدت میں نکالا نہیں جائے گا (پس اگر وہ خود نکل جائیں تو) اے اولیاء میت (تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو وہ اپنے سلسلے میں شرع کے مطابق کریں) مثلاً زینت اختیار کرنا، سوگ کو موقوف کرنا، اور ان سے نفقہ کا منقطع ہو جانا (اور اللہ) اپنے ملک میں (غلبہ والے) اپنے کام میں (حکمت والے ہیں) مذکورہ وصیت آیت میراث سے منسوخ ہے، اور ایک سال کی عدت اربعۃ اشھر و عشراً کی آیت سے منسوخ ہے، جو پہلے گذر چکی ہے اور وہ نزول میں مؤخر ہے، اور سکنی اس کے لئے امام شافعی کے نزدیک ثابت ہے (مطلقہ عورتوں کے لئے سامان ہے) جو وہ دیں گے (دستور کے مطابق) یعنی

حسب استطاعت (ضروری ہے) حقاً مفعول مطلق ہے، اس کا فعل مقدر ہے (اہل تقویٰ پر) جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اسے دوبارہ ذکر کیا تاکہ مدخول بہا بھی اس کے عموم میں آجائے، کیونکہ پچھلی آیت غیر مدخول بہا کے حق میں تھی (ایسے ہی) جیسا کہ مذکورہ چیزیں بیان کیں (اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات بیان کرتے ہیں، شاید تم لوگ عقل سے کام لو) یعنی غور و تدبر کرو۔

﴿تشریحات﴾

وفی قراءۃ تماسوہن :- اس اضافہ کا مقصد بیان قرأت کے ساتھ تمسوہن کی تفسیر بھی ہے، مس ہاتھ سے چھونے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مالم تمسوہن میں ہاتھ سے چھونا مراد نہیں ہے بلکہ جماع مراد ہے، جو تماسوہن کا مفہوم ہے۔

﴿أَوْ﴾ لم ﴿تَفْرِضُوا لِهِنَّ فَرِيضَةً﴾ : ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لِهِنَّ فَرِيضَةً﴾ کا عطف تمسوہن پر ہے، اور یہ دونوں فعل لم حرف نفی جازم کے ماتحت ہیں، اس لئے مفسر نے تفرضوا سے پہلے لم کو ظاہر کر دیا، اور اودو چیزوں میں سے ایک کے لئے آتا ہے، اور یہی جب نفی کے تحت آتا ہے تو دونوں کو عام ہو جاتا ہے، اس لئے مطلب یہ ہوا کہ جب مساس بھی نہ ہو اور مہر بھی مقرر نہ ہوئی ہو اور طلاق ہو گئی ہو، تو مرد پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ اس سے مہر کا مطالبہ ہے، اور اگر مساس ہو، اور مہر متعین نہ کی گئی، تو مہر مثل واجب ہوگی، یا مساس نہ ہو، لیکن مہر متعین ہوئی تھی تو طلاق کی صورت میں نصف مہر واجب ہوگی۔

فطلّقوہن و متّعوہن :- قرآن پاک میں و متّعوہن واو حرف عطف کے ساتھ ہے، اس کا تقاضا ہے کہ کوئی معطوف علیہ ہو، اور ما قبل میں کوئی ایسا لفظ صراحۃً نہیں ہے، جس پر اس کا عطف ہو سکے، تو مقابل کے جملے سے فعل فطلّقوہن مقدر مانا، جو کہ معطوف علیہ ہوگا اور متّعوہن کا اس پر عطف ہوگا۔

متعہ سے مراد کپڑوں کا جوڑا ہے، جو عورت کی تطیب قلب کے لئے مرد کی جانب سے دیا جائے گا۔

یفید أنه لا نظر إلى قدر الزوجة :- ﴿عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ متعہ دینے میں عورت کی حیثیت کا اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ بات امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک ضعیف ہے، ان کے نزدیک قاضی دونوں کی حیثیت دیکھ کر فیصلہ کرے گا۔

تمتبعاً :- متاعاً کی تفسیر میں تمتبعاً لانا، اشارہ ہے کہ متاعاً جو کہ حاصل مصدر ہے وہ مصدر یعنی مفعول مطلق کے معنی میں ہے۔

فیتسرک لها الكل :- اہل عرب کی عادت یہ تھی، اور یہی شرعاً پسندیدہ بھی ہے کہ نکاح کے وقت ہی پوری مہرا دا کر دیتے تھے، اسی بنا پر مفسر نے فرمایا کہ شوہر عورت کے پاس پوری مہر چھوڑ دے، کچھ واپس نہ لے۔

الوسطیٰ:۔ یہ اس اوسط کے معنی میں نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ترتیب میں کوئی چیز دو چیزوں کے درمیان ہو، بلکہ وسطیٰ اسم تفضیل مونث ہے، جس کے معنی بہتر اور عمدہ کے ہیں۔

أو غیرها:۔ ایک قول مغرب کی نماز کے متعلق بھی ہے، ایک قول میں عشاء کی نماز کو بتایا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ نماز جنازہ ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لا علی التعیین پانچوں نمازوں میں سے ایک ہے، لیکن احادیث میں جتنے اہتمام سے عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید آئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز ہی صلوٰۃ وسطیٰ ہے۔ واللہ اعلم

أی کیف أمکن:۔ مطلب یہ ہے کہ فرجالاً اور رکباناً کے مجموعے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خوف کے وقت میں بھی نماز کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی، بلکہ نماز پڑھنی ضروری ہے، جیسے بھی ممکن ہو، خواہ استقبال قبلہ ہو سکے یا نہ ہو سکے، رکوع سجدہ کرنے کی گنجائش نہ ہو، تو اشارہ سے کام لے، مگر پڑھے ضرور! نماز، خوف کا یہ ایک طریقہ ہے، اس کے اور بھی طریقے ہیں، کچھ ذکر سورہ نساء میں آئے گا۔

الكاف بمعنی مثل:۔ کاف حرف تشبیہ ہے، لیکن یہ معنی اسم ہے، مثل کے معنی میں، اس لئے کہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے، تقدیر عبارت یوں ہے: فصلوا صلوٰۃ مثل الصلوٰۃ التي علمکم، یعنی اس جیسی نماز پڑھو جیسی تمہیں سکھائی ہے۔

مامصدرية أو موصولة:۔ کما علمکم میں مامصدریہ ہے یا موصولہ ہے، اس صورت میں عائد محذوف ہے، یعنی کما علمکم وہ، اور دوسرا موصولہ ہونے کی صورت میں پہلے ما کا بدل ہے، یا عائد محذوف کا بدل ہے، اور مامصدریہ ہونے کی صورت میں دوسرا ما علم کا مفعول بہ ہوگا۔

فلیو صوا:۔ وصیة مفعول مطلق ہے، اس کا عامل محذوف ہے، یعنی فلیو صوا۔

ويعطوہن:۔ مفسر نے وصیة کے منصوب ہونے کی صورت میں اس کے عامل فلیو صوا کو مقدر مانا تھا، و يعطوہن اسی یو صوا امر پر معطوف ہے، اس لئے وہ بھی امر ہی کا صیغہ ہے اور مجزوم ہے، اور متاعاً اس کا مفعول ہے۔

مايتمتعن:۔ یہ متاع کی تفسیر ہے، یعنی وہ سامان جس سے وہ سال بھر مستفید ہوں، یہ تین چیزیں ہیں، کھانا، کپڑا اور مسکن۔

من موتہم الواجب علیہن ترصہ:۔ یہ ایک سال کی عدت ہے، جس کی ابتداء شوہر کی موت کے وقت سے ہے، سال بھر تک بیویاں شوہر کے مکان میں رہیں گی، انھیں کھانا کپڑا ملے گا، اتنی مدت ان کی عدت اور سوگ کی ہوگی۔

﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ بأنفسهن :- حکم یہ تھا کہ ایک سال تک بیوہ عورت کو شوہر کے گھر سے نکالنا نہ جائے، اگر شوہر کے ورثہ نے اسے سال بھر سے پہلے نکال دیا تو گنہگار ہوں گے، اور وہ نفقہ کی مستحق ہوگی، لیکن خود عورت کو اختیار تھا کہ وہ اپنی مرضی سے شوہر کا گھر ورثہ کے حق میں خالی کر دے تو اگر وہ خود نکل جائے تو اس کا نفقہ اور کسواہ ساقط ہو جائے گا، البتہ نکاح کی ممانعت سال تمام ہونے تک بدستور تھی۔

کالتزین وترک الاحداد و قطع النفقة عنها :- سال تمام ہونے سے پہلے اگر شوہر کا گھر بیوہ نے چھوڑ دیا تو سوگ کے ترک کر دینے، زینت کی چیزیں استعمال کرنے اور نفقہ کے بند ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
والوصية المذكورة منسوخة :- عدت کا یہ طریقہ مزید کچھ اور پابندیوں کے ساتھ عہد اسلام سے پہلے رائج تھا، ابتداء میں اسے برقرار رکھا گیا، پھر جب تقسیم میراث کی آیات نازل ہوئیں تو عورت کے حق میں وصیت کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا، اب تو یہ اللہ کے حکم سے شوہر کی جائداد میں حصہ پاتی ہیں، اس لئے وصیت کی محتاج نہ رہیں۔
اور ایک سال کی عدت بھی منسوخ ہو گئی، اس کے بجائے قرآن کریم نے چار ماہ دس دن کا حکم دیا، زیر بحث آیت نزول میں اس آیت سے مقدم ہے، جس میں چار ماہ دس دن کی عدت متعین کی گئی ہے۔

والسكنى ثابتة لها عند الشافعي :- امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک متوفی عنہا زوجہا کے لئے سکنی کا وجوب ثابت ہے، لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ زیر بحث آیت میں سکنی جو واجب ہے وہ سال بھر کے لئے ہے، یہ سکنی یقیناً منسوخ ہے، اور جو سکنی واجب ہے صرف وہ چار ماہ دس دن کا ہے، کیونکہ عدت کے دوران میں من وجہ نکاح قائم رہتا ہے، اس لئے وہ اس مدت میں نکاح کرنا تو درکنار، نکاح کا پیغام بھی قبول نہیں کر سکتی، پس اس دوران سکنی واجب ہوگا، اگر اس کی وراثت میں رہنے کے بقدر مکان حاصل ہو گیا تو تب تو اسی میں رہے گی، ورنہ ورثہ کے ذمہ ہے کہ اسے چار ماہ دس دن شوہر کے مکان میں رہنے دیں۔

کرره ليعم الممسوسة أيضاً :- حق تعالیٰ نے مطلقہ عورت کو متعہ دینے کا حکم ابتداء رکوع میں دیا ہے، پھر آخر رکوع میں اسی حکم کو مکرر ارشاد فرما رہے ہیں، اس تکرار کی توجیہ مفسر نے یہ فرمائی ہے کہ ابتداء متعہ دینے کا حکم جو دیا گیا ہے، اس کا تعلق اس عورت سے ہے جس کو شوہر نے ہاتھ نہ لگایا ہو، اور اس کی مہر مقرر نہ کی گئی ہو، یہاں اس خاص عورت کے علاوہ دوسری مطلقات کو بھی متعہ کے حکم میں شامل کیا گیا ہے، کسی کے حق میں متعہ واجب ہوگا، کسی کے حق میں مستحب، کسی کے حق میں کپڑے کا جوڑا ہوگا، کسی کے حق میں نصف مہر کی صورت میں متعہ ہوگا۔
تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اس رکوع میں طلاق کے سلسلے میں مزید ہدایات دی گئی ہیں، فرمایا کہ اگر عورت کو اس حال میں طلاق دی

گئی کہ شوہر نے نہ اسے ہاتھ لگایا ہے، اور نہ اس کی مہر عقد نکاح میں متعین کی گئی تھی، تو اس طلاق میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت کی طرف سے مہر کا مطالبہ نہ ہوگا، البتہ اس عورت کو متعہ یعنی کپڑوں کا جوڑا دینا واجب ہوگا، جتنی وسعت ہو اس کے بقدر متعہ دیا جائے گا، اور اگر طلاق ہاتھ لگانے سے پہلے ہی دی گئی ہے، لیکن مہر کی تعیین ہو چکی تھی تو آدھی مہر کی عورت مستحق ہوگی، اور آدھی مہر شوہر کے حق میں مسلم ہوگی، ہاں دونوں میں سے اگر کوئی ایثار سے کام لے، یعنی شوہر پوری مہر ادا کر دے، یا عورت کل چھوڑ دے، تو یہ تقویٰ کی بات ہے، اور آپس میں احسان و ایثار کرنا اچھی بات ہے، اسے نہیں بھولنا چاہئے۔ اور دیکھو حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ حقوق اللہ کی بھی پوری نگہداشت رکھو، پانچوں نمازوں کا اہتمام رکھو، ہر نماز کو اس کے وقت پر تمام آداب و شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرو، اور خاص طور سے صلوٰۃ و سطلی کا اہتمام کرو، اور نماز میں خشوع و خضوع اور وقار و اطمینان سے کھڑے ہو، اور اگر تمہیں دوران نماز دشمن یا درندہ یا سیلاب وغیرہ کا اندیشہ ہو، تو جس طرح ممکن ہو، چلتے ہوئے یا سواری پر قبلہ رُویا اس کے بغیر بہر حال نماز ادا کرو، اور حالت اطمینان میں اصل طریقے کے مطابق ادا کرو۔

اور ہاں جن شوہروں کی وفات ہو جائے تو وہ اپنی بیویوں کے لئے اپنے مال میں اور گھر میں سال بھر کی وصیت کر جائیں کہ انہیں ان کے مکان میں رہنے دیا جائے، اور انہیں کھانا کپڑا ملتا رہے، البتہ اگر وہ از خود سال بھر سے پہلے مکان چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتی ہیں، اور مکان چھوڑنے کے بعد انہیں حق ہے کہ سوگ وغیرہ ترک کر دیں، اور جو زینت شرعاً جائز ہے اسے اختیار کریں، البتہ سال گزرنے سے پہلے نکاح نہیں کر سکتیں، سال بھر والی وصیت کا حکم منسوخ ہے، اور سال بھر کی عدت بھی منسوخ ہے، تفصیل گذر چکی ہے۔

اور جو بھی عورت مطلقہ ہو، اس کے لئے متعہ کا استحقاق ہے، اللہ تعالیٰ نے آیات و احکام کو بیان کر دیا ہے، تاکہ تم غم و توبہ سے کام لو۔



﴿الْم تَرَ﴾ استفہام تعجب و تشویقِ اِلٰی اِسْتِمَاعِ مَا بَعْدَهُ اٰی لَمْ یَنْتَہِ عِلْمُکَ ﴿اِلٰی اَلَّذِیْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ اَلْوَفَّ﴾ اَرْبَعَةٌ اَوْ ثَمَانِیَةٌ اَوْ عَشْرَةٌ اَوْ ثَلَاثُونَ اَوْ اَرْبَعُونَ اَوْ سَبْعُونَ اَلْفًا ﴿حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ مَفْعُولٌ لِّهٖ وَهَمَّ قَوْمٌ مِنْ بَنِیْ اِسْرَائِیْلِ وَقَعَ الطَّاعُونَ بِبِلَادِهِمْ فَفَرُّوْا ﴿فَقَالَ لَهُمْ اللّٰهُ مُوْتُوْا﴾ فَمَاتُوْا ﴿ثُمَّ اَحْیَاهُمْ﴾ بَعْدَ ثَمَانِیَةِ اَیَّامٍ اَوْ اَكْثَرَ بِدَعَاۤءِ نَبِیِّهِمْ حَزَقِیْلَ بَكْسَرَ الْمَهْمَلَةَ وَالْقَافِ وَسَكُوْنَ الزَّیِّ فَعَاشَوْا دَهْرًا عَلَیْهِمْ اَثَرُ الْمَوْتِ لَا یَلْبَسُوْنَ ثَوْبًا اِلَّا عَادَ كَالْكَفَنِ وَاسْتَمَرَّتْ فِیْ اَسْبَاطِهِمْ ﴿اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَی النَّاسِ﴾ وَ مِنْهُ اِحْیَاءٌ هٰؤُلَاءِ ﴿وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ﴾ وَهَمَّ الْكُفَّارِ ﴿لَا یَشْكُرُوْنَ﴾ وَالْقَصْدُ مِنْ ذِکْرِ خَبْرِ هٰؤُلَاءِ تَشْجِیْعِ الْمُؤْمِنِیْنَ عَلٰی

القتال ولذا عطف عليه ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أى لإعلاء دينه ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لأقوالكم ﴿عَلِيمٌ﴾ بأحوالكم فيجازيكم ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ﴾ بإنفاق ماله فى سبيل الله ﴿قَرُضًا حَسَنًا﴾ بأن ينفقه الله تعالى عن طيب قلبه ﴿فِيضِعْفَهُ﴾ وفى قراءة ﴿فِيضِعْفَهُ﴾ بالتشديد ﴿لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ من عشر إلى أكثر من سبعمائة كما سيأتى ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ﴾ يمسك الرزق عمن يشاء إبتلاءً ﴿وَيَبْسُطُ﴾ يوسع لمن يشاء امتحاناً ﴿وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ﴾ فى الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ﴾ الجماعة ﴿مَنْ بَنَى إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ﴾ موت ﴿مُوسَى﴾ أى إلى قصتهم وخبرهم ﴿إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ﴾ هو شمويل ﴿بُعْثْ﴾ أقم ﴿لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ﴾ معه ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ تنتظم به كلمتنا و نرجع إليه قال النبي لهم ﴿هَلْ عَسَيْتُمْ﴾ بالفتح والكسر ﴿إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا﴾ خبر عسى والاستفهام لتقرير التوقع بها ﴿قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا﴾ بسببهم وقتلهم وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت أى لا مانع لنا منه مع وجود مقتضيه قال تعالى ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا﴾ عنه وجبنوا ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأتى ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ فيجازيهم وسأل النبي ربه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ﴾ كيف ﴿يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ﴾ لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة وكان دباغاً أو راعياً ﴿وَلَمْ يُوْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ﴾ يستعين بها على إقامة الملك ﴿قَالَ﴾ النبي لهم ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ﴾ إختياره للملك ﴿عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً﴾ سعة ﴿فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ وكان أعلم بنى اسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقاً ﴿وَاللَّهُ يُوتِي مَلِكَهُ مَن يَشَاءُ﴾ إيتاءه لا اعتراض عليه ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ فضله ﴿عَلِيمٌ﴾ بمن هو اهل له ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ﴾ لما طلبوا منه آية على ملكه ﴿إِنَّ آيَةَ مَلِكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ﴾ الصندوق كان فيه صور الانبياء أنزله الله تعالى على آدم واستمر إليهم فغلبتهم العمالقة عليه وأخذوه وكانوا يستفتحون به على عدوهم ويقدمونه فى القتال ويسكنون إليه كما قال تعالى ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ﴾ طمانينة لقلوبكم ﴿مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ﴾ أى تركاه وهو نعلاموسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز من المن الذى كان ينزل عليهم ورضاض الالواح ﴿تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ حال من فاعل ياتيكم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّكُمْ﴾ على ملكه ﴿إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿فَحَمَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّىٰ وَضَعَتْهُ عِنْدَ طَالُوتَ فَاقْرَبُوا بِمَلِكِهِ وَتَسَارَعُوا إِلَى الْجِهَادِ فَاخْتَارَ مِنْ شَبَانِهِمْ سَبْعِينَ أَلْفًا -

ترجمہ

(کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟) یہ استفہام اس لئے ہے کہ بعد میں آنے والے مضامین کا دل میں اشتیاق پیدا ہو، اور ان پر تعجب ہو، یعنی کیا تم کو ان لوگوں کا علم نہیں ہوا (جو اپنے گھروں سے موت کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے) یہ چار ہزار یا آٹھ ہزار یا دس ہزار، یا تیس ہزار یا چالیس ہزار یا ستر ہزار تھے، حذر الموت مفعول لہ ہے، یہ لوگ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، ان کے علاقے میں طاعون پھیلا تو یہ لوگ گھروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے (پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا کہ مر جاؤ) وہ سب مر گئے (پھر ان کو) آٹھ دن یا کچھ اور زیادہ دنوں کے بعد ان کے نبی حزقیل ”حا کے کسرہ، زا کے سکون اور قاف کے کسرہ کے ساتھ“ کی دعا سے (زندہ کر دیا) پھر ایک زمانہ تک زندہ رہے، اور ان کے اوپر موت کے اثرات نمایاں رہے، جو بھی کپڑا پہنتے وہ کفن جیسا ہو جاتا، اور یہ بات ان کی اولاد میں بھی قائم رہی (بلاشبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل فرمانے والے ہیں) اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو پھر زندہ کر دیا (لیکن اکثر لوگ) یعنی کفار (شکر گزار نہیں ہوتے) ان لوگوں کے اس واقعہ کو ذکر کرنے کا مقصد مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کرنا ہے اور ان میں بہادری پیدا کرنا ہے، اسی لئے اس پر اگلے جملہ کا عطف کیا (اور اللہ کی راہ میں یعنی ان کے دین کی سربلندی کیلئے) (لڑو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو (سننے والے) تمہارے احوال کو (جاننے والے ہیں) پس تم کو جزا دیں گے) (کون ہے جو) اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر کے (اللہ کو قرض حسن دے) یعنی خوشی دل سے اللہ کے لئے مال خرچ کرے (تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر دیں گے) دس گنے سے سات سو گنے سے زائد تک جیسا کہ آرہا ہے، اور ایک قرأت میں باب تفعیل سے ہے، یعنی فَيُضَعِّفُهُ (اور اللہ تعالیٰ) جس سے چاہتے ہیں روزی امتحاناً (روک لیتے ہیں، اور) جس کے لئے چاہتے ہیں امتحاناً (پھیلا دیتے ہیں، اور انھیں کی جانب تم) آخرت میں دوبارہ زندہ کئے جانے کے بعد (لوٹائے جاؤ گے) تو تمہارے اعمال کا بدلہ دیں گے۔

(کیا تم نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جو موسیٰ کے بعد) یعنی ان کے مرنے کے بعد (تھا، نہیں دیکھا) یعنی ان کے واقعے اور خبر کو نہیں جانا (جبکہ انھوں نے اپنے نبی) شمویل (سے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ) جس کے ساتھ مل کر (ہم اللہ کے راستے میں لڑیں) اس بادشاہ کی وجہ سے ہمارے معاملہ کا انتظام ہو، اور ہم اس کی طرف رجوع کریں، ان سے نبی نے (کہا: کیا ممکن ہے کہ تم پر اگر قتال فرض کر دیا جائے، تو تم نہ لڑو) عسیتم سین کے فتح اور کسرہ کے ساتھ ہے، ألا تقاتلو، عسیتم کی خبر ہے، اور استفہام

تقریری ہے، یعنی تم سے اسی بات کا اندیشہ ہے (انہوں نے کہا اور ہم کو کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم اپنے گھروں سے اور اپنی اولادوں سے نکال دیئے گئے ہیں) یعنی ان کے گرفتار ہونے اور قتل ہونے کی وجہ سے، ان کے ساتھ یہ سلوک قوم جالوت نے کیا تھا، یعنی ہمارے لئے اس قتال سے کوئی چیز مانع نہیں ہے، بلکہ اس کا مقتضی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا (پس جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان لوگوں نے) اس سے (رُوگردانی کی) اور بزدلی دکھائی (بجز ان میں سے تھوڑے کے) اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے طالوت کے ساتھ ندی پار کی تھی، جیسا کہ آگے آرہا ہے (اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے باخبر ہیں) انہیں ظلم کی سزا دیں گے۔

پھر نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو نامزد کر کے ان کی دعا قبول فرمائی (اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، وہ کہنے لگے اس کی ہم پر حکومت کیسے ہوگی، حالانکہ حکومت کے ہم زیادہ حق دار ہیں) کیونکہ وہ شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، اور نہ نبوت کے خاندان سے، وہ دباغ تھے، یا یہ کہ چرواہے تھے (اور انہیں مال کی فراوانی بھی نصیب نہیں ہے) جس سے اقامت حکومت میں مدد ملتی، نبی نے ان سے کہا (بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت کے لئے) منتخب فرمایا ہے، اور اس کو علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے) اس وقت بنی اسرائیل میں وہ سب سے بڑے عالم بھی تھے، اور جسم و جثہ کے اعتبار سے بھی مکمل تھے (اور اللہ جسے دینا چاہتے ہیں حکومت عطا فرماتے ہیں) ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے (اور اللہ وسیع) فضل والے (باخبر ہیں) کہ کون اس کا اہل ہے (اور) انہوں نے جب ان کی حکومت پر نشانی کا مطالبہ کیا تو (توان سے ان کے نبی نے کہا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا) جس میں انبیاء کی تصویریں ہیں، اللہ نے اسے آدم علیہ السلام کے پاس اتارا تھا، اور بنی اسرائیل میں وہ برابر رہا، پھر عمالقہ کا اس پر غلبہ ہو گیا، اور وہ اس تابوت کو لے گئے۔ اس تابوت کے واسطے سے وہ لوگ دشمن کے خلاف دعا کرتے تھے اور جنگ میں اسے آگے رکھتے تھے اور اس کے سائے میں انہیں اطمینان ہوتا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے) یعنی اطمینان قلب ہے (اور جو چیزیں آلِ موسیٰ اور آلِ ہارون نے چھوڑی تھیں، ان کے کچھ بچے کھچے آثار ہیں) یعنی خود موسیٰ اور ہارون نے جو چیزیں چھوڑی تھیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوتا، ان کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، من و سلویٰ کا کچھ حصہ اور آسمانی تختیوں کے کچھ ٹکڑے تھے (فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے) یہ باتیکم کے فاعل سے حال ہے (بے شک اس میں تمہارے لئے نشانی ہے) اس کی حکومت پر (اگر تم ایمان رکھتے ہو) چنانچہ فرشتے زمین و آسمان کے درمیان اٹھا کر اسے لے آئے اور وہ دیکھ رہے تھے، فرشتوں نے اسے طالوت کے پاس رکھ دیا، تب ان لوگوں نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا، اور جہاد کی طرف دوڑے، انہوں نے بنی اسرائیل میں سے ستر ہزار

جوانوں کا انتخاب کیا۔

﴿ تشریحات ﴾

استفہام تعجیب و تشویق :- الم تر میں مقصود استفہام نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آگے آنے والے واقعہ کے سننے کا اشتیاق پیدا ہو، نیز واقعہ حیرت ناک ہے، اس لئے تعجب انگیزی بھی مقصود ہے، پھر یہ بھی ہے کہ یہ الم تر افعال قلوب میں ہے جو کہ علم کے معنی میں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ علم کا صلہ الی نہیں آتا، بلکہ وہ بغیر صلہ کے متعدی ہوتا ہے، اور یہاں الی الذین، الی کے ساتھ ہے، بظاہر یہ قرینہ اس بات کا ہے کہ یہاں رویت بصری مراد ہے، مگر رویت بصری والا معنی یہاں ممکن نہیں، کیونکہ واقعہ بہت پہلے کا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لفظی قرینہ رویت بصری کا ہے، اور معنوی قرینہ علم کا ہے، مگر اس کے ساتھ الی کا آنا محل نظر ہے۔

مفسر نے اس اشکال کو اس طرح حل کیا ہے کہ لم ینتہ علمک الی الذین، الی کے لفظ نے علم کے اندر انتہاء کے معنی کی تضمین کر دی ہے، اور انتہاء کا صلہ الی آتا ہے، پس اشکال نہیں رہا۔

فماتوا :- اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، اس عبارت میں أَحْيَاهُمْ معطوف ہے، اور بظاہر اس کا معطوف علیہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، مفسر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان موتوا کا اقتضا فماتوا ہے، اسی مقتضی پر ثُمَّ أَحْيَاهُمْ کا عطف ہے۔

حز قیل :- ان کے بارے میں صاحب جمل نے درج ذیل تفصیل لکھی ہے۔ واللہ أعلم

”ان کو ابن العجز بھی کہتے ہیں، ان کی ماں بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، لیکن انھوں نے حق تعالیٰ سے بانجھ پن کے باوجود اولاد کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، ان کا نام حز قیل رکھا، اور ان کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے، ان کو ذوالکفل اس لئے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے ستر نبیوں کی کفالت کی، اور انھیں قتل ہونے سے بچایا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام، ان کے بعد کالب، ان کے بعد حز قیل (خازن)

علیہم أثر الموت :- موت کا اثر بدن پر بھی تھا، یعنی ان کے بدن زرد تھے، اور لباس پر بھی تھا، وہ یہ کہ جو بھی لباس پہنتے تھے ان کے بدن پر وہ کفن کی شکل اختیار کر لیتا، رنگ کی زردی ان کی نسل میں بھی باقی رہی۔

والقصد من خبر هؤلاء الخ :- ان الفاظ سے مفسر نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، سوال یہ ہے کہ اس فرار، پھر بحکم خداوندی موت اور اس کے بعد ایک نبی کی دعا سے اعادہ حیات کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے واو حرف عطف کے ساتھ ایک حکم صادر فرمایا کہ: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اگر سابقہ واقعہ کا بیان معطوف علیہ قرار دیا جائے، اور قاتلوا کو معطوف مانا جائے تو معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ اس کا جواب

مفسر نے دیا ہے کہ اس واقعہ کے بیان کا مقصد جہاد و قتال کے اوپر مسلمانوں کو آمادہ کرنا ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسبابِ موت سے بھاگنے والے بھاگے، مگر موت نے آدب و چا، پھر حق تعالیٰ نے موت کے بعد زندگی لوٹائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسبابِ حیات کے لئے حیات لازم نہیں ہے، اور اسبابِ موت کے لئے موت لازم نہیں ہے، پس جنگ کو سببِ موت سمجھ کر اس سے فرار اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس طرح معطوف علیہ اور معطوف میں مناسبت ظاہر ہے، درحقیقت یہ عطف اس واقعہ پر یہی نہیں ہے، بلکہ ایک جملہ مقدرہ پر ہے جو اس واقعہ کی حکایت سے سمجھ میں آتا ہے۔ تقدیر یہ ہے: لا تفرؤا من الموت کما هرب هؤلاء فلم یبفعهم ذلک بل اثبتوه وقاتلوا فی سبیل اللہ الخ۔

بإنفاق مالہ فی سبیل اللہ :- اللہ کو قرض دینے کا بعض لوگوں نے مطلب یہ لیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو قرض دیں، کیونکہ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے: اے ابن آدم! میں مریض تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھلایا نہیں، میں نے تم سے پانی مانگا، تم نے نہیں دیا۔ بندہ کہے گا، آپ رب العالمین ہیں، بیمار کیوں ہوتے، کھانا کیوں کھاتے، پانی کیوں مانگتے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بھوکا تھا، فلاں پیاسا تھا، اگر اس کی خبر گیری کرتے، اس کی ضرورت پوری کرتے، تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ (بخاری و مسلم شریف)

اس حدیث کی روشنی میں بعض حضرات نے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کا مطلب یہی بتایا کہ یہ درحقیقت بندوں کو قرض دینے کی ترغیب ہے، مفسر نے اس تفسیر کو قبول نہیں کیا ہے، ان کے نزدیک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا درحقیقت اللہ کو قرض دینا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بطور قرض کے قبول فرماتے ہیں، اور کئی گنا بڑھا کر واپس کریں گے۔

أی إلی قستهم وخبرهم :- اس لفظ کے اضافہ سے مفسر نے یہ بتایا کہ ألم تر إلی الملائم مضاف محذوف ہے، اور وہ ہے: ألم تر إلی قصة الملائم۔

الملائم :- ملائم قوم کے بڑے لوگوں اور باوجاہت اصحاب کو کہتے ہیں، اس کا اطلاق جماعت پر ہوتا ہے، لفظاً واحد ہے، معنی جمع ہے۔ سمووا بذلک لأنهم یملئون القلوب مہابةً، والعیون حسناً وبہاءً، ملائم کے لفظی معنی بھرنے کے ہیں، بڑے لوگوں کو ملائم اس لئے کہتے ہیں کہ یہ قلوب کو ہیبت سے اور نگاہوں کو حسن و جمال اور رونق سے بھر دیتے ہیں۔

هو شمویل :- حضرت شمویل کا تعارف صاحب جمل نے تفسیر خازن کے حوالے سے اس طرح کرایا ہے کہ: ”جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو ان کے خلیفہ حضرت یوشع ہوئے، حضرت یوشع کے بعد

حضرت کالب، اور ان کے بعد حضرت حزقیل، پھر الیاس، پھر الیسع ہوئے، ان کے بعد عمالقہ نے بنی اسرائیل پر غلبہ پایا، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا، ان کے بچوں اور عورتوں کو گرفتار کیا، اس وقت ان کے درمیان کوئی نبی نہ تھا، جو کچھ تدبیر کرتا، نبوت والا خاندان بھی ختم ہی تھا، اس گھرانے کی صرف ایک عورت حاملہ تھی، اس نے بچہ جنا، اس کا نام شمویل رکھا گیا، بڑے ہوئے تو نبوت سے نوازے گئے، انھوں نے بنی اسرائیل میں کام شروع کیا تو ان سے مطالبہ ہوا کہ ایک بادشاہ ہم پر مقرر کر دیجئے۔

والاستفہام لتقریر التوقع بها:۔ هل عسیتم کا استفہام، استفہام تقریری ہے، اور توقع کا مفہوم عسیٰ سے ظاہر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اندیشہ اس کا ہے کہ اگر قبال تم پر فرض کر دیا جائے تو تم منحرف ہو جاؤ گے اور لڑنے سے جان چراؤ گے۔

بسبیہم وقتلہم:۔ اولاد سے نکالے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں نے اولاد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بہت کو گرفتار کر کے لے گئے، اس طرح وہ اپنی اولاد سے جدا کر دیئے گئے، آخر جنا من دیارنا کے سیاق میں ابناء نا لاکر مذکورہ مطلب مراد لیا گیا ہے، یہ صنعت اسخدا م کی ایک شکل ہے کہ ایک لفظ کا معنی مطابقی مراد لیا گیا ہے، اور اس کے سیاق میں معنی التزامی بھی سمجھا جائے۔

جالوت:۔ قوم عمالقہ کا ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کے شیرازہ کو منتشر کر دیا تھا۔

طالوت:۔ بنی اسرائیل میں بارہ خاندان تھے، ان میں اسرائیلی روایات کے مطابق نبوت ایک خاندان کے ساتھ مخصوص تھی، اور وہ خاندان لادی بن یعقوب کا تھا، اور حکومت ایک خاندان کے ساتھ مخصوص تھی، اور وہ تھا یہودا بن یعقوب کا خاندان۔ حضرت طالوت ان دونوں خاندانوں کے بجائے بنیامین کی اولاد میں تھے، بنی اسرائیل کے قبائل نے بنیامین کی اولاد کو سب سے گھٹیا قرار دے رکھا تھا، ان کا کام خدمتگاری کا تھا، پانی بھرنا، بکریاں چرانا، کھال کی دباغت دینا، گویا یہ لوگ ان کے درمیان اچھوت اور شور تھے۔ اس خاندان میں حضرت طالوت پیدا ہوئے، جسم و جثہ کے اعتبار سے کافی طویل و عریض تھے، صاحب حسن و جمال بھی تھے، اور علم و عقل سے حصہ وافر پائے ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے نبی ﷺ نے انھیں بادشاہ مقرر کیا۔

لأنہ لیس من سبط المملكة:۔ بادشاہت کا مطالبہ کرنے والے اس انتخاب پر دم بخود ہو گئے، نسل پرستی میں مبتلا یہ قوم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خدمتگاروں کے خاندان کا کوئی فرد ہم پر حکومت کرے گا، انھوں نے اس انتخاب پر اعتراض کیا کہ طالوت سے زیادہ حکومت کے حقدار موجود ہیں، پھر ان کا انتخاب کیوں ہوا؟ چھوٹی خاندان کا ایک فرد اونچی ناک والوں پر حکومت کرے، یہ تو عار کی بات ہے، یہ انسانیت کا پرانا روگ ہے، جس نے ہر زمانے میں انکار و تمرد کے گڈھے میں انسانوں کو گرایا ہے۔

اس کے ساتھ ایک بات اور ان لوگوں نے جوڑ دی کہ وہ غریب آدمی ہے، حکومت تو مال کا کھیل ہے، مال ہی نہیں تو یہ حکومت کی بازی کیونکر جیتے گا۔

پیغمبر نے جواب میں دو بات کہی۔ اول یہ کہ ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اس میں کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں، انتخاب تو انہیں کا انتخاب ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ خاندان اونچا نہ سہی، علم تو اونچا اور فراواں ہے، اس کے مقابلے میں خاندانی وجاہت کچھ نہیں، اور مال نہ سہی جسم تو کامل ہے، کہ دیکھتے ہی دشمنوں پر ہیبت چھا جائے، پھر مال کے آنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔

الصندوق كان فيه صور الانبياء :- حضرت آدم عليه السلام جب جنت سے اتارے گئے تو جنت کی بعض چیزیں ان کے ساتھ زمین پر اتری تھیں، مشہور ہے کہ حضرت یوسف عليه السلام کا کرتا جسے حضرت جبرئیل عليه السلام نے کنویں میں حضرت یوسف عليه السلام کو پہنایا تھا وہ جنت سے آیا تھا، اسی طرح حضرت موسیٰ عليه السلام کا عصا بھی جنت سے آیا تھا، انہیں میں وہ صندوق بھی تھا جس کا تذکرہ اس جگہ ہے، اس میں انبیاء کی تصویریں تھیں، اور ان کا تعارف تھا، یہ صندوق بنی اسرائیل کے قبضے میں تھا، اس میں دوسرے انبیاء کی بھی بعض یادگاریں اور تبرکات تھے، مثلاً موسیٰ عليه السلام کے نعلین، ان کا عصا، حضرت ہارون عليه السلام کا عمامہ، من و سلویٰ کی کچھ مقدار، اور جو تختیاں حضرت موسیٰ عليه السلام کو طور پر ملی تھیں، ان کے کچھ ٹکڑے۔

بنی اسرائیل اسے بطور تبرک جنگ میں آگے رکھتے تھے، اور اس کی برکت سے فتح پاتے تھے، اس کے رہنے سے لوگ مطمئن رہتے تھے، قوم عمالقہ نے جب بنی اسرائیل کو شکست دی تو اس صندوق کو لوٹ لے گئے، بنی اسرائیل کی شامت اعمال کی نحوست میں سے یہ بڑی نحوست تھی، پیغمبر نے حضرت طالوت کی حکومت کے برکات میں یہ بشارت سنائی کہ فرشتے عینی طور پر وہ صندوق قوم عمالقہ کی گرفت سے نکال کر طالوت کے پاس لے آئیں گے، اس سے تم سمجھ جانا کہ طالوت منجانب اللہ حاکم مقرر کئے گئے ہیں۔

چنانچہ فرشتے اسے زمین و آسمان کے درمیان اٹھا کر لائے، بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا، فرشتوں نے اسے حضرت طالوت کے پاس لا کر رکھ دیا، اتنی زبردست نشانی کے بعد بنی اسرائیل نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا، اور اب جہاد کی تیاری ہونے لگی، حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کے ستر ہزار جوانوں کا جہاد کیلئے انتخاب کیا۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہاد و قتال اور اس میں مال خرچ کرنے کی اہمیت و فضیلت بیان کی ہے، اور اس کی تمہید میں ایک قوم کا تذکرہ کیا، اس قوم کے وطن میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، یہ لوگ موت کے خوف سے

وطن چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور ان کی تعداد ہزاروں تھی، جس موت کے ڈر سے یہ لوگ بھاگے تھے، خدا نے اسی موت کو ان کے پیچھے لگا دیا، سب پر موت کا حکم آیا اور سب مر گئے، اور اسی طرح کم و بیش ایک ہفتہ پڑے رہے، وقت کے پیغمبر کا ان مردوں پر گزر ہوا، وہ انھیں پہچان گئے، انھیں ترس آیا، انھوں نے خدا سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انھیں دوبارہ زندہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کی نشانی ان پر چھوڑ دی، رنگ زرد، کپڑا کفن نما، چلتی پھرتی لاش محسوس ہوتے تھے، یہ رنگ ان کی نسل میں بھی باقی رہا، جب موت کا یہ حال ہے کہ اس سے بھاگنا کچھ مفید نہیں ہوتا، تو پھر زندگی کی محبت اور موت کے اندیشے سے جہاد سے جان چرانا کیا معنی رکھتا ہے، پس جہاد میں ڈٹے رہو، اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے اس کی راہ میں جنگ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال و احوال کو سنتے اور جانتے ہیں۔

پھر مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، فرماتے ہیں: کون ہے؟ جو اللہ کو قرض حسن دے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں کئی گنا عطا فرمائیں گے، یعنی دل کی خوشی اور رضامندی سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ دس گنے سے سات سو گنے تک ثواب عطا فرمائیں گے، اور اس سے بھی زیادہ جس کی کوئی حد نہیں مقرر کی جاسکتی، اور یہ اللہ ہی کا تصرف ہے کہ جس کی چاہتے ہیں آزمائش کرتے ہیں، اور روزی اس کی سمیٹ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں امتحاناً روزی میں وسعت فرماتے ہیں، لوٹنا سب کو اسی کے دربار میں ہے۔

پھر ایک مثال پیش فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل کو ایک ظالم بادشاہ نے منتشر کر دیا تھا، بنی اسرائیل بکھرے ہوئے تھے، حکومت پارہ پارہ ہو چکی تھی، وقت کے نبی سے ایک جماعت نے درخواست کی کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجئے، نبی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ مقرر کر دیا جائے، اور تم لوگ جہاد سے منحرف ہو جاؤ، کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے گھروں سے بے گھر کئے گئے، ہماری اولادیں ہم سے جدا کر دی گئیں، اب کیا بچا ہے جس کی خاطر ہم جہاد سے جی چرائیں گے؟ لیکن ہوا یہی کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو پیٹھ پھیرنے اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے لگے، ہاں تھوڑے لوگ ثابت قدم رہے اور اللہ کو ظالموں کی خبر ہے۔

نبی نے اللہ سے دعا کی کہ ایک بادشاہ کا انتخاب کر دیا جائے، حکم ہوا کہ طالوت کو بادشاہ متعین کیا جاتا ہے، قوم کو اس پر اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان کا آدمی نہیں ہے، اس سے زیادہ تو ہم اس کے مستحق ہیں، اس کے پاس دولت و ثروت بھی نہیں ہے، نبی نے ان سے فرمایا کہ حکومت کے لئے جن دو چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے اسے عطا کی ہیں۔ علم بھی فراواں ہے، اور جسمانی قوت بھی بہت ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جسے چاہتے ہیں حکومت عطا کرتے ہیں، قوم کو اب بھی اطمینان نہ ہوا، کہنے لگی کہ طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی منجانب اللہ ظاہر ہو، تو ہم مانیں۔ نبی نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تمہارا گم شدہ تابوت جس میں قدیم زمانے سے

انبیاء کے تبرکات چلے آتے ہیں اور وہ تمہارے لئے وجہ سکینت تھا، آجائے گا، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس تابوت کو فرشتے اٹھا کر لائے اور حضرت طالوت کے پاس لا کر رکھ دیا، اب انھیں اطمینان ہوا، اور جہاد کی تیاری میں لگ گئے۔



﴿فَلَمَّا فَصَلَ خَرَجَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ﴾ من بيت المقدس و كان حراً شديداً و طلبوا منه الماء ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ﴾ مختبر کم ﴿بِنَهْرٍ﴾ ليظهر المطيع منكم والعاصي وهو بين الاردن وفلسطين ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ﴾ أي من مائه ﴿فَلَيْسَ مِنِّي﴾ أي من أتباعي ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ﴾ يذقه ﴿فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً﴾ بالفتح والضم ﴿بِيَدِهِ﴾ فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ﴾ لما وافوه بكثرة ﴿إِلَّا قَلِيلاً مِّنْهُمْ﴾ فاقتصروا على الغرفة روى أنها كفتهم لشربهم ودوابهم و كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر ﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ هم الذين اقتصروا على الغرفة ﴿قَالُوا﴾ أي الذين شربوا ﴿لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ أي بقتالهم وجنوا ولم يجاوزوه ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ﴾ يوقنون ﴿أَنَّهُمْ مُّلتَقُوا اللَّهَ﴾ بالبعث وهم الذين جاوزوه ﴿كَمْ﴾ خبرية بمعنى كثير ﴿مِّنْ فِتْنَةٍ﴾ جماعة ﴿قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ بإرادته ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ بالنصر والعون ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ أي ظهروا لقتالهم وتصافوا ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ﴾ اصعب ﴿عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدَامَنَا﴾ بتقوية قلوبنا على الجهاد ﴿وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ﴾ كسروهم ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ بإرادته ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ﴾ و كان في عسكر طالوت ﴿جَالُوتَ وَآتَهُ﴾ أي داوود ﴿اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ في بنى اسرائيل ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ النبوة بعد موت شمويل و طالوت ولم يجتمعا لأحد قبله ﴿وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ كصنعة الدروع و منطق الطير ﴿وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ مِنَ النَّاسِ﴾ بْبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ ﴿بِغَلْبَةِ الْمُشْرِكِينَ﴾ و قتل المسلمين و تخريب المساجد ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ فدفع بعضهم ببعض ﴿تِلْكَ﴾ هذه الآيات ﴿آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا﴾ نقصها ﴿عَلَيْكَ﴾ يا محمد ﴿بِالْحَقِّ﴾ بالصدق ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ التاكيد بيان و غيرها ردُّ لِقَوْلِ الْكُفَّارِ لَهُ لَسْتَ مُرْسَلًا ﴿تِلْكَ﴾ مبتدأ ﴿الرَّسُلِ﴾ صفة والخبر ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره ﴿مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ كموسى ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ﴾ أي محمداً ﷺ ﴿دَرَجَاتٍ﴾ على غيره

بعموم الدعوة وختم النبوة به وتفضيل أمته على سائر الامم والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة ﴿وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَ وَأَيْدِنَهُ﴾ قويناه ﴿بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ جبرئیل یسیر معہ حیث سار ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ ھدی الناس جميعا ﴿مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ بعد الرسل ای أممہم ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيْتُ﴾ لإختلافہم وتضلیل بعضہم بعضاً ﴿وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا﴾ لمشیئة ذلك ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ﴾ ثبت علی ایمانہ ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ﴾ کالنصارى بعد المسيح ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا﴾ توكید ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ من توفیق من شاء وخذلان من شاء۔

ترجمہ

(پھر جب طالوت لشکر کو لے کر) بیت المقدس سے (نکلے) اور وہ شدید گرمی کا زمانہ تھا، اور فوج نے ان سے پانی کا مطالبہ کیا (تو کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو ایک ندی کی آزمائش میں ڈالنے والے ہیں) تاکہ فرمانبردار اور نافرمان کھل کر سامنے آجائیں، یہ ندی اردن اور فلسطین کے درمیان ہے (جو اس سے) یعنی اس کے پانی کو (پی لے گا وہ مجھ سے) یعنی میرے گروہ میں سے (نہیں ہے اور جو اسے نہ چکھے، اس کا تعلق مجھ سے ہے، مگر یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک گھونٹ پی لے) اور اسی پر اکتفا کرے، اس سے زیادہ نہ لے، تو اس کا تعلق مجھ سے رہے گا (لیکن ان سب نے) جب پانی فراواں دیکھا تو (اس سے پی لیا سوائے قدرے قلیل آدمیوں کے) کہ انھوں نے ایک چلو پر اکتفا کیا، مروی ہے کہ وہی ایک چلو ان کے لئے کافی ہو گیا، ان کے لئے بھی اور ان کے جانوروں کے لئے بھی، یہ لوگ تین سو دس سے اوپر افراد تھے (پھر جب طالوت اس ندی کے پار ہوئے اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی، جو صاحب ایمان تھے) اور وہ وہی لوگ تھے جنھوں نے ایک چلو پر اکتفا کیا تھا (تو) وہ لوگ، جنھوں نے پانی سیر ہو کر پیا تھا (کہنے لگے کہ ہمیں آج جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے) انھوں نے بزدلی کی، اور یہ لوگ ندی کے پار نہیں اترے (وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ انھیں) دوبارہ زندہ ہو کر (اللہ سے ملاقات کرنی ہے) اور یہ وہی لوگ تھے جو ندی کو پار کر کے اترے تھے (انھوں نے کہا بہت ایسا ہوا کہ قلیل جماعت، کثیر گروہ پر اللہ کے حکم سے غالب ہو گئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے) مدد اور نصرت کے ساتھ (اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے) یعنی جنگ کے لئے ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور صفیں باندھ لیں (تو انھوں نے کہا اے ہمارے رب! ہم پر صبر انڈیل دیجئے اور) ہمارے دلوں کو جہاد کی قوت دے کر (ہمارے قدموں کو جمادے، اور کفار کے اوپر ہماری مدد فرما، پس ان لوگوں نے انھیں ہزیمت دی اللہ کے ارادے سے، اور داؤد نے) جو کہ طالوت کی فوج میں تھے (جالوت کو قتل

کردیا، اور اللہ نے اسے) یعنی داؤد کو بنی اسرائیل میں (حکومت بخشی اور حکمت عطا فرمائی) اور ایسا شمویل اور طالوت کے انتقال کے بعد ہوا، نبوت اور حکومت ان سے پہلے کسی اور کے لئے اکٹھا نہیں ہوئی تھی (اور جو چاہا سکھایا) مثلاً زرہوں کا بنانا، اور پرندوں کا کلام (اور اگر اللہ کی جانب سے لوگوں کا دفع کرنا، بعض کو بعض کے ذریعے نہ ہوتا) بعضہم ببعض، الناس سے بدل البعض ہے (تو ملک برباد ہو جاتا) مشرکین کا غلبہ ہوتا، مسلمانوں کا قتل ہوتا اور مساجد کی بربادی ہوتی (لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر فضل فرماتے ہیں) پس بعض کو بعض کے ذریعہ دھکا مار کے ہٹاتے رہتے ہیں (یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم تمہیں) اے محمد (سچ سچ بیان کرتے ہیں اور بلاشبہ تم رسولوں میں ہو) اِنَّ وَغیره سے تاکید لانے کا مقصد کفار کے اس قول کا جواب ہے، جو وہ آپ سے کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، (وہ) مبتدا ہے (رسول) صفت ہے، خبر یہ ہے (ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر) خاص خاص منقبت کے ذریعے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے (فضیلت دی، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا) جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام (اور بعض) یعنی محمد ﷺ (کے درجات کو بلند کیا) ان کی دعوت کو عام کر کے اور انہیں ختم نبوت عطا فرما کے، اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت بخش کر، اور بکثرت معجزات اور متعدد خصائص سے نواز کر (اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل عطا کئے، اور ان کو روح القدس کے ذریعہ قوت پہنچائی) کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے (اور اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دینا چاہتے، تو ان کے) یعنی انبیاء کے (بعد والے) یعنی ان کی امت کے افراد (واضح دلائل کے آجانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے) یعنی آپس میں اختلاف نہ کرتے اور ایک دوسرے کو گمراہ نہ قرار دیتے (لیکن انہوں نے اختلاف کیا) کیونکہ مشیت یہی تھی (تو ان میں سے بعض ایمان لائے) یعنی ایمان پر جمے رہے (اور بعض نے کفر کیا) جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نصاریٰ (اور اگر اللہ چاہتے تو یہ نہ لڑتے) یہ تاکید ہے (لیکن اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتے ہیں، کرتے ہیں) جس کو چاہتے ہیں توفیق خریدتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔

﴿ تشریحات ﴾

یذقہ :- نہ چکھے، یعنی سرے سے پانی کو ہاتھ نہ لگائے، حضرت طالوت کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تین حصے لشکر یوں کے اپنے ذہن میں رکھے ہیں، ایک وہ جو خوب سیر ہو کر پانی پی لے۔ دوسرے وہ جو سرے سے ہاتھ نہ لگائے۔ تیسرے وہ جو قدرے قلیل چلو بھر پی لے، پہلے گروہ کی اپنے سے تعلق کی نفی کر دی، اور بعد کے دونوں کا تعلق اپنے سے برقرار رکھا، لیکن جب اس پر عمل کا وقت آیا تو قرآن کے اشارے سے بتصریح مفسر معلوم ہوتا ہے کہ ساری فوج دو حصوں میں تقسیم ہوئی، ایک وہ جنہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، دوسرے وہ جنہوں نے ایک چلو پی لیا، اور یہ تھوڑے لوگ تھے، کل تین سو دس سے کچھ اوپر تھے۔

روی أنها كفتهم :- یہ بھی مروی ہے کہ جن لوگوں نے ایک چلو پیا، ان کے قلوب پختہ ہوئے اور ان کا ایمان سالم رہا، اور سلامتی کے ساتھ انھوں نے ندی کو پار کیا، اور جن لوگوں نے زیادہ پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ پڑ گئے، پیاس ان پر چھا گئی، انھیں آسودگی نہیں ہوئی، ان کے دل کمزور ہو گئے، اور وہ ندی کے اسی کنارے پڑے رہ گئے۔
بضعة عشر :- بضعة کا اطلاق تین سے نو تک ہوتا ہے، اس جگہ مشہور یہ ہے کہ وہ ۳۱۳ تھے، جو اصحاب بدر کے عدد کے مطابق ہے۔

الذین شربوا :- یعنی نافرمان لوگوں نے کہا کہ ہمیں جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ندی کے پار سب اترے تھے، ادھر جا کر جب جالوت کے لشکر کا سامنا ہوا، تو نافرمانوں نے یہ صدا لگائی اور واپس ہو گئے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سرے سے ندی کو عبور ہی نہیں کیا، بلکہ ساحل پر ہی پڑے رہ گئے، اور ادھر ہی سے معذرت کرتے رہے۔ مفسر نے اسی کو اختیار کیا ہے، چنانچہ آگے وہ فرما رہے ہیں: وجبنوا ولم یجاوزه کہ وہ بزدل ہوئے اور ندی کو پار نہیں کیا۔

یوقنون :- یظنون کا ترجمہ یوقنون سے کیا، اس میں اشارہ ہے کہ ظن اضداد میں سے ہے، یہ گمان اور یقین کے معنی میں آتا ہے۔

لم یجتمعوا لحد قبلہ :- فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام سے پہلے نبوت اور حکومت کسی ایک شخص کو نہیں ملی تھی، بنی اسرائیل میں نبوت کا خاندان الگ تھا، اور حکومت کا خاندان الگ تھا، ان کا دستور تھا کہ شرعی احکام کے مرجع نبی ہوتے اور انتظام حکومت کسی اور سے متعلق ہوتا، جو ان سے احکام حاصل کر کے عمل درآمد کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام خاندان نبوت سے نہ تھے، مگر انھیں نبوت بھی ملی اور حکومت بھی۔

شارح کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی نبوت و حکومت کا اجتماع ہوا تھا۔

لاختلافهم وتضليلهم :- یہ ماقتل کی علت بیان کی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو چاہے ہوتا تو یہ آپسی اختلافات اور ایک دوسرے کی تضلیل کی وجہ سے لڑائی میں مبتلا نہ ہوتے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

حضرت طالوت نے جالوت سے جہاد کرنے کے لئے جو لشکر ترتیب دیا، اس کی تعداد ستر ہزار تھی، گرمی کی وجہ سے یہ پیاس میں مبتلا ہوا، حضرت طالوت سے انھوں نے پانی کا مطالبہ کیا، فرمایا کہ آگے چلو ایک ندی آنے والی ہے، وہ تمہارے لئے امتحان ہے، پانی بافراط ملے گا، مگر پینے کی اجازت نہیں ہوگی، جو پی لے گا وہ میری جماعت سے کٹ جائے گا، اور جو نہیں پئے گا، یا ایک چلو ہی پئے گا وہ میری جماعت میں ہوگا، جب یہ فوج ندی پر اتری تو پیاس سے بے تاب ہو کر سب اسی پر ٹوٹ پڑے، صرف چند لوگوں نے جن کی تعداد تین سو تیرہ تھی،

پانی کو نہیں پیا، یا پیا تو ایک ہی چلو پیا، جن لوگوں نے نافرمانی کی وہ تو سست اور بزدل ہو کر وہیں پڑے رہ گئے، اور جالوت کے لشکر کا سامنا کرنے سے ڈر گئے۔ باقی لوگوں نے جہاد کیا، خدا پر بھروسہ کیا، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جو ابھی کم عمر تھے، انھوں نے جالوت کو ہلاک کیا، اللہ نے داؤد کو پھر نبوت بخشی اور حکومت بھی دی، اور بہت کچھ سکھایا۔ جانوروں کی بولی سکھائی، زرہ بنانے کی تعلیم دی وغیرہ، اور اللہ کا یہی دستور ہے کہ آدمیوں کا زور و ظلم آدمیوں ہی کے ذریعے توڑتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو ساری زمین برباد ہو کر رہ جاتی، کفر و شرک کا غلبہ ہو جاتا، مسلمان قتل ہوتے، مساجد ویران کر دی جاتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ہم تمہیں یہ آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور یہ بالکل سچے واقعات ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، یہ رسولوں کی مقدس جماعت ہے، ان میں بعض کو بعض پر خاص خاص خصوصیات و امتیازات کی وجہ سے فضیلت ملی ہے، بعض سے اللہ نے کلام کیا، بعض کے درجات کو بلند کیا، اور عیسیٰ بن مریم کو بہت سے معجزات عطا کئے، مثلاً مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد نابینا کو بینائی عطا کرنا وغیرہ اور انھیں جبریل کے ذریعے مدد پہنچائی، یہ تو اللہ کی مشیت ہے کہ وہ باہم قتال میں مبتلا ہوئے، اگر یہ مشیت نہ ہوتی تو مبتلائے قتال نہ ہوتے، لیکن ایسا ہوا۔ بعض لوگ گمراہ ہوئے بعض ہدایت پر قائم رہے، بہر کیف اللہ کا ارادہ پورا ہو کر رہتا ہے۔



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ زکوٰۃ ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ﴾ صداقة تنفع ﴿وَلَا شَفَاعَةٌ﴾ بغیر اذنه وهو يوم القيمة وفي قراءة برفع الثلاثة ﴿وَالْكَافِرُونَ﴾ بالله أو بما فرض عليهم ﴿هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ لو وضعهم أمر الله تعالى في غير محله ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ﴾ أي لا معبود بحق في الوجود ﴿إِلَّا هُوَ الْحَيُّ﴾ الدائم البقاء ﴿الْقَيُّومُ﴾ المبالغ في القيام بتدبير خلقه ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ﴾ نعاس ﴿وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ملكاً وخلقاً وعبداً ﴿مَنْ ذَا الَّذِي﴾ أي لا أحد ﴿يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ له فيها ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ أي الخلق ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ من أمر الدنيا والآخرة ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾ لا يعلمون شيئاً من معلوماته ﴿إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ أي يعلمهم به منها باخبار الرسل ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ قيل أحاط علمه بهما وقيل ملكه وقيل الكرسي بعينه مشتمل عليها لعظمته لحديث ما السموات السبع في الكرسي إلا كدرهم سبعة ألقيت في ترس ﴿وَلَا يَؤُودُهُ﴾ يشقله ﴿حِفْظُهُمَا﴾ أي السموات والارض ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ فوق خلقه بالقهر ﴿الْعَظِيمُ﴾ الكبير ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ على الدخول فيه ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ

الْغَىٰ ﴿۱﴾ أَي ظَهَرَ بِالآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ أَنَّ الْإِيمَانَ رَشِدٌ وَالْكَفْرَ غَىٰ نَزَلَتْ فَيَمُنُ كَانُ لَهُ مِنَ الْإِنصَارِ أَوْ لَادٍ أَرَادَ أَنْ يَكْرَهُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ ﴿۲﴾ فَمَنْ يُكْفِرْ بِالطَّاغُوتِ ﴿۳﴾ الشَّيْطَانِ أَوْ الْأَصْنَامِ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمَفْرَدِ وَالْجَمْعِ ﴿۴﴾ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ ﴿۵﴾ تَمَسَكَ ﴿۶﴾ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ﴿۷﴾ بِالْعَقْدِ الْمَحْكَمِ ﴿۸﴾ لَا انْفِصَامَ ﴿۹﴾ انْقِطَاعَ ﴿۱۰﴾ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴿۱۱﴾ لِمَا يُقَالُ ﴿۱۲﴾ عَلَيْهِمْ ﴿۱۳﴾ بِمَا يَفْعَلُ ﴿۱۴﴾ اللَّهُ وَلِيُّ ﴿۱۵﴾ نَاصِرٌ ﴿۱۶﴾ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ ﴿۱۷﴾ الْكُفْرِ ﴿۱۸﴾ إِلَى النُّورِ ﴿۱۹﴾ الْإِيمَانِ ﴿۲۰﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴿۲۱﴾ ذَكَرَ الْإِخْرَاجَ إِمَّا فِي مَقَابِلَةِ قَوْلِهِ يَخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ أَوْ فِي كُلِّ مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ بَعَثَتِهِ مِنَ الْيَهُودِ ثُمَّ كَفَرَ بِهِ ﴿۲۲﴾ أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۳﴾

ترجمہ

(اے ایمان والو! جو کچھ ہم نے تم کو روزی بخشی ہے، اس میں سے خرچ کرو) اس کی زکوٰۃ دو (اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ بیع) یعنی فدیہ (ہے، نہ) ایسی (دوستی ہے) جو نافع ہو (نہ) اللہ کی اجازت کے بغیر (کوئی سفارش ہے) وہ قیامت کا دن ہے، اور ایک قرأت میں تینوں کے رفع کے ساتھ ہے (اور کافر) یعنی اللہ کا انکار کرنے والے، یا جو کچھ اللہ نے ان پر فرض کیا ہے، اس کا انکار کرنے والے (وہی ظالم ہیں) کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو اس کے محل سے ہٹا دیا (اللہ! نہیں ہے کوئی معبود) حقیقت میں (مگر وہی) ہمیشہ باقی رہنے والا (زندہ ہے، قیوم ہے) یعنی اپنی مخلوق کی تدبیروں کو قائم کرنے والا ہے (اسے نہ اونگھ پکڑتی ہے، اور نہ نیند، اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے) حکومت کے لحاظ سے بھی، خلقت کے لحاظ سے بھی اور غلام و بندہ ہونے کے اعتبار سے بھی (کون ہے جو) یعنی کوئی نہیں ہے (اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے) یعنی مخلوقات کے (سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے) یعنی دنیا کا معاملہ بھی اور آخرت کا معاملہ بھی (اور وہ لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے) یعنی اس کی معلومات میں سے کچھ نہیں جانتے (مگر جو اللہ) ان کو رسولوں کے واسطے سے بتانا (چاہے، اس کی کرسی آسمانوں کی اور زمین کی وسعت رکھتی ہے) کہا گیا ہے کہ اس کا علم ان دونوں کو محیط ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس کی حکومت ایسی ہے، اور کہا گیا ہے کہ خود کرسی ہی مراد ہے، جو اپنے بہت بڑے ہونے کی وجہ سے زمین و آسمان دونوں کو اپنے احاطے میں لئے ہوئے ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ ساتوں آسمان، کرسی کے اندر ایسے ہیں جیسے سات درہم جو کسی ڈھال میں ڈال دیئے گئے ہوں (اور ان دونوں کی نگرانی) یعنی آسمان و زمین کی (اسے نہیں تھکاتی اور وہ) اپنی مخلوق کے اوپر غلبہ کے ساتھ (بلند ہے، عظیم ہے، دین میں) داخل ہونے کے سلسلے میں (کوئی جبر اور

زبردستی نہیں ہے، بے شک گمراہی کے مقابلے میں ہدایت ظاہر ہو چکی ہے) یعنی واضح دلائل سے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ ایمان ہدایت ہے، اور کفر گمراہی ہے، یہ آیت ان حضرات انصار کے بارے میں نازل ہوئی جن کی اولادیں کافر تھیں، انہوں نے انہیں اسلام لانے پر مجبور کرنا چاہا تھا (تو جو کوئی طاغوت) یعنی شیطان یا بتوں (کا انکار کرے) طاغوت کا اطلاق مفرد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے (اور اللہ پر ایمان لائے، تو اس نے مضبوط حلقہ تھام لیا، جس کے لئے ٹوٹنا نہیں ہے، اور) جو کچھ کہا جاتا ہے (اللہ تعالیٰ) اسے (سنتے) اور جو کچھ کیا جاتا ہے (اسے جانتے ہیں، اللہ ولی) یعنی مددگار (ہیں ایمان والوں کے، انہیں تاریکیوں) یعنی کفر (سے نور) ایمان (کی جانب نکالتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے ولی طاغوت ہیں، انہیں نور سے تاریکیوں کی جانب نکالتے ہیں) یہاں نکالنے کا ذکر یا تو اللہ تعالیٰ کے قول **يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** کے مقابلے میں ہے، یا یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں ہے، جو نبی کریم ﷺ پر ان کی بعثت سے پہلے ایمان رکھتے تھے، اس کے بعد پھر کفر کیا (یہی لوگ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے)

﴿ تشریحات ﴾

زکوٰۃ :- أنفقوا سے مراد مطلق خرچ نہیں ہے، بلکہ اس کا مفعول زکوٰۃ ہے، جو کہ مقدر ہے، اس سے اشارہ ہے کہ یہاں انفاق سے مراد انفاق واجب ہے، کیونکہ اس کے بعد وعید کا ذکر ہے، اور وعید ترک واجب پر ہوتی ہے۔

فداء :- بیع کا ترجمہ فدیہ کیا ہے، کیونکہ فدیہ دے کر اپنی جان بچاتا ہے، گویا اس کے عوض میں اپنی جان کو خرید لیتا ہے، اس لئے فدیہ بھی گویا معنی بیع ہے۔

صداقة :- خلة کے معنی سچی دوستی کے ہیں، یہ دوستی چونکہ انسان کے رگ و پے کے درمیان سرایت کرتی ہے، اس لئے اس کو خلت کہتے ہیں، خلة ماخوذ ہے خلال سے، جس کے معنی درمیان و اندرون کے آتے ہیں۔

بغیر اذنه :- شفاعت کے ساتھ بغیر اذنه کی قید ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شفاعت کا ہونا اور اس کا نافع و مقبول ہونا، قرآن کی آیات اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، تو یہاں شفاعت کی مطلقاً نفی کیسے کر دی گئی؟ جواب یہ ہے کہ جو شفاعت ہوگی وہ باذن خداوندی ہوگی، بغیر اذن کے شفاعت کا وجود نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا**۔

وفى قراءۃ برفع الثلاثة :- ایک قرأت میں لا بیع ولا خلة ولا شفاعت تینوں مرفوع ہیں، اس صورت میں لامحض نفی کے لئے ہے، عامل نہیں ہے۔

بالله أو بما فرض عليهم :- مفسر نے ان الفاظ کے اضافہ سے اشارہ کیا ہے کہ یہاں کفر سے مراد کفر حقیقی بھی

ہوسکتا ہے، چنانچہ کفر باللہ کفر حقیقی ہے کہ وہ سرے سے اللہ کا انکار ہے، اور کفر مجازی بھی ہوسکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جو فرض کی ہے، اسے نہ ادا کرے تو یہ بھی کفر کی ایک شاخ ہے، لیکن یہ وہ کفر نہیں ہے جس کی مغفرت کا اللہ نے انکار فرمایا ہے، تارک فرض بھی کفر کا کام کرتا ہے، مگر یہ کفر حقیقی نہیں ہے۔

لا معبود بحق فی الوجود :۔ کوئی معبود حقیقی بجز اللہ کے موجود نہیں ہے۔

المبالغ فی القيام بتدبیر خلقه :۔ قیوم مبالغہ کا صیغہ ہے، اسی لئے اس کی تشریح میں مفسر نے المبالغ کا لفظ ذکر کیا۔

نعاس :۔ یہ نیند کا ابتدائی مرحلہ ہے جس میں طبیعت سست ہو جاتی ہے، دماغ پر غفلت کا غبار چھانے لگتا ہے، اس کے بعد غفلت مکمل ہو جاتی ہے تو اسے نوم کہتے ہیں۔

ملکاً :۔ یہ لفظ میم کے کسرہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، مگر ضمہ بہتر ہے، کیونکہ ملکیت کا معنی عبیداً سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لئے ملکاً بمعنی حکومت مناسب ہے۔

أى لا أحد :۔ لا أحد کا لفظ اشارہ ہے کہ من استفہام انکاری ہے۔

لہ فیہا :۔ لہ کی ضمیر من کی جانب اور فیہا کی ضمیر شفاعت کی جانب راجع ہے، اور باذنہ کی ضمیر اللہ کی جانب، یعنی اللہ جس کو شفاعت کی اجازت دے۔

من أمر الدنيا والآخرة :۔ مابین ایدیہم سے مراد دنیا ہے، کیونکہ وہ سامنے موجود ہے، اور ماخلفہم سے مراد آخرت ہے، کیونکہ وہ پیچھے آنے والی ہے۔

معلوماتہ :۔ علمہ سے مراد معلوم چیزیں ہیں، یعنی خدا کی معلومات کا کچھ بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔

أى يعلمہم بہ منہا :۔ بماشاء کا مفعول مقدر ہے، اور وہ ہے أن يعلمہم بہ ہے، اور منہا کی ضمیر معلومات کی جانب راجع ہے۔

بإخبار الرسل :۔ اللہ تعالیٰ اپنا علم دنیا میں رسولوں کے واسطے سے بھیجتے ہیں، اور وہی یقینی علم ہوتا ہے، اور جو علم رسولوں کے واسطے سے نہ ہو وہ یقینی نہیں ہوتا۔

قیل أحاط علمہ الخ :۔ کرسی کی متعدد تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ مجازاً علم کے معنی میں ہے، دوسرے یہ کہ وہ حکومت کے معنی میں ہے، تیسرے یہ کہ کرسی اپنے حقیقی معنی میں مراد ہے۔ اس کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے۔

الشیطان أو الاصلنام :۔ طاغوت کی تفسیر شیطان سے کی ہے، یا یہ کہ وہ بت ہے، طاغوت، طغیان سے مشتق ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، جیسے جبروت اور ملکوت۔ اس کا اطلاق مفرد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے۔

ذکر الاخراج الخ :- یہ ایک سوال کا جواب ہے، جو بظاہر اللہ تعالیٰ کے ارشاد: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَةِ پر وارد ہوتا ہے، وہ یہ کہ نکالنا تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی محل میں ہو اور وہاں سے باہر کیا جائے، یہاں کافروں کے متعلق کہا گیا ہے کہ طاغوت انھیں نور سے ظلمت کی طرف نکالتے ہیں، تو وہ نور میں تھے ہی کب جو اس سے نکالنے کی نوبت آتی۔

مفسر نے اس کے دو جواب ذکر کئے ہیں۔ اول یہ کہ بلاشبہ وہ نور میں نہ تھے، لیکن اس کا تذکرہ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَةِ إِلَى النُّورِ (یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ظلمت سے نور میں نکالتے ہیں) کے مقابلے اور اس کی مشاکلت میں کیا گیا ہے۔

دوسرا جواب یہ دیا کہ یہ آیت ان یہود کے بارے میں ہے، جو رسول اللہ ﷺ کی بعثت اور ظہور سے پہلے اپنی کتابوں کی بشارتوں کی بنا پر ایمان رکھتے تھے، یا ایمان لانے کا تہیہ کئے ہوئے تھے، تو یہ لوگ نور میں تھے، مگر جب آپ کی دعوت ان تک پہنچی تو شیطان نے انھیں کفر میں ڈھکیل دیا، یہ مصداق ہو اس کا کہ طاغوت انھیں نور سے ظلمات کی جانب لے جاتے ہیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اس سے پہلے کے دور کوع میں انفاق اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب تھی، اور اس سلسلے میں کچھ مثالیں دے کر اللہ نے اپنے بندوں کو راہ ہدایت سمجھائی ہے، اس رکوع میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کبریائی و عظمت اور مہربانی و کرم کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں نہ کوئی فدیہ کام دے گا نہ دوستی و شفاعت کا رآمد ہوگی۔ آدمی جب مصیبت میں گھرتا ہے تو مال خرچ کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، یا دوستوں سے مدد کا طالب ہوتا ہے، یا کسی صاحب و جاہت شخص کی سفارش لاتا ہے، قیامت کے دن یہ سب نجات دینے والی چیزیں معدوم ہوں گی، اس لئے اس ہولناک دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر لو۔ یہ اس دن بہت کام آئے گا، اور ظالم تو درحقیقت کافر ہی ہے کہ اس نے بڑا ہی بے تکا اور بے محل کام کیا ہے کہ اللہ کو نہیں مانا، وہ اللہ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ ہمیش زندہ ہے، بلکہ وہ ساری کائنات کو تھامنے والا ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اسے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ وہ کبھی سوتا ہے، آسمان وزمین میں جو بھی ہے، سب کا مالک و خالق اور حاکم وہی ہے، اس کے پاس مجال نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کا دم مار سکے، اس کا علم دنیا و آخرت کو محیط ہے، اور لوگوں کو اس کے علم کا کوئی حصہ حاصل نہیں، بجز اس کے کہ وہی جو کچھ چاہے بتا دے۔ اس کی کرسی (تخت حکومت) ساری کائنات، ساتوں آسمان وزمین سب کو اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہے، اور وہ زمین و آسمان کے تھامنے اور ان کی تدبیر کرنے میں

ذرا بھی مشقت سے دوچار نہیں ہوتا، وہ سب سے برتر اور بڑی عظمت والا ہے۔

دین اسلام میں کوئی جبر واکراہ نہیں ہے کہ زبردستی اس میں کسی کو داخل کیا جائے، ہدایت کی راہ ظاہر ہو چکی ہے، گمراہی بھی واضح ہو چکی ہے، تو اب جو کوئی طاغوت کا یعنی شیطان یا بت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس نے ایک مضبوط حلقہ تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہیں۔

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے حامی و ناصر ہیں، وہ انھیں ظلمتوں یعنی کفر سے روشنی یعنی ایمان کی طرف لاتے ہیں، اور کفار کے پاسداری شیطین ہیں، جو انھیں روشنی سے کھینچ کر اندھیرے میں لاتے ہیں، یہی لوگ اصحاب جہنم ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

﴿ فضائل آیت الکرسی ﴾

اس رکوع میں قرآن کریم کی اہم ترین آیت، آیت الکرسی ہے، جو حق تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت و کبریائی کا ایک بلیغ ترین بیان ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے، جو اسے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کیلئے ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس وقت سے دوسرے دن تک اس کے لئے نیکیاں لکھتا ہے، اور برائیوں کو مٹاتا ہے، اور فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی رکاوٹ نہیں، بس مرنے کی دیر ہے اس پر دوام کرنے والا یا تو صدیق ہو گا یا عابد، جس نے سوتے وقت اس آیت کو پڑھا اسے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، اسے بھی اور اس کے پڑوسی کو بھی اور پڑوسی کے پڑوسی کو بھی کئی گھروں تک۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کو آیت الکرسی پڑھی اور اس کے ساتھ حمّ، تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِي الْمَصِيرُ پڑھا۔ تو دن بھر شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، اور اگر شام کو اسے پڑھا تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور مروی ہے کہ اگر کسی گھر میں آیت الکرسی پڑھی گئی تو اسے شیاطین ایک ماہ کیلئے قطعاً چھوڑ دیتے ہیں، نہ اس میں کوئی جادوگر داخل ہوگا، اور نہ جادوگرنی، اے علی! اسے اپنی اولاد، اپنے اہل اور اپنے پڑوس والوں کو سکھا دو، اس سے بڑی اور کوئی آیت نہیں نازل ہوئی۔

ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں قرآن کریم کی افضل ترین آیت کے بارے میں مذاکرہ کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ حضرات آیت الکرسی سے کیوں غافل ہیں، پھر فرمایا مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے علی! سید البشر آدم علیہا السلام ہیں، سید العرب محمد ﷺ ہیں اور کوئی فخر نہیں، اہل فارس کے سردار سلمان ہیں، اہل روم کے سردار صہیب ہیں، حبشہ کے سردار بلال ہیں، پہاڑوں کا

سردار طور ہے، دنوں کا سردار جمعہ ہے، کلام کا سردار قرآن ہے اور سید القرآن سورہ بقرہ ہے اور سید البقرہ آیت الکرسی ہے (خطیب) (فضائل کا پورا مضمون الفتوحات الالہیہ المعروف ”بالجمل“ سے ماخوذ ہے)



﴿الْمَ تَرَىٰ إِلَىٰ الذِّى حَاجَّ﴾ جادل ﴿إِبْرَاهِيمَ فِى رَبِّهِ أَنْ اتَّهَمَ اللّٰهُ الْمَلِكَ﴾ ای حملہ بطرہ بنعمۃ اللہ علی ذلک البطر وهو نمروذ ﴿إِذْ﴾ بدل من حاج ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ لما قال له من ربک الذی تدعوننا الیہ ﴿رَبِّىَ الذِّى یُحِیِّى وَیُمِیْتُ﴾ ای یخلق الحیاة والموت فى الاجساد ﴿قَالَ﴾ هو ﴿أَنَا أَحِیِّى وَ أُمِیْتُ﴾ بالقتل والعفو عنه و دعی برجلین فقتل احدهما وترك الآخر فلما راه غیبا ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ منتقلا الی حجة اوضح منها ﴿فَإِنَّ اللّٰهَ یَاتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا﴾ انت ﴿مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الذِّى کَفَرَ﴾ تحیر ودهش ﴿وَاللّٰهُ لَا یَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ﴾ بالكفر الی محجة الاحتجاج ﴿أَوْ﴾ رأیت ﴿كَالَّذِى﴾ الکاف زائدة ﴿مَرَّ عَلَىٰ قَرْیَةٍ﴾ هی بیت المقدس راکبا علی حمار و معه سلة تین و قدح عصیر وهو عزیز ﴿وَهِىَ خَاوِیَةٌ﴾ ساقطة ﴿عَلَىٰ عُرْوَتِهَا﴾ سقوفها لما خربها بخت نصر ﴿قَالَ أَنِّى﴾ کیف ﴿یُحِیِّى هَذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ استعظاما لقدرة اللہ تعالیٰ ﴿فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ﴾ والبشه ﴿مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾ احیاه لیریه کیفیة ذلک ﴿قَالَ﴾ تعالیٰ له ﴿كَمْ لَبِثْتُ﴾ مکثت هنا ﴿قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ﴾ لانه نام اول النهار فقبض و احیی عند الغروب فظن انه یوم النوم ﴿قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِکَ﴾ التین ﴿وَشَرَابِکَ﴾ العصیر ﴿لَمْ یَتَسَنَّهْ﴾ یتغیر مع طول الزمان والهاء قیل اصل من سانہت وقیل للسلکت من سانیت وفى قرأۃ بحذفها ﴿وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِکَ﴾ کیف هو فراه میتا و عظامہ بیض تلوح فعلنا ذلک لتعلم ﴿وَلِنَجْعَلَکَ آیَةً﴾ علی البعث ﴿لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ﴾ من حمارک ﴿کَیْفَ نُنشِزُهَا﴾ نحییها بضم النون وقرئ بفتحها من انشز و نشز لغتان و فى قرأۃ بضمها والزای نحرکها و نرفعها ﴿ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا﴾ فنظر الیها وقد ترکبت وکسیت لحمًا و نفخ فیہ الروح ونهق ﴿فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ﴾ ذلک بالمشاهدة ﴿قَالَ أَعْلَمُ﴾ علم مشاهدة ﴿أَنَّ اللّٰهَ عَلِیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ﴾ وفى قرأۃ اعلم امر من اللہ له ﴿وَ﴾ اذکر ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَرِنِیْ کَیْفَ تُحِیِّى الْمَوْتِیْ قَالَ﴾ تعالیٰ له ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ بقدرتی علی الاحیاء سأله مع علمه بایمانہ بذلک لیجیب بما قال له فیعلم السامعون غرضه ﴿قَالَ بَلِی﴾ امنت ﴿وَلٰکِنْ﴾

سالتک ﴿لِيُطْمَئِنَّ﴾ يسكن ﴿قَلْبِي﴾ بالمعانيه المضمومة الى الاستدلال ﴿قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ بكسر الصاد وضمها املهن اليك وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن ﴿ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْ جِبَالِ اَرْضِكَ﴾ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ ﴿إِلَيْكَ﴾ يَأْتِيَنَّكَ سَعِيًّا ﴿سَرِيعًا﴾ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴿لَا يَعْجِزُ﴾ شَيْءٌ ﴿حَكِيمٌ﴾ فِي صَنْعِهِ فَاخْذُطَاؤُسًا وَنَسْرًا وَغَرَابًا وَدِيكًا وَفَعَلْ بِهِنَّ مَا ذَكَرُوا مَسْكُ رُؤُسِهِنَّ عِنْدَهُ وَدَعَاهُنَّ فَطَطَّيْرَتِ الْاِجْزَاءُ اِلَىٰ بَعْضِهَا حَتَّىٰ تَكَامَلَتْ ثُمَّ اِقْبَلَتْ اِلَىٰ رُؤُسِهَا .

ترجمہ

(کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں) اس لئے (جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے حکومت عطا کی تھی) اس جھگڑے پر وہ اس لئے آمادہ ہوا کہ اللہ کے احسان کی وجہ سے وہ بتلائے ناز و تکبر ہو گیا تھا اور وہ شخص نمرود تھا۔ (جب کہ) یہ حاج سے بدل ہے (ابراہیم نے کہا) یہ انھوں نے اس وقت کہا تھا، جب اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہم کو دعوت دیتے ہو، انھوں نے کہا (میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے) یعنی جسم میں زندگی بھی پیدا کرتا ہے، اور موت بھی پیدا کرتا ہے (اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں) قتل کر کے اور معاف کر کے، اور اس نے دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو اس نے قتل کر دیا، اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ غبی ہے، تب (ابراہیم نے کہا) پہلی دلیل سے واضح دلیل کی جانب انھوں نے کلام کو منتقل کیا (بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تم اسے مغرب سے نکالو، پس کافر حیرت زدہ ہو کر رہ گیا، جن لوگوں نے) کفر کر کے (ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں) استدلال کی (راہ نہیں دکھاتے یا وہ شخص) یعنی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا (جو ایک بستی کے پاس سے گزرا) یہ بستی بیت المقدس تھی، وہ شخص ایک گدھے پر سوار تھا، اس کے ساتھ انجیر کا تھیلا تھا، اور شراب کا پیالہ تھا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے (اور وہ بستی اپنی چھتوں سمیت گری پڑی تھی) اسے بخت نصر نے برباد کیا تھا (کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے برباد ہونے کے بعد کیونکر زندہ کریں گے) یہ بات انھوں نے حق تعالیٰ کی عظمت شان کے پیش نظر کہی (تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دیدی) اور اسی حال پر (سوسال تک) باقی رکھا (پھر انہیں زندہ کر دیا) تاکہ انہیں اس کی کیفیت کا مشاہدہ کرا دیں، اللہ تعالیٰ نے (فرمایا، کتنی مدت تم) یہاں (ٹھہرے، کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ میں یہاں رہا) کیونکہ وہ دن کے ابتدائی حصے میں سوئے تھے، اور ان کی روح نکالی گئی تھی، اور غروب آفتاب کے وقت انہیں زندہ کیا گیا تھا، انھوں نے سمجھا کہ وہ آج ہی سوئے تھے (فرمایا، بلکہ تم سوسال تک یہاں رہے، اب اپنے کھانے کی چیز) انجیر (کو دیکھو

اور اپنے پینے کی چیز) شربت (کو دیکھو کہ وہ) مدت دراز کے بعد بھی (خراب نہیں ہوئی) لم یتسنہ میں جوہا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ حرف اصلی ہے۔ سانہت سے ماخوذ ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ سکتے کیلئے ہے، اس کی اصل سانیت سے ہے، یعنی لم یتسن، اور ایک قرأت میں ہا محذوف ہے، یعنی لم یتسن (اور اپنے گدھے کو دیکھو) کہ وہ کیسا ہے، انھوں نے دیکھا کہ وہ مردہ ہو گیا ہے اور اس کی ہڈیاں سفید چمک رہی ہیں، ہم نے ایسا اس لئے کیا کہ تم جان لو (اور اس لئے تاکہ ہم تم کو) دوبارہ زندہ کئے جانے پر (لوگوں کیلئے ایک نشانی بنا دیں اور گدھے کی (ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کیونکر زندہ کرتے ہیں) ننشر، ن کے ضمہ کے ساتھ ہے، اور ایک قرأت شاذہ میں نون کے فتح کے ساتھ ہے، نشر اور انشر ذو لغتین ہیں، اور ایک قرأت میں نون کے ضمہ اور زاء معجمہ کے ساتھ ہے، جسکے معنی حرکت دینے اور اٹھانے کے ہیں (پھر ہم انہیں گوشت کا کالباس پہناتے ہیں) انھوں نے ہڈیوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں مل کر جڑ رہی ہیں اور ان پر گوشت چڑھ رہا ہے، اور اس میں روح پھونک دی گئی، اور وہ بولنے لگا۔ (پس جب ان کے سامنے) یہ مشاہدہ سے (ظاہر ہو گیا تو وہ بولے کہ میں) بطور مشاہدہ کے (جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں) اور ایک قرأت میں اعلم امر کا صیغہ ہے، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ جان لو (اور) یاد کرو (جب ابراہیم نے کہا، اے میرے پروردگار! مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا) میرے زندہ کرنے کی قدرت پر (تمہیں ایمان نہیں ہے) اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو جانتے تھے، اس کے باوجود یہ سوال اس لئے کیا تاکہ ان کے جواب سے سامعین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کی غرض معلوم ہو جائے (کہا کیوں نہیں) میں ایمان رکھتا ہوں (لیکن) میں نے اس لئے سوال کیا ہے (تاکہ میرا دل) دلیل کے ساتھ مشاہدہ کے شامل ہونے کی وجہ سے بالکل (مطمئن ہو جائے، فرمایا اچھا چار پرندے پکڑ لو، انہیں اپنے سے خوب مانوس کر لو) فصرہن میں دو قرأت ہے صاد کے کسرے کے ساتھ اور اس کے ضمہ کے ساتھ، انہیں اپنی جانب مائل کر لو، اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور ان کے گوشت اور پروں کو باہم مخلوط کر دو (پھر) اپنی زمین کے پہاڑوں میں سے (ہر ایک پہاڑ پر ان کے ایک ایک جز کو رکھ دو، پھر انہیں آواز دو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والے ہیں) انہیں کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اپنے کام میں (صاحب حکمت میں) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مور، ایک گدھ، ایک کوا اور ایک مرغ کو پکڑا، اور ان کے ساتھ مذکورہ بالا عمل کیا اور اپنے پاس ان کے سر رکھے اور انہیں آواز دی، تو ایک ایک کے اجزاء اڑے اور باہم ملے اور پورا ڈھانچہ تیار ہو کر سر کے پاس آیا (اور اس ڈھانچے کو زندگی مل گئی)

﴿تشریحات﴾

(لان آتاه اللہ) :- ان آتاه اللہ سے پہلے مقدر مان کر مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ ان آتاه اللہ مفعول لہ ہے،

لیکن اس میں بظاہر ایک اشکال ہے کہ مفعول لہ ہونے اور اس میں لام کے محذوف ہونے کے لئے شرط یہ ہے فعل عامل اور مفعول لہ دونوں کا فاعل ایک ہونا چاہئے، اور یہاں حاج کا فاعل اور ان آتہا کا فاعل الگ الگ ہے، اسی اشکال کے جواب میں مفسر نے لام ظاہر کر دیا ہے اور حذف کی توجیہ یہ ہے کہ ان مصدریہ پر حرف جر کا حذف کلام عرب میں بہت عام ہے۔

وہو نمروذ :- یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے اپنے سر پر تاج پہنا بڑا ظالم و جابر تھا، اس نے بھی رب ہونے کا دعویٰ کیا، مشہور ہے کہ چار بادشاہوں نے پوری آباد دنیا پر حکومت کی ہے دو مومن تھے اور دو کافر، مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور کافر نمروذ تھا، اور بخت نصر، نمروذ میں نون مضموم ہے اور آخر میں ذال معجمہ ہے۔

بدل من حاج :- اذ قال ابراہیم والی آیت حاج کا بدل ہے جس سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔
انا :- انا ضمیر مرفوع منفصل کے بارے میں صاحب جمل لکھتے ہیں کہ ضمیر درحقیقت اَن ہے اس میں الف اس لئے بڑھایا گیا ہے تاکہ یہ معلوم رہے کہ حالت وقف میں نون کو ساکن نہیں کریں گے، اسی لئے وصل کی حالت میں الف محذوف ہوتا ہے، پھر فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ اس میں دو لغتیں ہیں، ایک بنی تمیم کی لغت ہے کہ حالت وصل اور حالت وقف دونوں میں الف موجود رہے گا اور دوسری لغت یہ ہے کہ حالت وقف میں تو الف برقرار رہے گا، لیکن حالت وصل میں نہیں پڑھا جائے گا، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ پورالفظ انا الف کے ساتھ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔
بالقتل والعفو :- لف وشر غیر مرتب ہے۔

منتقلا الی حجة اخرى :- حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ بدفہم ہے کہ مستحق قتل کو معاف کر دینے کا نام احیاء سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ زندہ کرنا نہیں ہے، ایک زندہ شخص کی زندگی سے تعرض نہ کرنا ہے، وہ اس دلیل سے اپنے معتقدین کو مغالطہ میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل اختیار کی، جس میں کسی جیل و حجت کی گنجائش نہیں ہے۔

(او) رأیت (کالذی) :- او کے بعد رأیت کو محذوف مان کر مفسر نے یہ اشارہ دیا ہے کہ کالذی ایک عامل محذوف کا معمول ہے، جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے، لیکن جب اسے مفعول مانا جائے گا تو کالذی میں کاف حرفی نہیں ہوگا، بلکہ اسم ہوگا مثل کے معنی میں اور زائد نہ ہوگا، اور یہ جو مفسر نے آگے فرمایا ہے کہ کاف زائد ہے، یہ ایک دوسری توجیہ ہے، کاف کے زائد ماننے کی صورت میں عامل کو محذوف ماننے کی حاجت نہیں رہتی، بلکہ یہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم میں آئے ہوئے اسم موصول الذی پر معطوف ہوگا، مفسر نے اختصار کی دھن میں دونوں قولوں کو خلط کر دیا ہے۔

بخت نصر :- باء مضموم ہے اور خا ساکن اور اس کے بعد تاء اس کے معنی بیٹے کے ہیں! اور نصر میں ن مضموم

ہے اور صاد مشد ہے آخر میں راء ہے، یہ ایک بت کا نام ہے، یہ عجبی علم ہے جو مرکب ہے قاموس میں ہے کہ کہ یہ بچہ مذکورہ نام والے بت کے پاس پڑا ملا تھا۔ اس کے باپ کا کچھ پتہ نہ تھا۔ لوگوں نے اسے بخت نصر (نصر کا بیٹا کہنا شروع کر دیا)

استعظاماً لقدرته :- حضرت عزیر نے یہ جو فرمایا تھا انسی یحیٰ هذه اللہ بعد مو تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بربادی کے بعد دوبارہ کیونکر آباد کریں گے، ان کا یہ قول قدرت الہی میں کسی شک کی وجہ سے نہ تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت پیش نظر تھی، اور شاید اس کی تمنا دل میں موجزن تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا ش اسے پھر اپنی پرانی آبادی پر لوٹادیں۔

والبثہ :- اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاماتہ اللہ مائة عا م اس میں ایک ظاہری اشکال ہے، وہ یہ کہ موت کا دینا تو آن واحد کا عمل ہے، اس میں سو سال کی مدت کیسی؟ مفسر نے جواب دیا کہ مائة عام کا تعلق موت سے نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد جسم کے وہیں برقرار رکھنے کی مدت کی تعیین ہے۔

والهاء قيل اصل من سانہت :- لم يتسنه كلفظ سنه سے ماخوذ ہے، سنہ کے بارے میں دو قول ہے۔ ایک یہ کہ اس کا لام کلمہ ہاء ہے، اسی کی طرف مفسر نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ ہاء اصلی ہے، سانہت سے ماخوذ ہے۔ اس صورت میں لم يتسنه کے اندر ہاء حالت وصل ہو یا وقف برقرار رہے گی، دوسرا قول یہ ہے کہ سنہ کا لام کلمہ واو ہے، اس صورت میں جزم کی حالت میں حرف علت واو ساقط ہو گیا ہے، اور ہاء سکتے کے لئے بڑھا دیا گیا ہے، جو وقف کی حالت میں تو برقرار رہے گا، مگر وصل کی حالت میں نہیں رہے گا۔ حمزہ اور کسائی کی یہی قرأۃ ہے۔

وفی قرأۃ بحذفها :- ایک قرأت میں ہا محذوف ہے، اس عبارت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مستقل ایک قرأت ہے کہ خواہ وصل ہو یا وقف ہو، ہا محذوف ہے، لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ یہ وہی قرأۃ ہے جس میں حالت وقف میں ہاء برقرار رہتی ہے، اور حالت وصل میں حذف ہو جاتی ہے۔

فعلنا ذلك لتعلم :- اللہ تعالیٰ نے فرمایا و لنجعلک آية یہ عبارت معطوف ہے، مگر لفظوں میں اس کا کوئی معطوف علیہ نہیں ہے، مفسر نے عبارت کے قرینہ سے اس کا معطوف علیہ مقدر ظاہر کیا ہے اور وہ ہے لتعلم، اور اس کا فعل فعلنا ذلك کو مانا، اور یہ عبارت پر غور کرنے سے واضح ہے۔

نشرها: اس لفظ میں مفسر نے تین قرأتیں بیان فرمائی ہیں، دو قرأت متواترہ، اور ایک قرأت شاذہ، قرأت متواترہ باب افعال سے ہے، راء مہملہ کے ساتھ اور زاء معجمہ کے ساتھ، یعنی نُنشِرُهَا اور نُنشِرُهَا، اور قرأۃ شاذہ میں نشر مجرد ہے، یعنی نُنشِرُهَا، انشر اور نشر کا مطلب زندہ کرنا ہے، اور نشز ینشز کا معنی حرکت دینا اور اٹھانا ہے۔

سالہ مع علمہ بایمانہ بذلک :- سالہ میں ضمیر مفعولی ابراہیم کی طرف راجع ہے، اور علمہ میں ضمیر مجرور اللہ کی جانب راجع ہے، بایمانہ میں ضمیر ابراہیم کی طرف لوٹی ہے، بذلک کا تعلق ایمان سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے اولم تو من کا سوال کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ابراہیم احیاء موتی پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سوال اللہ نے اس لئے کیا تاکہ ان کے جواب سے لوگوں کو اس سوال کی غرض معلوم ہو جائے، چنانچہ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ایمان تو ہے ہی، لیکن دل کو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے، اس لئے کہ دیکھنے سے قلب کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ بن دیکھے نہیں ہوتی۔

املہن :- یہ باب افعال امال یمیل سے فعل امر ہے۔

﴿ مضامین آیات و تفسیر ﴾

اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تین واقعے بطور مثال کے بیان فرمائے ہیں، جن سے کفر کی قباحت و شاعت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا متعدد وجوہ سے اظہار ہوتا ہے۔

نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں حکمراں تھا، اس کی وسعت حکومت نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، وہ خود خدائی کا مدعی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دین حق کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی ہدایت کی تو وہ ازراہ تکبر کہتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، جس کی تم دعوت دیتے ہو، حضرت ابراہیم نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے اکڑ کر کہا، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، چنانچہ ایک بے خطا آدمی کو بلایا اور اسے قتل کروادیا۔ اور دوسرے مستحق قتل کو بلایا اور اسے معاف کر کے رہا کر دیا، اس طرح اس نے اپنے زندہ کرنے اور مارنے کا ثبوت فراہم کیا، حالانکہ یہ اس کی حماقت تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس میں الجھے نہیں، اگر اس میں الجھتے اور زندہ کرنے اور موت دینے کا مفہوم سمجھاتے تو سوال و جواب کا سلسلہ دراز ہوتا، اور حاصل بجز اس کے کچھ نہ نکلتا کہ بات ادھوری رہ جاتی اور مقصد کی بات ہاتھ سے چلی جاتی۔ اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل کو نظر انداز کر دیا، اور ایک ایسی دلیل لے آئے جس میں اسے قیل وقال کی گنجائش نہ رہی آپ نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو پورب سے نکالتا ہے تم اسے پچھم سے نکال دو، تاکہ تمہاری قدرت کا ظہور برملا ہو جائے، یہ سن کر اس سے کوئی بات نہ بن پڑی، اور کفر کا راستہ ایسا ہی ہے کہ اس سے صحیح استدلال نہیں ملتا۔

دوسرا واقعہ یہ ہے: بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام ایک گدھے پر سوار ہو کر بیت المقدس کے شہر سے گزر رہے تھے، ایک ظالم بادشاہ (بخت نصر) نے اسے بالکل ویران اور تباہ و برباد کر دیا تھا، اس کی تمام عمارتیں زمیں بوس ہو چکی تھیں، حضرت عزیر کے منہ سے بے ساختہ یہ بات نکلی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ کیونکر آباد کرتے ہیں، قدرت خداوندی نے ایک نمونہ کا مشاہدہ کرانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دیدی،

ان کی روح نکال لی گئی، اور ان کی سواری کی بھی، ان کے پاس ایک ٹوکری میں کچھ انجیریں تھیں، پینے کیلئے کسی پھل وغیرہ کا رس تھا، وہ سب چیزیں وہیں پڑی رہیں، سو سال تک عزیر کا جسم اطہر اور گدھے کی لاش اور کھانے پینے کا سامان وہیں پڑا رہا، نہ جانے کتنی دھوپ لگی ہوگی، کتنی بارش ہوئی ہوگی، کتنی آندھیاں چلی ہوں گی جنگلی کتنے جانوروں کا وہاں رات دن گزر رہا ہوگا، مگر کرمہ قدرت دیکھئے کہ جو چیز سب سے پہلے سڑ اور ختم ہو سکتی تھی، یعنی کھانا اور رس، دونوں سو سال تک جوں کا توں محفوظ رہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا پاک جسم صحیح و سالم رہا، البتہ گدھے کی لاش سڑ گل کر اس کی ہڈیوں پر سے گوشت اور چمڑا ختم ہو گیا، ہڈی بچ گئی، سو سال کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیا تو پوچھا کہ کتنے دن تم یہاں رہے، عرض کیا، بس یہی کچھ ایک دن یا اس سے کم، کیونکہ شروع دن میں موت طاری ہوئی تھی، اور جب زندہ کئے گئے تو شام تھی، اللہ نے بتایا کہ نہیں تم سو سال تک یہیں رہے ہو۔ اچھا اب تم اپنے کھانے پینے کو دیکھو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، سو سال گزرنے پر بھی وہ جوں کا توں ہے، اور گدھے کو دیکھو اس کی ہڈیاں دیکھو، ہم اسے تمہاری نگاہوں کے سامنے زندہ کرتے ہیں، ان ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہناتے ہیں، اب تم سمجھ لو کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لو کہ ہم تم کو لوگوں کیلئے اپنی ایک نشانی بناتے ہیں، حضرت عزیر نے عرض کیا، اب میں نے دیکھ لیا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔

تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار سے درخواست کی کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے، عرض کیا یقین تو بلاشبہ ہے، لیکن مشاہدہ سے یقین کے اندر جو اطمینان کی ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے، وہ چاہتا ہوں، فرمایا اچھا! چار پرندوں کو پال لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، جب خوب مانوس ہو جائیں، اور تمہارے اشارے سمجھنے لگیں تو سب کو ذبح کر کے ان کے جسم چار ٹکڑے کر دو، اور ہر ٹکڑا، علیحدہ علیحدہ پہاڑ پر رکھ دو، پھر ایک ایک کر کے سب کو بلاؤ، دیکھو کس طرح زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ پورا منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔



﴿مَثَلُ﴾ صفة نفقات ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اى طاعته ﴿كَمَثَلِ﴾ حَبَّةِ اَنْبَتٍ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ﴿فَكَذَلِكَ﴾ نفقاتهم تتضاعف بسبع مائة ضعف ﴿وَاللَّهُ يُضْعِفُ﴾ اكثر من ذلك ﴿لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ فضله ﴿عَلِيمٌ﴾ بمن يستحق المضاعفة ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا﴾ على المنفق عليه بقولهم مثلاً قد احسنت اليه وجبرت حاله ﴿وَلَا اَذَى﴾ له بذكر ذلك الى من لا يحب وقوفه عليه ونحو ذلك ﴿لَهُمْ اَجْرُهُمْ﴾ ثواب انفاقهم ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ﴾

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۰﴾ فِي الْآخِرَةِ ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾ كَلَامٌ حَسَنٌ وَرَدَ عَلَى السَّائِلِ جَمِيلٌ ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ لَهُ فِي الْحَاحَةِ ﴿خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى﴾ بِالْمَنْ وَتَعْيِيرٌ لَهُ بِالسُّؤَالِ ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ﴾ عَنِ صَدَقَةِ الْعِبَادِ ﴿حَلِيمٌ﴾ بِتَأْخِيرِ الْعُقُوبَةِ عَنِ الْمَانِ وَالْمُؤَذَى ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ﴾ أَيِ اجْوَرِهَا ﴿بِالْمَنْ وَالْأَذَى﴾ ابْطَالًا ﴿كَالَّذِي﴾ أَيِ كَابْطَالِ نَفَقَةِ الَّذِي ﴿يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ﴾ مَرَاتِيَالِهِمْ ﴿وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وَهُوَ الْمُنَافِقُ ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ﴾ حَجَرٍ أَمْلَسَ ﴿عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ﴾ مَطَرٌ شَدِيدٌ ﴿فَتَرَكَهُ صَلْدًا﴾ صَلْبًا أَمْلَسَ لِأَشْيَى عَلَيْهِ ﴿لَا يَقْدِرُونَ﴾ اسْتِيْنَافِ لِبَيَانِ مِثْلِ الْمُنَافِقِ الْمُنْفِقِ رِيَاءٍ وَجَمْعِ الضَّمِيرِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الَّذِي ﴿عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا﴾ عَمَلُوا أَيِ لَا يَجِدُونَ لَهُ ثَوَابًا فِي الْآخِرَةِ كَمَا لَا يَوْجَدُ عَلَى الصَّفْوَانَ شَيْءٌ مِنَ التَّرَابِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ لِأَذْهَابِ الْمَطَرِ لَهُ ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلٌ﴾ نَفَقَاتِ ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءً﴾ طَلَبِ ﴿مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشِيئًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ أَيِ تَحْقِيقًا لِلثَّوَابِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لَانْكَارِهِمْ لَهُ وَمِنْ ابْتِدَائِيَّةٍ ﴿كَمَثَلِ جَنَّةٍ﴾ بَسْتَانٍ ﴿بِرَبْوَةٍ﴾ بَضْمِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا مَكَانٌ مَّرْتَفِعٌ مُسْتَوٍ ﴿أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ﴾ أَعْطَتْ ﴿أُكْلَهَا﴾ بَضْمِ الْكَافِ وَسُكُونِهَا ثَمَرُهَا ﴿ضِعْفَيْنِ﴾ مِثْلَى مَا يَشْمُرُ غَيْرُهَا ﴿فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ﴾ مَطَرٌ خَفِيفٌ يَصِيبُهَا وَيَكْفِيهَا لِارْتِفَاعِهَا الْمَعْنَى تَشْمُرُ وَتَزْكُو كَثُرَ الْمَطَرِ أَمْ قَلَّ فَكَذَلِكَ نَفَقَاتِ مِنْ ذَكَرَ تَزْكُو عِنْدَ اللَّهِ كَثُرَتْ أَمْ قَلَّتْ ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فَيَجَازِيكُمْ بِهِ ﴿أَيُّوْدُ﴾ أَيُّحِبُّ ﴿أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ﴾ بَسْتَانٌ ﴿مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا﴾ ثَمَرٌ ﴿مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَ﴾ قَدْ ﴿أَصَابَهُ الْكِبَرُ﴾ فَضَعْفٌ عَنِ الْكَسْبِ ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ﴾ أَوْلَادٌ صِغَارٌ لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ﴾ رِيحٌ شَدِيدَةٌ ﴿فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ فَفَقَدَهَا أَحْوَجَ مَا كَانَ إِلَيْهَا وَبَقِيَ هُوَ وَأَوْلَادُهُ عَجْزَةٌ مَتَحِيرِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ وَهَذَا تَمَثِيلٌ لِنَفَقَةِ الْمَرَائِي وَالْمَانِ فِي ذَهَابِهَا وَعَدَمِ نَفْعِهَا أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ وَالِاسْتِفْهَامِ بِمَعْنَى النَفْيِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ لِرَجُلٍ عَمِلَ بِالطَّاعَاتِ ثُمَّ بَعَثَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى اغْرَقَ أَعْمَالَهُ ﴿كَذَلِكَ﴾ كَمَا بَيْنَ مَا ذَكَرَ ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ فَتَعْتَبِرُونَ.

ترجمہ

(ان لوگوں) کے خرچ (کی مثال، جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں) یعنی اللہ کی طاعت

میں (اس ایک دانے جیسی ہے جس نے سات بالیاں پیدا کیں، اور ہر بالی میں سودا نے ہیں) اسی طرح ان حضرات کے نفقات سات سو گنے تک بڑھتے ہیں (اور اللہ تعالیٰ جس کیلئے چاہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وسیع فضل والے ہیں، اور جانتے ہیں) کہ کون اس طرح بڑھائے جانے کا استحقاق رکھتا ہے (جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد) جس پر خرچ کیا ہے، اس پر (نہ احسان جتلاتے) مثلاً! اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے کہ میں نے تم پر احسان کیا، اور تمہارے گبڑے ہوئے حال کو بنادیا وغیرہ (اور نہ) اس کا تذکرہ کسی ایسے شخص کے پاس کر کے، جس کے بارے میں وہ چاہتا ہے کہ اسے اس احسان کا علم نہ ہو (تکلیف پہنچاتے، ان کے لئے ان کے رب کے پاس، ان) کے انفاق (کا اجر و ثواب ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے، اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے اچھی بات کہہ دینا) اور مانگنے والے کو خوبصورتی سے ٹال دینا (اور) اس کے اصرار سے (درگزر کر دینا، اس صدقہ سے بہتر ہے، جس کے بعد) احسان جتلا کر یا اسے سوال سے عار دلا کر (تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ تعالیٰ) بندوں کے صدقات سے (غنی ہیں حلیم ہیں) احسان جتلانے والے اور تکلیف پہنچانے والے کے مواخذہ و سزا میں جلدی نہیں کرتے ہیں (اے ایمان والو! اپنے صدقات کو) یعنی ان کے ثواب کو، احسان رکھ کر یا تکلیف پہنچا کر (برباد نہ کرو جیسے کہ وہ شخص) یعنی اس شخص کا صدقہ برباد ہو جاتا ہے (جو) اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کیلئے خرچ کرتا ہے، اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا) یہ منافق ہے (اس کی مثال، اس چکنے پتھر جیسی ہے، جس پر کچھ مٹی پڑی ہو، پھر اس پر بارش ہوئی اور اسے چکنا کر کے چھوڑ دیا) جس پر کچھ نہیں ہے (انہوں نے جو کچھ عمل کیا ہے، اس میں کسی چیز پر نہیں قدرت حاصل نہیں ہے) یہ جملہ مستانفہ ہے، اس میں اس منافق کی مثال ہے، جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھاوے کیلئے خرچ کرتا ہے، اور ضمیر کو جمع اس لئے لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے جمع کے حکم میں ہے، مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اس قسم کے صدقات کا کوئی ثواب ہاتھ نہیں آئے گا، جیسے چکنے پتھر پر تھوڑی سی مٹی پڑ جائے، اور اس پر تیز بارش ہو جائے، تو اس مٹی کا کوئی اثر نہیں باقی رہتا (اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے) (اور ان لوگوں) کے نفقات (کی مثال، جو اپنے مال کو اللہ کی رضا مندی کی طلب میں، اس پر ثواب کا یقین کر کے خرچ کرتے ہیں) بخلاف منافقین کے کہ وہ ثواب کی امید ہی نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں تو اس کا انکار ہے، من انفسہم میں من ابتدائیہ ہے (اس باغ جیسی جو قدرے بلند زمین پر ہو) [نشیب میں نہ ہو۔ ش] ربوہ را کے ضمہ اور فتح کے ساتھ ہے، ایسی زمین جو نشیب میں نہ ہو، قدرے بلند ہو، اور ہموار ہو (اس پر بارش ہوئی، پس اس نے پیداوار دگنی دی) یعنی جتنی پیداوار عام طور سے ہوتی ہے، اس سے دوگنی ہوئی، اکل کاف کے ضمہ اور اس کے سکون کے ساتھ (اور اگر اسے تیز بارش نہ ملی تو پھوار ہی سہی) یعنی ہلکی بارش ہی اس کو کافی ہوتی

ہے، کیونکہ قدرے اونچائی پر ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ باغ پھل دیتا ہے، خواہ بارش کم ہو یا زیادہ، اسی طرح مذکورہ بالا لوگوں کا صدقہ بڑھتا ہے، زیادہ ہو یا کم (اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں) اس کا تمہیں بدلہ دیں گے (کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، کھجوروں اور انگوروں کا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لئے اس میں تمام پھلوں میں سے) پھل (ہوں اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو) اس کی وجہ سے کسب سے کمزور ہو گیا ہو (اور اس کی کمزور) نابالغ (اولادیں ہوں) جو کچھ قدرت نہ رکھتی ہوں (پھر اس پر بگولہ آیا) یعنی تیز ہوا (جس میں آگ ہو اور وہ جل گیا) تو اسے ایسے وقت کھویا، جبکہ اسے اس کی زیادہ ضرورت تھی، اور وہ اور اس کی اولاد عاجز اور متخیر ہو کر رہ گئے، اب ان کیلئے کوئی تدبیر بھی نہیں ہے، یہ اس شخص کے نفقات و صدقات کی مثال ہے جو دکھاوے کے لئے خرچ کرتا ہے، یا احسان کر کے جتلاتا ہے کہ وہ یونہی برباد ہو جاتا ہے، اور جس وقت اس کی زیادہ ضرورت ہوگی، اسی وقت وہ بے فائدہ و بے کار ہو کر رہ جائے گا۔ یہ استفہام نفی کے معنی میں ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ اس شخص کی مثال ہے، جس نے نیک اعمال کئے، پھر اس پر شیطان مسلط ہوا، اور وہ گناہوں میں مبتلا ہوا اور اس کے اعمال کو جلا کر رکھ دیا (ایسے ہی) یعنی جیسے مذکورہ مثال بیان کی گئی ایسے ہی (اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور کرو، پس عبرت حاصل کرو۔

﴿ تشریحات ﴾

طاعته:۔ فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی طاعت کی راہ ہے، خواہ طاعت واجبہ ہو یا مستحبہ۔

اکثر من ذلک:۔ اللہ کی راہ میں سات سو گنے تک اجر ملنا تو عام ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ کی مشیت سے حالات کے اعتبار سے یا اخلاص و استحکام کے اعتبار سے ملتا ہے۔

یذکر ذلک الی من لا یحب و قوفہ علیہ الخ:۔ من کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کو صدقہ دیا ہے، اس پر اپنے احسان کا تذکرہ کرے، اور اذی کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے احسان کا تذکرہ ایسے شخص یا ایسے لوگوں سے کرے، جن کا اس احسان سے واقف ہونا، اس شخص کو پسند نہ ہو، جس پر احسان کیا ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ آدمی کسی کا احسان قبول کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ یہ بات کوئی دوسرا نہ جانے، یا فلاں شخص نہ جانے تو اگر احسان کرنے والا اسے ادھر ادھر کہتا پھرے یا اس شخص خاص سے کہہ دے، تو اسے اپنی سبکی محسوس ہوتی ہے۔

فی الحاحہ:۔ الحاح کے معنی لپٹنے کے ہیں، مانگنے میں، بہت اصرار سے مانگتا ہے، تب بھی ترش رو ہونا نہیں چاہئے، اس سے درگزر کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔

بالمن:۔ قول معروف و مغفرة خیر من صدقة يتبعها اذی میں اذی سے مراد وہ مخصوص مفہوم نہیں

ہے۔ جو اوپر ذکر کیا گیا، بلکہ یہ اذی عام ہے، اسی میں احسان جتلانا بھی شامل ہے۔

ای اجورھا :- صدقات کا باطل ہونا یہ ہے کہ ان پر ثواب نہ ملے۔

ابطالاً: . کالذی ینفق مالہ رثاء الناس میں کاف حرف جر محل نصب میں ہے اور یہ ایک مصدر محذوف کی صفت ہے، عبارت اس طرح ہوگی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی ابطالاً کابطال نفقة الذین ینفق مالہ رثاء الناس۔

اس عبارت میں اولاً ابطالاً مفعول مطلق محذوف ہے، دوسرے الذی سے پہلے دو مضاف محذوف ہیں، ہر زبان میں اس طرح کے محذوفات بکثرت ہوتے ہیں جو قرینہ مقام سے سمجھ میں آجاتے ہیں، کلام کی بلاغت میں حذف کا بنیادی کردار ہوتا ہے، اگر کلام کے تمام اجزاء اہتمام و کمال سے ذکر کئے جائیں تو فضولیات کا مجموعہ بن کر رہ جائے گا۔

مرائیا لہم: . رثاء الناس کی تفسیر میں مرائیا لہم کہہ کر مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ رثاء مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے، اور وہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کیلئے خرچ کرتا ہے، ریاء شریعت کی اصطلاح میں یہ ہے کہ کوئی کار خیر اللہ کے علاوہ دوسروں کو دکھانے اور خوش کرنے کی نیت سے کیا جائے، اگر بغیر ارادہ اور نیت کے لوگوں کی طرف عمل میں ذہن چلا گیا تو وہ ریاء نہیں ہے۔

وجمع الضمیر باعتبار معنی الذی: آیت کریمہ کالذی ینفق مالہ واحد ہے، اور پھر اسی الذی سے متعلق لا یقدر ون جمع کا صیغہ ہے، تو بظاہر مرجع اور ضمیر میں مطابقت نہیں ہے، اس کا جواب مفسر نے یہ دیا کہ الذی گو کہ لفظاً واحد ہے لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے جمع ہی کے حکم میں ہے۔

ای تحقیقاً للثواب علیہ:۔ یہ تثبیت کا ترجمہ ہے، یہ مصدر ہے، اس کا مفعول ثواب ہے، جو کہ محذوف ہے اور مفسر نے اسے ظاہر کر دیا ہے، اور فاعل من انفسہم کے قرینہ میں سمجھ میں آتا ہے، تثبیت کے معنی ہیں کسی شے کے موجود و محقق ہونے کا اعتقاد۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی رضا کیلئے اور دل سے اجر و ثواب کے ملنے کے یقین و اعتقاد کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس کے برخلاف منافقین تو ثواب آخرت کے منکر ہیں، اس لئے انہیں اس کی امید ہی نہیں کہ اس اعتقاد و یقین کے ساتھ خرچ کریں۔

من ابتدائیہ:۔ یعنی ان کا یہ اعتقاد و یقین خود انہیں کی ذات کی طرف سے ہے۔

یصیبھا ویکفیھا: فطل مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے، وہ یصیبھا ویکفیھا ہے۔

وقد (اصابہ) عبارت میں قدمقدر مانا، کیونکہ اصابہ حال ہے، اور فعل ماضی جب حال واقع ہو تو اس سے پہلے قد ضرور ہوگا، خواہ لفظاً خواہ تقدیراً۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو صرف کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا، بظاہر وہ دانہ اس کے ہاتھ سے گیا، مگر جب وہ لوٹا تو اس میں سات بالیاں پیدا ہوئیں، ہر بالی میں سو سودا نے ہیں، گویا ایک دانے سے سات سودا نے اسے حاصل ہوئے، اسی طرح جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو بظاہر دنیا میں کسی مادی منفعت کے بغیر وہ مال چلا گیا، مگر جب وہ آخرت میں آگے گا، تو سات سو گنا بڑھ کر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہیں گے اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل میں وسعت بھی ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کا مستحق ہے۔

جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس پر نہ احسان جتلاتے، اور نہ تکلیف والی کوئی بات کرتے، ان کے لئے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور انہیں نہ کوئی اندیشہ ہوگا، نہ وہ افسوس میں مبتلا ہوں گے۔ صدقہ دینے کے بعد تکلیف دینے والی بات سے بہتر یہ ہے کہ باصرار مانگنے والے کو اچھی بات کہہ کر ٹال دیا جائے، اور ان کے اصرار سے درگزر کیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے صدقات سے بے نیاز ہیں، اور حلیم بھی کہ غلطی پر فوراً انہیں گرفت کرتے۔

اے ایمان والو! اپنے صدقات کے اجر و ثواب کو، احسان جتلا کر اور تکلیف کی بات کہہ کر برباد مت کرو۔ یہ ایسا ہی ہوگا، جیسے کسی نے ازراہ نفاق مال صرف اس لئے خرچ کیا کہ لوگوں میں شہرت و نیک نامی ہو، اور اسے اجر آخرت کا یقین ہی نہ ہو، اس کا صدقہ بھی سب ضائع ہوتا ہے، اس صدقہ برباد کی مثال ایسی ہے، جیسے کسی چکنے پتھر پر مٹی جمی، مگر تیز بارش اسے بہا لے گئی، اور پتھر جوں کا توں چکنا رہ گیا، اسی طرح، منافق یا کافر صرف دکھاوے کیلئے خرچ کرتے ہیں، یا اہل ایمان نے خرچ تو ایمان و اعتقاد کے ساتھ کیا، مگر جس پر خرچ کیا اس پر احسان جتلا یا اسے تکلیف پہنچائی تو ادھر کفر و نفاق کی آندھی چلی اور ادھر 'من و اذی' کا طوفان آیا، تو صدقہ کا جو کچھ تھوڑا سا جماؤ ہوا تھا، بہہ گیا، اور کافر قوم یونہی گمراہی میں پڑی اور اللہ کی عنایت سے محروم رہتی ہے۔

اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو صرف اللہ کی رضا کیلئے اور ثواب آخرت کی تحصیل کیلئے خرچ کرتے ہیں، ان کے اس عمل کی مثال ایسی ہے جیسے قدرے اونچی ہموار جگہ میں کوئی باغ ہو، اور زوردار بارش ہوئی، اس میں خوب پھل آئے، اور اگر تیز بارش نہیں ہوئی تو ہلکی پھلکی بارش بھی اس کی شادابی کیلئے کافی ہوئی، کیونکہ اس کا محل وقوع عمدہ ہے، اسی طرح جو لوگ محض اللہ کیلئے مال خرچ کرتے، وہ کم ہو یا زیادہ بہر حال اس کا نفع ملتا ہے، اور جو کچھ تمہارا عمل ہے اللہ کی نگاہ میں ہے۔

وہ لوگ سوچیں جو اپنے صدقات کو برباد کر دیتے ہیں کہ کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے پاس

باغ ہو، اس میں کھجوریں ہوں، انگور ہوں، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں، اس میں ہر طرح کے پھل ہوں اور وہ بوڑھا ہو چکا ہو، محنت سے کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور اس کے پاس کمزور اولادیں بھی ہوں جو کمانے کی صلاحیت نہ رکھتی ہوں اور پھر اس باغ پر ایسا بگولہ چلے جس میں آگ ہو اور وہ باغ پورا جل کر خاک ہو جائے، اور سب کچھ آنکھوں کے سامنے موجود ہوتے ہوئے، عین شدت حاجت کے وقت اس کی تمام آرزو برباد ہو جائے تو کیا کوئی بھی شخص اس صورت حال کو پسند کرے گا، ظاہر ہے کبھی پسند نہیں کرے گا، تو یہی حال تو ان لوگوں کا بھی ہے۔ جو محض دکھاوے کیلئے خرچ کرتے ہیں، یا احسان جتلاتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں آخرت میں جب اپنے صدقات کے باغ کی شدید ضرورت ہوگی، تو اس وقت اسے جلا ہوا پائیں گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ اس شخص کی بھی مثال ہے، جو نیک اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، وہ اسے نافرمانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کے تمام اعمال نیک کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ یہ باتیں بتا رہے ہیں، تم غور و فکر سے کام لو اور عبرت حاصل کرو۔



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا﴾ زكوا ﴿مِنْ طَيِّبَاتِ﴾ جِيَادِ ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾ مِنَ الْمَالِ ﴿وَمِنْ﴾ طَيِّبَاتِ ﴿مَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ مِنَ الْحَبُوبِ وَالشَّمَارِ ﴿وَلَا تَيْمَمُوا﴾ تَقْصِدُوا ﴿الْخَبِيثَاتِ﴾ الرَّدَى ﴿مِنْهُ﴾ أَي مِنَ الْمَذْكُورِ ﴿تَنْفِقُونَ﴾ فِي الزَّكَاةِ حَالٍ مِنْ ضَمِيرِ تَيْمَمُوا ﴿وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ﴾ أَي الْخَبِيثِ لَوْ اعْطَيْتُمُوهُ فِي حَقُوقِكُمْ ﴿إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ﴾ بِالتَّسَاهُلِ وَغَضِ الْبَصَرِ فَكَيْفَ تَوَدُونَ مِنْهُ حَقَّ اللَّهِ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ﴾ عَنِ نَفَقَاتِكُمْ ﴿حَمِيدٌ﴾ مَحْمُودٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ يَخُوفِكُمْ بِهِ أَنْ تَصَدَّقْتُمْ فَتَمْسُكُوا ﴿وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ الْبَخْلِ وَمَنْعِ الزَّكَاةِ ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ﴾ عَلَى الْإِنْفَاقِ ﴿مَغْفِرَةً مِّنْهُ﴾ لَدُنُوبِكُمْ ﴿وَفَضْلًا﴾ رِزْقًا خَلَفًا مِنْهُ ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ فَضْلُهُ ﴿عَلِيمٌ﴾ بِالْمَنْفِقِ ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ﴾ الْعِلْمَ النَّافِعَ الْمُؤَدِيَّ إِلَى الْعَمَلِ ﴿مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ لِمَصِيرِهِ إِلَى السَّعَادَةِ الْإِبْدِيَّةِ ﴿وَمَا يَدَّكُرُ﴾ فِيهِ ادْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الذَّالِ يَتَعَطَّ ﴿إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ أَصْحَابَ الْعُقُولِ ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ﴾ أَدَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ صَدَقَةٍ ﴿أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَّذْرٍ﴾ فَوْفَيْتُمْ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ فَيَجَازِيكُمْ عَلَيْهِ ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ بِمَنْعِ الزَّكَاةِ وَالنَّذْرِ أَوْ بَوْضَعِ الْإِنْفَاقِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ ﴿مِنْ أَنْصَارٍ﴾ مَانِعِينَ لَهُمْ مِنْ

عذابه ﴿إِنْ تَبَدُّوْا﴾ تظہروا ﴿الصَّدَقَاتِ﴾ ای النوافل ﴿فَنِعْمًا هِيَ﴾ ای نعم شئی ابداءہا ﴿وَأَنْ تَخْفُوْهَا﴾ تسروہا ﴿وَتُوتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ من ابدائها وایتائها الاغنیاء اما صدقة الفرض فالافضل اظهارہا ليقتدی بہ و لئلا يتهم و ايتاؤها الفقراء متعين ﴿وَيُكَفِّرُ﴾ بالياء وبالنون مجزوما بالعطف على محل فهو و مرفوعا على الاستيناف ﴿عَنْكُمْ مِنْ﴾ بعض ﴿سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ عالم بباطنه كظاهره لا يخفى عليه شئی منه ولما منع من التصديق على المشركين ليسلموا نزل ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ ای الناس الى الدخول في الاسلام انما عليك البلاغ ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته الى الدخول فيه ﴿وَمَا تَنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ﴾ مال ﴿فَلَا نَفْسِكُمْ﴾ لان ثوابه لها ﴿وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ ای ثوابه لا غيره من اغراض الدنيا خبر بمعنى النهي ﴿وَمَا تَنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّئُ إِلَيْكُمْ﴾ جزاؤه ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ﴾ تنقصون منه شيئا و الجملتان تأكيد للاولى ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ خبر مبتدأ محذوف ای الصدقات ﴿الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ای حبسوا انفسهم على الجهاد و نزلت في اهل الصفة وهم اربعمائة من المهاجرين ارسدوا لتعليم القرآن والخروج مع السرايا ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا﴾ سفرا ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ للتجارة والمعاش لشغلهم عنه بالجهاد ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ﴾ بحالهم ﴿أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ ای لتعففهم عن السؤال وتركه ﴿تَعْرِفُهُمْ﴾ يا مخاطبا ﴿بِسِيمَتِهِمْ﴾ علامتهم من التواضع و اثر الجهد ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ﴾ شيئا فيلحفون ﴿الْحَافًا﴾ ای لا سوال لهم اصلا فلا يقع منهم الحاف وهو الالحاح ﴿وَمَا تَنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ فيجازيكم عليه.

ترجمہ

(اے ایمان والو! خرچ کرو) یعنی زکوٰۃ ادا کرو (ان پاکیزہ مالوں سے جو تم نے کمایا ہے اور ان) پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہارے لئے (غلہ اور پھل وغیرہ) زمین سے پیدا کئے ہیں اور ان میں سے گھٹیا مال کا ارادہ نہ کرو کہ) اسے تم زکوٰۃ میں (خرچ کرو) یہ تیمموا کی ضمیر سے حال ہے (حالانکہ) اگر تمہیں تمہارے حقوق کی ادائیگی میں وہی دیا جائے تو (تم اسے نہیں لوگے، مگر یہ کہ چشم پوشی سے کام لو) تو تم اسے اللہ کے حق میں کیوں کرا داکرتے ہو (اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ) تمہارے نفقات سے (بے نیاز ہیں) اور ہر حال میں (لائق حمد) وہی (ہیں، شیطان تمہیں تنگدستی کا اندیشہ دلاتا ہے،) کہ اگر صدقہ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اس لئے بخل کرو (اور تم کو برے کام) بخل اور منع زکوٰۃ (کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے) انفاق پر تمہارے گناہوں کی (اپنی

جانب سے مغفرت اور فضل) یعنی نعم البدل (کا وعدہ کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل وسیع ہے) وہ انفاق کرنے والے کا (علم رکھتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، حکمت عطا فرماتے ہیں) یعنی علم نافع جو عمل کا سبب بنتا ہے (اور جسے حکمت دی گئی، اسے بہت سارا خیر دے دیا گیا) کیونکہ اس سے سعادت ابدیہ حاصل ہوتی ہے (اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں، جو عقل والے ہیں) یاد کر میں اصل میں تاء تھی اس کا ذال میں ادغام ہو گیا ہے۔ اصل میں یتذکر باب تفعّل سے ہے (اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو) یعنی زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہو (یا جو نذر مانتے ہو) اور اسے پورا کرتے ہو (تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں) اس پر تمہیں جزا عطا فرمائیں گے (اور ان لوگوں کیلئے) جو زکوٰۃ نہ دے کر یا بے محل معاصی میں خرچ کر کے (ظلم کرنے والے ہیں، کوئی مددگار نہیں ہے) یعنی عذاب سے بچا نہیں سکتے (اگر تم صدقہ) نافلہ (کو ظاہر کرو، تو یہ بجا ہے) یعنی اس کا ظاہر کرنا ٹھیک ہے (اور اگر تم اسے پوشیدہ رکھو اور فقیروں کو دو، تو وہ تمہارے لئے) اس کے ظاہر کرنے اور مالداروں کو دینے سے (بہتر ہے) لیکن صدقہ نغرض تو اس کا ظاہر کرنا ہی افضل ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اور اس لئے تاکہ تہمت سے محفوظ رہیں، اور صدقہ نغرض تو فقراء ہی کے لئے متعین ہے (اور یہ تم سے تمہاری خطاؤں کا کفارہ بن جائے گا) یکفر میں دو قرأت ہے۔ دوسری قرأت نکفر ہے نون کے ساتھ، مجزوم ہے، توفہو کے محل پر عطف ہے، اور مرفوع ہے، تو جملہ مستانفہ ہے (اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتے ہیں) یعنی ظاہر و باطن دونوں کو جانتے ہیں، ان پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

اور ایک وقت رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو منع کر دیا تھا کہ مشرکین کو صدقہ نہ دیں، شاید وہ اسی طرح اسلام قبول کریں تو یہ حکم نازل ہوا (تمہارے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے) یعنی لوگوں کی ہدایت کہ وہ اسلام میں داخل ہوں، تمہارے ذمے تو بات کا پہونچا دینا ہے (اور جو بھی مال تم خرچ کرتے ہو، تو وہ تمہارے نفس کیلئے ہے) کیونکہ اس کا ثواب اسی کے لئے ہے (اور تم بجز اللہ کی رضامندی کی طلب کے نہیں خرچ کرتے) یعنی ثواب کیلئے، اس کے علاوہ اور کسی غرض دنیا کیلئے نہیں، یہ خبر نبی کے معنی میں ہے (اور جو کچھ تم مال خرچ کرتے ہو وہ سب تم کو پورا پورا دیا جائے گا) یعنی اس کا ثواب (اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا) یعنی اس میں سے کچھ کم نہیں کیا جائیگا۔ یہ دونوں جملے پہلے جملے کی تاکید ہیں (ان فقراء کے لئے ہیں) یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، یعنی صدقات (جو اللہ کے راستے میں روک دیئے گئے ہیں) یعنی انھوں نے اپنے آپ کو جہاد کیلئے روک رکھا ہے، یہ آیت اہل صفہ کے حق میں اتری ہے، یہ حضرات چار سو مہاجرین تھے، جو قرآن پڑھنے اور جہاد میں نکلنے کیلئے تیار رکھے گئے تھے (وہ زمین میں) تجارت اور معاش کے لئے (سفر کی قدرت نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں جہاد کی مشغولیت سے ان کاموں کی فرصت نہ تھی) (جو) ان کے حال سے (ناواقف ہے، وہ انہیں تعفف کی وجہ سے)

یعنی ان کیا جتنا سوال کی وجہ سے (مالدار سمجھتا ہے) اے مخاطب (تم ان کی علامت) یعنی تواضع اور مشقت کے آثار (کی وجہ سے انہیں پہچان لو گے، وہ لوگوں سے) کچھ (نہیں مانگتے کہ اصرار پایا جاتا) یعنی وہ سرے سے سوال ہی نہیں کرتے، کہ ان کی طرف سے اصرار والحاہ کا وجود ہوتا (اور جو کچھ تم مال خرچ کرتے ہو، وہ اللہ کو معلوم ہے) تم کو اس کی جزا ملے گی۔

﴿ تشریحات ﴾

زکوا:۔ یہاں انفاق سے مراد زکوٰۃ ہے۔

من الحبوب والثمار:۔ یہ زمین کے عشر کا بیان ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نصاب شرط نہیں ہے، اور نہ سال کا گزرنا شرط ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ و آتوا حقہ یوم حصادہ، اور دوسرے اموال میں نصاب شرط ہے، اور سال کا گزرنا۔

منہ ای من المذکور:۔ ولا تیمموا الخبیث منہ میں منہ کی ضمیر طیبات ما کسبتہم اور ما اخرجنا لکم من الارض کے مجموعے کی جانب لوٹی ہے، ایسے موقع پر بظاہر مؤنث کی ضمیر چاہئے، لیکن مذکر کی ضمیر لائی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ المذکور کی جانب یہ ضمیر راجع ہے۔

فی الزکوٰۃ:۔ تنفقون کا مفعول محذوف ہے، وہ ضمیر منصوب ہے، اور یہ جملہ تیمموا کی ضمیر سے حال ہے۔

البخل ومنع الزکاۃ:۔ فحشاء کا لفظ عموماً بے حیائی کے گناہوں کیلئے استعمال ہوتا ہے، عام طور سے اس سے زنا مراد ہوتا ہے، لیکن اس جگہ اس سے بخل مراد ہے، اور بخل بھی ایک طرح کی بے حیائی ہے۔

العلم النافع المودی الی العمل:۔ حکمت کی تعریف مختلف انداز میں علماء نے کی ہے، مفسر نے ایک ایسی تعریف کی ہے جو اکثر تعریفوں کی جامع ہے، یعنی وہ علم جو نافع ہو، یعنی خود صاحب علم کو بھی اور دوسروں کو بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ وہی علم ہوگا جس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہو، عقل و فہم کی درستگی بھی اس کے لئے بنیادی شرط ہے، تفقہ فی الدین بھی ضروری ہے، تعریف کا دوسرا جز یہ ہے کہ وہ عمل کے لئے داعی اور سبب ہو، یعنی اس کے نتیجے میں عمل وجود میں آجائے۔ ظاہر ہے کہ جس علم سے عمل وجود میں آئے، اس میں اللہ کا تقویٰ اور خشیت ضرور شامل ہوگی، اس لئے جن لوگوں نے حکمت کی تفسیر خشیت سے کی ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔

اصحاب العقول:۔ عقل سے مراد وہ عقل ہے جو سلیم ہو، اوہام و ظنون سے پاک ہو، آیت سے معلوم ہوا کہ صاحب عقل اور حکیم وہی ہے جو، اللہ کی راہ میں انفاق کا جذبہ رکھتا ہو، بخل و امساک سے دور ہو، اور فقر کے

خوف سے صدقات و زکوٰۃ کو نہ روکتا ہو۔

وما للظالمین بمنع الزکوٰۃ الخ :۔ ظلم وضع الشی فی غیر محلہ : (بے محل استعمال) کو کہتے ہیں ، یہاں ظالم اس کو کہا گیا ہے جو زکوٰۃ کو روکتا ہو۔ اور نذر پوری نہ کرتا ہو، دونوں کام بے محل ہیں، یا معاصی میں مال برباد کرتا ہو، یہ بھی بے محل خرچ ہے۔

ای نعم شیء ابداء ہا :۔ نعم فعل مدح ہے، ماتینر ہے، شیئاً کے معنی میں، نعم کی میم کا ما کی میم میں ادغام کر دیا گیا ہے، اور عین پر کسرہ دے دیا گیا تاکہ اجتماع ساکنین نہ ہو، کیونکہ میم کو ادغام کرنے کیلئے ساکن کیا گیا تھا، نعمما ہی میں ہی مخصوص بالمدح ہے، وہ بحذف المضاف ہے، یعنی ابداء ہا۔ اب شرح عبارت یوں ہوگی، نعم شیئاً ابداء ہا، ان کا ظاہر کرنا بہتر ہے۔

اما صدقة الفرض :۔ صدقات کو چھپانے اور انہیں فقراء کو دینے کی افضلیت جو بیان کی گئی ہے، اس کا تعلق صدقہ نافلہ سے ہے، فرض زکوٰۃ کا اعلانیہ ادا کرنا بہتر ہے، اس میں دو مصلحتیں ہیں، ایک یہ کہ دوسروں کو بھی دینے کی ترغیب ہوگی، دوسرے یہ کہ آدمی تہمت سے بچے گا، ورنہ لوگ شبہہ کریں کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔

یکفر بالیاء وبالنون :۔ یکفر میں تین قرأتیں ہیں۔ ایک قرأت یاء کے ساتھ ہے، اس قرأت میں یہ فعل مرفوع ہے، مجزوم نہیں ہے، اور وہ جو مفسر نے فرمایا کہ مجزوماً..... و مرفوعاً، اس کا تعلق صرف نون والی قرأت سے ہے، اسی لئے نون والی قرأت کو انہوں نے باء حرف جر کا اعادہ کر کے بیان کیا ہے، چنانچہ بالیاء وبالنون کہا ہے، تاکہ اشارہ ہو جائے، بالیاء کے بعد مستقلاً ایک دوسری قرأت کا بیان ہے، اس کی تفصیل میں جو کچھ تحریر کیا جائے گا، اس کا تعلق بالیاء کے ساتھ نہ ہوگا۔

دوسری قرأت نکفر، بالنون والجزم ہے، اس صورت میں اس کا عطف فہو کے محل پر ہے، کیونکہ وہ جواب شرط ہے، اور جواب شرط کا محل جزم ہے، تیسری قرأت نکفر بالنون والرفع ہے، اس طرح یہ جملہ مستانفہ ہے۔

بعض سیئاتکم :۔ من تبعیضیہ ہے، اس لئے اس کی تفسیر بعض سے کی سیئات سیئۃ کی جمع ہے، فیعلۃ کے وزن پر، اس کا عین کلمہ واو ہے، اس کی اصل سیوۃ ہے، واو کو یاء سے بدل کر یاء کا یاء میں ادغام کر دیا، یہ سوء سے مشتق ہے۔

عالم بباطنہ و کظاہرہ : خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح کے اعمال کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔

ہدایتہ :۔ من یشاء کا مفعول محذوف ہے، اور وہ ہدایتہ ہے۔

خبر بمعنی النهی :۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ :۔ یہ لفظاً جملہ خبریہ ہے، لیکن امر کے معنی میں

ہے، مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کی طلب میں مال خرچ کرو، لیکن اس تعبیر کے اختیار کرنے میں اشارہ ہے کہ صحابہ کرام محض خوشنودی الہی کے لئے مال خرچ کیا کرتے تھے کوئی اور غرض نہ ہوتی تھی، یہاں بھی صدقہ کو روکنے کا ارادہ مشرکین کے حق میں صرف اس لئے کیا گیا تھا کہ وہ مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار بندے بن جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی بالواسطہ طلب رضا الہی ہی ہے۔

والجملتان تاکید للاولیٰ :- پہلا جملہ وما تنفقوا من خیر فلا نفسکم ہے، اس کی دو تاکیدیں لائی گئی ہیں، پہلی تاکید وما تنفقوا من خیر یوف الیکم ہے اور دوسری تاکید وانتم لا تظلمون ہے۔ لتعففہم عن السؤال :۔ تعفف عفت سے باب تفعیل ہے، اس کے معنی ہیں، کسی کام کی قدرت کے باوجود اس سے احتراز کرنا۔

یا مخاطباً :- تعرفہم کا مخاطب کوئی خاص شخص نہیں ہے، بلکہ عام مخاطب مراد ہے، کیونکہ ان فقراء کا حال اتنا ظاہر ہے کہ علامت سے ہر شخص پہچان سکتا ہے۔

ای لا سوال لہم اصلاً فلا یقع منہم الالحاف :- آیت شریفہ لا یسألون الناس الالحاف سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات لپٹ کر اور باصرار سوال نہیں کرتے، یہ ہو سکتا ہے کہ نرمی و آہستگی کے ساتھ بغیر اصرار کے سوال کرتے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ دوسرے سے سوال کرتے ہی نہیں، اس اشکال کا جواب مفسر نے یہ دیا کہ یہ اشکال اس صورت میں ہو سکتا ہے، جبکہ الالحاف کو حال قرار دیا جائے، یعنی۔

لا یسألون الناس ملحفین :- لیکن یہ معنی ماسبق کے مضمون کے خلاف ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے فرما چکے ہیں کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف

یعنی سوال نہ کرنے اور اس سے بچنے کی وجہ سے ناواقف انہیں مالدار سمجھتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرے سے سوال ہی نہیں کرتے، تو اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ لپٹ کر اصرار سے سوال نہیں کرتے، بلکہ بغیر اصرار کے سوال کرتے ہیں؟ پس یہ بات متعین ہے کہ الالحاف کو حال نہ قرار دیا جائے گو کہ اس کی بھی توجیہ و تاویل ہو سکتی ہے۔ بلکہ اسے مفعول مطلق قرار دیا جائے، اور اس کے عامل فعل کو محذوف مانا جائے۔ چنانچہ مفسر نے تفسیری عبارت یوں لکھی ہے۔ لا یسألون الناس شیئاً فیلحفون الالحافاً اس میں مقید یعنی سوال اور قید یعنی الحاف دونوں کی نفی ہوتی ہے، یعنی سرے سے سوال ہی نہیں کرتے، اس لئے الحاف کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اے ایمان والو! زکوٰۃ ادا کرنے کیلئے عمدہ مال کا انتخاب کرو، خواہ وہ تمہاری کمائی کا ہو یا زمین کی پیداوار ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں گھٹیا مال؛ چھانٹ کر دو، ایسا گھٹیا مال جو اگر تمہیں دیا جائے تو لینا گوارا نہ کرو، ہاں کسی

خاص مصلحت سے چشم پوشی کرو تو ہو سکتا ہے کہ اسے قبول کر لو، تو تم اللہ کی راہ میں دینے کے لئے ایسے گھٹیا مال کا انتخاب نہ کرو، اور یہ خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہر حال میں لائق حمد و ثناء ہیں۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ صدقہ دو گے تو غربت کا حملہ ہوگا، اور یہ ڈرا کر بخل پر آمادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ تم صدقہ دو گے تو تمہاری مغفرت ہوگی، اور اس کا نعم البدل یعنی فضل خداوندی میسر ہوگا، اور اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، وہ صاحب انفاق کو جانتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے بہت سارا خیر دیا گیا، کیونکہ یہ حکمت ہر خیر کی طرف رہنما ہوتی ہے، اور اہل عقل ہی وہ ہیں جو نصیحت کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اور جو بھی تم صدقہ یا زکوٰۃ ادا کرتے ہو، یا نذر مان کر اسے پورا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔

اگر تم صدقات نافلہ کو ظاہر کر کے دو تو یہ اظہار بھی بہتر ہے، لیکن اگر تم اسے خفیہ طور پر دو اور فقراء کو دو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے، زکوٰۃ فرض البتہ ظاہر کر کے دینا بعض وجہوں سے زیادہ بہتر ہے، اس سے تمہارے بہت سے گناہ مٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور علانیہ سب کو جانتے ہیں۔

بعض حضرات نے سوچا تھا، اور مفسر نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرما دیا تھا کہ مشرکین کو صدقہ نہ دیا جائے شاید اسی کی حرص میں اسلام قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کی نفی کر دی، فرمایا کہ کسی کو ہدایت دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، ہدایت سے نوازیں گے، تم تو جو کچھ خرچ کرو گے، وہ دوسروں کے فائدے کیلئے نہیں خود تمہارے فائدہ کے لئے ہے، تم تو صرف رضاء الہی کے لئے مال خرچ کرتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کا عوض تم کو پورا پورا ملے گا اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا۔

یہ صدقات و زکوٰۃ ان فقراء مہاجرین کے لئے ہے، جو اللہ کی راہ میں یعنی جہاد وغیرہ کیلئے تیار رکھے گئے ہیں، وہ اس مقصد کی وجہ سے نہ تو تلاش معاش میں نکل سکتے، نہ کہیں سفر کر سکتے ہیں، وہ لوگ بالکل تنگ دست ہیں، مگر جو لوگ ان کے حال سے ناواقف ہیں، وہ انہیں مالدار سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کسی کے سامنے دست سوال نہیں دراز کرتے، ان کے چہرے اور حال کی علامتوں سے انہیں پہچانا جاسکتا ہے، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، نہ اصرار کرتے، اور جو کچھ تم اللہ کیلئے خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں، اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔



﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَيْ يَأْخُذُونَهُ وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي الْمَعَامَلَةِ﴾

بالنقود والمطعمات في القدر او الاجل ﴿لَا يَقُومُونَ﴾ من قبورهم ﴿الَّا﴾ قياما ﴿كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ﴾ يصرعه ﴿الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ الجنون بهم متعلق بيقومون ﴿ذَلِكَ﴾ الذي
نزل بهم ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ بسبب انهم ﴿قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ في الجواز وهذا من عكس
التشبيه مبالغة فقال تعالى ردا عليهم ﴿وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ﴾ بلغه
﴿مَوْعِظَةٌ﴾ وعظ ﴿مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى﴾ عن اكله ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ قبل النهي اى لا يسترد منه
﴿وَأَمْرُهُ﴾ في العفو عنه ﴿إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ﴾ الى اكله مشبها له بالبيع في الحل
﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ ينقصه و يذهب بركته ﴿وَ
يُرَبِّي الصَّدَقَاتِ﴾ يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ﴾ بتحليل
الربوا ﴿أَثِيمٍ﴾ فاجر باكله اى يعاقبه ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا﴾ اتركوا ﴿مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ صادقين في ايمانكم فان من
شان المؤمن امتثال امر الله نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربوا كان له قبل
﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا﴾ ما امرتم به ﴿فَإذْنُوا﴾ اعلموا ﴿بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ لكم فيه تهديد
شديد لهم ولما نزلت قالوا لا يدى لنا بحربه ﴿وَإِنْ تَبْتُمْ﴾ رجعتم عنه ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ﴾
اصول ﴿أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ﴾ بزيادة ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ بنقص ﴿وَإِنْ كَانَ﴾ وقع غريم ﴿ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ﴾ له اى عليكم تاخيره ﴿إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ بفتح السين و ضمها اى وقت يسره
﴿وَإِنْ تَصَدَّقُوا﴾ بالتشديد على ادغام التاء في الاصل في الصاد وبالتخفيف على حذفها اى
تتصدقوا على المعسر بالابراء ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ انه خير فافعلوه في الحديث
من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رواه مسلم ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا
تُرْجَعُونَ﴾ بالبناء للمفعول تردون و للفاعل تصيرون ﴿فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ هو يوم القيامة ﴿ثُمَّ
تُؤْفَى﴾ فيه ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ جزاء ﴿مَا كَسَبَتْ﴾ عملت من خير و شر ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾
بنقص حسنة او زيادة سيئة۔

ترجمہ

(وہ لوگ جو اپنے مالوں کو رات اور دن، پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کیلئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر نہ خوف ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جو لوگ سود کھاتے ہیں) یعنی سود لیتے ہیں اور

وہ نقد اور مطعومات کے معاملہ میں مقدار یا مدت کا اضافہ ہے (وہ) اپنی قبروں سے (ایسے ہی اٹھیں گے، جس طرح وہ آدمی اٹھتا ہے، جس کو شیطان نے جنون میں مبتلا کر دیا ہو) من المس، یقومون سے متعلق ہے (یہ حالت) جو ان پر پڑی ہے (اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے کہا کہ بیع تو ربوا ہی کے مثل ہے) یعنی جائز ہونے میں دونوں یکساں ہیں یہ تشبیہ معکوس ہے اس سے مبالغہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کرتے ہوئے فرمایا (اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربوا کو حرام قرار دیا ہے، تو جس کے پاس نصیحت پہنچی اس کے رب کی جانب سے، پس وہ) اس کے کھانے سے (باز رہا، تو اس کے لئے وہ ہے جو) نہیں سے پہلے (گزر چکا) یعنی اسے واپس نہیں کرنا ہوگا، اور معافی اور درگزر میں (اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو) اس کے کھانے کی طرف دوبارہ یہ سوچ کر (لوٹے) کہ یہ حلت میں بیع کے مشابہ ہے (تو یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں) یعنی اسے گھٹاتے ہیں، اور اس کی برکت سلب کر لیتے ہیں (اور صدقات کو زیادہ کرتے ہیں) یعنی اسے بڑھاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اور اس کے ثواب کو کئی گنا بڑھاتے ہیں (اور اللہ تعالیٰ کسی) ایسے شخص سے جو سود کو حلال قرار دیکر (کافر) ہو اس (سے) اور جو اسے کھا کر (فاسق) ہو۔ اس (سے) محبت نہیں رکھتے) یعنی اسے عذاب میں مبتلا کر دیں گے (بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے عمل صالح کئے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر نہ خوف ہوگا۔ اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے، اسے ترک کر دو، اگر تم صاحب ایمان ہو) یعنی اپنے ایمان میں سچے ہو، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کا امتثال کرے۔

بعض صحابہ نے اس نہی کے بعد اپنے اس سود کا مطالبہ کیا جو نہی سے پہلے طے ہو چکا تھا، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ (پس اگر تم نے ایسا نہیں کیا) جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے (تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا یقین کر لو) اس میں ان کے لئے تہدید شدید ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان حضرات نے فرمایا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے (اور اگر تم نے) اس سے رجوع کر لیا، تو تمہارے لئے، تمہارا اصل مال ہے، نہ زیادہ کر کے (تم ظلم کرو، اور نہ) کمی کر کے (تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی) مقروض (تنگ دست ہو تو) اس کے لئے (مہلت ہے) یعنی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے مہلت دو (فراخی ہونے تک) میسرہ سین کے فتح اور ضمہ کے ساتھ ہے، یعنی خوش حالی ہونے کے وقت تک مہلت دو (اور یہ بات کہ تم صدقہ کر دو) تصدقوا صا داوردال کی تشدید کے ساتھ ہے، اصل میں تصدقوا ہے، تاء کا صا د میں ادغام ہو گیا ہے، اور ایک قرأت میں صا د بغیر تشدید کے ہے، اس صورت میں تاء محذوف ہے، یعنی یہ کہ تنگ دست مقروض کو معافی دیکر قرض اس پر صدقہ کر دو (یہ تمہارے لئے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو) کہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے، تو ایسا کرو، حدیث میں

ہے کہ جس نے کسی تنگدست کو مہلت دی یا اس سے قرض کا بوجھ اتار دیا تو اللہ اسے اپنے سایہ میں جگہ دیں گے، جس دن کہ ان کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا (مسلم) (اور اس دن سے ڈرو، جس میں تم کو اللہ کی جانب واپس کیا جائے گا) تردون میں دو قرأت ہے، فعل مجہول بھی اور فعل معروف بھی، وہ دن قیامت کا دن ہے (پھر) اس دن میں (ہر شخص کو اس) کام (کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو اس نے) خیر و شر کا (عمل کیا ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا) نہ نیکی کو گھٹا کر اور نہ برائی کو بڑھا کر۔

تشریحات

یاخذونہ :۔ یا کلون سے صرف یہی مراد نہیں ہے کہ وہ اسے کھاتے ہیں بلکہ مطلقاً لینا مراد ہے۔

فی المعاملة بالنقود والمطعمات :۔ نقود سے مراد اصلاً تو سونا اور چاندی ہے، اور اسی کے حکم میں وہ چیزیں بھی ہیں، جن کو لوگوں نے بالاتفاق، یا حکومت نے نمن بنا دیا ہو، اور مطعمات (کھانے کی چیزوں) کا سود کے ساتھ مخصوص ہونا، امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک ہے، ان کے نزدیک انہیں دونوں چیزوں کے اندر کمی و بیشی کا معاملہ کرنے سے سود ہوتا ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر وہ چیز جو مقداری، یعنی کیل میں ناپی جانے والی یا وزن سے تولی جانے والی ہو، اگر ہم جنس کے عوض میں کمی یا زیادتی کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے تو سود ہوگا۔ تفصیلات کتب فقہ میں موجود ہیں۔

فی القدر والاجل :۔ یہ مفسر کے قول فی المعاملہ سے بدل ہے، پہلا ربوا الفضل ہے اور یہ محض اتحاد جنس کی صورت میں ہوگا یعنی سونے کے بدلے میں سونا، اگر مقدار گھٹا بڑھا کر معاملہ کیا جائے، تو سود ہے، اور دوسرا ربوا النساء ہے، یہ متحد الجنس اور مختلف الجنس دونوں میں ہوتا ہے، مثلاً سونے کی بیع سونے یا چاندی کے ساتھ اس طور پر کہ ادھار کر دیا جائے تو یہ بھی ربوا کی ایک شکل ہے، اسے ربوا النساء یا ربوا النسیئہ کہتے ہیں۔

یصرعہ :۔ جیسے شیطان اپنی گرفت میں لے کر کبھی آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے، اسی طرح سود خوار دیوانوں کے مانند اٹھے گا۔

من المس :۔ یہ ظرف لا یقومون سے متعلق ہے، اور یہ تعلیل کیلئے ہے، مس کے معنی جنون ہیں معنی یہ ہوا کہ لا یقومون من اجل الجنون الا کقیام الذی یتخطبه الشیطان۔

من عکس التشبيه مبالغه :۔ یہ تشبیہ معکوس ہے، ہونا یہ چاہئے کہ سود کو بیع کے ساتھ تشبیہ دے، لیکن یہاں اس کے برعکس بیع کو سود کے مشابہ قرار دیا، یہ انہوں نے بطور مبالغہ کے کہا ہے۔ گویا وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل حلت تو سود کی ہے، اس میں حرمت کا کوئی سوال نہیں ہے، پھر کہا کہ بیع بھی اسی سود ہی کی طرح حلال ہے، یہ تشبیہ، تشبیہ کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔

مشبہا له بالبيع فی الحل :- یہاں بظاہر ایک اشکال ہوتا ہے، مفسر نے مشبہا کہہ کر اسی اعتراض کو دفع کیا ہے۔

اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ومن عاد فرمایا ہے کہ نبی کے بعد بھی جو شخص سود لے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، حالانکہ سود لینا ایک گناہ کبیرہ ضرور ہے، لیکن اس کا لینا دینا گناہ کبیرہ ہی ہے، کفر نہیں ہے، پھر اس پر خلود فی النار کی وعید کیوں آئی۔ جواب یہ ہے کہ یہاں مطلقاً سود لینا مراد نہیں، بلکہ سود کو بیع کے مثل حلال سمجھ کر لینا مراد ہے، ظاہر ہے کہ جو چیز نص قطعی کے ذریعے حرام ہو، اگر اسے حلال قرار دیا جائے تو یہ صراحتہ کفر ہے، اور اس پر خلود فی النار کی وعید ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

جن لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ رات میں بھی اور دن میں بھی خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی اللہ کے لئے مال خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ ان کو آخرت میں پورا پورا ثواب ملے گا، اس کی برکت سے، نہ انہیں کسی طرح کا خوف ہوگا۔ نہ رنج ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور صدقہ دینے کے ٹھیک برعکس سود لینا ہے، صدقہ دینے میں ایثار ہے، اور سود لینے میں خالص خود غرضی، اور دوسروں کی تکلیف و زحمت سے آنکھ بند کر کے محض نفع اندوزی ہے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ قبروں سے پاگلوں کی طرف کھڑے ہوں گے، انہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے گا کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ ایسا اس لئے ہوگا کہ انہوں نے بیع کو سود ہی کے مثل سمجھا اور اسے حلال کر دیا۔ حالانکہ بیع کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور سود کو حرام کیا ہے، بیع میں کسی کسی اعتبار سے جانین میں سے ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے، اور سود میں صرف ایک فریق کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس اللہ کی جانب سے نصیحت آگئی، اور وہ سودی معاملے سے باز آ گیا، تو پچھلا لیا دیا سود اس کے حق میں ہے، اور معاف ہونے میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو کوئی دوبارہ سود کی طرف پلٹے اور اسے حلال سمجھے گا، اس کا ٹھکانا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا کیونکہ سود کو حلال عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ کافر ہے۔

اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے اور مٹاتے ہیں، اس میں ذرا بھی برکت نہیں ہوتی، اس کے برخلاف صدقہ میں خوب برکت دیتے ہیں، اس سے مال میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کافر گناہگار سے محبت نہیں رکھتے، البتہ جو لوگ ایمان لائے، اور عمل صالح میں لگے رہے، نمازوں کا انہوں نے اہتمام کیا، زکوٰۃ بھی دیتے رہے، ان کے لئے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور وہ نہ خوف زدہ ہوں گے۔ اور نہ انہیں رنج و غم ہوگا۔

اے ایمان والو! اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو، تو پچھلا سب سود جو ابھی باقی ہے، چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے، تو اللہ اور اسکے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو، تو تمہارا اصل مال تمہیں مل

جائے گا، نہ تم پر ظلم کیا جائے اور نہ تم کسی پر ظلم کرو۔

اور اگر کوئی مقروض تنگ دست ہے تو کشادہ دستی ہونے تک اسے مہلت دو، اور اگر ایسے کسی شخص کا قرض بالکل یا کچھ معاف کر کے صدقہ کر دو تو اور بہتر ہے، اگر اسے بہتر سمجھتے ہو، تو ایسا کرو، اور اس دن سے ڈرو، جس دن تم سب خدا کے دربار میں حاضر ہو گے، پھر ہر ایک کو اس کے کئے کا پورا بدلہ ملے گا، نہ نیکیوں میں کچھ گھٹایا جائے گا اور نہ برائیوں میں کوئی اضافہ کیا جائیگا۔



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ﴾ تعاملتم ﴿بِدَيْنٍ﴾ كسلم و قرض ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ معلوم ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ استيثاقاً و دفعا للنزاع ﴿وَلْيَكْتُبْ﴾ كتاب الدين ﴿بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ بالحق في كتابته لا يزيد في المال و الاجل و لا ينقص ﴿وَلَا يَأْبَ﴾ يمتنع ﴿كَاتِبٌ﴾ من ﴿أَنْ يَكْتُبَ﴾ اذا دعى اليها ﴿كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ اى فضله بالكتابة فلا يخل بها و الكاف متعلقة بيا ب ﴿فَلْيَكْتُبْ﴾ تاكيد ﴿وَلْيُمْلِلْ﴾ على الكاتب ﴿الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ الدين لانه المشهود عليه فيقر ليعلم ما عليه ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ في املائه ﴿وَلَا يَخَسُ﴾ ينقص ﴿مِنْهُ﴾ اى الحق ﴿شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا﴾ مبذرا ﴿أَوْ ضَعِيفًا﴾ عن الاملاء لصغر او كبر ﴿أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّهُهُ﴾ لخرس او جهل باللغة او نحو ذلك ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ﴾ متولى امره من والد و وصى و قيم و مترجم ﴿بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا﴾ اشهدوا على الدين ﴿شَهِيدَيْنِ﴾ شاهدين ﴿مِنْ رِّجَالِكُمْ﴾ اى بالغى المسلمين الاحرار ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا﴾ اى الشاهدان ﴿رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ يشهدون ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ لدينه و عدالته و تعدد النساء لاجل ﴿أَنْ تَضِلَّ﴾ تنسى ﴿إِحْدَاهُمَا﴾ الشهادة لنقص عقلمهن و ضبطهن ﴿فَتَذَكَّرْ﴾ بالتخفيف و التشديد ﴿إِحْدَاهُمَا﴾ الذاكرة ﴿الْأُخْرَى﴾ الناسية و جملة الاذكار محل العلة اى لتذكر ان ضلت و دخلت على الضلال لانه سببه و فى قراءة بكسر ان شرطية و رفع تذكر استيناف جوابه ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا زَانِدَةٌ﴾ دُعُوا ﴿إِلَىٰ تَحْمِلِ الشَّهَادَةَ وَادَائِهَا﴾ وَلَا تَسْمُوا ﴿تَمَلُّوا مِنْ﴾ أَنْ تَكْتُبُوهُ ﴿اى ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك﴾ صَغِيرًا ﴿كَانَ﴾ أَوْ كَبِيرًا ﴿قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا﴾ إِلَىٰ أَجَلِهِ ﴿وَقْتَ حُلُولِهِ﴾ حال من الهاء فى تكتبوه ﴿ذَلِكُمْ﴾ اى الكتب ﴿أَقْسَطُ﴾ اعدل ﴿عِنْدَ اللَّهِ وَاقْرَأُوا لِلشَّهَادَةِ﴾ اى اعون على اقامتها لانه يذكرها ﴿وَ أَدْنَىٰ﴾ اقرب الى ﴿أَنْ لَا

تَرْتَابُوا ﴿ تَشْكُوا فِي قَدْرِ الْحَقِّ وَالْأَجْلِ ﴾ ﴿لَا أَنْ تَكُونَ﴾ تَقَع ﴿تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ﴾ وَفِي قِرَاءَةٍ
بِالْغَيْبِ فَتَكُونُ نَاقِصَةً وَاسْمُهَا ضَمِيرُ التِّجَارَةِ ﴿تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ أَي تَقْبِضُونَهَا وَلَا أَجَلَ
فِيهَا ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ فِي ﴿أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ وَالْمُرَادُ بِهَا الْمَتَجَرُّ فِيهِ ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ﴾ عَلَيْهِ فَانْهَ إِدْفَعُ لِلْإِخْتِلَافِ وَهَذَا وَمَا قَبْلَهُ أَمْرٌ نَدْبٌ ﴿وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾
صَاحِبُ الْحَقِّ وَمَنْ عَلَيْهِ بِتَحْرِيفٍ أَوْ امْتِنَاعٍ مِنَ الشَّهَادَةِ أَوْ الْكِتَابَةِ أَوْ لَا يَضُرُّهُمَا صَاحِبُ
الْحَقِّ بِتَكْلِيفِهِمَا مَا لَا يَلِيقُ فِي الْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ ﴿وَأَنْ تَفْعَلُوا﴾ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ ﴿فَإِنَّهُ فُسُوقٌ﴾
خُرُوجٌ عَنِ الطَّاعَةِ لَا حَقَّ ﴿بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ ﴿وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ﴾ مَصَالِحَ
أُمُورِكُمْ حَالِ مَقْدَرَةٍ أَوْ مَسْتَانِفٍ ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ ﴿أَي مَسَافِرِينَ﴾
وَإِنْ تَدَايَنْتُمْ ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُ﴾ وَفِي قِرَاءَةِ فَرِهْنُ ﴿مَقْبُوضَةً﴾ تَسْتَوْثِقُونَ بِهَا وَبَيْنَ
السَّنَةِ جَوَازِ الرِّهْنِ فِي الْحَضَرِ وَوُجُودِ الْكَاتِبِ فَالْتَقْيِدُ بِمَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ التَّوْتِيقَ فِيهِ أَشَدُّ وَأَفَادَ
قَوْلُهُ مَقْبُوضَةً اشْتِرَاطَ الْقَبْضِ فِي الرِّهْنِ وَالْإِكْتِفَاءُ بِهِ مِنَ الْمَرْتَهَنِ وَوَكِيلُهُ ﴿فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾ أَي الدَّائِنُ الْمَدِينُ عَلَى حَقِّهِ فَلَمْ يَرْتَهَنْ ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُتِّمِنَ﴾ أَي الْمَدِينُ
﴿أَمَانَتَهُ﴾ دِينَهُ ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ فِي إِدَائِهِ ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ إِذَا دَعَيْتُمْ لِأَقَامَتِهَا ﴿وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ﴾ خَصَّ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ إِذَا آثَمَ تَبَعَهُ غَيْرُهُ فَيُعَاقَبُ مَعَاقِبَةَ
الْآثِمِينَ ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ

ترجمہ

(اے ایمان والو! جب تم کسی مدت مقررہ تک دین کا معاملہ کرو) مثلاً بیع سلم اور قرض (تو اسے) وثوق
کے لئے اور دفع نزاع کیلئے (لکھ لو) اور دین کی تحریر (چاہئے کہ تمہارے درمیان کوئی کاتب عدل کے ساتھ لکھ
دے) یعنی لکھنے میں سچائی سے کام لے، نہ مال اور مدت میں زیادتی لکھے اور نہ کمی (اور کاتب) کو جب لکھنے کیلئے
بلا یا جائے تو (لکھنے سے انکار نہ کرے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے) یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے
لکھنے کی تعلیم سے اس کی فضیلت بخشی ہے، تو اس میں بخل نہ کرے، اور کما علمہ اللہ میں کاف حرف جر
یاب سے متعلق ہے (بس چاہئے کہ لکھ دے) یہ تاکید ہے (اور چاہئے کہ) کاتب کو (وہ شخص املاء کرائے،
جس کے اوپر حق ہے) یعنی دین ہے، کیونکہ وہ مشہود علیہ ہے۔ پس وہی اقرار کرے، تاکہ اسے معلوم رہے کہ اس
کے ذمے کیا ہے (اور چاہئے کہ) املاء کرانے میں (اپنے رب سے ڈرے، اور اس میں) یعنی حق میں (کوئی کمی
نہ کرے پس اگر وہ شخص جس کے اوپر حق ہے سفیہ) مبذر ہے (یا) بچہ ہونے یا بہت بوڑھا ہونے کی وجہ سے، املاء

کرانے سے (ضعیف ہو یا) گونگے ہونے یا زبان کے نہ جاننے وغیرہ کی وجہ سے (املاء کرانے کی قدرت نہیں رکھتا، تو اس کا ولی) یعنی اس کے معاملات کا ذمہ دار والد ہو، یا وصی ہو یا مترجم ہو (عدل کے ساتھ املاء کرادے اور) دین کے اوپر (دو گواہ بنا لو، اپنے مردوں میں سے) یعنی بالغ آزاد مسلمانوں میں سے (پس اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں) گواہ ہوں گی (جن گواہوں سے تم) ان کے تین اور عادل ہونے کی وجہ سے (راضی ہو) اور عورتوں کا متعدد ہونا اس واسطے ہے (کہ ان میں سے ایک) اپنی عقل اور ضبط کی کمی کی وجہ سے گواہی میں کچھ (بھولے، تو دوسری یا دلدل دے) فتذکر: میں دو قرأت ہے تخفیف کیساتھ یعنی افعال سے اور تشدید کے ساتھ یعنی باب تفعیل سے، اور ازکار والا یہ جملہ، یہی محل علت ہے، یعنی اس لئے کہ اگر ایک بھٹک جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، لیکن علت والا کلمہ ضلال پر داخل کر دیا گیا ہے، کیونکہ یاد دلانے کا سبب وہی ہے، اور ایک قرأت میں ان شرطیہ کے ساتھ ہے، اور فتذکر کے رفع کے ساتھ اس صورت میں یہ جملہ مستانفہ ہوگا (اور) گواہوں کو (جب) تحمل شہادت یا اداء شہادت کے لئے (بلا یا جائے تو گواہ انکار نہ کریں، اور تم اس کے لکھنے سے اکتاہٹ محسوس نہ کرو) یعنی جس حق کو تم نے جانا ہے، اس کے کثرت وقوع کی وجہ سے لکھنے سے گھبراؤ مت (خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو) یعنی کم ہو یا زیادہ (اس کی مدت تک) یعنی مدت کا وقت پورا ہونے تک) یہ تکتبہ کی ضمیر سے حال ہے (یہ) لکھ لینا (اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی اور شہادت کو زیادہ قائم رکھنے والی چیز ہے) کیونکہ یہ چیز معاملہ کو یاد دلائے گی (اور اس بات کے قریب تر ہے کہ تم) حق کی مقدار میں اور مدت کے بارے میں (شک کے اندر نہ پڑو، مگر یہ کہ نقد تجارت ہو) ایک قرأت میں تجارة کے نصب کے ساتھ ہے، اس صورت میں تکون فعل ناقص ہے۔ اور رفع کی قرأت میں تکون فعل تام ہے، اسی لئے مفسر نے اس کی تفسیر میں توقع ذکر کیا ہے، اور نصب کی صورت میں اس کا اسم وہ ضمیر ہے، جو تجارت کی جانب راجع ہے (جسے تم آپس میں دائر کرو) یعنی اس پر قبضہ ہو جائے، تو کوئی مدت اس کے لئے نہ ہو (تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اسے نہ لکھو) یعنی تجارت کو اور اس سے مراد وہ چیز ہے، جس میں تجارت کی گئی ہے (اور جب تم باہم بیع و شراء کا معاملہ کرو تو) اس پر (گواہ بنا لیا کرو) کیونکہ اس سے اختلاف دور ہوگا، اور یہ اور اس سے ما قبل کا امر استحباب کے لئے ہے (اور تکلیف نہ پہنچائے کاتب اور نہ گواہ) صاحب حق کو اور اس شخص کو جس کے اوپر حق ہے، تحریف کر کے یا شہادت اور کتابت سے انکار کر کے، یا یہ کہ ان دونوں کو صاحب حق تکلیف نہ پہنچائے، کتابت اور گواہی میں ایسی چیز کا انہیں مکلف بنا کر، جو مناسب نہیں ہے (اور اگر تم نے) وہ کام (کیا) جس سے تم کو منع کیا گیا ہے (تو یہ فسق ہے) یعنی خروج عن الطاعة ہے جو تم کو لاحق ہے (اور اللہ سے ڈرو) اس کے امر و نہی میں (اور اللہ تعالیٰ تمہیں) تمہارے امور کی مصلحتیں (سکھاتے ہیں) یہ حال مقدرہ ہے یا جملہ مستانفہ ہے (اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو

جاننے والے ہیں، اور اگر تم سفر پر ہو) اور دین کا معاملہ کرو (اور کوئی کاتب نہ پاؤ تو ایسا رہن ہو، جس پر قبضہ ہو چکا ہو) جس سے تم کو اطمینان حاصل رہے، مفسر کی قرأت میں ”رُھن“ ہے، اور ایک قرأت میں رہان ہے، یہ دونوں لفظ رہن کی جمع ہے۔ اور سنت سے ثابت ہے کہ حضر میں بھی اور کاتب کے ہوتے ہوئے بھی رہن رکھنا جائز ہے، پس مذکورہ دونوں باتوں کی قید لگانا، اس لئے ہے کہ توثیق کی ضرورت ان دونوں صورتوں میں زیادہ ہے، اور مقبوضہ کے لفظ کا فائدہ یہ ہے کہ رہن میں قبضہ شرط ہے خواہ مرتہن قبضہ کرے یا اس کا وکیل قبضہ کرے، دونوں کافی ہے۔ (پس اگر تم میں کا بعض، بعض سے مطمئن ہو) یعنی دائن اپنے حق کے سلسلے میں مدیون سے مطمئن ہو، اور رہن نہ لے (تو چاہئے کہ جسے امین بنایا گیا ہے) یعنی مدیون (وہ اپنی امانت) یعنی دین کو (ادا کر دے اور چاہئے کہ) اس کے ادا کرنے میں (اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور) جب تم کو اقامت شہادت کے لئے بلایا جائے تو (گواہی کو مت چھپاؤ اور جو اسے چھپائے گا، تو اس کا دل گناہگار ہوگا) دل کو خاص طور سے ذکر کیا، کیونکہ وہی محل شہادت ہے، اور اس لئے کہ جب وہ گناہگار ہوگا، تو دوسرے اعضاء اس کے تابع ہیں، پس اس کو گناہگاروں والی سزا ہوگی، (اور جو کچھ تمہارا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں) ان پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

﴿ تشریحات ﴾

کسلم :- بیع سلم یہ ہے کہ قیمت نقد ہو اور بیع ادھار ہو، یہ بیع کچھ شرطوں کے ساتھ جائز ہے، تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔

استیثاق۔ وثوق سے باب استفعال ہے، یعنی وثوق و اطمینان حاصل کرنا

مبذرا :- مبذروہ ہے جسے مال صرف کرنے کے مواقع کی تمیز نہ ہو، بے محل خرچ کرتا ہو۔

والد و وصی :- جو لوگ اقرار نامہ خود نہیں لکھوا سکتے، ان میں تین کمزوریاں بتائی گئی ہیں، اس طرح ان کمزوروں کی تین قسمیں ہو گئیں، ایک وہ جو سفیہ ہو، دوسرے وہ جو ضعیف ہو، تیسرے وہ جسے قدرت نہ ہو، پھر ضعیف کی دو صورتیں ہیں، بچہ ہو یا بہت بوڑھا ہو اور جو قدرت نہ رکھتا ہو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ گونگا ہو، دوسرے یہ کہ، جس زبان میں اقرار نامہ لکھوانا ہے، وہ اس زبان کو نہ جانتا ہو، اب اولیاء کی تفصیل درج ذیل ہے۔

(۱) والد اور وصی :- بچے کا ولی ہے

(۲) قیم :- بوڑھے اور گونگے اور سفیہ کا ولی ہے

(۳) مترجم :- زبان کے نہ جاننے والے کا ولی ہے۔

اشھدوا علی الدین :- استشهدوا باب استفعال سے ہے، لیکن معنی میں باب افعال کے ہے۔

(فان لم یكونا) ای الشاهدان :- اگر دو مرد گواہ موجود نہ ہوں، اس کی دو صورت ہے، اول یہ کہ گواہی

کے لئے دو مرد ہوں ہی نہ، دوسرے یہ کہ ہیں تو ضرور، مگر کسی مصلحت کی وجہ سے دو مردوں کو گواہ بنانے کا ارادہ نہ ہو، تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی معتبر ہوگی۔

لدينه و عدالته :۔ تدين اور عدالت، اداء شہادت کیلئے شرط ہے۔

تعدد النساء لاجل ان تضل :۔ ان تضل ایک مصدر محذوف کا مفعول لہ ہے، قرینہ مقام سے وہ مصدر محذوف ظاہر ہے، فسر نے اسے نوٹ کیا، یعنی تعدد النساء لاجل ہے۔

وجملة الاذکار محل العلة :۔ ترکیب کے لحاظ سے تعدد النساء کا مفعول لہ ان تضل ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے مفعول لہ اذکار والا جملہ ہے یعنی فتذکر احدهما الاخریٰ ہے، کیونکہ عورتیں دو اسی لئے متعین کی گئی ہیں کہ بھولنے کی صورت میں ایک دوسری کو یاد دلا دے، مگر ظاہر ہے کہ یاد دلانے کی ضرورت اسی وقت پڑے گی، جب ایک بھولے، تو بھولنا، یاد دلانے کا سبب ہے، تو مسبب کے قائم مقام سبب کو قرار دے کر، اسی کو مفعول لہ بنا دیا گیا۔

وفي قراءة بكسر ان شرطية :۔ ایک قرأت میں ان تضل کے بجائے ان تضل شرط ہے، اس صورت میں، فتذکر مرفوع ہے، عبارت اس طرح ہوگی، ان تضل احدهما فتذکر احدهما الاخریٰ، اگر ایک بھولے گی تو دوسری اسے یاد دلائیگی۔ اس عبارت میں تذکر خبر ہے، اس کا مبتداء محذوف ہے، جو کہ ضمیر شان ہے یعنی فہی تذکر احدهما الاخریٰ، اور اس مبتداء کے محذوف ہونے کا قرینہ فاء جزائیہ ہے، کیونکہ فاء جزائیہ اسی جزاء پر داخل ہوتا ہے، جو ان شرطیہ کے تحت آ کر مجزوم نہ ہو سکے، اور یہ بات جملہ اسمیہ میں پائی جاتی ہے، کہ وہ محلاً تو مجزوم ہوتا ہے، مگر لفظاً مجزوم ہونے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، تو یہاں تذکر پر جب فاء جزائیہ داخل ہو تو معلوم ہوا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، پس مبتداء کا یہاں ہونا ضروری ہے۔

استیناف :۔ استیناف سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے، یہ تو جواب شرط ہے چنانچہ مفسر نے جوابہ کہا ہے، تو جملہ مستانفہ کیسے بن سکتا ہے، استیناف کا مطلب یہ ہے کہ حرف شرط نے اس کے لفظ پر کوئی عمل نہیں کیا ہے، اس لئے اس کے لحاظ سے یہ ایک نیا جملہ ہے۔

(الان تکون) تقع :۔ تکون کی تفسیر تقع سے بیان کر کے مفسر نے یہ بتایا ہے کہ یہاں تکون فعل ناقص نہیں ہے، بلکہ فعل تام ہے، تقع کے معنی میں ہے اور تجارة حاضرة اس کا اسم نہیں فاعل ہے، اور فعل ناقص نہ ہونے کی وجہ سے خبر کی ضرورت ہی نہیں۔

وفي قراءة بالنصب :۔ ایک قرأت میں تجارة حاضرة منصوب ہے، تب یہ فعل ناقص کی خبر ہے، اور اس کا اسم وہ ضمیر ہے جو تکون میں ہے اور تجارة اس کا مرجع ہے۔

والمراء بها المتجر فيه : ان لا تكتبوها میں ہاضمیر کا مرجع تجارة ہے، لیکن مراد اس سے وہ مال ہے جس میں تجارت کی گئی ہے۔

وهذا وما قبله امر ندب : اس آیت میں امر کے جو صیغے آئے ہیں، وجوب کیلئے نہیں ہیں، بلکہ استحباب کے لئے ہیں، چنانچہ گواہ بنانا، معاملہ کو لکھ لینا واجب نہیں ہے، مندوب و مستحب ہے، اکثر مفسرین نے اسے امر ارشاد لکھا ہے، ندب اور ارشاد میں یہ فرق ہے کہ ندب کا تعلق ثواب آخرت سے ہے، ارشاد کا تعلق دنیاوی امور سے ہے۔

صاحب الحق ومن عليه الخ : لا يضار كاتب ولا شهيد میں لا يضار باب مفاعلت سے ہے، یہ فعل معروف بھی ہو سکتا ہے، اور فعل مجہول بھی، مفسر نے دونوں جہتوں کے لحاظ سے تفسیر کی ہے، پہلی تفسیر فعل معروف ہونے کی جہت سے ہے، یعنی کاتب اور گواہ صاحب حق کو یا مدیون و مقروض کو ضرر نہ پہنچائیں، یعنی معاملہ کچھ تبدیل نہ کر دیں، اور گواہی یا کتابت سے انکار نہ کریں، اور دوسری تفسیر اس کے فعل مجہول ہونے کی جہت سے کی گئی ہے، یعنی کاتب اور گواہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے۔ یعنی صاحب حق اسے ایسی بات لکھنے پر مجبور نہ کرے جو مناسب نہیں ہے، اور نہ گواہ کو ایسی بات پر مجبور کرے، جو درست نہ ہو۔

لاحق بكم : اللہ تعالیٰ نے فرمایا وان تفعلوا فانہ فسوق بكم، اس میں بظاہر اشکال یہ ہے کہ فسوق کا صلہ باء حرف جر نہیں آتا، اس کا جواب مفسر نے دیا کہ بكم کا تعلق فسوق سے نہیں، بلکہ اس کی صفت محذوف لاحق سے ہے، یعنی اگر نافرمانی کرو گے تو تم کو فسق لاحق ہوگا، یعنی یہ تمہارا فسق ہوگا۔

حال مقدرہ : ويعلمكم الله کو حال مقدرہ قرار دیا ہے، لیکن یہ بغیر تاویل کے صحیح نہیں ہو سکتا، اور تاویل بغیر ضرورت کے ہوگی، جو تکلف ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ فعل مضارع مثبت ہو، اور اس سے پہلے واو ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ وہ حال نہیں بن سکتا، اور یہاں ایسا ہی ہے، ایسے موقع پر حال بنانا ہو تو واو کے بعد مبتداء مقدر مان کر فعل مضارع کو اس کی خبر بنا دیا جاتا ہے، اب وہ جملہ اسمیہ بن کر حال بنتا ہے، تو یہاں عبارت یوں مقدر ہوگی، واتقوا الله وهو يعلمكم الله، یہ بے ضرورت ہے، اس لئے اسے جملہ مستانفہ ہی قرار دینا چاہئے۔

حال مقدرہ : وہ حال کہلاتا ہے، جس کا زمانہ، عامل کے زمانہ کے بعد ہو، دونوں کا زمانہ ایک نہ ہو، یہ ایک تاویلی حال ہے، قاعدہ یہ ہے کہ حال کا زمانہ اور اس کے عامل کا زمانہ ایک ہوتا ہے، مثلاً جاءني زيد راكباً میں جو زمانہ آنے کا ہے، وہی زمانہ رکوب کا بھی ہے، دونوں زمانے یکے بعد دیگرے نہیں ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عامل کا زمانہ اور حال کا زمانہ علیحد علیحدہ ہوتا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: فادخلوها خالدين، جنت میں داخل ہو جاؤ، اس حال میں کہ اس میں ہمیشہ رہو گے، اس میں خالدين حال ہے۔ لیکن غور کیجئے تو معلوم ہوگا

دخول کا زمانہ پہلے ہے اور خلود کا زمانہ اس کے بعد ہے تو یہ حال مقدرہ ہے، چونکہ ایسا ہونا قواعد کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اس لئے اس جگہ تقدیر کو مقدر مانتے ہیں، چنانچہ کہیں گے فادخلوها مقدرین الخلود، اس میں داخل ہو جاؤ، اس حال میں کہ خلود مقدر ہے، اب دونوں کے زمانے میں اتحاد ہو گیا، کیونکہ دخول اور تقدیر خلود دونوں کا زمانہ ایک ہے۔

(فائدہ) یہ آیت قرآن کی الفاظ و عبارت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں حزم و احتیاط کے پہلو پر زور دیا ہے، کیونکہ معاش و معاد کی نہ جانے کتنی مصلحتیں مال ہی سے وابستہ ہیں، حضرت قفال فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں عموماً مسائل معاملات کے لئے الفاظ میں اختصار، اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں بہت بسط و تفصیل سے کام لیا ہے، ملاحظہ ہو پہلے فرمایا: اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه، جب تم دین کا معاملہ کرو، کسی مدت مقررہ تک تو اسے لکھ لو، پھر فرمایا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، چاہئے کہ کوئی کاتب عدل کے ساتھ لکھ دے، پھر فرمایا، ولا یاب کاتب ان یرکتب کما علمہ اللہ کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، یہ سب تکرار ہے، فاکتبوه کی پھر فلیکتب، یہ امر اول کا اعادہ ہے، پھر فرمایا ولیملل الذی علیہ الحق، پھر ولیتق اللہ ربہ، پھر فرمایا لا یریس منہ شیئا، پھر ارشاد ہوا، ولا تساموا ان تکتبوه صغیراً او کبیراً الی اجلہ، پھر فرمایا: ذلکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی ان لا ترتابوا، یہ سب مسلسل تاکیدیں ہیں کہ احتیاط کا ہر پہلو ملحوظ رکھنا چاہئے، اور مال کو کسی طرح ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہئے، اور یہ کہ مالی معاملات میں ایسی کوئی کورس نہیں چھوڑنی چاہئے کہ کسی بے ایمانی و بددیانتی اور کسی کو بدگمانی و الزام تراشی کا بہانہ ملے، مال محفوظ رہے گا تو انفاق فی سبیل اللہ کا موقع ملے گا، اور معاملات صاف رہیں گے تو کسی کو بدگمانی وغیرہ کا موقع نہیں ملے گا۔ انسانی قلوب کا ٹکراؤ سب سے زیادہ مالی معاملات ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت اور اس کی محبت قلوب میں شدید ہے اور اس کی ضرورت زندگی کے ہر لمحہ میں ہے، تو ادنیٰ ادنیٰ بہانوں سے بدگمانیاں بلکہ عداوتیں ابھرتی ہیں، اور انسانی معاشرے کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کا مکمل لحاظ کر کے بدگمانی کے تمام رخنوں کو بند کر دیا ہے، اگر اسی دستور کے مطابق عمل ہو تو شکایات اور تہمتوں کے دفتر لپیٹ کر رکھ دیئے جائیں گے۔

افاد قوله مقبوضۃ اشتراط القبض الخ: اللہ تعالیٰ نے رھان کی صفت مقبوضہ ذکر فرمائی، اس سے ایک بات صراحتاً معلوم ہوئی، اور ایک بات اشارۃ، صراحتاً تو یہ کہ رھن کے معاملہ کی تکمیل کیلئے قبضہ شرط ہے، اس کے بغیر رھن کا معاملہ مکمل نہیں ہوتا، اور اشارۃ یہ کہ اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ رھن کس کے قبضے میں آئے، مطلق مقبوضہ فرمایا یعنی اسے قبضہ میں آجانا چاہئے، اس سے معلوم ہوا کہ مرہن جو قبضہ کا اصل ذمہ دار اور صاحب

معاملہ ہے، اس کا بھی قبضہ معتبر ہے، اور اگر اس کے وکیل نے قبضہ کیا تو وہ بھی معتبر ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اے ایمان والو! جب تم ادھار کا معاملہ کرو، تو اس کی ایک مدت مقرر کر کے اسے لکھ لو، تاکہ بعد میں نزاع نہ ہو، اور معاملہ میں اعتماد ہے، خود نہ لکھ سکو تو کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ اسے قلم بند کر دے کہ مال یا مدت میں کچھ کم و بیش نہ کرے اور لکھنے والا، اگر اسے اس کے لئے بلایا جائے، تو لکھنے سے انکار نہ کرے، اللہ کا احسان ہے کہ اسے یہ ہنر دیا ہے، پس ضروری ہے کہ وہ لکھ دے، اور جس پر دین ہے، وہی لکھوائے تاکہ اس کی طرف سے اقرار رہے، اور وہ اللہ سے ڈرے، جو اس کا پروردگار ہے، اور کسی طرح کی کمی اور خیانت نہ کرے، اور اگر وہ کسی کمزوری کی وجہ سے لکھوانے پر قادر نہ ہو مثلاً بچہ ہو، گونگا ہو، زبان نہیں جانتا وغیرہ تو اس کا ولی لکھوائے، والد ہو یا وصی ہو یا مترجم ہو، اور دو مسلمان مردوں کو گواہ بناؤ، جو بالغ ہوں اور آزاد ہوں، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں، جو بدیندار اور دیانت دار ہوں، دو عورتیں اس لئے کہ خدا نخواستہ ایک غلط راہ پر چلے تو دوسری اسے ٹوک دے، اور گواہوں کو بھی جب بلایا جائے تو انکار نہ کریں، اور معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور خواہ کتنی ہی کثرت سے ہوتا ہو، مگر ادھار ہو، تو لکھنے سے گھبراؤ مت، مدت کی تعیین کے ساتھ اسے لکھ لیا کرو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف سے قریب تر ہے، اور اس سے صحیح صحیح گواہی قائم ہوگی، اور اس میں کسی طرح کا ریب اور تردد نہ ہوگا۔ ہاں البتہ خرید و فروخت نقد ہو، مجلس میں ہی تقابض ہو، تو نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ خرید و فروخت پر گواہ بنالیا کرو، اس سلسلے میں لکھنے والا اور گواہ کسی فریق کو ضرر نہ پہنچائے، اور نہ خود ان دونوں کو کسی تکلیف میں ڈالا جائے، اور اگر خدا نخواستہ تم نے ایسا کیا۔ تو یہ صریح نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ تمہیں تمہارے کاموں کی مصلحتیں سکھاتے ہیں، اور اللہ ہر چیز تو جانتے ہیں، اور اگر تم سفر میں ہو اور باہم ادھار کا معاملہ کیا، اور کوئی گواہ نہیں ہے، تو اطمینان کے لئے رهن لے لو، رهن کا یہ معاملہ سفر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، حضر میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ایک دوسرے پر اطمینان ہو، تو امانت والے کو چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے، اور اس کی ادائیگی کے باب میں اللہ سے ڈرے جو پروردگار ہیں، اور جب گواہی کے لئے طلب کئے جاؤ، تو اسے مت چھپاؤ، اور جو کوئی چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔



﴿لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبَدُّوْا تَظْهَرُوْا﴾ تَظْهَرُوْا ﴿مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ﴾ مِنْ السُّوْءِ وَالْعِزْمِ عَلَيْهِ ﴿اَوْ تَخْفُوْهُ﴾ تَسْرُوهُ ﴿يَحٰسِبُكُمْ﴾ يَجْزِيْكُمْ ﴿بِهِنَّ اللّٰهُ﴾ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ﴾ المغفرة له ﴿وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ تعذيبه والفعالان بالجزم عطفاً على جواب الشرط والرفع اى فهو ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ومنه محاسبتكم وجزاءكم ﴿آمَنَ﴾ صدق ﴿الرَّسُولُ﴾ محمد ﴿بِمَا نُزِّلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ من القرآن ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ عطف عليه ﴿كُلٌّ﴾ تنوينه عوض عن المضاف اليه ﴿آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ بالجمع والافراد ﴿وَرَسُولِهِ﴾ يقولون ﴿لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾ فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا﴾ ما امرتنا به سماع قبول ﴿وَأَطَعْنَا﴾ نسألك ﴿غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ المرجع بالبعث ولما نزلت الآية التي قبلها شكوا المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها فنزل ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ اى ما تسعه قدرتها ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ من الخير اى ثوابه ﴿وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ من الشر اى وزره ولا يؤخذ احد بذنب احد ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه قولوا ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا بِالْعِقَابِ﴾ ﴿إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ تركنا الصواب لا عن عمد كما اخذت به من قبلنا وقد رفع الله ذلك عن هذه الامة كما ورد فى الحديث فسواله اعتراف بنعمة الله ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا﴾ امر ايثقل علينا حملة ﴿كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ اى بنى اسرائيل من قتل النفس فى التوبة واخراج ربع المال فى الزكوة وقرض موضع النجاسة ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ من التكليف والبلاء ﴿وَاغْفُ عَنَّا﴾ امح ذنوبنا ﴿وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ فى الرحمة زيادة على المغفرة ﴿أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ سيدنا ومتولى امورنا ﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ باقامة الحججة والغلبة فى قتالهم فان من شان المولى ان ينصرموا اليه على الاعداء وفى الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأها رسول الله ﷺ قيل له عقب كل كلمة قد فعلت -

ترجمہ

(اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ تمہارے جی میں ہے) بدی یا بدی کا عزم (اسے تم ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا) اور اسے قیامت کے دن ظاہر کر دے گا (پس جس کے لئے) مغفرت (چاہے گا مغفرت کر دے گا اور جس کو) عذاب دینا (چاہے گا عذاب دیگا) دونوں فعل جزم کے ساتھ ہیں، جواب شرط پر ان کا عطف ہے، اور رفع کے ساتھ بھی ہیں، یعنی فهو (اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے) اور انہیں میں تمہارا حساب اور جزا بھی ہے۔ (رسول) یعنی محمد ﷺ (ایمان لائے

اس بات پر جو ان کے پاس اتاری گئی (یعنی قرآن پر) (اور اہل ایمان بھی) یہ عطف ہے الرسول پر (ہر ایک) کل کی تنوین مضاف الیہ کا عوض ہے (ایمان لایا، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر) کتب جمع بھی ایک قرأت میں ہے اور مفرد بھی (اور اس کے رسولوں پر) کہتے ہیں کہ (ہم اس کے رسولوں کے درمیان کسی کی تفریق نہیں کرتے) کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی کا انکار کریں، جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے یہ کام کیا ہے (اور کہا کہ ہم نے) جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، اسے قبولیت کے کانوں سے (سنا اور ہم نے اطاعت کی) ہم آپ سے (آپ کی مغفرت) کا سوال کرتے ہیں (اے ہمارے رب، اور) دوبارہ زندہ ہو کر (آپ ہی کے پاس لوٹنا ہے) ما قبل کی آیت جب نازل ہوئی تو مسلمانوں نے وسوسوں کی شکایت کی، وسوسوں کا حساب انہیں بھاری معلوم ہوا تو یہ آیت اتری کہ (اللہ تعالیٰ کسی نفس کو، اس کی وسعت کے بقدر ہی مکلف بناتا ہے) یعنی جتنا اس کی طاقت میں ہے (اس کے لئے وہ ہے، جو اس نے) خیر کے عمل کا (کسب کیا) یعنی ثواب (اور اس کے اوپر وہ ہے جو اس نے) شر کے کام کا (ارتکاب کیا) یعنی اس کا گناہ، اور کسی کو دوسرے کے گناہ میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان وسوسوں پر مواخذہ کیا جائے گا، جن کا ارتکاب نہیں کیا ہے، تم کہو (اے ہمارے پروردگار! ہمارا مواخذہ) سزا میں (نہ کیجئے) اگر ہم بھول جائیں، یا غلطی کر جائیں (یعنی بغیر قصد و ارادہ کے درستی کو ترک کر دیں، جیسا کہ آپ نے اگلوں کا مواخذہ کیا ہے، اللہ نے اس مواخذہ کو اس امت سے پہلے ہی ہٹا دیا، تو اس کا بار بار سوال کرنا، اللہ کے احسان کا اعتراف ہے (اے ہمارے پروردگار! اور ہم پر) وہ (بوجھ نہ لادیئے) جس کا اٹھانا مشکل ہو (جیسا کہ آپ نے ان لوگوں پر لاد دیا تھا، جو ہم سے پہلے تھے) یعنی بنی اسرائیل، چنانچہ ان پر فرض تھا کہ توبہ میں اپنے آپ کو قتل کریں، اور زکوٰۃ میں چوتھائی نکالیں اور نجاست کی جگہ کو کاٹ دیں وغیرہ (اے ہمارے پروردگار! اور ہم پر وہ) تکلیفیں اور بلائیں (نہ لادیئے جن کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر دیجئے) ہمارے گناہوں کو محو کر دیجئے (اور ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہم پر رحم فرما دیجئے) رحمت کے اندر مغفرت پر اضافہ ہے (آپ ہمارے مولا ہیں) ہمارے سردار اور ہمارے کاموں کے ذمہ دار ہیں (پس کافروں کے خلاف ہماری مدد فرمائیے) دلائل کو قائم کر کے، اور جنگ میں غلبہ عطا فرما کر، مولیٰ کی شان یہی ہے کہ اپنے غلاموں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کرتے ہیں۔

حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ ﷺ نے اسے پڑھا تو ہر کلمہ کے بعد اللہ نے کہا

قد فعلت۔

تشریحات

من السوء والعزم علیہ : . وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ : کے ظاہر سے

معلوم ہوتا ہے کہ دل کے تمام وساوس و خطرات پر محاسبہ ہوگا، چنانچہ بعد میں مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے۔ لیکن جب مافی انفسکم کی تفسیر میں حضرت مفسر نے من السوء والعزم علیہ۔ یعنی برائی اور برائی کا پختہ ارادہ کی وضاحت کر دی تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ دل کی برائیوں اور ان کے پختہ عزم پر تو محاسبہ اب بھی موجود ہے۔

دل میں جب کوئی خیال آتا ہے تو خیال سے عزم تک پانچ مرحلے ہوتے ہیں، پہلا مرحلہ ہا جس، دوسرا خاطر تیسرا حدیث نفس، چوتھا ہم ہے پانچواں عزم ہے، ان میں صرف عزم پر محاسبہ ہے باقی چاروں درگزر ہیں۔

مراتب القصد خمس ہا جس ذکر و

و خاطر فحدیث النفس فاستمعنا

یلیہ ہم فعزم کلہا رفعت

سوی الاخیر فعلیہ الاخذ قد وقعا

قصد کے پانچ مرتبے ہیں، ہا جس لوگوں نے ایسا ہی ذکر کیا ہے اور خاطر، پھر حدیث نفس، غور سے سنو اس سے متصل ہم ہے، پھر عزم ہے، یہ سب معاف ہیں، سوائے اخیر کے کہ اس پر محاسبہ ہوگا۔

یخبرکم:۔ یحاسبکم بہ اللہ کی تفسیر یخبر سے کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مفسر نے یحاسبکم کو مواخذہ کے معنی میں لینے کے بجائے خبر کے معنی میں لے کر ارادے کے مذکورہ چاروں مرحلوں کے معاف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس صورت میں اس آیت کو منسوخ نہیں ماننا پڑے گا جیسا کہ یہی من السوء والعزم علیہ کے لفظ سے بھی نکلتا ہے، لیکن مفسر نے آگے اس کے منسوخ ہونے کی صراحت کی ہے، مفسر نے تفسیری عبارت میں اختصار کا حد درجہ اہتمام کیا ہے، اس لئے اس طرح کی پیچیدگیاں کہیں پیدا ہوگئی، اہل فہم ہر ایک کو اس کے محل پر سمجھ لیں گے۔

والرفع ای فہو:۔ فیغفر لمن یشاء اگر مرفوع ہے تو مبتدا اس سے پہلے مقدر ہوگا، اور وہ مبتدا فہو ہے۔

فمن بعض و نکفر ببعض:۔ رسولوں کے درمیان تفریق کی صورت کا یہ بیان ہے کہ رسولوں کے درمیان کفر و ایمان کا فرق کیا جائے، یعنی بعض رسولوں پر ایمان رکھا جائے، اور بعض پر نہیں، فرق مراتب جو رسولوں کے درمیان ہے، اس کا ماننا تفریق نہیں ہے۔

باقامة الحجۃ والغلبۃ فی قتالہم:۔ کافرون پر غلبہ کی دو صورتیں ہیں، اول یہ کہ دلائل و براہین کے ذریعے اسلام کا کفر پر غلبہ ہو، دوسرے یہ کہ اگر جہاد ہو تو لشکر اسلام غالب رہے۔

لما نزلت هذه الآية الخ :- لا يكلف الله نفساً الا وسعها سے آخر تک ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی بشارت ملی ہے، یہ سات کلمے یہ ہیں۔ (۱) ربنا لا تو اخذنا ان نسينا او اخطأنا (۲) ربنا ولا تحمل علينا اصرنا كما حملته على الذين من قبلنا (۳) ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به (۴) واعف عنا (۵) واغفر لنا (۶) وارحمنا (۷) فانصرنا على القوم الكافرين۔ گویا سات مرتبہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا مشرکہ سنایا گیا (مسلم شریف)

سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کے فضائل

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس سورہ کو پڑھ کر فارغ ہوتے تو آمین کہتے، مسلم شریف میں حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھیں تو قیام اللیل کا ثواب پاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ نے میرے اوپر جنت کے خزانوں میں سے دو آیتیں نازل فرمائی ہیں، جن پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوا ہے، جو انہیں بعد نمازِ عشاء دو مرتبہ پڑھے گا اس کے لئے تہجد کی نماز کے قائم ہوں گی۔ آمن الرسول سے آخری سورہ تک یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطان کے شر سے وہ حفاظت بن جائیں گی، شیطان کا اس پر تسلط نہیں ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عاقل مسلمان، ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر رات میں سو جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کے پیدا کرنے سے دو ہزار سال قبل ایک کتاب لکھی، اسی میں سے یہ تین آیتیں، جن پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوا ہے، اتاریں، جو شخص انہیں اپنے جی میں پڑھے گا، شیطان تین رات اس کے گھر کے قریب نہیں جائے گا، یہ تین آیتیں لله ما فی السموات وما فی الارض سے آخر سورہ تک ہیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اللہ کی قدرت و ملکیت کا تو یہ عالم ہے، اور علم کی وسعت کا حال یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے، اسے خواہ ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، سب اللہ کے علم میں ہے اور اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا، پھر اللہ کی مشیت و مرضی ہے۔ جس کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے اور جس کو چاہیں گے عذاب میں پکڑیں گے، ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ بلاشبہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں پروردگار کی جانب سے جو کچھ اتارا گیا ہے، اس پر رسول کا ایمان ہے، اور تمام اہل ایمان، ایمان رکھتے ہیں، یہ سب لوگ اللہ پر، ان کے فرشتوں پر، ان کی کتابوں پر، اور ان کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں

اور اس طرح ایمان رکھتے ہیں کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اے ہمارے رب مغفرت فرما دیجئے، آپ ہی کے پاس لوٹنا ہے، یہ بات بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے کہ دل کے ہر خیال و قصد پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں گرفت ہو، دل کے کتنے خیالات و خطرات ایسے ہیں، جن پر سرے سے قابو ملتا ہی نہیں، اس خیال کو دفع کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی اتنے ہی کا مکلف ہے، جو اس کی وسعت و قدرت میں ہو، وہ جو کچھ اچھا عمل کرے گا، اس کا نفع اسی کے لئے ہے، اور جو کچھ برا کام کرے گا، اس کا ضرر اسی پر پڑے گا، ایک کے گناہ پر دوسرے کی پکڑ نہ ہوگی، اسی طرح محض وسوسوں پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے، اے ہمارے رب ہماری بھول چوک پر ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، بھول چوک گو کہ اس امت پر معاف ہے، مگر بندگی اور شکر نعمت کا یہ حق ہے کہ ہم معافی مانگتے رہیں۔ اے ہمارے پروردگار! ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ لادینے گا، جیسا اگلی امتوں پر لادا گیا تھا اور ہم پر وہ بلائیں اور تکلیفیں بھی نہ ڈالنے گا جن کی ہمیں طاقت نہیں ہے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہمارے مولیٰ ہیں، کفار کے اوپر ہماری مدد فرمائیے۔



تفسیر سورہ بقرہ کی شرح بحمد اللہ و عونہ ۲۸ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ مطابق

۱۰ جولائی ۲۰۰۲ء بروز چہار شنبہ بوقت صبح بمقام شیخوپور

پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ باقی کے اتمام کی بھی

توفیق عطا فرمائیں اور آسان فرمادیں۔

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات



سورہ آل عمران

سورہ آل عمران مدنیہ وہی مائتایہ

سورہ آل عمران مدنی ہے، اس میں دو سو آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿اَلَمْ﴾ اللہ اعلم بمرادہ بذلك ﴿اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾ نَزَلَ عَلَيْكَ ﴿يا محمد﴾ اَلْكِتٰبِ ﴿الْقُرْآنِ﴾ متلبسا ﴿بِالْحَقِّ﴾ بالصدق في اخباره ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ قبله من الكتب ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ﴾ ای قبل تنزیله ﴿هُدًى﴾ حال بمعنی هادیین من الضلالة ﴿لِلنَّاسِ﴾ ممن تبعهما و عبر فیہما بانزل و فی القرآن بنزل المقتضى لتکریر لانہما انزلا دفعة واحدة بخلافه ﴿وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ بمعنی الكتب الفارقة بين الحق والباطل و ذکر بعد ذکر الثلاثة ليعم ما عداها ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ﴾ القرآن وغيره ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ﴾ غالب على امره فلا يمنعه شی من انجاز و عیده و وعده ﴿ذُو انْتِقَامٍ﴾ عقوبة شديدة ممن عصاه لا يقدر على مثلها احد ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ﴾ كائن ﴿فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ لعلمه بما يقع في العالم من كلی و جزئی و خصهما بالذكر لان الحس لا يتجاوزهما ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ من ذكورة و انوثة و بياض و سواد و غیر ذلك ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ﴾ في ملكه ﴿الْحَكِيمُ﴾ في صنعہ ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ و اضحات الدلالة ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ اصله المعتمد عليه في الاحكام ﴿وَأُخْرُ مُتَشَبِهَاتٌ﴾ لا يفهم معانيها كاوائل السور و جعله كله محكما في قوله تعالى أحكمت آياته بمعنی انه ليس فيه عيب و متشابها في قوله كتابا متشابها بمعنی انه يشبه بعضه بعضا في الحسن و الصدق ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ ميل عن الحق ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ﴾ طلب ﴿الْفِتْنَةِ﴾ لجهالهم بوقوعهم في الشبهات و اللبس ﴿وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ تفسيره ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ﴾ وحده ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ الثابتون المتمكنون ﴿فِي الْعِلْمِ﴾ مبتدأ خبره ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ ای بالمتشابه انه من عند الله و لا نعلم معناه ﴿كُلٌّ﴾ من المحكم و المتشابه ﴿مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا

يَذْكُرُ ﴿١﴾ بادغام التاء في الاصل في الذال اى يتعظ ﴿٢﴾ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ ﴿٣﴾ اصحاب العقول
ويقولون ايضا اذار او امن يتبعه ﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا ﴿٥﴾ تملها عن الحق بابتغاء تاويله الذى لا
يليق بنا كما ازغت قلوب اولئك ﴿٦﴾ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا ﴿٧﴾ ارشدتنا اليه ﴿٨﴾ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ﴿٩﴾
من عندك ﴿١٠﴾ رَحْمَةً ﴿١١﴾ تَشْبِيْتًا ﴿١٢﴾ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿١٣﴾ يَا رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ ﴿١٤﴾ تَجْمَعُهُمْ
﴿١٥﴾ لِيَوْمٍ ﴿١٦﴾ اى فى يوم ﴿١٧﴾ لَا رَيْبَ ﴿١٨﴾ شَكَّ ﴿١٩﴾ فِيْهِ ﴿٢٠﴾ هو يوم القيامة فتجازيهم باعمالهم كما
وعدت بذلك ﴿٢١﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٢٢﴾ موعده بالبعث فيه التفات عن الخطاب و
يحتمل ان يكون من كلامه تعالى و الغرض من الدعاء بذلك بيان أن همهم امر الآخرة
ولذلك سالوا الثبات على الهداية لينالوا ثوابها روى الشيخان عن عائشة قالت تلا رسول
الله ﷺ هذه الآية هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيت محكمت الى آخرها وقال فاذا
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمي الله تعالى فاحذروهم و روى
الطبرانى فى الكبير عن ابى مالك الاشعري انه سمع النبى ﷺ يقول ما اخاف على امتى
الا ثلث خلال و ذكر منها ان يفتح لهم الكتب فياخذه المؤمن ويتغى تاويله وليس يعلم
تاويله الا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا
اولو الالباب الحديث.

﴿٢٣﴾ ترجمه ﴿٢٤﴾

(الم) اس لفظ سے اپنی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں (اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، زندہ ہے،
تھامنے والا ہے) اے محمد (تم پر کتاب، برحق اتاری) یعنی قرآن کریم جس کی تمام خبریں سچی ہیں (اس سے پہلے
جو کچھ) کتابیں (ہیں، ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے توریت اور انجیل کو اتارا) یعنی اس
کتاب کے اتارنے سے پہلے (ہدایت ہے لوگوں کے لئے) ہدی حال ہے۔ ہادیین کے معنی میں، الناس سے
مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان دونوں کتابوں کی پیروی کی، ان دونوں کتابوں کے لئے انزل کا کلمہ استعمال اور
قرآن کریم کے لئے نزل کا کلمہ استعمال کیا ہے، جس میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ دونوں کتابیں بیک
دفعہ نازل کی گئی ہیں، اور قرآن کریم بدفعات مختلفہ (اور فرقان کو اتارا) یعنی وہ کتابیں، جو حق و باطل کے درمیان
فرق و امتیاز پیدا کرنے والی ہیں۔ تین کتابوں کے بعد فرقان کا ذکر کیا، تاکہ دوسری آسمانی کتابیں بھی اس کے
ذیل میں شامل ہو جائیں (بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا) یعنی قرآن وغیرہ کا (ان کے لئے
سخت عذاب ہے، اللہ تعالیٰ) اپنے امر پر (غلبہ رکھتے ہیں) کوئی چیز نہیں وعدہ اور وعید کو پورا کرنے سے روک

نہیں سکتی (انتقام والے ہیں) یعنی نافرمانوں کو سخت سزا دینے والے ہیں، کہ اس جیسی سزا پر کوئی دوسرا نہیں قدرت رکھتا (بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں) کیونکہ عالم میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، کلی ہو یا جزئی سب کا علم انہیں ہے، آسمان و زمین کا ذکر خصوصیت سے اس لئے کیا کہ انسانی حیات ان دونوں سے آگے نہیں بڑھ سکتیں (وہی ہے، جو تمہاری صورت گرمی ماں کے شکم میں کرتا ہے، جیسی چاہتا ہے) ذکورت و انانیت، سفیدی و سیاہی وغیرہ (اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں) اپنے ملک میں (غلبہ رکھتا ہے) اپنے کام میں (حکمت والا ہے، وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، ان میں بعض آیات محکم ہیں) یعنی واضحہ الدلالت ہیں (یہی کتاب کی اصل بنیاد ہیں) جو احکام کے باب میں بنیاد ہیں (اور دوسری متشابہات ہیں) جن کے معانی، انسانی سمجھ سے بالاتر ہیں، جیسے بہت سی سورتوں کے اوائل، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ارشاد: احکمت آیاتہ میں پوری کتاب کو محکم قرار دیا ہے، اس معنی کر کے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور دوسرے ارشاد کتاباً متشابہاً میں پوری کتاب کو متشابہ قرار دیا ہے، وہ اس معنی کر کے کہ حسن و صدق میں پوری کتاب آپس میں متشابہ ہے (پس بہر حال وہ لوگ جن کے دلوں میں) حق سے (انحراف ہے، وہ لوگ ان آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں جو متشابہ ہیں) اور ایسا وہ (فتنہ کی تلاش میں) کرتے ہیں، یعنی اپنے جاہلوں کو شبہات و التباس میں ڈال کر آزمائش میں ڈالتے ہیں اور ایسا وہ (اس کی تاویل کی تلاش میں) بھی کرتے ہیں (حالانکہ اس کی تاویل و تفسیر بجز اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا، اور وہ لوگ جو علم میں راسخ اور مضبوط ہیں) یہ مبتدا ہے اس کی خبر یہ ہے (کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے) یعنی متشابہ پر کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم اس کا معنی نہیں جانتے، محکم اور متشابہ میں سے (ہر ایک ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں) یذکر میں تاء کا ادغام ذال میں ہوا ہے، اصل میں یتذکر تھا، اور نیز جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو کہتے ہیں (اے ہمارے رب آپ ہمارے قلوب کو) حق سے (منحرف نہ فرمائیو) کہ ہم بھی وہی تاویل ڈھونڈھنے لگیں جو ہمارے لئے مناسب نہ ہو جیسا کہ ان لوگوں کے قلوب کو منحرف کر دیا ہے (بعد اس کے کہ ہم کو ہدایت دی ہے، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے) یعنی ثبات قدمی (بے شک آپ عطا فرمانے والے ہیں، اے ہمارے پروردگار! بے شک آپ لوگوں کو اس دن جمع کریں گے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے) یعنی قیامت کے دن، پس ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، جیسا کہ آپ نے اس کا وعدہ کیا ہے (بے شک اللہ تعالیٰ) دوبارہ زندہ کرنے کے (وعدے کے خلاف نہیں کریں گے) اس میں خطاب سے التفات ہے اور احتمال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہو، اور اس دعا کی غرض یہ بیان کرنا ہے کہ ان حضرات کی ساری فکر، فکر آخرت ہے، اسی لئے انہوں نے ہدایت پر ثبات قدمی کا سوال کیا ہے تاکہ اس کا ثواب انہیں حاصل ہو، شیخین (بخاری و مسلم) نے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت کی: هو الذی انزل علیک الکتاب سے آخر تک، اور فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے درپے ہوتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے، ان سے بچو، اور طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے نبی کریم ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے، مجھے اپنی امت پر تین ہی باتوں کا اندیشہ محسوس ہوتا ہے، اور ان میں ایک یہ ذکر کیا کہ ان کے لئے کتاب کھول دی جائے گی، اور مومن اس کی تاویل کی فکر میں پڑ جائے گا حالانکہ اس کی تاویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور علم میں رسوخ والے یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے پروردگار کے پاس سے ہے، اور اہل عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

﴿ تشریحات ﴾

ہدیٰ: مصدر ہے، ترکیب میں حال ہے، پس یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے، اسی لئے مفسر نے اس کی تفسیر ہادیین، بصیغہ متثنیہ سے کی ہے۔

وعبر فیہما: قرآن کریم کے اتارے جانے کی تعبیر اللہ نے نزل باب تفعیل سے فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ علیحدہ علیحدہ مختلف دفعات میں نازل ہوا ہے۔ نزل بالتشدید تکرار کا مقتضی ہے، اور توریث وانجیل کے لئے انزل کا لفظ لائے جو بیک دفعہ نازل ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ وہ دونوں کتابیں دفعةً واحدهً ہی پیغمبروں کو عطا فرمائی گئی ہیں۔

ذکرہ بعد ذکر الثلاثة لیعم ما عداھا: قرآن کریم اور توریث وانجیل کے نازل کرنے کے تذکرہ کے بعد ایک عام لفظ الفرقان لائے، جس کا مطلب یہ ہے اور دیگر کتب سماویہ جو حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز کرنے والی ہیں نازل فرمائیں، اس کو بعد میں اس لئے لائے تاکہ تین کتابوں کے علاوہ اور سب کتابیں بھی اس کے تحت آجائیں

شئی کائن فی الارض: - کائن کا تشریحی لفظ لا کر مفسر نے بتایا کہ فی الارض ولا فی السماء کا تعلق لایخفی سے نہیں ہے، بلکہ ایک صفت محذوف سے ہے اور وہ کائن ہے اور شئی موصوف ہے۔

لعلمہ بما یقع فی العالم من کلی وجزئی: - مراد ارض و سما سے سارا عالم ہے، من کلی وجزئی کہہ کر حکماء کا رد کیا ہے، فلاسفہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا تفصیلی علم وقوع سے پہلے حاصل نہیں ہے، وقوع سے پہلے کلی اور اجمالی علم ہوتا ہے، ہاں جب کام ہو جاتا ہے، تب اس کا تفصیلی علم ہوتا ہے۔ مفسر نے من کلی وجزئی کہہ کر اس کی تردید کی ہے،

وخصہما بالذکر: - آسمان وزمین کا تذکرہ خصوصیت سے اس لئے کیا ہے کہ انسانی احساسات ان دونوں

پر ہی تام ہو جاتے ہیں، ان سے آگے ان کا گزر نہیں ہے۔

واضحات الدلالة :- وہ آیتیں جن کا معنی و مفہوم بالکل واضح ہے، جن کے لئے کسی بیان وغیرہ کی حاجت نہیں ہے، یہ آیتیں محکم کہلاتی ہیں دین میں اور قرآن میں اصل اور بنیاد کی حیثیت انہیں کو حاصل ہے، اور دوسری قسم کی وہ آیتیں ہیں، جن کا مفہوم خوب واضح نہیں ہے یا بالکل معلوم نہیں ہے، ایسی آیتوں کا کوئی مطلب و مفہوم بیان کرے تو اسے محکمت کے معیار پر پرکھا جائے گا۔ اگر وہ مطلب، محکمت کے خلاف نہیں ہے تو قابل قبول ہے، ورنہ قابل رد! گمراہ فرقے، اس کے برعکس تشابہات کا ایک مطلب لے کر اس کو بنیاد بنا دیتے ہیں، اور اسی بنیاد پر محکمت کو توڑتے اور مروڑتے ہیں، اور گمراہی پھیلاتے ہیں۔

وجعله كله محكماً الخ :- اس عبارت سے مفسر ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک محکم، جو اصل معیار ہیں، دوسرے متشابہ، اور دوسری جگہ سورہ ہود میں فرمایا ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر (آیت: ۱) اس آیت سے معلوم ہوا کہ پورا قرآن حکیم محکم ہے، اور سورہ زمر میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہاً مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربہم (آیت: ۲۳) اس آیت سے معلوم ہوا کہ پورا قرآن متشابہ ہے۔ مفسر نے جواب دیا کہ قرآن کریم کی آیات محکم اور متشابہ ہی ہیں، اور جہاں پوری کتاب کو محکم کہا گیا ہے، وہاں محکم سے مراد واضحه الدلالة نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ اس میں نقص اور خرابی نہیں ہے، اور جہاں پوری کتاب کو متشابہ کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی تمام آیتیں صداقت اور حسن عبارت بلکہ حسن بلاغت میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ان میں کہیں باہم تعارض نہیں ہے۔

فاما الذین فی قلوبہم زیغ میل عن الحق :- آیات متشابہات کے سلسلے میں دو طرح کے لوگ ہیں، بعض وہ ہیں، جن کے قلوب میں ٹیڑھ ہے اور حق سے منحرف ہونے کا جذبہ مخفی ہے، وہ محکمت کو چھوڑ کر ”متشابہات“ کی تحقیق کے درپے رہتے ہیں ان کا مطلب تلاش کرتے ہیں اس میں کچھ اپنی قابلیت کا اظہار مقصود ہوتا ہے، اور کچھ یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ لوگ کی پیروی کریں اور فتنہ میں مبتلا ہوں۔ چنانچہ جتنے فرقے گمراہ ہیں سب کا خاصہ یہی ہے، وہ متشابہات پر اپنے نظریے کی بنیاد رکھتے ہیں اور محکمت اسی پر توڑتے مروڑتے ہیں، مثلاً ہمارے دور میں بریلویت ایک فرقہ ہے، جس میں سخت انحراف ہے، اس کے بانی اول نے نظریہ پیش کیا کہ رسول اللہ ﷺ علم غیب رکھتے تھے، اس کے لئے وہ استدلال کرتے ہیں و علمک مالک تکن تعلم سے یعنی ہم نے تم کو وہ باتیں سکھائیں، جو تم نہیں جانتے تھے، اور ونزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیء وهدی ورحمة و بشری للمسلمین (سورہ النحل: ۸۹) سے، یعنی ہم نے تم پر کتاب اتاری، جس میں ہر شے کی وضاحت ہے اور ہدایت

اور رحمت و بشارت ہے مسلمانوں کے لئے، حالانکہ یہ اور اس طرح کی آیتیں علم غیب کے سلسلے میں قطعاً واضح دلالت نہیں رکھتیں، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت و ضلالت کے متعلق جو کچھ تمہیں معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا ہے اور قرآن میں جو ہر شے کا بیان ہے اس سے مطلق علم غیب مراد نہیں ہے، بلکہ آپ ﷺ کے موضوع (ہدایت) سے متعلق جتنی باتیں ہیں ان سب کا بیان اس میں ہے، تو بریلویت کے بانی نے اور اس کے اتباع میں اس کے مقلدین نے اسی طرح کی آیات کو جو قطعاً واضحہ الدلالة نہ تھیں بنیاد بنایا، اور اس مسئلے میں جو بالکل محکم آیت ہے، جس میں کسی ریب و تردد اور کسی دوسرے احتمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے صرف نظر کیا ہے، بلکہ اس محکم کو تشابہات کے خود ساختہ معانی پر منطبق کرنے میں اس درجہ خرد سوز تاویل کی ہے کہ عقل سلیم سرپیٹ کر رہ جاتی ہے، وہ محکم آیت ہے، قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون (سورۃ النمل: ۶۵) تم کہدو کہ جو لوگ بھی آسمان و زمین میں ہیں، کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، بجز اللہ کے، اور انہیں کچھ خبر نہیں کہ کب دوبارہ پیدا کئے جائیں گے۔ یہ آیت غیر اللہ سے علم غیب کی نفی پر بالکل واضح دلالت رکھتی ہے، لیکن بانی بریلویت نے اس کو اس طرح توڑا اور ڈالا ہے کہ آیت نہیں فلسفہ بن کر رہ گئی ہے۔ طوالت ناقابل تحمل نہ ہو جاتی تو میں منطق و فلسفہ کی منہ زوری کو نقل کرتا۔ بس اتنا عرض ہے کہ ان کے رسالہ ”خالص الاعتقاد“ کا مطالعہ کر لیا جائے۔ خاں صاحب کے قلم نے تلوار کا کام کیا ہے، کتنے محکمات کی گردنیں، انہوں نے ”تشابہات“ کے درپے ہونے کے نتیجے میں اڑادی ہیں، اور یہی حال ہر گمراہ فرقہ کا ہے، خواہ وہ غیر مقلد ہوں یا جماعت اسلامی، یا دوسرے فرقے، ہر ایک کے یہاں اس کے نمونے ملتے ہیں۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جو تشابہات پر ایمان پختہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے معنی و مطلب کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور اگر ان کے مفہوم و مطلب کو بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً کسی معترض کو جواب دینا ہے، یا کسی کی گمراہی کا احتساب کرنا ہے، تو ان کا وہی مطلب لیتے ہیں جو محکمات کے موافق ہو اور ان کی وجہ سے محکمات میں کسی ناروا تاویل کا ارتکاب نہ کرنا پڑے۔ اور اس باب میں وہ ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دل میں کہیں کجی نہ راہ پا جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور رحمت کا سوال کرتے ہیں، یہ لوگ ”راسخ فی العلم“ ہیں۔

راسخ فی العلم کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ وہ ایسا عالم ہے جس میں چار صفات پائی جاتی ہوں۔ چاروں میں سے کوئی ایک نہیں بلکہ چاروں مجموعی طور پر اس کا حال بن جائیں۔ اول یہ کہ اسے اللہ کا تقویٰ حاصل ہو۔ دوسرے یہ کہ اسے تواضع بطور ملکہ کے حاصل ہو۔ تیسرے یہ کہ دنیا میں اسے زہد کا ملکہ ہو، چوتھے یہ کہ وہ اپنے نفس کے خلاف مجاہدے کا خوگر ہو۔ (۱) التقویٰ بینہ و بین اللہ تعالیٰ (۲) التواضع بینہ و بین الناس (۳)

الزهد بينه و بين الدنيا (۴) المجاهدة فيما بينه و بين نفسه -

عالم کا سابقہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ہے، اپنے ابنائے جنس سے ہے، دنیا سے ہے، اپنے نفس کی خواہشات سے ہے۔ اس کا طرز عمل اللہ کی جناب میں تقویٰ کا ہونا چاہئے، ابنائے جنس کیساتھ تو واضح کا ہونا چاہئے۔ دنیا کے ساتھ زہد یعنی اس سے بے رغبتی کا ہونا چاہئے، اور اپنے نفس کی خواہشات کے حق میں مجاہدہ کا ہونا چاہئے۔ یہ چاروں باتیں کسی عالم میں ہوں تو وہ راسخ فی العلم ہے۔

تثبیتاً: رحمة کی جو دعاء کی ہے، اس کا مطلب ہے ہدایت پر استقامت۔

فيه التفات عن الخطاب : ان الله لا يخلف الميعاد سے پہلے سب دعا کے صیغے ہیں، جن میں براہ راست اللہ کو مخاطب بنا کر درخواست پیش کی گئی۔ مگر دعا کا آخری جملہ ان الله لا يخلف الميعاد میں خطاب نہیں، بلکہ غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، حالانکہ یہ بھی دعا کا جز ہے۔ تو مفسر نے بتایا کہ یہ التفات ہے، یعنی اسلوب کلام خطاب سے غیوبت کی طرف منتقل ہو گیا، اس کو اصطلاح بلاغت میں التفات کہتے ہیں۔

ويحتمل ان يكون من كلامه تعالى : - اور یہ بھی احتمال ہے کہ راسخین فی العلم کی دعا بنا انک جامع الناس لیوم لاریب فیہ پر ختم ہو گئی ہو، اور ان الله لا يخلف الميعاد دعاء کا جز نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی اس بات انک جامع الناس لیوم لاریب فیہ کی تائید و توثیق کی ہو۔ اور اس میں بشارت ہے قبولیت دعا کی، کیونکہ دعا کے آخری جملے کے فوراً بعد جب اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے والے کی آخری بات کو خود اپنی طرف سے مؤکد اور موثق کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے والی درخواستیں بھی قبولیت پا چکی ہیں۔

ما اخاف على امتي الا ثلث خصال : - حضرت مفسر نے اختصار کی غرض سے یہاں تین باتوں میں سے ایک ہی بات نقل کی ہے، جو یہاں سے متعلق ہے، پوری حدیث انہوں نے اپنی تفسیر ”الدر المنثور“ میں طبرانی کے حوالے سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر تین ہی باتوں کا اندیشہ ہے۔ (۱) یہ کہ ان کے پاس مال کی کثرت و وسعت ہو جائے اور وہ اس کی وجہ سے بتلائے حسد ہو کر قتل و قتل کرنے لگیں، (۲) اور یہ کہ ان کے سامنے کتاب کھلے، اور مومن اس کی تاویل میں سرگرداں ہو جائے، حالانکہ اس کی تاویل بجز اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، (۳) اور یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے اور وہ اسے ضائع کر دیں اور ان سے اس علم کی پوچھ نہ ہو۔

فائدہ: - تاویل اور تفسیر کو مفسر نے اس مقام پر ایک ہی قرار دیا ہے، اور بلاشبہ استعمال میں توسیع ہے، تاویل کو تفسیر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہے، تفسیر مطلقاً وضاحت

کو کہتے ہیں، لیکن تاویل، اول سے مشتق ہے، آل یؤل کے معنی لوٹنے کے آتے ہیں، بعض الفاظ کلام میں ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ ان کا ظاہری معنی اگر مراد لیا جائے تو کلام درست نہیں ہوگا۔ اسے ظاہر سے ہٹا کر ایسے معنی کی جانب لوٹایا جاتا ہے، جو محل و مقام کے اعتبار سے اور متکلم کے احوال کے اعتبار سے صحیح ہو اسے تاویل کہتے ہیں، تاویل کا عمل بہت وسیع نظر چاہتا ہے، اور گہری بھی، اس کیلئے بڑی ذہانت درکار ہوتی ہے ورنہ بعض تاویلیں مضحکہ بن جاتی ہیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

سورہ بقرہ میں براہ راست خطاب یہودیوں سے تھا، سورہ آل عمران میں خطاب عیسائیوں سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، نبی کریم ﷺ پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، وہ برحق ہے، اور اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس سے پہلے توریت اور انجیل کو نازل فرمایا ہے، وہ لوگوں کے لئے سامان ہدایت تھیں، اور بھی دیگر کتابیں جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والی تھیں، اتاریں، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کیلئے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب عزت اور صاحب انتقام ہے، اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ہر کئی اور جزئی سے پوری تفصیل سمیت واقف ہے، اور وہی ہے جو ماں کے رحم میں بچے کی صورت گری کرتا ہے جو چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ وہ عزیز و حکیم ہے، اسی نے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کتاب اتاری ہے، جس کی کچھ آیات محکم اور واضح المعنی ہیں، یہی اصل اور معیار ہیں، اور دوسری کچھ آیتیں متشابہات ہیں، جن کے معانی کا ادراک ممکن نہیں یا مشکل ہے، فتنہ جو طبیعتیں، آیات متشابہات کو مشق ستم بناتی ہیں اور الٹی سیدھی تاویلیں، تلاش کرتی ہیں، جن سے جاہل بتلائے فتنہ ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ علم میں رسوخ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، محکم ہو، یا متشابہ سب خدا ہی کی جناب سے ہے، اور نصیحت اہل عقل ہی کو مفید ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے قلوب کو حق سے منحرف نہ فرمائیے، جبکہ ہم کو آپ ہدایت دے چکے ہیں اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت یعنی ثابت قدمی عطا فرمائیے۔ بے شک عطا فرمانے والے تو آپ ہی ہیں، اے ہمارے پروردگار! بلاشبہ آپ تمام لوگوں کو ایک ایسے دن میں جمع کرنے والے ہیں جس کے آنے میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہو سکتا۔



﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ﴾ تدفع ﴿عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ ای عذابه ﴿شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ بفتح الواو ما يوقد به دابهم ﴿كِدَابٍ﴾ كعادة ﴿الِ فِرْعَوْنَ﴾

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿١٠٠﴾ مِنَ الْأُمَمِ كَعَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٠١﴾ كَذَبُوا بآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ ﴿١٠٢﴾ أَهْلَكَهُمْ ﴿١٠٣﴾ بِذُنُوبِهِمْ ﴿١٠٤﴾
وَالجَمَلَةُ مَفْسَرَةٌ لِمَا قَبْلُهَا ﴿١٠٥﴾ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٠٦﴾ وَنَزَلَ لِمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْيَهُودَ بِالْإِسْلَامِ
فِي مَرْجِعِهِ مِنْ بَدْرٍ فَقَالُوا أَلَا يَغْرُنْكَ أَنْ قَتَلْنَا نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ أَغْمَارًا لَا يَعْرِفُونَ الْقِتَالَ
﴿١٠٧﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿١٠٨﴾ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴿١٠٩﴾ مِنَ الْيَهُودِ ﴿١١٠﴾ سَتُغْلَبُونَ ﴿١١١﴾ بِالنَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الدُّنْيَا بِالْقِتْلِ
وَالْإِسْرِ وَضَرْبِ الْجَزِيَّةِ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ ﴿١١٢﴾ وَتَحْشُرُونَ ﴿١١٣﴾ بِالْوَجْهِينِ فِي الْآخِرَةِ ﴿١١٤﴾ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ﴿١١٥﴾
فَتَدْخُلُونَهَا ﴿١١٦﴾ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١١٧﴾ الْفَرَّاشُ هِيَ ﴿١١٨﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ ﴿١١٩﴾ عِبْرَةٌ وَذَكَرَ الْفِعْلَ لِلْفَصْلِ
﴿١٢٠﴾ فِي فِتْنَتَيْنِ ﴿١٢١﴾ فَرَقْتَيْنِ ﴿١٢٢﴾ التَّقَاتِ ﴿١٢٣﴾ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْقِتَالِ ﴿١٢٤﴾ فِتْنَةٌ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿١٢٥﴾ أَيُّ طَاعَتِهِ وَهَمَّ
النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وَكَانُوا ثَلَاثًا مِائَةً وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَعَهُمْ فَرَسَانٌ وَسِتُّ أَدْرَعٍ وَثَمَانِيَةٌ
سَيُوفٌ وَأَكْثَرُهُمْ رَجَالَةٌ ﴿١٢٦﴾ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ ﴿١٢٧﴾ بِالْيَاءِ وَالنَّاءِ أَيُّ الْكُفَّارِ ﴿١٢٨﴾ مِثْلِيهِمْ ﴿١٢٩﴾ أَيُّ
الْمُسْلِمِينَ أَيُّ أَكْثَرِ مِنْهُمْ كَانُوا نَحْوَ الْفِ ﴿١٣٠﴾ رَأَى الْعَيْنُ ﴿١٣١﴾ أَيُّ رُويَةً ظَاهِرَةً مَعَايِنَةً وَقَدْ نَصَرَهُمُ
اللَّهُ تَعَالَىٰ مَعَ قَلْتِهِمْ ﴿١٣٢﴾ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ ﴿١٣٣﴾ يَقْوَىٰ ﴿١٣٤﴾ بِنَصْرِهِ مِنْ يَشَاءُ ﴿١٣٥﴾ نَصْرَهُ ﴿١٣٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴿١٣٧﴾
الْمَذْكَورِ ﴿١٣٨﴾ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣٩﴾ لَذَوِي الْبَصَائِرِ أَفَلَا تَعْتَبِرُونَ بِذَلِكَ فَتُؤْمِنُونَ ﴿١٤٠﴾ زَيْنَ
لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ﴿١٤١﴾ مَا تَشْتَهِيهِ النَّفْسُ وَتَدْعُوا إِلَيْهِ زَيْنَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ ابْتِلَاءٌ أَوِ الشَّيْطَانِ ﴿١٤٢﴾ مِنَ
النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ ﴿١٤٣﴾ الْأَمْوَالِ الْكَثِيرَةِ ﴿١٤٤﴾ الْمُقْتَطَرَةِ ﴿١٤٥﴾ الْمَجْمَعَةِ ﴿١٤٦﴾ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ﴿١٤٧﴾ الْحَسَانِ ﴿١٤٨﴾ وَالْأَنْعَامِ ﴿١٤٩﴾ أَيُّ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ﴿١٥٠﴾ وَالْحَرْثِ ﴿١٥١﴾ الزَّرْعِ
﴿١٥٢﴾ ذَلِكَ ﴿١٥٣﴾ الْمَذْكَورِ ﴿١٥٤﴾ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿١٥٥﴾ يَتَمَتَّعُ بِهِ فِيهَا ثُمَّ يَفْنَىٰ ﴿١٥٦﴾ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَآبِ ﴿١٥٧﴾ الْمَرْجِعِ وَهُوَ الْجَنَّةُ فَيَنْبَغِي الرِّغْبَةُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ ﴿١٥٨﴾ قُلْ ﴿١٥٩﴾ يَا مُحَمَّدُ لَقَوْمِكَ
﴿١٦٠﴾ أَوْ نَبِيِّكُمْ ﴿١٦١﴾ أَخْبَرَكُمْ ﴿١٦٢﴾ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ﴿١٦٣﴾ الْمَذْكَورِ مِنَ الشَّهَوَاتِ اسْتِفْهَامٌ تَقْرِيرٌ ﴿١٦٤﴾ لِلَّذِينَ
اتَّقَوْا ﴿١٦٥﴾ الشَّرْكَ ﴿١٦٦﴾ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿١٦٧﴾ خَيْرٌ مِمَّا يَدْرُؤُونَ ﴿١٦٨﴾ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيدِينَ ﴿١٦٩﴾ أَيُّ
مُقَدِّرِينَ الْخَلُودِ ﴿١٧٠﴾ فِيهَا ﴿١٧١﴾ إِذَا دَخَلُوهَا ﴿١٧٢﴾ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ﴿١٧٣﴾ مِنَ الْحَيْضِ وَغَيْرِهِ مِمَّا
يَسْتَقْدِرُ ﴿١٧٤﴾ وَرِضْوَانٌ ﴿١٧٥﴾ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ لَغْتَانٌ أَيُّ رَضَىٰ كَثِيرٌ ﴿١٧٦﴾ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ﴿١٧٧﴾ عَالِمٌ
﴿١٧٨﴾ بِالْعِبَادِ ﴿١٧٩﴾ فِي جَازِي كَلَامِهِمْ بِعَمَلِهِ ﴿١٨٠﴾ الَّذِينَ ﴿١٨١﴾ نَعْتٌ أَوْ بَدَلٌ مِنَ الَّذِينَ قَبْلَهُ ﴿١٨٢﴾ يَقُولُونَ ﴿١٨٣﴾ يَا
رَبَّنَا إِنَّا آمَنَّا ﴿١٨٤﴾ بِرَسُولِكَ ﴿١٨٥﴾ فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ ﴿١٨٦﴾
عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ نَعْتٌ ﴿١٨٧﴾ وَالصَّادِقِينَ ﴿١٨٨﴾ فِي الْإِيمَانِ ﴿١٨٩﴾ وَالْقَنَاتِينَ ﴿١٩٠﴾ الْمُطِيعِينَ لِلَّهِ
﴿١٩١﴾ وَالْمُنْفِقِينَ ﴿١٩٢﴾ الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿١٩٣﴾ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ ﴿١٩٤﴾ اللَّهُ بَانَ يَقُولُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ﴿١٩٥﴾ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٩٦﴾

اواخر اللیل خصت بالذکر لانہا وقت الغفلة و لذة النوم ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ بین لخلقہ بالدلائل والآیات ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ﴾ لا معبود بحق فی الوجود ﴿إِلَّا هُوَ﴾ و شہد بذلك ﴿الْمَلِكُ﴾ بالاقرار ﴿وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ من الانبیاء و المؤمنین بالاعتقاد و اللفظ ﴿قَائِمًا﴾ بتدبیر مصنوعاتہ و نصبہ علی الحال و العامل فیہا معنی الجملة ای تفرد ﴿بِالْقِسْطِ﴾ بالعدل ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ کررہ تاکیداً ﴿الْعَزِيزُ﴾ فی ملکہ ﴿الْحَكِيمُ﴾ فی صنعہ ﴿إِنَّ الدِّينَ﴾ المرضی ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ هو ﴿الْإِسْلَامُ﴾ ای الشرع المبعوث بہ الرسل المبني علی التوحید و فی قراءۃ بفتح ان بدل من انه الخ بدل اشتمال ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ اليهود و النصارى فی الدین بان و حد بعض و کفر بعض ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ بالتوحید ﴿بَغْيًا﴾ من الکفرین ﴿بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ای المجازاة له ﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ﴾ خاصمک الکفار یا محمد فی الدین ﴿فَقُلْ﴾ لهم ﴿أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ﴾ انقدت له انا ﴿وَمَنْ اتَّبَعَنِ﴾ و خص الوجه بالذکر لشرفہ فغیرہ اولیٰ ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ اليهود و النصارى ﴿وَالْأُمِّيِّينَ﴾ مشرکی العرب ﴿أَسْلَمْتُمْ﴾ ای اسلموا ﴿فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ من الضلال ﴿وَأَنْ تَوَلَّوْا﴾ عن الاسلام ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ التبلیغ للرسالة ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ﴾ فيجازيهم باعمالهم وهذا قبل الامر بالقتال .

ترجمہ

(بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے) عذاب کے (مقابلے میں کچھ کام نہیں آسکتیں، اور یہی لوگ جہنم کے ایندھن ہیں) و تود، واو کے فتح کے ساتھ، وہ چیز جس سے آگ جلائی جاتی ہے، یعنی ایندھن، ان کا طریقہ (آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں) جیسے عاد و ثمود کے طریقے کے مطابق ہے کہ انھوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا) یعنی ہلاک کیا، اور یہ جملہ یعنی کذبوا بآیاتنا، ما قبل کی تفسیر ہے (اور اللہ سخت عذاب والے ہیں) اور جب نبی کریم ﷺ نے جنگ بدر سے لوٹنے کے بعد مدینہ کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، تو وہ کہنے لگے کہ آپ اس بات سے دھوکے میں نہ پڑیں کہ قریش کے چند بھولے بھالے نا تجربہ کار افراد کو آپ نے ختم کر دیا، جو لڑنا جانتے ہی نہ تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی (تم) اے محمد (ان لوگوں سے کہہ دو، جنھوں نے کفر کیا) یعنی یہودیوں سے (بہت جلد تم بھی مغلوب ہو گے) تاء سے یعنی بصیغہ مخاطب، اور یاء سے بصیغہ غائب، یہ مغلوب ہونا دنیا میں ہوگا۔ قتل و قید سے اور جزیہ کے تعین سے، اور یہ سب ہوا (اور آخرت میں جہنم کی جانب جمع کئے جاؤ گے) یہ بھی تاء اور یاء کی

قرأت کے ساتھ ہے، پس اس میں داخل ہو گے (اور وہ برا بچھونا) ٹھکانا (ہے بے شک تمہارے لئے ان دونوں گروہوں میں جو) بدر کے دن لڑنے کے لئے (آمنے سامنے ہوئے تھے، ایک نشانی) یعنی عبرت تھی، قد کان فعل کو مذکر لائے ہیں، کیونکہ فعل ناقص اور اس کے اسم آیت کے درمیان لکم کا فصل ہے (ایک گروہ اللہ کی راہ میں) اس کی طاعت میں (لڑ رہا تھا) اور یہ لوگ نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب تھے، ان کی تعداد ۳۱۳ تھی، ان کے ساتھ صرف دو گھوڑے تھے اور چھ زرہیں، اور آٹھ تلواریں تھیں، اور اکثر لوگ پیدل تھے (اور دوسرا گروہ کافر تھا، وہ انہیں) یعنی کفار کو (اپنے سے) یعنی مسلمانوں سے (کھلی آنکھیں دو گنا دیکھتے تھے) مطلب یہ ہے کہ ان سے زیادہ تھے، اور وہ ایک ہزار کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قلت کے باوجود ان کی نصرت فرمائی (اور اللہ تعالیٰ، اپنی مدد سے جس کو چاہتے ہیں طاقت پہنچاتے ہیں، بے شک اس کے اندر آنکھ والوں) یعنی عقل والوں (کے لئے عبرت کا سامان ہے) کیا اس سے تم کو نصیحت نہیں ملتی کہ ایمان لاؤ (لوگوں کے لئے شہوات کی محبت مزین کر دی گئی ہے) یعنی اس چیز کی محبت، جسے نفس چاہتا ہے اور جس کی طرف دعوت دیتا ہے، ان کو اللہ نے بطور امتحان کے مزین فرمایا ہے، یا یہ کہ شیطان نے مزین کیا ہے (یعنی عورتوں اور اولاد) کی محبت (اور بہت سارے مال کی) محبت (مثلاً سونا، چاندی، اور نشان لگے ہوئے) عمدہ (گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ) جو کچھ ذکر کیا گیا (حیات دنیوی کا سامان ہے) جس سے دنیا میں قدرے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، پھر وہ فنا ہو جاتا ہے (اور اللہ کے پاس لوٹنے کی عمدہ جگہ ہے) اور وہ جنت ہے، پس اس کی رغبت چاہئے، نہ کہ کسی اور کی، اے محمد اپنی قوم سے (کہہ دو کہ کیا میں تم کو اس) شہوت مذکور (سے اچھی بات کی خبر دوں) یہ استفہام تقریری ہے (ان لوگوں کے لئے جو) شرک سے (بچے رہے، ان کے رب کے پاس) عند ربہم خبر ہے، اس کا مبتدا یہ ہے (ایسے باغ میں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے) یعنی ان میں ہمیشہ رہنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جب وہ اس میں داخل ہوں گے (اور ایسی بیویاں ہیں جو) حیض وغیرہ کراہت طبع کی چیزوں سے (پاک ہوں گی اور اللہ کی جناب سے رضامندی ہوگی) رضوان میں دلالت ہے راء کے کسرہ کے ساتھ اور اس کے ضمہ کے ساتھ بھی یعنی بہت زیادہ رضامندی (اور اللہ بندوں کو دیکھنے والے) یعنی جاننے والے ہیں، پس ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے (وہ لوگ جو کہتے ہیں) الذین، ما قبل کے للذین کی صفت ہے، یا اس سے بدل ہے، اے (ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے) آپ کی اور آپ کے رسول کی ہم نے تصدیق کی (پس ہمارے لئے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، جو لوگ) طاعت پر اور معصیت سے (صبر کرنے والے ہیں) یہ صفت ہے (اور) ایمان میں (سچے ہیں اور) اللہ کی (اطاعت کرنے والے ہیں، اور صدقہ دینے والے ہیں اور) اللہ سے (استغفار کرنے والے ہیں) یعنی یوں کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لنا (صبح

کے وقت میں) یعنی رات کے آخری حصے میں، اسے خاص طور سے ذکر کیا، کیونکہ یہ غفلت اور لذت خواب کا وقت ہے (اللہ نے گواہی دی) یعنی اپنی مخلوق کے لئے دلائل اور نشانیوں کے واسطے سے بیان کیا (کہ اس کے علاوہ کوئی معبود) برحق موجود (نہیں ہے، اور) اس کی گواہی اپنے اقرار کے ذریعے (فرشتوں نے بھی دی) اور اعتقاد اور لفظ سے (اہل علم) یعنی انبیاء و اہل ایمان (نے بھی دی، اس حال میں کہ وہ) اپنے مصنوعات کی (تدبیر کرنے والا ہے) قائماً کا نصب حال ہونے کی بنا پر ہے اور اس میں عامل جملہ کا معنی ہے، یعنی تفرّد (عدل کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں) اس کو تاکید کے لئے مکرر لائے، اپنی حکومت میں (غلبہ رکھتا ہے) اپنے کام میں (صاحب حکمت ہے، بے شک اللہ کے نزدیک) پسندیدہ (دین تو اسلام ہی ہے) یعنی وہ شریعت جسے دے کر انبیاء و رسل بھیجے گئے، جو کہ توحید پر مبنی ہے، اور ایک قرأت میں ان کے فتح کے ساتھ ہے اور انہ سے بدلہ اشتمال ہے (اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی) یعنی یہود و نصاریٰ (انہوں نے) دین کے باب میں (اس وقت اختلاف کیا) یعنی بعض توحید پر قائم رہے، اور بعض نے کفر کیا (جب کہ ان کے پاس) توحید کا (علم آچکا تھا) کافروں کی (باہمی سرکشی کی وجہ سے اور جو کوئی اللہ کی آیات کا منکر ہو، تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں) یعنی جلد بدلہ دینے والے ہیں (پس اگر وہ تم سے) دین کے بارے میں (جھگڑیں۔ تو تم) ان سے (کہہ دو کہ میں نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے) یعنی اللہ کا فرمانبردار بن گیا ہوں (اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی) آیت میں خاص طور سے وجہ یعنی چہرے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ اشرف الاعضاء ہے، جب وہ تابع ہے تو دوسرے اعضاء بدرجہ اولیٰ تابع ہوں گے۔ (اور تم ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے) یعنی یہود و نصاریٰ سے (اور امیوں سے) یعنی مشرکین عرب سے (کہہ دو کہ کیا تم اسلام لائے) یعنی تم اسلام لاؤ (پس اگر وہ اسلام لائیں تو یقیناً ہدایت کی راہ پر آگئے، اور اگر انہوں نے) اسلام سے (روگردانی کی تو تمہارے ذمے صرف) پیغام کو (پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والے ہیں) تو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے یہ بات جہاد و قتال کے امر سے پہلے کی ہے۔

﴿ تشریحات ﴾

کعاد و ثمود: - حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام عادی ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ثمود۔
والجملة مفسرة لما قبلها: .: كذبوا بآياتنا كاجمله ما قبل یعنی كدأب آل فرعون والذین من قبلهم کی تفسیر ہے۔

مرجعہ من بدر: - رسول اللہ ﷺ جب میدان بدر سے کامیاب و منصور واپس تشریف لائے، تو یہاں کے یہودیوں کے ایک قبیلہ بنی قینقاع نے کچھ شرارت کی، آپ نے انہیں، انہیں کے بازار میں جمع کر کے فہمائش کی،

اور قریش کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی، تو وہ ازراہ غرور کہنے لگے، کہ اگر آپ نے قریش کے چند ناجربہ کار اور بھولے بھالے لوگوں کو ختم کر دیا ہے، تو اس کے دھوکے میں نہ پڑیے، اگر ہم سے پالا پڑا، تب آپ کو معلوم ہوگا۔

الفراش ہی : - الفراش، المہاد کی تفسیر ہے، اور ہی مخصوص بالزم ہے۔

و ذکر الفعل للفصل : . کان کا اسم آیت ہے جو مونث ہے، اس لحاظ سے فعل بھی مونث یعنی کانت چاہئے تھا، اس کا جواب مفسر نے دیا کہ چونکہ فعل اور اس کے اس کے درمیان فصل ہے، اس لئے فعل کا مذکر لانا درست ہے، قاعدہ یہی ہے کہ فعل کا فاعل جب مونث بالتاء ہو، تو دونوں کے درمیان فصل کی صورت میں فعل کی تانیث اور تذکیر دونوں جائز ہے۔

کانوا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً : - ۳۱۳ میں ۷۷ مہاجرین تھے اور ۲۳۶ انصار تھے، مہاجرین کا جھنڈا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔

(یرونہم) امے الکفار (مثلیہم) ای المسلمین : - مفسر کی اس تفسیر میں دو احتمال ہیں۔ اول یہ کہ الکفار مرفوع ہو، اس صورت میں یہ یرون کے فاعل کا بیان ہوگا۔ اور ہم مفعول بہ ہے، اس سے مراد مسلمان ہیں، اور مثلیہم میں بھی ضمیر مضاف الیہ کا تعلق مسلمانوں ہی سے ہے، یعنی کفار، مسلمانوں کو ان کی تعداد کا دو گنا سمجھ رہے تھے، گویا انہیں ۶۲۶ کی تعداد میں سمجھ رہے تھے۔

اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ الکفار منصوب ہو، اور یرون کی ضمیر فاعلی کا تعلق مسلمانوں سے ہو، یعنی اہل اسلام، کفار کو اپنے سے دو گنا سمجھ رہے تھے، یہ احتمال واقعہ بدر کے حقائق کے پیش نظر مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ ای اکثر منہم : - مفسر نے فرمایا کہ یہاں مثلیہم سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ٹھیک دو گنا سمجھ رہے تھے بلکہ مطلقاً زائد دیکھ رہے تھے، خواہ دو گنا ہو یا اس سے زیادہ۔

سوال: یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کو زیادہ سمجھ رہے تھے، اور مسلمان کفار کو زیادہ سمجھ رہے تھے، اس کے برخلاف سورہ انفال میں اسی واقعہ کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ واذ یریکم وہم اذا لتقیم فی اعینکم قليلاً ویقللکم فی اعینہم، اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہوں میں کفار کی تعداد کم دکھائی دے رہی تھی، اور کفار کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی دے رہی تھی، بظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔

جواب: مفسر نے اس سوال کا جواب سورہ انفال کی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں دیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جنگ کے آغاز میں ہر فریق کو دوسرا فریق کم دکھائی دیتا کہ حوصلہ بلند کر کے ایک دوسرے پر حملہ کریں، خدا

کی مشیت یہی تھی، دونوں گروہ بھڑ جائیں تاکہ حق و باطل واضح ہو جائے، اگر بغیر بھڑے ہی کفار کو شکست ہو جاتی تو اس کی سوتا ویلیں کر لی جاتیں، کم سے کم یہی کہ محمد جادوگر ہیں کہہ کر اپنے باطل ہونے کو کچھ دیر بچا لیجاتے، اور جب جنگ شروع ہوگئی تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی دینے لگی، لیکن اس جواب کی صورت میں الکفار کے نصب کا احتمال اور یہ کہ مسلمان، کفار کو دو گنا سمجھ رہے تھے، یہ احتمال کا عدم ہو جائے گا، کیونکہ جنگ شروع ہو جانے کے بعد مسلمانوں کا کفار کی نگاہ میں زیادہ دکھائی دینا بر محل بھی ہے، مناسب بھی ہے، اور حقیقت کے مطابق بھی ہے، کیونکہ فرشتوں کی بڑی تعداد شریک جنگ ہوگئی، اور وہ بسا اوقات کفار کو نظر آ جاتے تھے، اس وقت کفار کا مسلمانوں کی نگاہ میں زیادہ دکھائی دینا بے محل بات ہوگی۔

امے لذوی البصائر: . اولوالبصار کی تفسیر مفسر نے ذوی البصائر سے کی ہے، البصار ظاہری نگاہ کو کہتے ہیں، اور آنکھ بول کر عقل و فراست بھی مراد لیتے ہیں، یہاں وہی مراد ہے۔

زینہا اللہ ابتلاءً او الشیطان:۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہشات نفس کی چاہت لوگوں کے سامنے بنا کر سنوار کر پیش کر دی گئی ہے۔

سوال یہ ہے کہ یہ کام کس نے کیا۔ زین فعل مجہول میں فاعل مذکور نہیں ہوتا، لیکن کوئی نہ کوئی فاعل ہونا ضرور ہے تو یہاں زین کا فاعل کون ہے؟

مفسر نے جواب دیا کہ زین کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آزمانے اور ان کا امتحان لینے کے لئے ان چیزوں کو بنا سنوار دیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کی محبت اور ایمان کو ترجیح دیتا ہے، یا شہوات کو، اگر یہ چیزیں مزین نہ کی جاتیں تو ادھر رغبت ہی نہ ہوتی، اور پھر امتحان بھی نہ ہوتا۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ شیطان نے شہوات کو مزین کر دیا ہو، تاکہ لوگ ٹوٹ کر اس پر گریں اور گمراہ ہوں۔
الحسان:۔ گھوڑ دوڑ کے مقابلہ میں جو گھوڑا کامیاب ہوتا ہے، اس پر ”نشان امتیاز“ لگا دیا جاتا ہے، تو ”نشان امتیاز“ والے گھوڑے لازم ہے کہ عمدہ ترین ہوں۔

مقدرین الخلود:۔ خالدین فیہا حال مقدرہ ہے، کیونکہ دخول جنت اور خلود فی الجنتہ دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے، کیونکہ دخول کے بعد خلود ہوگا، مفسر نے بتایا کہ یہاں خالدین سے خلود مراد نہیں ہے بلکہ تقدیر خلود مراد ہے۔
رضی کثیر:۔ رضوان میں تنوین تعظیم کے لئے ہے، اس لئے اس کو ظاہر کرنے کے لئے مفسر نے رضی کثیر کہا۔

اواخر اللیل:۔ اسحار، سحر کی جمع ہے، اس کی تفسیر مفسر نے رات کے آخری حصے سے کی ہے، چنانچہ زجاج نے کہا ہے کہ یہ طلوع صبح صادق سے پہلے کا وقت ہے، بعض نے کہا کہ رات کے آخری حصے سے طلوع صبح

صادق تک کا وقت ہے۔

بین لخلقہ بالدلائل والآیات :- اللہ کی وحدانیت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں، فرشتے بھی دیتے ہیں اور اہل علم بھی دیتے ہیں۔ اللہ کی گواہی یہ ہے کہ اس پاک ذات نے دلائل اور نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، فرشتوں کی گواہی، ان کا اقرار کرنا ہے، اور اہل علم کی گواہی یہ ہے کہ وہ دل سے اعتقاد بھی رکھتے ہیں، اور زبان سے اقرار و اظہار بھی کرتے ہیں۔

ونصبہ علی الحال :۔ قائما بالقسط کے بارے میں فرمایا کہ یہ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے، اس کا ذوالحال وہ ضمیر منفصل ہے جو الا کے بعد ہے، اس طرح یہ حال بھی شہادت کے ذیل میں آجائے گا، یعنی اللہ نے، ملائکہ نے، اہل علم نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کی بھی گواہی کہ وہ عدل کے ساتھ اپنی مخلوقات کا انتظام و اہتمام کرتا ہے، اس میں عامل اس جملہ کا مضمون ہے، یعنی تفرّد کہ وہ تنہا ان سب انتظامات کا کفیل ہے۔

وفی قرأۃ بفتح أن بدل من أنه الخ بدل اشتمال :- ایک قرأۃ اس طرح أن الدین عند اللہ الا سلام بجائے ان مسورہ کے ان مفتوحہ کے ساتھ، اس صورت میں انہ لا الہ الا هو سے بدل اشتمال ہوگا، یعنی جس بات کی گواہی دی گئی ہے، وہ اللہ کی وحدانیت ہے، یعنی یہ کہ پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ بدل اشتمال کا مطلب یہ ہے کہ بدل کا مبدل منہ سے کوئی التزامی ربط و تعلق ہو۔ اللہ کی وحدانیت کے اقرار و اعتراف اور دین اسلام کے عند اللہ حق ہونے کے درمیان التزامی ربط واضح ہے۔

بان وجد بعض و کفر بعض :- سابق اہل کتاب فرقوں کے اختلاف کا بیان ہے، کہ یہ کفر و ایمان کا اختلاف تھا، یہ سخت مذموم ہے، مسائل فرعیہ کا اختلاف یہاں مراد نہیں ہے۔

بغیاً :- یہ مفعول لہ ہے، اس کا عامل مختلف ہے، یعنی وما اختلف الذین او تووا الكتاب الا لاجل البغی لا لغیرہ .

انقدت له انا و من اتبعن :۔ انا کی ضمیر مرفوع لا کر مفسر نے بتایا کہ من اتبعن، محلاً مرفوع ہے، کیونکہ اس کا عطف ضمیر مرفوع پر ہے۔ اور معطوف علیہ اسلمت کی ضمیر تاء ہے، اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاء ضمیر متصل ہے، اس پر اسم ظاہر کا عطف ضمیر منفصل کی صورت میں تاکید لائے بغیر درست نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان اگر فصل آجائے تو بغیر تاکید کے عطف ہو سکتا ہے۔

اسلموا :۔ اأسلمتم صورۃ استفہام ہے، حقیقۃ امر ہے۔

وهذا قبل الامر بالقتال :۔ وان تولوا فانما علیک البلاغ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ کفار

بات کو نہ مانیں تو ان سے بس اعراض کرنا ہے، پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ پیغام پہنچا دے اور بس! مفسر نے فرمایا کہ یہ کلی حکم امر جہاد و قتال کی وجہ سے منسوخ ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ موقع محل کے لحاظ سے، صفحہ و درگزر، جہاد و قتال سب جائز ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

جو لوگ کفر کی راہ اختیار کئے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے، نہ ان کا مال بچا سکتا اور نہ ان کی اولاد، اس سلسلے میں یہ دونوں مددگار کچھ بھی کام نہیں آسکتے۔ یہ لوگ درحقیقت جہنم کے جلاون (اینڈھن) ہیں، ان کفار کا حال وہی ہے، جو آل فرعون کا حال تھا، ان فرعونوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں پکڑے گئے، اسی طرح یہ بھی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اور اللہ کی پکڑ سخت ہے، اے رسول! تم ان یہودیوں اور کافروں سے جو تم کو دھمکیاں دیتے ہیں کہہ دو کہ جلد ہی تم پسپا ہو گے، دنیا میں مغلوب ہو گے، قتل، قید اور جزیہ سب میں مبتلا ہو گے، اور آخرت میں، جہنم کے اندر ڈال دیئے جاؤ گے۔ وہ بہت بری جگہ ہے، عبرت کی بات ہے کہ دو لشکر بدر کے میدان میں آمنے سامنے ہوئے، ایک لشکر اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور یہ صرف تین سو تیرہ کی تعداد پر مشتمل تھا، اس میں صرف دو گھوڑے، چھ زرہیں اور آٹھ تلواریں تھیں، زیادہ تر پاپیادہ تھے، اور دوسرا لشکر کفار کا تھا، لیکن کفار کی نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی دے رہی تھی جبکہ وہ ایک ہزار تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہتے ہیں نصرت فرماتے ہیں۔ اس میں عقل والوں کے لئے عبرت کا سامان ہے۔ آدمیوں کا حال یہ ہے کہ ان کے لئے نفس و طبیعت کی چاہتیں، خوب بنا اور سنواری گئیں ہیں، یعنی عورتوں اور بچوں کی محبت، بہت زیادہ مال کی محبت، خواہ سونا چاندی ہو، خواہ عمدہ گھوڑے ہوں، یا چوپائے اور کھیتیاں ہوں، لیکن یہ سب دنیا کی زندگی میں برتنے اور استعمال کرنے کے سامان ہیں، باقی رہنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور بہترین ٹھکانا اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی جنت۔

اے رسول! اپنی قوم سے کہو کہ جن چیزوں کو تم دل سے چاہتے ہو، ان سے بہتر بات تمہیں بتاؤں، جو لوگ شرک سے بچے رہے، ان کے واسطے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہیں، یہ وہ بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، آپ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، وہ صبر کرنے والے ہیں، ایمان میں سچے ہیں، فرمانبردار ہیں، داد و دہش والے ہیں، آخر شب میں اللہ سے مغفرت چاہنے والے ہیں۔ اللہ نے دلائل اور نشانیوں سے یہ بات پختہ کر دی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فرشتوں نے بھی اس کا اقرار کیا، اہل علم نے بھی دل

اور زبان سے اسے تسلیم کیا، اور ساتھ ہی یہ کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ تمام کاموں کی تدبیر بذات خود کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلے معبود برحق ہیں، غلبہ اور حکمت والے ہیں، اور ان کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول دین تو صرف اسلام ہے، جس کے تمام انبیاء کرام داعی رہے ہیں اور وہ جو اہل کتاب نے مختلف راہیں اختیار کیں، بعض ایمان پر قائم اور برقرار رہے، اور بعض کفر کی راہ پر چل پڑے، تو یہ اختلاف توحید کے علم کے آجانے کے بعد ہوا، اور صرف آپس کی سرکشی اور نفسانیت کی وجہ سے ہوا۔ علم کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جو اللہ کی آیات سے کفر اختیار کرے گا، اس کا حساب جلدی ہی ہو جائے گا۔ اس صاف صاف علم آجانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ تم سے دین کے متعلق الجھیں تو واضح طور پر بتادو کہ میں بھی اور میرے ماننے والے بھی اللہ کے فرمانبردار ہیں، اور اہل کتاب سے نیز مشرکین عرب سے پوچھو کہ کیا تم بھی فرمانبردار ہو؟ پھر اگر وہ بھی فرمانبرداری اور اطاعت پر آجائیں، تو وہ ہدایت کی راہ پر آگئے، اور اگر اس سے گریز کریں، تو تمہاری ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال و اعمال کو دیکھتے ہیں، وہ ان کا بدلہ چکائیں گے۔



﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ﴾ و فِي قِرَاءَةِ يَفْتُلُونَ ﴿النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ يَفْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ﴾ بِالْعَدْلِ ﴿مِنَ النَّاسِ﴾ وَ هُمُ الْيَهُودُ رَوَى أَنَّهُمْ قَتَلُوا ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعِينَ نَبِيًّا فَهِيَ مِائَةٌ وَ سَبْعُونَ مِنْ عِبَادِهِمْ فَفَتَلُوهُمْ فِي يَوْمِهِمْ ﴿فَبَشَّرَهُمْ﴾ أَعْلَمَهُمْ ﴿بِعَذَابِ أَلِيمٍ﴾ مَوْلَمَ وَ ذَكَرَ الْبَشَارَةَ تَهَكُّمًا لَهُمْ وَ دَخَلَتِ الْفَاءُ فِي خَبَرِ أَنْ لَشِبْهَ اسْمِهَا الْمَوْصُولِ بِالشَّرْطِ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ﴾ بَطَلَتْ ﴿أَعْمَالُهُمْ﴾ مَا عَمَلُوهُ مِنْ خَيْرٍ كَصَدَقَةٍ وَ صَلَاةٍ رَحِمَ ﴿فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ﴾ فَلَا اعْتِدَادَ بِهَا لِعَدَمِ شَرْطِهَا ﴿وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ مَانِعِينَ لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ تَنْظُرُ ﴿إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا﴾ حَظًّا ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾ التَّوْرَةِ ﴿يُدْعَوْنَ﴾ حَالٌ ﴿إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ﴾ عَنْ قَبُولِ حُكْمِهِ نَزَلَ فِي الْيَهُودِ زَنَى مِنْهُمْ اثْنَانِ فَتَحَاكَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَكَمَ عَلَيْهِمَا بِالرَّجْمِ فَابْوَا فَجِيءَ بِالتَّوْرَةِ فَوُجِدَ فِيهَا فَرَجْمًا فَغَضِبُوا ﴿ذَلِكَ﴾ التَّوَلَّى وَ الْإِعْرَاضُ ﴿بِأَنَّهُمْ قَالُوا﴾ أَيْ بِسَبَبِ قَوْلِهِمْ ﴿لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَدَّةَ عِبَادَةِ آبَائِهِمْ الْعَجَلِ ثُمَّ تَزُولُ عَنْهُمْ ﴿وَ غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ﴿مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ مِنْ قَوْلِهِمْ ذَلِكَ ﴿فَكَيْفَ﴾ حَالِهِمْ ﴿إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمٍ﴾ أَيْ فِي يَوْمٍ ﴿لَا رَيْبَ﴾ شَكَّ ﴿فِيهِ﴾ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ﴾ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ غَيْرِهِمْ جَزَاءً ﴿مَا

كَسَبَتْ ﴿ عملت من خیر و شر ﴾ وَهُمْ ﴿ اى الناس ﴾ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ بنقص حسنة او زياده سيئة و نزل لما وعد ﷺ امته ملك فارس و الروم فقال المنافقون هيهات ﴾ قُلْ اَللّٰهُمَّ ﴿ يا الله ﴾ مَلِكِ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴿ من خلقك ﴾ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ ﴿ بايتائه اياه ﴾ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ﴿ بنزعه منه ﴾ بِيَدِكَ ﴿ بقدرتك ﴾ الْخَيْرُ ﴿ اى والشر ﴾ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ تُوْلَجُ ﴿ تدخل ﴾ الْاَيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلَجُ النَّهَارَ تَدْخُلُهُ ﴿ فى الَيْلِ ﴾ فَيَزِيْدُ كُلَّ مِنْهُمَا بِمَا نَقَصَ مِنَ الْاٰخِرِ ﴿ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ﴾ كَالاِنْسَانِ وَالطَّائِرِ مِنَ النَّطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ ﴿ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ ﴾ كَالنَّطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ ﴿ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اى رزقا واسعا ﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ ﴿ يوالونهم ﴾ مِنْ دُوْنِ ﴿ اى غير ﴾ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ﴿ اى يوالو اليهم ﴾ فَلَيْسَ مِنْ دِيْنِ اَللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً ﴿ مصدر تقيته اى تخافوا مخافة فلکم موالاتهم باللسان دون القلب وهذا قبل عزة الاسلام و يجرى فى من فى بلد ليس قويا فيها ﴾ وَ يُحٰذِرْكُمْ ﴿ يخوفکم ﴾ اَللّٰهُ نَفْسَهُ ﴿ اى ان يغضب عليكم ان واليتموهم ﴾ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿ المرجع فيجازيكم ﴾ قُلْ ﴿ لهم ﴾ اِنْ تَخَفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ ﴿ قلوبکم من مولاتهم ﴾ اَوْ تَبْدُوْهُ ﴿ تظهوره ﴾ يَعْلَمَهُ اللّٰهُ ﴿ وهو ﴾ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ومنه تعذيب من والاهم واذكر ﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَ مَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ﴿ مبتدأ خبره ﴾ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيْدًا ﴿ غاية فى نهاية البعد فلا يصل اليها ﴾ وَ يُحٰذِرْكُمْ اَللّٰهُ نَفْسَهُ ﴿ كرهه للتاكيد ﴾ وَاللّٰهُ رُوْفٌ بِالْعِبَادِ ﴿

ترجمہ

(بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں) ایک قرأت میں یقاتلون ہے، یعنی انبیاء سے لڑتے ہیں (اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو عدل کا حکم کرتے ہیں) اور یہ یہود ہیں، مروی ہے کہ انھوں نے ۴۳ انبیاء کو قتل کیا، انہیں اس جرم سے ۷۰۷ عابدوں نے منع کیا، تو انہیں بھی اسی دن قتل کر دیا (انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنادو) یعنی اطلاع کر دو، اور بشارت کا ذکر ان کے ساتھ تہکم ہے، اور ان کی خبر میں فاء اس لئے داخل ہوئی کہ اس کا اسم جو کہ موصول ہے، شرط کے مشابہ ہے (یہی لوگ ہیں جن کے اعمال) یعنی انھوں نے جو کچھ عمل خیر کیا ہے، جیسے صدقہ اور صلہ رحمی سب (دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے) یعنی وہ قابل شمار نہیں ہیں، کیونکہ اس کی شرط معدوم ہے۔ (اور ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے) یعنی عذاب سے

کوئی بچانے والا نہیں ہے (کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا) یعنی تورات کا (انہیں دعوت دی جاتی ہے) یدعون حال ہے (اللہ کی کتاب کی جانب تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک فریق) اس فیصلے کو قبول کرنے سے (اعراض کرتے ہوئے روگردانی کرتا ہے) یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے، دو یہودیوں نے زنا کیا تھا، وہ مقدمہ نبی کریم ﷺ کے پاس لائے، آپ نے ان پر رجم کا فیصلہ کیا، انہوں نے انکار کیا، پھر توریت کو لایا گیا تو یہ حکم اس میں پایا گیا۔ لہذا ان دونوں کو رجم کر دیا گیا، اس پر وہ غضبناک ہوئے۔ (یہ) روگردانی اور اعراض (اس واسطے ہے کہ انہوں نے کہا) یعنی ان کے اس قول کی وجہ سے (کہ جہنم ہمیں بس گنتی کے چند دن چھوئے گی) چالیس دن، جتنے دن ان کے آباء واجداد نے پھڑے کی پوجا کی تھی، پھر ان سے ہٹ جائے گی (اور ان کو ان کے دین کے بارے میں اس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جو وہ افترا کرتے تھے) فسی دینہم کا تعلق ماسکانوا یفترون سے ہے، اور اس سے مراد ان کا مذکورہ بالا قول ہے (پس اس وقت ان کا حال کیا ہوگا، جب ہم انہیں ایک ایسے دن میں جمع کریں گے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے) وہ قیامت کا دن ہے (اور) اہل کتاب اور غیر اہل کتاب (سب کو) ان تمام خیر و شر کا (جو کچھ انہوں نے کیا ہے پورا پورا) بدلہ (دیا جائے گا اور ان پر) کسی نیکی کو کم کر کے یا کسی برائی کو زیادہ کر کے (ظلم نہیں کیا جائے گا) اور اگلی آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت سے ملک فارس اور ملک روم کا وعدہ کیا، تو منافقوں نے کہا کہ یہ کبھی نہ ہوگا (تم کہو: اے اللہ، اے ملک کے مالک، آپ) اپنی مخلوق میں (جس کو چاہتے ہیں حکومت عطا فرماتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں) حکومت دے کر (غلبہ دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں) حکومت اس سے چھین کر (ذلیل کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں) آپ کی قدرت میں (خیر) اور شر (ہے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں) پس ان میں سے ہر ایک کو اتنا بڑھا دیتے ہیں جتنا دوسرے کو گھٹاتے ہیں (اور زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں) جیسے انسان کو اور پرندہ کو نطفہ سے اور انڈے سے نکالتے ہیں (اور مردہ کو) جیسے نطفہ کو اور انڈے کو (زندہ سے نکالتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں روزی بے حساب دیتے ہیں) یعنی بہت زیادہ (اہل ایمان کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بنائیں) یعنی ان سے موالات نہ کریں (بجز مومنوں کے، اور جو ایسا کرے گا) یعنی ان سے موالات کرے گا (اس کا اللہ) کے دین (سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرو) تقاة، تقیت کا مصدر ہے، یعنی تمہیں ان سے اندیشہ ہو، تو زبان سے اظہار موالات تو تمہارے لئے جائز ہے، لیکن دل سے نہیں، اور یہ حکم غلبہ اسلام سے پہلے کا ہے، اور اب بھی ایسی جگہ جہاں مسلمان کمزور ہوں، یہی حکم ہے (اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے خوف کھانے کا حکم دیتے ہیں) کہ کہیں ان کی موالات کی وجہ سے تم پر ان کا غضب نہ

نازل ہو جائے (اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے) پس وہ تمہیں بدلہ دیں گے (تم) ان سے (کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے، اسے خواہ تم چھپاؤ) یعنی ان سے محبت (یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں اور) وہ (وہ بھی جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں) اور اسی میں کفار سے موالات کرنے والے کو مبتلائے عذاب کرنا بھی ہے، یاد کرو (جب ہر شخص، جو کچھ اس نے خیر کا عمل کیا ہوگا، اسے سامنے حاضر پائے گا، اور جو کچھ اس نے برا عمل کیا ہوگا) مہا عملت من سوء مبتدا ہے، اس کی خبر تود لو ان بینہا و بینہ امداءً بعیداً ہے، یعنی (چاہے گا کہ اس کے درمیان اور اس کے درمیان ایک لمبی مسافت ہو) کہ وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے (اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے خوف رکھنے کا حکم دیتے ہیں) اس کو تاکید کے لئے مکرر لائے (اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہیں)

﴿ تشریحات ﴾

تہکم بہ :- عذاب کی بشارت، درحقیقت ان پر ایک طرح کا طنز ہے، ورنہ بشارت خوش خبری کو کہتے ہیں، پس عذاب کی بشارت نہیں ہو سکتی، چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کرنے والوں نے اس قتل کرنے کو اپنا ایک کارنامہ سمجھا۔ اور ظاہر ہے کہ کسی بڑے کام پر انعام و اکرام کی بشارت ملتی ہے، تو ان کے اس گمان کی بنیاد پر بشارت کا لفظ لایا گیا، مگر اس کے ساتھ عذاب الیم کو چسپاں کر کے بتا دیا گیا۔ کہ تمہارے لئے کس قسم کی بشارت ہے۔ بشارت خیر کی اطلاع کو کہتے ہیں۔

ودخلت الفاء فی خبر ان الخ :- مفسر نے یہاں ایک سوال کا جواب دیا ہے، وہ یہ کہ الذین یکفرون بآیات اللہ سے من الناس تک مجموعی اعتبار سے ان کا اسم ہے اور فبشرہم اس کی خبر ہے، نہ مبتدا شرط ہے، اور نہ خبر جزا ہے، پھر خبر میں فاء جزائیہ کیوں داخل کیا گیا؟ اس کا جواب مفسر نے یہ دیا کہ: الذین یکفرون بآیات اللہ الخ میں شرط کی مشابہت پائی جاتی ہے، اس لئے اس کی خبر جزاء کے مشابہ ہے، کیونکہ کفر بآیات اللہ اور قتل انبیاء و صلحاء عذاب الیم کی بشارت کا سبب ہے، اور معلوم ہے کہ شرط، جزاء کے لئے سبب ہے، تو یہاں ان کا اسم اس کی خبر کے لئے سبب ہے۔ تو گو کہ لفظاً شرط و جزا نہیں ہے، لیکن مشابہت تو ضرور ہے، اس لئے فاء جزائیہ خبر میں آیا، قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا اسم موصول ہو، یا اسم موصول کا مضاف ہو، اور موصول کا صلہ فعل ہو، تو اس میں شرط کی مشابہت پائی جاتی ہے، اور خبر پر فاء جزائیہ کا داخل کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ نواسخ جملہ کے داخل ہونے کے بعد بھی کیا فاء جزائیہ کا داخل ہونا درست ہوتا ہے؟ تو انخفش نے کہا کہ ان اور ان کے داخل ہونے کے بعد مبتدا اپنے حال پر باقی نہیں رہتا۔ پس اس میں شرط کی مشابہت باقی نہیں رہتی، لیکن جمہور نحو یوں کا کہنا ہے کہ ان کے داخل ہونے سے معنی میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، پس وہ شرط کی

مشابہت سے مانع نہیں ہے، اور نقلاً اس کی دلیل مذکورہ بالا آیات کریمہ ہے، اور ان ولکن بھی دخول فاء سے مانع نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واعلموا ان ما غنمتم من شئی فان لله خمسہ الخ اور کسی شاعر کا شعر ہے:

فوالله ما فارقتکم عن ملالة
ولکن ما يقضى فسوف يكون

ہاں لیت اور لعل خبر میں دخول فاء سے مانع ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ جملہ خبریہ باقی نہیں رہتا۔ پس وہاں نہ شرط ہے اور نہ جزا ہے کیونکہ شرط و جزا کا تعلق جملہ خبریہ سے ہوتا ہے۔

لعدم شرطها :- کسی بھی عمل کے آخرت میں باعث اجر و ثواب ہونے کے لئے اسلام شرط ہے، جب شرط ہی نہیں تو ثواب کہاں؟

تنظر :- یہاں الم تر سے مراد رُویت بصری ہے فعل قلب نہیں ہے۔

نزل فی اليهود زنی منهم الخ :- تفسیر خازن میں اس واقعہ کی تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ خیبر میں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا، معاملہ علمائے یہود کے سامنے پیش کیا گیا، تو ریت میں رجم کا حکم ہے، لیکن یہ دونوں کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، انھوں نے رجم کا فیصلہ چاہا کہ نہ ہو، تو حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں لے کر معاملہ کو حاضر ہوئے، انہیں امید تھی کہ شاید یہاں کچھ رخصت ہو، مگر آپ نے ان پر رجم کا فیصلہ کر دیا، دو آدمیوں نے کہا کہ ان دونوں پر رجم نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان تو ریت فیصلہ ہے، انھوں نے قبول کیا فرمایا کہ تم میں تو ریت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بولے کہ ایک مرد اعور (کانا) ہے جس کا نام عبد اللہ بن صوریہ ہے، فدک میں رہتا ہے، یہودیوں نے اسے بلوایا، وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم ابن صوریہ ہو، کہا ہاں، فرمایا کہ تو ریت کے سب سے بڑے عالم تم ہو؟ اس نے کہا لوگ ایسا ہی خیال کرتے ہیں۔ آپ نے تو ریت منگوائی اور اس سے فرمایا کہ اسے پڑھو، اس نے پڑھنا شروع کیا، جب آیت رجم پر پہنچا تو اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر آگے پڑھ دیا۔ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، عرض کیا۔ یا رسول اللہ! یہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا ہے، پھر وہ اٹھے اور اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت رجم پڑھ کر سنادی، اس میں تھا کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں اور اس پر بینہ قائم ہو جائے تو دونوں کو رجم کر دیا جائے گا، اور اگر عورت حاملہ ہو تو وضع حمل تک انتظار کیا جائے گا۔ آپ نے حکم دیا اور وہ دونوں سنگسار کر دیئے گئے، اس پر یہود بہت ناراض ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے الم تر الی الذین اتوا الخ نازل فرمائی۔

بسبب قولہم :- بانہم قالوا میں باء سبب کیلئے ہے، انہم قالوا مصدر کے معنی میں ہے، یعنی بسبب قولہم متعلق بقولہ ما کانوا یفترون :- فی دینہم ، ما کانوا یفترون کے متعلق ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اسم موصول کا مابعد اس کے ماقبل میں عامل نہیں ہوتا، پس فی دینہم جو موصولہ سے پہلے آیا ہے، ما کانوا

یفترون کے تحت نہیں ہو سکتا، ان کے نزدیک فی دینہم کا تعلق غرہم سے ہے۔

من قولہم :۔ یہ ماکانوا یفترون میں ما کا بیان ہے

حالہم :۔ کیف خبر ہے، اس کا مبتدا حالہم ہے جو کہ مقدر ہے۔

یا اللہ :۔ اللہم اصل میں یا اللہ ہے، حرف نداء کو حذف کر کے اس کے عوض میں آخر میں میم کا اضافہ کر دیا، عوض

لانے کا یہ مسئلہ صرف اسم جلالۃ اللہ کے ساتھ مختص ہے، اس کلمہ مبارکہ کی اور بھی خصوصیات ہیں، مثلاً یہ کہ اس پر

یا حرف ندا براہ راست داخل ہوتا ہے، اور اس صورت میں الف لام میں الف قطعی بن جاتا ہے، ورنہ دوسرے کسی

معرف باللام پر حرف ندا براہ راست داخل نہیں ہوتا، اس کیساتھ ایہا لانا پڑتا ہے، اسی طرح اس کلمہ مبارکہ کی

خصوصیت ہے کہ اس پر تاء قسم داخل ہوتی ہے۔

بایتائہ :۔ اے بایتاء الملک

اے والشیر :۔ اللہ نے فرمایا بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے، ظاہر ہے کہ جب خیران کے ہاتھ

میں ہے تو اس کا مقابل شر بھی انہیں کے ہاتھ میں ہے، لیکن ذکر میں ایک مقابل پر اکتفاء کر لیا جاتا ہے، قرینہ سے

دوسرے کو بھی سمجھا جاتا ہے، جیسے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے تقیکم الحر یعنی والبرد، اور خیر پر اس لئے اکتفا کیا

گیا کہ وہ رغبت والی چیز ہے۔

یوالونہم :۔ یہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء کی تفسیر ہے، اس لحاظ سے اسے بحذف النون ذکر کرنا

چاہئے تھا کیونکہ مفسر مجزوم ہے۔ لیکن جواب یہ ہے کہ لفظ مفسر کا مفسر کے مطابق ہونا ضروری نہیں، بس معنی کی

توضیح کافی ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اولیاء کی صفت ہوتا کہ اس کے ساتھ من دون المؤمنین کا تعلق

ظاہر ہو۔

مصدر تقیته :۔ تقاة مصدر ہے اصل مادہ میں تاء کے بجائے واو ہے، اس کو تاء سے بدل دیا ہے، اور یہ تبدیلی

اسم اور فعل سب میں ہے، چنانچہ وقاة سے تقاة ہے، وقیت سے تقیته، وقوی سے تقویٰ ہے۔

اے تخافوا مخافة فلکم موالاتہم باللسان :۔ یعنی اگر کفار کے درمیان آدمی مغلوب ہو، اور ان سے

جان و مال پر اندیشہ ہو تو زبان سے اظہار تعلق کر سکتا ہے۔ مگر دل سے ان سے محبت رکھنا جائز نہیں ہے، اور جہاں

اسلام کا غلبہ ہو، وہاں یہ بھی درست نہیں ہے۔

وهذا قبل عزة الاسلام الخ :۔ موالاة باللسان کا حکم اس وقت تک تھا، جب تک اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا،

غلبہ اسلام کے بعد یہ حکم موقوف ہوا۔ ہاں یہ حکم ایسی جگہوں میں اب بھی قائم ہے، جہاں اسلام کو قوت حاصل نہ ہو۔

ان یغضب علیکم :۔ یہ نفسہ سے بدل اشتمال ہے، خدا سے ڈرنے کا مصداق یہ ہے کہ خدا کے غضب سے

ڈرا جائے۔

(و) هو (يعلم ما فى السموات) :- درمیان میں ہو مبتدا مقدر ہے، کیونکہ يعلم ما قبل کی شرط کے تحت نہیں ہے، اسی لئے وہ مجزوم نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ مستانفہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ما فى السموات و ما فى الارض کے جاننے کے لئے کوئی شرط نہیں ہے۔

غاية فى نهاية البعد :- غایت، امد کی تفسیر ہے، اور فى نهاية البعد، بعید ا کی تشریح میں لائے ہیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اہل کتاب کے غرور و تکبر اور علم و جہل کی کشمکش اور ان کی پیچیدہ نفسیات کا لطیف اظہار کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدھی راہ کی ہدایت دی ہے، فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور انبیاء کو اور عدل و انصاف کی تلقین کرنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کے ہدایت پر ہونے کا کیا سوال؟ انہیں تو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو، یہ لوگ وہی ہیں کہ ان کے تمام اعمال صالحہ دنیا میں بھی ضائع ہوئے۔ اور آخرت میں بھی، اور آخرت کے عذاب سے بچاؤ کا کوئی سہارا ان کے پاس نہ ہوگا۔

کچھ لوگ اس قماش کے ہیں کہ انہیں تو ریت کا کچھ حصہ دیا گیا، مگر جب ان کو کتاب اللہ کی طرف دعوت دی جاتی کہ آؤ اس روشنی میں اپنے معاملات کا تصفیہ کرو، تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں، رسول اللہ ﷺ کے دور میں یہود کے درمیان زنا کا جرم پایا گیا، وہ لوگ مقدمہ آپ کے پاس لائے، آپ نے رجم کا فیصلہ کر دیا، یہودیوں نے انکار کر دیا کہ ہماری شریعت میں یہ سزا نہیں ہے، آپ نے تو ریت منگوائی، اور ابن صورتیا جو یہود کا بڑا عالم تھا، اس نے کتاب پڑھنی شروع کی، اور جب آیت رجم آئی تو اس پر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر سے پڑھ دیا، وہاں عبد اللہ بن سلام موجود تھے، انہوں نے اسکے خیانت کی اطلاع حضور اکرم ﷺ کو کر دی۔ آپ نے دونوں کو رجم کر دیا۔

ان کی یہ جرأت اس لئے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جہنم سے نجات یافتہ ہیں، ان پر اگر جہنم کا اثر آیا بھی تو بس چند روز، جتنے دن ان کے آباء و اجداد بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہوئے تھے، یعنی چالیس روز محض! یہ بات من گھڑت ہیں، جس کی وجہ سے وہ دھوکے میں مبتلا ہیں تو اس دن ان کا حال کیا ہوگا۔ جب سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور ہر شخص کو اس کے کئے ہوئے کا بدلہ ملے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، تم کہہ دو کہ اے اللہ، اے مالک الملک آپ جسے چاہتے ہیں حکومت عطا فرماتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں، حکومت چھین لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں غلبہ دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلت میں ڈال دیتے ہیں، آپ ہی کے قبضہ میں سب خیر و شر ہے اور بلا شبہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ دن کے وقت کورات میں ڈال دیتے ہیں، اور رات کے اوقات کو دن کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس طرح دن اور رات گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، اور جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار

سے نکالتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں، بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں، جب سب کچھ قدرت خداوندی میں ہے، تو اہل ایمان ان کافروں سے دلی دوستی اور محبت نہ رکھیں۔ یہ تعلق ایمان والوں سے چاہئے، اور اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اللہ کے قانون میں اس کا کوئی حصہ نہیں، مگر یہ کہ کمزوری کی وجہ سے بچاؤ کا راستہ اختیار کرنے کیلئے زبانی طور پر ان سے موالات کا اظہار کر کے اپنی عزت و آبرو اور اپنا ایمان بچا لیا جائے، تو اس کی گنجائش ہے، اور اللہ تعالیٰ تلقین فرماتے ہیں کہ ان کے غضب سے ڈرو، انہیں کے پاس پلٹ کر جانا ہے، انہیں بتادو کہ دل کی بات کو تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتے ہیں، انہیں ہر چیز پر قدرت کاملہ حاصل ہے، وہ دن کبھی نہ بھولو جس دن اپنا کیا ہوا سب خیر و شر سامنے موجود ہوگا، اور شر کے بارے میں آدمی تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور شر کے درمیان انتہائی لمبی مسافت ہوتا کہ دونوں باہم قریب نہ آسکیں، اور خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہیں۔



ونزل لما قالوا ما نعبد الا صنم الا حبا لله ليقربونا اليه ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد ﴿ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾ بمعنى انه يثيبكم ﴿ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور﴾ لمن اتبعني ما سلف منه قبل ذلك ﴿رحيم﴾ به ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿اطيعوا الله والرسول﴾ فيما يامرکم به من التوحيد ﴿فان تولوا﴾ اعرضوا عن الطاعة ﴿فان الله لا يحب الكافرين﴾ فيه اقامة الظاهر مقام المضمرة اي لا يحبهم بمعنى انه يعاقبهم ﴿ان الله اصطفى﴾ اختار ﴿آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران﴾ بمعنى انفسهما ﴿على العالمين﴾ بجعل الانبياء من نسلهم ﴿ذرية بعضها من﴾ ولد ﴿بعض﴾ منهم ﴿والله سميع عليم﴾ اذكر ﴿اذ قالت امرأة عمران﴾ حنة لما اسنت و اشتاقت للولد فدعت الله و احست بالحمل ﴿يا رب انى ندرت﴾ ان اجعل ﴿لك مافى بطنى محررا﴾ عتيقا خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس ﴿فتقبل منى انك انت السميع﴾ للدعا ﴿العليم﴾ بالنيات و هلک عمران و هى حامل ﴿فلما وضعتها﴾ ولدتها جارية و كانت ترجوان يكون غلاما اذ لم يكن يحزر الا الغلمان ﴿قالت﴾ متعذرة يا ﴿رب انى وضعتها انثى والله اعلم﴾ اى عالم ﴿بما وضعت﴾ جملة اعتراض من كلامه تعالى و فى قراءة بضم التاء ﴿وليس الذکر﴾ الذى طلبت ﴿كالاُنثى﴾ التى وهبت لانه يقصد للخدمة و هى لا تصلح لها لضعفها و عورتها و ما يعترىها من الحيض و نحوه ﴿وانى سميتها مريم و انى اعينها بك و ذريتها﴾ اولادها ﴿من﴾

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿المطرود في الحديث مامن مولود يولد الا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا الا مريم وابنها رواه الشيخان ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا﴾ اي قبل مريم من امها ﴿بِقُبُولِ حَسَنٍ وَانْتَبَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ انشأها بخلق حسن فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام واتت بها امها الاحبار سدة بيت المقدس فقالت دونكم هذه النذيرة فتنا فسوا فيها لا نها بنت امامهم فقال زكريا انا احق بها لان حالتها عندي فقالوا الا حتى نقترع فانطلقوا وهم تسعة وعشرون الى نهر الاردن والقوا اقلامهم على ان من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو ولي بها فثبت قلم زكريا فاخذها وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد اليها غيره وكان يايتها باكلها وشربها ودهنها فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء كما قال الله تعالى ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ ضمها اليه وفي قرأة بالتشديد ونصب زكريا ممدودا ومقصورا والفاعل الله ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ﴾ الغرفة وهي اشرف المجالس ﴿وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِيْمُ اَنْتِي﴾ من اين ﴿لَكَ هَذَا قَالَتْ﴾ وهي صغيرة ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ﴾ ياتيني به من الجنة ﴿اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ رزقا واسعا بلا تبعة ﴿هُنَالِكَ﴾ اي لمارأى زكريا ذلك وعلم ان القادر على الاتيان بالشيء في غير حينه قادر على الاتيان بالولد على الكبرو كان اهل بيته انقرضوا ﴿دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ﴾ لما دخل المحراب للصلوة جوف الليل ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ﴾ من عندك ﴿ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ ولدا صالحا ﴿اِنَّكَ سَمِيعٌ﴾ مجيب ﴿الدُّعَاءِ﴾ فنادته الملائكة ﴿اي جبرئيل﴾ وهو قائم يصلي في المحراب ﴿اي المسجد﴾ ان ﴿اي بان وفي قرأة بالكسر بتقدير القول ﴿اللّٰهُ يُبَشِّرُكَ﴾ مثقلا ومخففا ﴿بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ﴾ كائنة ﴿من الله﴾ اي بعيسى انه روح الله وسمى كلمة لانه خلق بكلمة كن ﴿وَسَيِّدًا﴾ متبوعا ﴿وَحُصُورًا﴾ منوعا عن النساء ﴿وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾ روى انه لم يعمل خطيئة ولم هم بها ﴿قَالَ رَبِّ اَنْتِي﴾ كيف ﴿يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ﴾ ولد ﴿وَقَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ﴾ اي بلغت نهاية السن مائة وعشرين سنة ﴿وَأَمْرَاتِيْ عَاقِرٌ﴾ بلغت ثمانى وتسعين ﴿قَالَ﴾ الا مر ﴿كَذٰلِكَ﴾ من خلق الله غلاما منكما ﴿اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَّشَاءُ﴾ لا يعجزه شئ ولا يظهر هذه القدرة العظيمة الهمة الله السؤال ليجاب بها ولما تاقته نفسه الى سرعة المشر به ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِيْ آيَةً﴾ اي علامة على حمل امرأتى ﴿قَالَ آيَتُكَ﴾ عليه ﴿اَنْ لَا تُكَلِّمَ﴾

النَّاسِ ﴿۱﴾ ای تمتنع من کلامہم بخلاف ذکر اللہ ﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ ای بلیا لیہا ﴿إِلَّا رَمَزًا﴾
اشارہ ﴿وَإِذْ كُرِّرَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحَ﴾ صل ﴿بِالْعُشِيِّ وَالْأَبْكَارِ﴾ او اخر النهار و اوائلہ.

﴿ترجمہ﴾

جب مشرکین نے بت پرستی کی تاویل بیان کی کہ ہم بتوں کی عبادت اللہ کی محبت ہی میں کرتے ہیں، تاکہ یہ اصنام ہمیں اللہ کے قرب میں پہنچادیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: (تم) ان سے اے محمد یہ (کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے) یعنی تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے (اور تمہارے لئے تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمادیں گے۔ اور) جس نے میری پیروی کی، اس کے پچھلے گناہوں کو (اللہ تعالیٰ معاف فرمانے، رحم فرمانے والے ہیں، تم) ان سے (کہہ دو کہ) جس توحید کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں (تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم) طاعت سے (روگردانی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے) اس میں اسم ظاہر کو ضمیر کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی لا یحبہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سزا دیں گے (بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو) مطلب یہ ہے کہ خود انہیں کو (تمام عالم پر) کیونکہ انبیاء تمام تر انہیں کی نسل میں آئے، ان میں سے (بعض، بعض کی اولادیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہیں اور) یاد کرو (جب عمران کی بیوی) حنہ (نے کہا) وہ بوڑھی ہو گئی تھیں، لیکن اولاد کا اشتیاق تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور انہیں حمل کا احساس ہوا (اے میرے پروردگار! میں نے نذر مانی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، میں اسے دنیا کے مشاغل سے، آپ کے) بیت مقدس کی خدمت کے لئے آزاد کر دوں گی، پس میری طرف سے قبول فرمائیجئے، بیشک، آپ) دعا کو (سننے والے) نیتوں کو (جاننے والے ہیں) ابھی وہ حمل سے تھیں کہ ان کے شوہر حضرت عمران کا انتقال ہو گیا (پھر جب اس کو بچی تولد ہوئی) انہیں توقع تھی کہ بچہ ہوگا، کیونکہ لڑکوں کو ہی بیت المقدس کی خدمت کے لئے آزاد کیا جاتا تھا (تو اس نے) بطور معذرت کے (کہا، اے میرے رب! میرے تو بچی تولد ہوئی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے، جو کچھ اس نے جنا) جملہ معترضہ ہے، اللہ کی بات ہے، اور ایک قرأت میں تاء کے ضمہ کے ساتھ ہے، یعنی بما وضعت (اور وہ لڑکا) جس کو اس نے چاہا تھا (اس لڑکی کی طرح نہیں ہے) جو اسے بخشی گئی، کیونکہ مقصد خدمت کرنا تھا، اور لڑکی اپنے ضعف، پردہ نشینی اور حیض و نفاس جیسے عوارض کی وجہ سے اس کی صلاحیت نہیں رکھتی (اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں) حدیث میں ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے۔ تو چیخ مارتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے (پھر اس کے رب نے اسے قبول فرمایا) یعنی مریم کو ان کی ماں کی طرف سے قبول فرمایا۔

(بہترین قبولیت کے ساتھ، اور اس کی اچھی نشوونما کی) وہ ایک دن میں اتنا بڑھتی تھیں جتنا دوسرے بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں۔ اور ان کی ماں انہیں بیت المقدس کے عابد و زاہد خدام کے پاس لے آئیں اور ان سے کہا کہ اس نذر والی بچی کو لو، انہوں نے ایک دوسرے سے اس کی پرورش میں منافست کی، کیونکہ وہ ان کے امام کی بیٹی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ اس کی خالہ میرے پاس ہے، دوسرے لوگوں نے کہا کہ ایسے نہیں، قرعہ ڈالا جائے گا، یہ لوگ ۲۹ تھے، اردن کی ندی کے پاس پہونچے، اور انہوں نے اپنے اپنے قلم اس میں ڈالے اور بات یہ طے ہوئی کہ جس کا قلم پانی میں جمارہ جائے اور اوپر چڑھ آئے، وہی حقدار ہوگا، حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جمارہ گیا، انہوں نے حضرت مریم کو اپنی نگرانی اور پرورش میں لے لیا، اور ان کے لئے مسجد میں ایک بالا خانہ بنا دیا، اور ایک زینہ لگا دیا، جس پر ان کے علاوہ کوئی نہیں جاسکتا تھا، وہ ان کے لئے کھانے پینے کا سامان اور تیل وغیرہ لایا کرتے تھے، وہاں وہ کبھی کبھی گرمی کا میوہ جاڑے میں اور جاڑے کا میوہ گرمی میں پایا کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (اور زکریا نے اسے اپنی کفالت میں لے لیا) اور ایک قرآۃ میں کفل فاء کی تشدید کے ساتھ ہے، اور زکریا منصوب ہے، اس میں بھی دو قرآت ہے۔ الف ممدودہ اور الف مقصورہ کے ساتھ، اور کفل کا فاعل اللہ ہے، یعنی اللہ نے زکریا کو اس کا کفیل بنایا (جب بھی زکریا اس کے پاس بالا خانہ میں داخل ہوتے) محراب بمعنی بالا خانہ جو ایک عمدہ جگہ ہے (تو اس کے پاس کھانے کی چیز پاتے، کہتے اے مریم! یہ تمہارے لئے کہاں سے آیا، وہ کہتی) جبکہ وہ چھوٹی تھی (یہ اللہ کے پاس سے ہے) اللہ تعالیٰ اسے میرے پاس جنت سے بھیجتے ہیں (بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں روزی بے حساب دیتے ہیں) یعنی بغیر مشقت کے بہت وسیع رزق عطا فرماتے ہیں (اس وقت) یعنی جب زکریا نے اسے دیکھا اور ان کے دل میں یہ خیال جما کہ جو پروردگار کسی شے کو بے وقت لانے پر قادر ہے، وہ بڑھاپے کی حالت میں اولاد عطا فرمانے پر بھی قادر ہے، اور ان کے گھر والے سب ختم ہو چکے تھے، اس وقت (زکریا نے اپنے رب کو پکارا) جب وہ رات کے سناٹے میں نماز کے لئے اپنی عبادت گاہ میں کھڑے ہوئے (بولے اے میرے پروردگار! مجھے اپنے پاس سے ایک نیک و صالح بچہ عطا فرمائیے بے شک آپ دعا کو سننے والے ہیں، تب فرشتوں نے) یعنی جبریل نے (انہیں پکارا جبکہ وہ مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ) اِنَّكَ اَوْ بِرَبِّكَ مَقْدُرٌ هُوَ، اور ایک قرآت اِنَّ مَكْسُورَہ کے ساتھ ہے، تب قول مقدر ہوگا، یعنی فنادتہ الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وقالت ان الله يبشرك بالخ (اللہ تعالیٰ تمہیں بچی کی خوشخبری دیتے ہیں) بیشتر تشدید کے ساتھ بھی ہے، باب تفعیل سے اور تخفیف کے ساتھ بھی باب افعال سے (جو کہ اللہ کے ایک کلمہ) یعنی عیسیٰ (کی تصدیق کرنیوالا ہے) کہ وہ اللہ کی روح ہیں، انہیں کلمہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے کیونکہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں (اور سردار ہے) جس کی

پیروی ہوگی (حضور) یعنی عورتوں سے احتراز کرنے والا (اور نبی ہے صالحین میں سے) مروی ہے کہ انھوں نے نہ کبھی غلطی کی اور نہ کبھی اس کا قصد کیا (کہا اے میرے رب! میرے لڑکا کیونکر ہوگا اور حال یہ ہے کہ بڑھاپا مجھے لگ گیا ہے) یعنی میں عمر کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ ۱۲۰ سال کا ہوں (اور میری بیوی بانجھ ہے) اس کی عمر ۹۸ سال کی ہوگئی ہے (فرمایا) معاملہ کچھ (ایسا ہی ہے) یعنی تم دونوں سے لڑکا تولد ہوگا (اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے) اسے کوئی چیز اس سے عاجز نہیں کر سکتی، اور اسی قدرت عظیمہ کے اظہار کے لئے اللہ نے انہیں یہ سوال الہام فرمایا تاکہ مذکورہ بالا قدرت عظیمہ کو جواب میں ذکر کیا جائے، اور جب انہیں بشارت کے سلسلے میں جلد معلومات کا شوق ہوا تو (بولے اے میرے رب! میرے لئے کوئی علامت متعین کر دیجئے) یعنی میری بیوی کے حاملہ ہونے کی علامت (تو فرمایا کہ) اس پر (تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین دن تک) راتوں سمیت (بات نہیں کر سکو گے) یعنی لوگوں سے بات کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، بخلاف اللہ کے ذکر کے کہ وہ ہوتا رہے گا (مگر اشارہ سے اور اپنے رب کو بہت یاد کرو اور شام صبح کو تسبیح) نماز (پڑھتے رہو) یعنی دن کے آخر میں اور اس کے شروع میں۔

تشریحات

ونزل لما قالوا : الخ :- کفار و مشرکین نے ہر زمانے میں اپنے کفر و شرک کی خوبصورت تاویل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی کرتے ہیں، ہم خود سے تو خدا تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری رسائی ان مورتیوں تک ہے، اور جن ارواح سے ان مورتیوں کا تعلق ہے، وہ ہمیں خدا کے حضور پہنچا دیں گی۔ اللہ نے اس تاویل باطل کی تردید فرماتے ہوئے کہا: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تو بتوں کو چھوڑو، اور میری پیروی کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔

بمعنی انه يشيكم : . . يحببكم الله کا معنی يشيكم ہے، محبت ایک نفسیاتی تاثر ہے، کسی کا حسن و جمال یا کسی کی خوبی و کمال دیکھ کر انسان کی طبیعت میں ایک خاص طرح کا انفعال اور تاثر پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آدمی کو اس کی طرف کشش پیدا ہوتی ہے، پھر اگر وہ چھوٹا ہے تو محبوب کی اطاعت و رضا جوئی میں سرگرم ہوتا ہے، اور اگر وہ بڑا ہے، تو محبوب کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے، تو محبت اپنی ابتداء کے لحاظ سے ایک انفعال اور تاثر ہے، اور انتہاء کے لحاظ سے ایک فعل اور تاثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نفسیاتی تاثر سے پاک ہیں، کیونکہ تاثر خارجی دباؤ کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہیں۔ ہاں محبت کا انتہائی معنی یعنی انعام و اکرام کی نوازش خدا کے شایان شان ہے، چنانچہ مفسر نے اسی کی تعبیر يشيكم سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ثواب و انعام عطا فرمائیں گے۔

راقم شارح عرض کرتا ہے کہ حضرت مفسر نے یہ گفتگو حضرات متکلمین کے طرز پر کی ہے۔ حضرات صوفیہ محبت کو محبت ہی کے معنی میں رکھتے ہیں، لیکن وہ محبت، بندوں کی محبت کے مشابہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے شایان شان محبت ہے، جس کی حقیقت کا ادراک ہم کو نہیں۔

لمن اتبعنی سلف منه قبل ذلک :- یعنی جس شخص نے میری پیروی کی اس کے ان گناہوں کی مغفرت فرمادیں گے جو میری پیروی سے پہلے اس سے صادر ہو چکے ہیں۔

فیہ اقامة الظاهر مقام المضممر :- فان تولوا کاسیاق کلام چاہتا ہے کہ اس کی جزاء میں بھی ضمیر ہی آئے، یعنی فان تولوا فان الله لا یحبهم، لیکن اللہ تعالیٰ نے لا یحبهم کہنے کے بجائے لا یحب الکافرین فرمایا۔ یہ ایک صنعت ہے کہ کسی مصلحت سے ضمیر کے بجائے اسم ظاہر کا استعمال کر دیا جاتا ہے، اور یہاں غالباً اشارہ کرنا مصلحت ہے، کہ اللہ ورسول کی اطاعت سے روگردانی کرنے والا کافر ہی ہو سکتا ہے، اسی مصلحت سے فرمایا کہ اگر یہ لوگ روگردانی کریں، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتے، یعنی روگردانی کرنے والا وہی ہوگا جو کافر ہو۔

ای لا یحبهم بمعنی یعاقبهم :- یہاں بھی لا یحب میں وہی کلام ہوگا، جو یحب میں گزر چکا اور اللہ تعالیٰ کا محبت نہ کرنا اپنے انتہائی درجہ کے لحاظ سے سزا دینا ہے، اس لئے یعاقبهم فرمایا۔

بمعنی انفسهما :- آل ابراہیم اور آل عمران میں مراد ابراہیم و عمران کی اولاد نہیں ہے، بلکہ خود یہی دو بزرگ مراد ہیں، تو آل بمعنی نفس ہے۔ یا یہ کہ آل مقم ہے، اس کا معنی مراد نہیں ہے، کسی کی عظمت کے اظہار کے لئے آل کا لفظ عربی میں بڑھا دیتے ہیں، جیسے اردو میں حضرت کہتے ہیں ”حضرت“ کے معنی دربار اور اہل دربار کے ہیں، لیکن یہاں مراد وہ ہیں جن کا دربار قائم ہے، مگر تعظیم کے لئے حضرت کہہ دیتے ہیں۔

حنة :- عبرانی زبان کا لفظ ہے، حاء مفتوح ہے اور نون مشدد ہے، حضرت حنہ دو بہنیں تھیں، حضرت حنہ بنت فاقود اور حضرت اشاع بنت فاقود، حنہ امام بیت المقدس حضرت عمران کے نکاح میں تھیں، عمران پیغمبر نہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، زریزہ کہہ عمران حضرت مریم کے والد تھے، دونوں کے درمیان فاصلہ بہت ہے، دوسری بہن حضرت اشاع مشہور پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ معظمہ ہیں، اولاد دونوں میں سے کسی کو نہ تھی، دونوں بوڑھی ہو گئی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت حنہ نے ایک درخت پر دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے چوزے کو کھلا رہا ہے تو ان کے جی میں گدگدی ہوئی اور دل کا شوق لہرایا، اس وقت انھوں نے دعا کی۔ اے اللہ مجھے بھی اولاد عنایت فرمائیے، اللہ نے یہ دعا سن لی، اور پیٹ میں بچہ محسوس ہوا، تو محبت کے جوش میں انھوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، اسے

میں نے آپ کے نام پر آزاد کر دیا، اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لینا ہے، وہ صرف آپ کے مقدس گھر کی خدمت کیا کرے گا۔

ولدتها جاریة :۔ فلما وضعتها میں ضمیر مونث مفعول بہ کا تعلق ما فی بطنی سے ہے اور مونث اس لئے کہ بطن مادر میں لڑکی تھی جو اللہ کے علم میں تھی۔

اذ لم یکن یحور الا الغلمان :۔ اس دور میں دنیا کے مشاغل سے آزاد کر کے صرف اللہ کی عبادت اور مسجد کی خدمت کیلئے، لوگ اپنی اولاد کو وقف کر دیا کرتے تھے، وقف کی یہ نذر صرف لڑکوں کے ساتھ مخصوص تھی، لڑکیوں پر یہ نذر وارد نہیں ہوتی تھی، شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں اس نذر کا دستور نہیں ہے۔

جملۃ اعتراض :۔ حضرت حنہ کے کلام کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک کلام بطور جملہ معترضہ کے ذکر کیا ہے، یعنی واللہ اعلم بما وضعت، اس صورت میں وضعت واحد مونث غائب کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ماں نے تو صرف اتنا ہی جانا کہ اس کے لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کے علاوہ اسے کیا خبر کہ یہ لڑکی کس شان و عظمت کی مالک ہوگی، یہ بات تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ جنا ہے۔

وفی قرأۃ بضم التاء :۔ ایک قرأت میں وَضَعْتُ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس صورت میں یہ حضرت حنہ کا کلام ہے، وہ خود اپنا ایمان تازہ کر رہی ہیں کہ اللہ ہی جانتے ہیں، جو کچھ میں نے جنا ہے، اس میں خطاب سے غیبت کی جانب التفات ہے، ورنہ اگر کلام اپنے سیاق پر ہوتا تو یوں ہوتا: وانت اعلم بما وضعت۔

(ولیس الذکر) الذی طلبت (کالانشی) التی وهبت :۔ الذکر اور الانشی میں الف لام عہد کا ہے، یعنی حضرت حنہ نے جس لڑکے کی طلب کی تھی، وہ کوئی ہوتا، اس لڑکی کے مرتبہ و مقام کا نہ ہوتا جو اسے دی گئی۔ یہ کلام بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، گو کہ وہ لڑکی ہونے کی وجہ سے ضعیف بھی ہے، پردہ نشین بھی ہے۔ اور دوسرے عورتوں والے اعذار اسے پیش آئیں گے، اس لئے مسجد کی خدمت کی اس میں صلاحیت نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی، یہ لڑکوں سے افضل ہے۔

مریم :۔ مریم کے معنی اس وقت کی زبان میں عابدہ کے ہے جو اپنے پروردگار کی عبادت گزار اور خدمت گار ہو، حضرت حنہ نے یہ نام رکھ کر اللہ کی خوشنودی کا ارادہ کیا ہے، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ لڑکی ہونے کی وجہ سے ان کی نیت اور نذر بدلی نہیں ہے، گو کہ مسجد کی خدمت مردوں کی طرح نہیں کر پائے گی، مگر مسجد کا اصل کام یعنی عبادت و طاعت میں اسے لگا دوں گی۔

ما من مولود یولد الا مسه الشیطان :۔ حضرت حنہ نے حضرت مریم کو اور ان کی اولاد کو مس شیطان سے اللہ کی حفاظت میں دے دیا، یہ حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی، چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جب کوئی

بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پہلو میں اپنے انگلیوں سے کچوکا مارتا ہے، چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں ہے: کل ابن آدم لیطعنه الشیطان فی جنبہ باصبعہ حین یولد غیر عیسیٰ بن مریم۔ آدم کے ہر بیٹے کو شیطان پیدائش کے وقت اپنی انگلیوں سے اس کے دونوں پہلووں میں کچوکا لگاتا ہے، بجز حضرت عیسیٰ بن مریم کے۔

جو حدیث مفسر نے ذکر کی ہے، اس پر صاحب جمل نے فرمایا ہے کہ ایک قوی اشکال ہے۔ لیکن میرے علم میں کسی مفسر نے اس کو نہیں چھیڑا ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ وانی اعیذھا جو حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی ہے وہ حضرت مریم کی پیدائش کے بعد کی ہے، تو اس کی قبولیت اور پھر شیطان کا نہ چھیڑنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں تو سمجھ میں آتا ہے، مگر خود حضرت مریم کی پیدائش کے وقت جبکہ ابھی یہ دعا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ قبولیت کا مورد ہوگی۔

راقم شارح عرض کرتا ہے کہ یہ اشکال میرے ذہن میں بھی ابتدائے طالب علمی سے گردش کر رہا ہے، مگر نہ کسی استاذ سے پوچھنے کی نوبت آئی، اور نہ کسی کتاب میں اس کا حل دیکھا، بلکہ کما حقہ اس پر غور ہی نہیں کیا، اور نہ اہتمام سے اس کا جواب تلاش کیا آج جبکہ یہ سطور لکھ رہا ہوں جمل میں بھی اس اشکال کا تذکرہ پڑھا، مگر انھوں نے بھی کوئی حل نہیں لکھا۔

انہیں حضرات کی برکت سے ایک بات ذہن میں آرہی ہے، ناقص ذہن کی بات بھی ناقص ہوگی، لیکن عرض کئے دیتا ہوں شاید قبول ہو، یا کسی کے ذہن کی رسائی صحیح جواب کی طرف ہو جائے۔

حضرت مریم کی ولادت کوئی عام اور معمول کی بات نہ تھی، دنیا میں شاید ہی کسی ماں نے اتنے خلوص سے اپنی اولاد کو اس کی پیدائش کے پہلے ہی خدمت خداوندی کے لئے وقف کیا ہو، حضرت حنہ نے ابتداء جمل میں ہی یہ نذر کر لی کہ میری یہ اولاد صرف اللہ کی عبادت کے لئے اور مسجد قدس کی خدمت کے لئے ہوگی۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ شیطان کے کچوکوں سے محفوظ رہیں، پھر یہ بھی عجیب بات ہوئی کہ ابھی پیدا ہوئی ہیں آئندہ اللہ معلوم کتنی زندگی پائیں، اور پائیں بھی تو صاحب اولاد ہوں یا نہ ہوں، لیکن اسی وقت وہ یہ دعا کرتی ہیں کہ میں اپنی اس لڑکی کو بھی اور اس لڑکی کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو یہاں دو باتیں عجیب ہوئیں، ایک تو حمل ہوتے ہی خدمت قدس کے لئے وقف کی نذر! حالانکہ کچھ معلوم نہ تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اور دوسرے ولادت کے معاً بعد اس کے لئے اور اس کی اولاد کے لئے اس تیقن کے ساتھ دعا جیسے وہ جانتی ہوں کہ یہ صاحب اولاد ہوگی۔ بہر حال اس واقعہ میں عجائب درعجاب ہیں، اور یہ سب خالص اللہ کے لئے، تو کیا عجب کی اس کی برکت حضرت مریم پر پہلے ہی ظاہر ہوگئی ہو، مگر حدیث میں دونوں کا ایک سیاق میں بیان کر دیا گیا، کیونکہ دونوں آپس

میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ واللہ اعلم

وفی قرأۃ بالتشدید ونصب زکریا :۔ ایک قرأت میں کفل باب تفعیل سے ہے، اس صورت میں زکریا مفعول بہ ہوگا اور کفل کا فاعل اللہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زکریا کو حضرت مریم کا کفیل بنایا۔

ای جبرئیل :۔ فناداتہ الملائکۃ میں ملائکہ جمع کا صیغہ ہے، مگر مراد صرف جبرئیل ہیں، کلام میں اس طرح کے محاورے ہوتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں فلان یر کب الخیل ویلبس الثیاب، حالانکہ اس کے پاس صرف ایک ہی گھوڑا ہوتا ہے اور ایک ہی کپڑا ہوتا ہے۔

ای بأن :۔ فناداتہ الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب انّ اللہ یشرک الخ :۔ اس میں ان باء حرف جر کے ساتھ ہے مگر وہ محذوف ہے، اور ایک قرأت میں ان بالکسر ہے تو ناداتہ کے قرینے سے قول مقدر ہوگا یعنی وقالت ان اللہ اور قول کے بعد ان کسورۃ الہمزہ آتا ہے۔

منوعاً من النساء :۔ حضور ایسے شخص کو کہتے ہیں جو باوجود قدرت کے عورتوں کی رغبت نہ رکھتا ہو، اور ان سے صحبت نہ کرتا ہو۔

ای بلغت نہایۃ السن :۔ وقد بلغنی الکبر (بڑھاپا مجھے پہنچ گیا ہے) کی تفسیر بلغت نہایۃ السن (میں انتہاء عمر کو پہنچ گیا ہوں) سے کر کے مفسر نے بتایا کہ اصل عبارت مقلوب ہے، بڑھاپا آدمی کو نہیں پہنچتا، آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، لیکن تعبیر برعکس کر دی گئی ہے۔

ای بلیالیہا :۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ثلث لیال سوياً فرمایا ہے۔ وہیں سے اخذ کر کے حضرت مفسر نے یہاں ثلثۃ ایام کے ساتھ بلیالیہا کا اضافہ کیا ہے۔

صل :۔ سبح سے مراد نماز ہے، کیونکہ اسے وقت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، یعنی صبح و شام، حالانکہ مطلق تسبیح کیلئے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، وقت کی قید سے اشارہ ملتا ہے کہ تسبیح سے مطلق تسبیح مراد نہیں ہے، بلکہ نماز مراد ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

کفار و مشرکین اور باطل پرست فرقے اپنی گمراہیوں اور کج رویوں کی خوبصورت تاویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کفار نے بت پرستی کی تو کبھی کہا کہ ہم ان بتوں کو نہیں ان کی ارواح کو قبلہ عبادت بنا کر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ کبھی کہا کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ یہ معبود ہم کو خدا تک پہنچادیں گے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی منصب پر بٹھایا تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ایسا اللہ کو راضی کرنے کے لئے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی! تم کہہ دو کہ واقعی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور اس کی محبت چاہتے ہو، تو میرے نقش قدم پر چلو، اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی

ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہی ہے کہ وہ غفور ہیں، رحیم ہیں۔ تم ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم روگردانی کر کے بالکل منکر ہو گئے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو محبت سے نہیں نوازتے بلکہ بتلائے عذاب کریں گے۔

جن لوگوں کی عبادت کر کے تم خدا تک پہنچنے کی امید لگائے بیٹھے ہو، سنو کہ وہ بھی اللہ کے بندے اور ان کے محتاج ہیں، ان میں بعض اللہ کے منتخب اور برگزیدہ بندے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو، نوحؑ کو، ابراہیمؑ، عمرانؑ کو دنیا والوں میں انتخاب فرمایا کہ انبیاء کو انہیں کی نسل میں مبعوث فرمایا، جو کہ سب ایک دوسرے کی اولادیں ہیں، اور اللہ سننے جاننے والے ہیں، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا، سننا چاہئے کہ وہ عالم وجود میں کیونکر آئے۔ کیا اس طرح سے عدم سے وجود میں آنے والا بھی خدا ہو سکتا ہے۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی حنہ نے کہا کہ میں منت مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے، اے اللہ وہ آپ کے لئے آزاد ہے، دنیا کے دھندوں سے اسے کوئی واسطہ نہ ہوگا، وہ بچہ بیت المقدس کی خدمت کے لئے آزاد ہوگا۔ اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ آپ بیشک دعا کو سنتے اور نیتوں کو جانتے ہیں۔ لیکن جب ولادت ہوئی تو توقع کے خلاف بچی پیدا ہوئی، اور بچیاں بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف نہیں کی جاتی ہیں۔ حضرت حنہ کو پریشانی ہوئی کہ نذر تو ٹوٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے، انھوں نے عذر کرتے ہوئے کہا کہ اے پروردگار یہ تو لڑکی پیدا ہوئی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس کی پیدائش ہوئی ہے، اور جس بچے کی وہ توقع باندھے ہوئے تھیں وہ اس بچی کے مانند نہیں ہے۔ اس کا شرف اور مرتبہ بڑا ہوگا، پھر کہتی ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچانے کے لئے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کو قبولیت سے نوازا، اور ان کی نشوونما اور پرورش بہت عمدہ طریقے سے ہوئی، وہ اس طرح کہ حضرت حنہ نے بیت المقدس کے عبادت گزاروں اور خدام کے سامنے حضرت مریم کو پیش کیا کہ میری نذر میں یہ بچی پیدا ہوئی، اسے سنبھالئے۔ سب کو شوق ہوا کہ بچی کی کفالت وہ کرے کیونکہ وہ ان کے امام کی بیٹی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنا حق پیش کیا کہ میرے نکاح میں اس بچی کی حقیقی خالہ ہے، اس لئے میرا حق مقدم ہے، لوگوں نے کہا کہ قرعہ اندازی ہوگی، چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام ہی کا نام آیا، چنانچہ منجانب اللہ وہ انہیں کی کفالت میں آگئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لئے ایک حجرہ بالائی منزل میں متعین کر دیا ان کے بڑھنے کی رفتار اور لڑکیوں سے زیادہ تھی، اور عقل و تمیز میں بھی وہ ممتاز تھیں، عبادت کا بھی خاص ذوق تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی ان کے عبادت خانے میں جاتے تو وہاں کھانے پینے کا سامان دیکھتے جبکہ ان کے علاوہ کوئی اور وہاں نہیں جاتا تھا، وہ پوچھتے یہ سامان کہاں سے آیا، وہ کہتیں اللہ کی جانب سے، اس میں بے موسم کے پھل بھی ہوتے، اللہ کی قدرت

ورحمت کا یہ مشاہدہ کر کے حضرت زکریا علیہ السلام پر ایک خاص کیف چھا گیا، اسی کیف میں انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار! مجھے بھی ایک اولاد عنایت فرما دیجئے، رحمت حق کی طرف سے قبولیت کا پروانہ آیا، فرشتے نے پکارا جبکہ ابھی وہ مصروف عبادت ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا کی خوش خبری دیتے ہیں، اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، وہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، پیشوا ہوگا، لذات و شہوات سے بے نیاز ہوگا، اور صالح نبی ہوگا، جب یہ بشارت مل گئی تو ان پر کشمکش جیسی حیرت طاری ہوگئی، کہنے لگے پروردگار! میرے اولاد ہوگی؟ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی اور ناقابل اولاد ہے، فرمایا بات یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ حضرت زکریا کا یہ سوال شک کی وجہ سے نہ تھا، اس میں مصلحت یہ تھی کہ ان کے سوال کے جواب سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے، اور ایسے حیرت خیز واقعہ میں طبعی خوشی سے یہ سوالات پیدا ہو ہی جاتے ہیں، انھوں نے درخواست کی کہ بچے کے شکم مادر میں آنے کی کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ حکم ہوا کہ نشانی یہ ہے کہ تین دن کے لئے تمہاری گفتگو بند ہو جائے گی۔ لوگوں سے تم بات نہیں کر سکو گے، یہ بات کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہوگی، ذکر الہی زبان پر جاری رہے گا، لوگوں سے صرف اشارات میں بات کر سکو گے، ان دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرتے رہو، اور صبح و شام نماز پڑھتے رہو۔



﴿وَ اذْكَرَ﴾ اذْكَرَ ﴿اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾ ای جبرئیل ﴿يَمْرِيْمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ﴾ اختارک ﴿وَ طَهَّرَكَ﴾ من مسیس الرجال ﴿وَ اصْطَفٰكِ عَلٰی نِسَاۗءِ الْعٰلَمِيْنَ﴾ ای اہل زمانک ﴿يَمْرِيْمُ اَقْنَتِيْ لِرَبِّكِ﴾ اطیعیہ ﴿وَ اسْجُدِيْ وَ ارْكَعِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ﴾ ای صل مع المصلین ﴿ذٰلِكَ﴾ المذکور من امر زکریا و مریم ﴿مِنْ اَنْبَاۗءِ الْغَيْبِ﴾ اخبار ما غاب عنک ﴿نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ﴾ یا محمد ﴿وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ﴾ فی الماء یقترعون لیظہر لہم ﴿اِيْهُمْ يَكْفُلُ﴾ یربّی ﴿مَرِيْمَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ﴾ فی کفایتہا فتعرف ذلک فتخبرہ و انما عرفته من جهة الوحي اذکر ﴿اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾ ای جبرئیل ﴿يَمْرِيْمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ﴾ ای ولد ﴿اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ خاطبہا بنسبتہ الیہا تنبیہا علیٰ انہا تلده بلا اب اذعادة الرجال نسبتہم الی آباءہم ﴿وَ جِيْهَا﴾ ذاجاہ ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ با لنبوۃ ﴿وَ الْاٰخِرَةِ﴾ بالشفاعة و الدرجات العلیٰ ﴿وَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ﴾ عند اللہ ﴿وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ﴾ ای طفلا قبل وقت الکلام ﴿وَ كَهَلًا وَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾ قَالَتْ رَبِّ اَنّٰی ﴿كَيْفَ يَكُوْنُ لِيْ وَّلَدٌ وَّلَمْ يَمَسْسَنِيْ بَشْرٌ﴾ بتزوج و لا غیرہ ﴿قَالَ﴾ الامر ﴿كَذٰلِكَ﴾ من خلق

ولد منك بلا اب ﴿اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾ اراد خلقه ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ اى فهو يكون ﴿وَيُعَلِّمُهُ﴾ بالنون والياء ﴿الْكِتَابَ﴾ الخط ﴿وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ و نجعله ﴿رَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ فى الصبا او بعد البلوغ فنفخ جبرئيل فى جيب درعها فحملت و كان من امرها ما ذكر فى سورة مريم فلما بعثه الله تعالى الى بنى اسرائيل قال لهم انى رسول الله اليكم ﴿أَنْبَىٰ﴾ اى بانى ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ﴾ علامة على صدقى ﴿مِّن رَّبِّكُمْ﴾ هى ﴿أَنْبَىٰ﴾ و فى قراءة بالكسر استينافاً ﴿أَخْلَقُ﴾ اصور ﴿لَكُمْ مِّنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ مثل صورته والكاف اسم مفعول ﴿فَانْفُخْ فِيهِ﴾ الضمير للكاف ﴿فَيَكُونُ طَيْرًا﴾ و فى قراءة طائراً ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ بارادته فخلق لهم الخفاش لانه اكمل الطير خلقاً فكان يطير وهم ينظرونه فاذا غاب عن اعينهم سقط ميتا ﴿وَأُبْرِيءُ﴾ اشفى ﴿الْأَكْمَةَ﴾ الذى ولد اعمى ﴿وَالْأَبْرَصَ﴾ وخصا لانهما داء ان اعيايا اطباء و كان بعثه فى زمن الطب فابراً فى يوم خمسين الفاً بالدعاء بشرط الايمان ﴿وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ بارادته كرره لطفى توهم الالهية فيه فاحيا عازر صديقا له و ابن العجوز وابنة العاشر فعاشوا و ولد لهم وسام بن نوح و مات فى الحال ﴿وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ﴾ تخبأون ﴿فِي بُيُوتِكُمْ﴾ مما لم اعايينه فكان يخبر الشخص بما اكل و ما ياكل بعد ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ المذكور ﴿لآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ و جئتكم ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ﴾ قبلى ﴿مِنَ التَّوْرَةِ وَ لِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ فيها فاحل لهم من السمك و الطير ما لا صيصية له و قيل احل الجميع فبعض بمعنى كل ﴿وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ كرره تاكيداً اولينى عليه ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ﴾ فيما امركم به من توحيد الله و طاعته . ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا﴾ الذى امركم به ﴿صِرَاطٌ﴾ طريق ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾ فكذبوه و لم يؤمنوا به ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ﴾ علم ﴿عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ﴾ و ارادوا قتله ﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي﴾ اعوانى ذاهبا ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ لا نصر دينه ﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ اعوان دينه و هم اصفياء عيسى اول من آمن به و كانوا اثنى عشر رجلا من الحور وهو البياض الخالص قيل كانوا قصارين يحورون الثياب اى يبيضونها ﴿آمَنَّا﴾ صدقنا ﴿بِاللَّهِ وَ أَشْهَدُ﴾ يا عيسى ﴿بِأَنَّ﴾ مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ ﴿مِنَ الْإِنْجِيلِ﴾ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ ﴿عِيسَى﴾ فَكَتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَ لِرَسُولِكَ بِالصِّدْقِ قَالَ تَعَالَى﴾ وَ مَكْرُؤًا ﴿اى كفار بنى

اسرائیل بعیسیٰ اذ وکلوا به من یقتله غیلة ﴿وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ بهم بان القی شبه عیسیٰ علی من قصد قتله فقتلوه و رفع عیسیٰ ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ اعلمهم به.

ترجمہ

(اور) یاد کرو (جب فرشتوں) یعنی جبرئیل (نے کہا اے مریم! بے شک اللہ نے تم کو منتخب کیا ہے (اور) مردوں کے ہاتھ لگانے سے (تمہیں پاک رکھا ہے، اور تم کو دنیا کی عورتوں میں انتخاب کیا ہے) یعنی تمہارے زمانے کی عورتوں میں (اے مریم! اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ) یعنی نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھو (یہ) جو کچھ حضرت زکریا اور حضرت مریم کا تذکرہ ہوا یہ سب (غیب کی خبروں میں سے ہے) یعنی ان باتوں کی خبریں ہیں، جو تم سے پوشیدہ تھیں (یہ باتیں ہم تمہارے پاس بذریعہ وحی بھیجتے ہیں) اے محمد (اور تم ان کے پاس اس وقت نہ تھے، جب وہ اپنے قلموں کو) پانی میں (ڈال رہے تھے) یعنی قرعہ ڈال رہے تھے تاکہ ان کے معاملہ کی وضاحت ہو جائے (کہ کون مریم کا کفیل) مرئی (ہوگا، اور تم ان کے پاس اس وقت نہ تھے، جب وہ) اس کی کفالت کے سلسلے میں (جھگڑ رہے تھے) اگر تم اس وقت ہوتے، تو اسے جانتے ہوتے، تب تم اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے، اس کو تو تم نے وحی کی واسطے سے جانا ہے، یاد کرو (جب فرشتوں نے) یعنی جبرئیل نے (کہا، اے مریم! بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جانب سے ایک کلمہ) یعنی بیٹے (کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا) حضرت مریم کو خطاب کرتے ہوئے بیٹے کی نسبت انہیں کی طرف اس لئے کی کہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان سے یہ بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہوگا، کیونکہ عموماً عادت یہ کہ باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہے (دنیا میں) نبوت کی وجہ سے (اور آخرت میں) شفاعت اور بلند درجات کی وجہ سے (مرتبے والا ہوگا، اور) اللہ کے نزدیک (مقرب ہوگا، اور لوگوں سے گہوارے میں) یعنی بچہ ہونے کی حالت میں بولنے کے وقت سے پہلے (اور ادھیڑ ہونے کی عمر میں گفتگو کرے گا، اور صالحین میں ہوگا، بولی: اے میرے رب! میرے بچہ کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے) نہ نکاح سے اور نہ بغیر نکاح (فرمایا) بات (ایسی ہی ہے) کہ تم سے بن باپ کے بچہ پیدا ہوگا (اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جب کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں) یعنی اس کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں (تو اس کے لئے کہتے ہیں کہ ہو جا، تو) وہ (ہو جاتی ہے، اور ہم اسکو لکھنا سکھائیں گے) نعلم میں ن اور یاء دونوں طرح قرأت ہے (اور حکمت، اور توریث و انجیل) کی تعلیم دیں گے (اور) ہم اس کو (بنی اسرائیل کی جانب) بچپن میں یا بلوغ کے بعد (رسول) بنائیں گے، پس حضرت جبرئیل نے ان کے پیراہن کے دامن میں پھونک ماری، اور وہ حاملہ ہو گئیں، اور ان کا واقعہ وہ ہوا جو سورہ مریم میں مذکور ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کی جانب مبعوث فرمایا تو انہوں

نے ان سے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں (کیونکہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے) اپنی صداقت پر (نشانی لایا ہوں) وہ (یہ کہ) ایک قرأت میں انسی مکسر الھمزہ ہے، استیناف ہے (میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے) کی صورت (پیدا کرتا ہوں) کھینٹ الطیر میں کاف مثل کے معنی میں اسم ہے اور وہ مفعول بہ ہے (پھر اس میں) ضمیر کاف اسی کی جانب راجع ہے (پھونک مارتا ہوں، پس وہ پرندہ ہو جاتا ہے) اور ایک قرأت میں طائر ہے (اللہ کے حکم سے) یعنی اس کے ارادے سے، انھوں نے ان کے سامنے چگا ڈڑ کو پیدا کیا، کیونکہ وہ خلقت کے اعتبار سے پرندوں میں اکمل ترین ہے، وہ اڑتی تھی، اور یہ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، پھر جب ان کی نگاہوں سے وہ غائب ہو جاتی، تو مردہ ہو کر گر جاتی تھی (اور مادر زاد اندھے کو اور سفید داغ والے کو شفا دیتا ہوں) ان دونوں مریضوں کا خصوصیت سے اس لئے ذکر کیا کہ یہ لاعلاج ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی بعثت طب کے زمانے میں ہوئی تھی۔ ان کی دعا سے ایمان کی شرط پر پچاس ہزار مریضوں کو ایک دن میں شفا حاصل ہوئی تھی (اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں) باذن اللہ کو مکر لائے تاکہ ان کے اندر الوہیت کے توہم کی بھی نفی ہو جائے، انھوں نے اپنے ایک دوست عازر کو، اور ایک بڑھیا کے لڑکے کو اور ایک عاشر کی بیٹی کو زندہ کیا، یہ سب زندہ رہے، ان سے اولادیں بھی ہوئیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سام کو زندہ کیا، لیکن وہ اسی وقت وفات پا گئے (اور میں تم کو بتاتا ہوں جو کچھ اپنے اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور چھپا کر رکھتے ہو) جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے، چنانچہ ہر آدمی کو وہ بتا دیتے تھے کہ اس نے کیا کھایا ہے اور اس کے بعد کیا کھائے گا (بے شک اس) مذکور (کے اندر تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم مومن ہو، اور) میں تمہارے پاس (اس طور سے) آیا ہوں (کہ جو کچھ مجھ سے پہلے ہے) یعنی توریت (اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لئے کہ تمہارے لئے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں، جو تم پر) توریت میں (حرام کی گئی تھیں) چنانچہ ان کے لئے وہ مچھلی اور پرندہ حلال کیا گیا جس کے لئے اپنے بچاؤ کے کانٹے نہیں ہوتے، اور یہ بھی کہا گیا ہے، وہ تمام چیزیں حلال کر دی گئی تھیں جو ان پر خصوصیت کے ساتھ حرام کی گئی تھیں، پس بعض بمعنی کل ہے (اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں) اس جملہ کو مکر تاکید کے لئے لائے ہیں، اور اس لئے کہ اس پر اگلے کلام کی بنا قائم ہو (پس اللہ سے ڈرو اور) اللہ کی توحید اور اس کی طاعت جس کا میں حکم دیتا ہوں اس میں (میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس لئے اسی کی عبادت کرو، یہ) جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں (سیدھا راستہ ہے) انھوں نے ان کی تکذیب کی، اور ان پر ایمان نہیں لائے (پس جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر کو جان لیا) اور ان لوگوں نے ان کے قتل کرنے کا قصد کیا (تو کہا کہ کون اللہ کی طرف) جانے میں (میرا مددگار ہوگا) تاکہ میں ان کے دین کی نصرت کروں (حواریوں نے کہا ہم اللہ کے

مددگار ہیں) یعنی ان کے دین کے مددگار ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص لوگ تھے، جو بالکل ابتدا میں ایمان لائے تھے، یہ بارہ آدمی تھے، حواری، حور سے مشتق ہے، جس کے معنی خالص سفیدی کے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ لوگ دھوبی تھے، کپڑے صاف کیا کرتے تھے (ہم اللہ پر ایمان لائے اور) اے عیسیٰ (آپ گواہ رہئے کہ ہم فرمانبردار ہیں، اے ہمارے رب! ہم اس چیز پر ایمان لائے جو آپ نے اتاری ہے) یعنی انجیل پر (اور ہم نے رسول کی پیروی کی) یعنی عیسیٰ کی (پس ہم کو ان لوگوں میں جو) آپ کے لئے وحدانیت کے اور آپ کے رسول کے لئے سچائی کے (گواہ ہیں، لکھ لیجئے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا (اور انہوں نے سازش کی) یعنی بنی اسرائیل کے کفار نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں سازش کی، کہ انہوں نے ایک شخص کو ذمہ دار بنایا کہ انہیں دھوکے سے قتل کر دے (اور اللہ نے بھی) ان کیساتھ (خفیہ تدبیر کی) کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اس شخص پر ڈال دی، جس نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تھا، پس ان لوگوں نے اسی کو مار ڈالا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے (اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں) یعنی اسے ان سے زیادہ جانتے ہیں۔

﴿ تشریحات ﴾

ای اہل زمانک :- حضرت مریم کے دور میں جتنی عورتیں تھیں، سب پر انہیں فضیلت بخشی، اس قید سے معلوم ہوا کہ ما قبل اور ما بعد کے ادوار میں ان کا سب سے افضل اور منتخب ہونا ضروری نہیں، چنانچہ بعد کے دور میں، حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن کی فضیلتیں مختلف جہتوں سے ہے۔

صلی مع المصلین : یہ واسجدی وار کعبی کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ رکوع و سجود بول کر نماز مراد لی گئی ہے، اس میں سجدہ کا ذکر پہلے ہے شاید ان کی نماز میں ایسا ہی رہا ہو، اس لئے کہ یہ نماز کے ارکان میں سب سے اہم افضل رکن ہے۔

فتعرف ذلک فتخبر بہ :- یہ دونوں جملے وما کنت لدیہم کے تحت ہیں، یعنی تم ان کے پاس موجود نہ تھے کہ اپنے مشاہدہ سے اس واقعہ کو جانتے اور جان کر اس کی خبر لوگوں کو دیتے۔

ای ولد : بيشرك بکلمة منہ میں کلمہ سے مراد بیٹا ہے، ان کو کلمہ اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ باپ کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کے امر کن سے پیدا ہوئے۔

امے طفلاً قبل وقت الکلام و کھلا :- ساتھ ہی یہ بشارت بھی ملی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عمر میں کلام کریں گے، جس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں۔

یہ بشارت ساتھ ہی ساتھ شاید اس لئے دیدی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد گود میں بولنے لگیں تو کہیں عام عادت کے لحاظ سے لوگوں کو اور خود حضرت مریم کو اچنبھا نہ معلوم ہو اور یہ اندیشہ نہ ہونے لگے کہ

کہیں بچے کی شکل میں کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے، کہیں گھبرا کر بچے کو ایذا نہ پہنچادیں، اور جب یہ بات شروع میں ہی صاف کر دی کہ یہ بچہ گہوارہ میں بات کریگا تو اب کوئی اندیشہ نہ رہا، بلکہ اس کا اللہ کی ایک نشانی ہونا متعین ہو گیا۔

اور کھلا غائباً اس لئے کہا کہ معلوم ہو جائے کہ یہ بچہ عام انسانوں کی طرح سن کہولت کو پہنچے گا اور اس وقت دعوت و ارشاد کا کلام کرے گا، کہولت کا زمانہ تیس سے چالیس برس تک کا دور ہے۔
فہو یكون :- کا اضافہ کر کے مفسر نے یہ بتایا کہ کن فیکون میں فیکون جواب امر نہیں ہے، اور نہ وہاں آن ناصبہ مقدر، بلکہ یہ مرفوع ہے، اور مبتدا کی خبر ہے، اور مبتدا فہو ہے۔

الخط :- کتاب سے مراد کتابت ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت خوش خط تھے، یا یہ کہ کتاب سے مراد آسمانی کتابیں، اس میں توریت و انجیل بھی داخل ہیں اور چونکہ ان کا ذکر مستقلاً بعد میں ہے، اسی لئے مفسر نے کتاب سے مراد یہ کتابیں نہیں لی ہیں۔ کہ تکرار لازم ہوگی۔ انہوں نے کتاب کو کتابت کے معنی میں لیا۔ لیکن اگر کتاب سے مراد یہ کتابیں ہوں تو مضائقہ نہیں، کیونکہ ذکر الخاص بعد العام کلام کی ایک خاص صنعت ہے۔

ونجعله :- یہ لفظ لا کر مفسر نے ورسولاً کا اعراب بتایا ہے، کیونکہ رسولاً کا ما قبل کے کسی لفظ پر عطف نہیں ہے، پھر یہ منصوب کیوں ہے؟ مفسر نے بتایا کہ اس کا فعل محذوف ہے، جو قرآن معنویہ سے بالکل ظاہر ہے۔ وہ یہ کہ یہاں نجعله مقدر ہے، اسی نجعل کا یہ مفعول ثانی ہے۔

فی الصبا او بعد البلوغ :- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے، اس میں ایک قول یہ ہے کہ تین برس کی عمر میں انہیں نبوت مل گئی، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ و آتینہ الحکم صبیاً، حکم سے مراد نبوت ہے، تو حضرت یحییٰ کو بچپن میں جس کی توقیت تین سال کی عمر سے کی گئی ہے، نبوت مل گئی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ بلوغ کے بعد تیس سال کی عمر میں انہیں نبوت ملی تھی، اور ۳۳ سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے، گویا نبوت کی عمر دنیا میں تین سال ہوئی، لیکن یہ دونوں قول ضعیف ہیں۔ معتمد بات یہ ہے کہ چالیس سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے، اور ایک سو بیس سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے۔ تفصیل اس کے بعد والے رکوع میں یعیسیٰ انی متوفیک و رافعک الخ کے تحت آرہی ہے۔

ای بانی :- ورسولاً الی بنی اسرائیل کے بعد انی قد جئتکم بآیة فرمایا: حضرت مفسر انی بفتح کی توجیہ کر رہے ہیں کہ یہاں باء حرف جر محذوف ہے، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو بانی کس سے متعلق ہے؟ مفسر

نے فلما بعثہ الخ کہہ کر اشارہ کیا کہ اس کا تعلق ما قبل کے کسی لفظ سے نہیں ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی طرف سے بشارت کا ذکر رسول الی بنی اسرائیل پر پورا ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو کلام آرہا ہے، اس کا تعلق نبوت ملنے کے بعد سے ہے۔ بشارت سے نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا: فلما بعثہ الی بنی اسرائیل قال لهم انی رسول اللہ الیکم، انی قد جئتکم بأیة من ربکم۔ اس عبارت سے مفسر نے یہ بتایا کہ انی کا تعلق رسول سے ہے کیونکہ رسول میں نطق کا معنی مقدر ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی رسالت کا اظہار نطق ہی سے کرے گا، گویا عبارت یوں گی انی رسول اللہ ناطق بأنی قد جئتکم بأیة۔

ہی انی :۔ یہ انی خلق لکم میں ان بافتح کی توجیہ ہے، وہ یہ کہ انی مبتدا محذوف ہی کی خبر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خبر ان مفتوحہ کے ساتھ ہی ہوگی۔ اور ایک قرأت میں انی بالکسر ہے، اس صورت میں جملہ مستانفہ ہوگا۔

اصور :۔ اخلق کی تفسیر اصور سے اس لئے کی کہ اخلق کے معنی عدم سے وجود میں لانا ہے، یہ صفت صرف حضرت حق جل مجدہ کی شان ہے، مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں پیدا کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں۔

مثل صورته :۔ کھیئة الطیر میں کاف حرفی نہیں ہے بلکہ کاف اسمی ہے، جو مثل کے معنی میں ہے اور یہ اخلق کا مفعول بہ ہے۔

الضمیر للکاف :۔ کھیئة الطیر میں چونکہ کاف اسم ہے، اس لئے فانفخ فیہ میں ضمیر مجرور اسی کاف کی طرف راجع ہے۔

کر رہ لِنفی توهم الالوهیة فیہ : جہاں تخلیق پرندہ کا ذکر ہے، وہاں باذن اللہ لائے تھے، یہاں مردوں کے زندہ کرنے کا ذکر آیا، تو یہاں باذن اللہ مکرر لائے تاکہ کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر الوہیت کا وہم نہ ہو جائے۔

سوال: تخلیق اور احیاء موتی کے ذکر میں باذن اللہ کی قید آئی ہے، لیکن ابری الاکمه والابرص میں باذن اللہ کی صراحت نہیں کی؟ **جواب:** یہ ہے کہ بیماروں کو شفا دینے میں اتنی غرابت نہیں ہے کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کا شبہ ہوتا۔ لیکن خلق و احیاء ایسا عمل ہے، جو اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اس کا ظہور اگر کسی کے ہاتھ پر ہوتا ہے تو شبہ الوہیت کا ہوتا ہے، اسلئے ان دونوں عمل میں باذن اللہ کہہ کر الوہیت کے توہم کو دفع کر دیا۔ اور شفا بخشی چونکہ اسباب کے تحت ہوتی ہے۔ اس میں الوہیت کے اعتقاد کا زیادہ اندیشہ نہیں ہے، اس لئے وہاں باذن اللہ کہنے کی چنداں حاجت نہیں ہے۔

فاحیا عازر :۔ بفتح الزاء بوزن ہاجر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چار مردوں کو زندہ کیا، عازر حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کے دوست تھے، ان کے مرنے کے تین دن کے بعد، انہیں قبر سے زندگی ملی۔ ایک بڑھیا کا بیٹا اور ایک عاشر (چنگی وصول کرنے والے) کی بیٹی اور حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سام کو زندہ کیا۔ حضرت سام تو پھر دوبارہ اسی وقت انتقال کر گئے، باقی تینوں زندہ رہے اور ایک مدت کے بعد مرے۔

مالا صیصیة له :- بکسر الصادین ، والیاء الاولی ساکنۃ والثانیۃ مفتوحة مشددة کا نثا جس سے تکلیف ہوتی ہے، گائے وغیرہ کی سینگ

وقیل احل الجميع :- اس قول پر اعتراض ہے کہ کیا حرام چیزیں تمام تر ان پر حلال کر دی گئی تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں، پھر احل الجميع کا کیا مطلب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جمع سے مراد وہ چیزیں ہیں، جو پہلے سے حلال تھیں، ان کے ظلم و تعدی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھیں، وہ سب چیزیں دوبارہ حلال کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فبظلم من الذین ہادوا حرمننا علیہم طیبات احلت لہم (سورہ نساء)

(هذا) الذی آمر کم بہ (صراط مستقیم) :- صاحب جمل نے یہاں ایک تشبیہ لکھی ہے جو قابل لحاظ ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ جلالین کی عبارت سمیت اس آیت کو پڑھیں، انہیں چاہئے کہ ہذا کے الف کو حذف کر کے ذال کے فتح کو الذی پر داخل نہ کریں بلکہ الف برقرار رکھ کر الذی پڑھیں، یعنی یوں پڑھیں ہذا الذی آمر کم بہ صراط مستقیم تا کہ قرآن کریم کی عبارت اپنی اصل ہیئت پر محفوظ رہے، اس تشبیہ کو ہر اس جگہ یاد رکھنا چاہئے، جہاں وصل یا وقف کی صورت میں قرآن کے کلمات میں تغیر کا امکان ہو۔

(فلما احس) علم :- احساس یہ ہے کہ حواس خمسہ سے آدمی کو کچھ پتہ چلے یعنی سامعہ، باصرہ، ذائقہ، شامہ اور لامسہ سے۔ لیکن یہاں احس مطلق جاننے کے معنی میں ہے۔

اعوانی ذاہباً الی اللہ :- انصار، نصیر کی جمع ہے، اس کا صلہ الی نہیں آتا، مفسر نے ذاہباً کی تقدیر کو ظاہر کر کے واضح کیا کہ اس میں ذہاب کے معنی کی تضمین ہے، الی اللہ اسی ذہاب سے متعلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے۔

من الحور :- حواریوں، حواری کی جمع ہے، اسکے معنی مددگار کے ہیں، یہ بارہ اصحاب تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص لوگ تھے۔ یہ لفظ حور سے مشتق ہے، اس کے معنی خالص سفیدی کے ہیں باب سماع سے اس کا استعمال ہوتا ہے، حَوْرَتِ الْعَيْنِ کے معنی یہ ہیں کہ آنکھ کی سفیدی خوب سفید ہو اور سیاہی خوب سیاہ ہو، ان حضرات کو حواری اس لئے کہا گیا کہ یہ گورے چٹے تھے اور ان کے باطن اور ان کی نیتیں بھی بہت پاکیزہ اور صاف ستھری تھیں۔

وقیل کانوا قصارین الخ :- ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرات پیشے کے اعتبار سے دھوبی تھے، لوگوں کے میلے

کھیلے کپڑوں کو دھو کر اجلا کیا کرتے تھے، اس صورت میں یہ تحویر سے ماخوذ ہوگا، اس کے معنی سفید کرنا اور اجلا کرنے ہے۔

اذ وکلو ابہ من یقتلوہ غیلۃ :- اذ تعلیہ ہے اور وکلو اباب تفعیل سے ہے، اس کے معنی ذمہ دار بنانا اور سپرد کرنا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا ایک شخص کو ذمہ دار بنایا، غیلۃ کے معنی خفیہ کے ہیں، یعنی دھوکے سے تنہائی کی جگہ میں لے جا کر قتل کر دینا۔

بان القی شبہ عیسیٰ علی من قصد قتله :- مکر کے معنی خفیہ تدبیر کے ہیں، مکر کا اصل لغوی معنی چھپانا ہے، کہتے ہیں مکر اللیل، رات نے پردہ ڈال دیا، پھر اس کا اطلاق بطور التزام کے خفیہ تدبیر پر ہونے لگا، یہ تدبیر اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا زیادہ تر استعمال بری تدبیر کے لئے ہونے لگا، جس کو اردو میں ”سازش“ کہتے ہیں۔ اس لئے اس لفظ کا استعمال بظاہر اللہ کے لئے مناسب نہیں ہے۔ تاہم یہاں اللہ کی طرف مکر کی نسبت بطور تقابل کے ہے، جیسے منافقین کا قول تھا انما نحن مستهزئون، تو اسکے مقابلے میں اللہ نے فرمایا: اللہ یستہزیئ بہم، یا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، حالانکہ برائی کے بدلے جو سزا ہے وہ خود برائی نہیں ہے، مگر بطور مقابلے کے اسے بھی برائی کہہ دیا گیا، تو یہاں بھی مکر وا کے مقابلے میں مکر اللہ کہا گیا۔ بندوں کا مکر سازش ہے، اور اللہ کا مکر اسی سازش کی شکست و ریخت ہے، تو اسے جب اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، تو اس کے لغوی معنی ہی لیجئے۔ یعنی خفیہ تدبیر، جس کا علم پہلے سے فریق مقابل کو نہ ہو، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی جن لوگوں نے سازش کی تھی، اس کا خفیہ جواب اللہ کی طرف سے وہ ہوا، جس کا انہیں کبھی وہم و گمان بھی نہ گزرا تھا، وہ یہ کہ جو شخص مجری کے لئے یا قتل کے لئے اس گھر میں گھسا تھا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو کمال آہستگی سے آسمان پر اٹھ لئے گئے، اور اس گھسنے والے کی شکل اللہ تعالیٰ نے بدل کر عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی۔ جب وہ باہر نکلا، تو جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے تھے وہ بول پڑے کہ یہ عیسیٰ ہیں۔ پس یہود کی فوج نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ ہزار چلاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، مگر کسی نے نہ سنا اور اسے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ اس کے مرجانے کے بعد، جب اسے غور سے دیکھنے لگے، تو شور ہوا کہ چہرہ تو عیسیٰ جیسا ہے، لیکن باقی بدن ہمارے اس آدمی جیسا ہے، جو مکان میں گھسا تھا۔ تو اگر یہ عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی کیا ہوا۔ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے، تو عیسیٰ کہاں ہیں؟ انھیں کیا معلوم کہ اللہ کی تدبیر کتنی پختہ، کامیاب اور بر محل ہوتی ہے کون سوچ سکتا تھا کہ اب عیسیٰ زمین پر نہیں آسمان پر پہنچ گئے۔ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، تو وہ اٹھالی گئی۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

حضرت مریم کی پیدائش، ان کی تربیت اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے حق میں حسن قبول کے ذکر کے

بعد، اور اس ذکر کے بعد کہ ان کے پاس ”غیبی رزق“ آیا کرتا تھا، ایک ایسی نعمت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جو بالکل ”من حیث لا یحتسب“ ہے، یعنی کسی طرح اس کا سان و گمان نہ تھا مگر قدرت کی جانب سے انھیں ایک خاص الخاص عطیہ بخشا گیا، اور یہ عطیہ قدرت پروردگار کی ایک انوکھی نشانی بھی ہے، اور دنیا کے لئے رحمت بھی ہے، اور آگے چل کر قیامت کی علامت بھی ہے درمیان میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاء اور اس کی قبولیت نیز یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ بھی منجملہ آیات الہی کیلئے ہے، جسے بطور جملہ معترضہ ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت مریم کو یہ خاص موہبت الہی جو ملنے والی ہے، اس کا آغاز فرشتوں کے کلام سے ہوتا ہے، فرشتے انھیں ندا دیتے ہیں اور اس خاص نعمت کے لئے، جو انھیں عجیب و غریب انداز میں ملنے والی ہے، اور جسے نعمت باور کرنا عام حالات میں ممکن نہیں ہے، اس کے لئے انھیں ذہنی اعتبار سے تیار کر رہے ہیں۔ فرشتے فرما رہے ہیں کہ اے مریم! یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے، قطعی یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے تمہارا انتخاب کیا ہے، اور تم کو مردوں کے ہاتھ لگانے سے پاک رکھا ہے، نہ تم کو کسی مرد نے ہاتھ لگایا، نہ لگائے گا۔ اور تم کو سارے جہاں کی عورتوں میں سے منتخب فرمایا ہے، اے مریم! تم اپنے رب کی اطاعت کرتی رہو، اور اس کے سامنے سجدہ اور رکوع کرتی رہو۔ پھر درمیان میں رسول کریم حضرت محمد ﷺ کی جانب کلام الہی کا التفات ہوتا ہے، فرماتے ہیں، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، جن کی اطلاع ہم تمہیں وحی کے ذریعے دے رہے ہیں، تم تو وہاں نہ تھے، جب وہ اپنے قلموں کو دریا میں بطور قرعہ اندازی کے ڈال رہے تھے کہ دیکھیں مریم کی تعلیم و تربیت کی کفالت کس کے سپرد ہوتی ہے، اور تم وہاں پر موجود نہ تھے جب وہ اس کفالت کے مسئلہ پر بحث کر رہے تھے، یہ تمہارے نبی ہونے کی دلیل ہے۔

پھر فرشتوں نے کہا اے مریم! اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتے ہیں، وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح ہیں جو دنیا میں باوجاہت اور آخرت میں صاحب شفاعت ہوں گے، اور اللہ کے مقرب ہوں گے اور وہ گہوارے میں شیر خوارگی کے زمانے میں بھی لوگوں سے بات کریں گے، اور عمر دراز ہو کر بھی بات کریں گے، اور صالحین میں ہوں گے، حضرت مریم عذراء جو ”مسیس رجال“ سے پاک تھیں، چونکہ پڑیں وہ پروردگار کی جناب میں عرض کرنے لگیں کہ اے میرے رب! بچہ تو مردوں کے واسطے سے پیدا ہوتا ہے، اور مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا پھر بچہ کیونکر پیدا ہوگا۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کے متعلق صرف اتنا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو جا۔ وہ چیز موجود ہو جاتی ہے، اور اس بچہ کو ہم لکھنا سکھائیں گے، اور حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دیں گے، اور بنی اسرائیل میں رسول بنائیں گے۔ اس کے بعد حضرت جبرئیل نے ان کے گریبان پر پھونک ماری اور انھیں اپنے شکم میں بچے کے وجود کا

احساس ہوا۔ پھر پیدائش کا مرحلہ آیا۔ اس کا تفصیلی ذکر سورہ مریم میں ان شاء اللہ آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت سے سرفراز فرمایا۔ تو انھوں نے اپنی رسالت و صداقت کے لئے کچھ دلیلیں پیش کیں، فرمایا کہ میں تمہارے پاس کچھ دلائل لے کر آیا ہوں، دیکھو میں مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، دیکھو کہ وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا ہے، اور میں مادرزاد اندھے کو اور مبروص کو شفا دیتا ہوں، نیز اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، چنانچہ انھوں نے مختلف اوقات میں متعدد مردوں کو زندہ کیا۔ اور یہ بھی ہے کہ جو کچھ تم کھاتے ہو، اور گھروں میں چھپا کر رکھتے ہو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ان سب باتوں میں اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لئے دلیل ہے، اور مجھ سے پہلے جو کتاب الہی آئی ہے یعنی توریت اس کی میں تصدیق کرتا ہوں اور وہ پاکیزہ چیزیں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھیں، میں انہیں تمہارے لئے حلال قرار دیتا ہوں، اور بھی تمہارے لئے قدرت الہی کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، بلاشبہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے، اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ کفر پر ڈٹے رہیں گے، بلکہ ان کے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ کر رہے ہیں، تو انھوں نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کون کون میرا مددگار ہے، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار! ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہے کہ ہم فرمانبردار اور اطاعت گزار ہیں۔ اے ہمارے پروردگار! جو کچھ آپ نے اتارا ہے، یعنی انجیل، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، تو ہم کو ان لوگوں میں درج کر دیجئے جو وحدانیت و رسالت کے گواہ ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کے کافروں نے بڑی خطرناک سازش کی، لیکن اللہ نے ان کی سازش کو انہیں پرالٹ دیا اور اللہ سے بہتر کس کی تدبیر ہو سکتی ہے۔



اذکر ﴿ اِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنِي مَتْوَفِيكَ ﴾ قابضك ﴿ وَرَافِعَكَ اِلَيَّ ﴾ من الدنيا من غير موت ﴿ وَمُطَهِّرَكَ ﴾ مبعداك ﴿ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ ﴾ صدقوا بنبو تك من المسلمين والنصارى ﴿ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بك وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف ﴿ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ اِلَى مَرَجِعِكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ من امر الدين ﴿ فَاَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا ﴾ بالقتل و السبى و الجزية ﴿ وَالْآخِرَةَ ﴾ بالنار ﴿ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴾ مانعين منه ﴿ وَاَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ ﴾ بالياء والنون ﴿ اٰجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ اى يعاقبهم روى ان الله ارسل اليه سحابة فرفعته فتعلقت به امه وبكت فقال لها ان القيمة تجمعنا و كان ذلك ليلة القدر

بيت المقدس وله ثلث وثلثون سنة و عاشت امه بعده ست سنين و روى الشيخان حديث انه ينزل قرب الساعة و يحكم بشريعة نبينا ﷺ و يقتل الدجال و الخنزير و يكسر الصليب و يضع الجزية و فى حديث مسلم انه يمكث سبع سنين و فى حديث ابى داود الطيالسى اربعين سنة و يتوفى و يصلى عليه فيحتمل ان المراد مجموع لبثه فى الارض قبل الرفع و بعده ﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من امر عيسى ﴿تَلَّوْهُ﴾ نقصه ﴿عَلَيْكَ﴾ يا محمد ﴿مِنَ الْآيَاتِ﴾ حال من الهاء فى نتلوه و عامله ما فى ذلك من معنى الاشارة ﴿وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾ المحكم اى القرآن ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ﴾ شانه الغريب ﴿عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ كشانه فى خلقه من غير اب وهو من تشبيه الغريب بالاغرب ليكون اقطع للخصم و اوقع فى النفس ﴿خَلَقَهُ﴾ اى آدم اى قلبه ﴿مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ﴾ بشرا ﴿فَيَكُونُ﴾ اى فكان و كذلك عيسى قال له كن من غير اب فكان ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ خبر مبتدا محذوف اى امر عيسى ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ الشاكين فيه ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ﴾ جادلک من النصارى ﴿فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ بامرہ ﴿فَقُلْ﴾ لهم ﴿تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ﴾ فنجمعهم ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ﴾ نتضرع فى الدعاء ﴿فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ﴾ بان نقول اللهم العن الكاذب فى شان عيسى و قد دعا ﷺ و فد نجران لذلك لما حاجوه فيه فقالوا حتى ننظر فى امرنا ثم ناتيک فقال ذورايهم لقد عرفتم نبوته و انه ما باهل قوم نبيا الا هلكوا فوادعوا الرجل و انصرفوا فاتوه و قد خرج معه الحسن و الحسين و فاطمة و على رضى الله عنهم و قال لهم اذا دعوت فامنوا فابوا ان يلاعنوا و صالحوه على الجزية رواه ابو نعيم و روى ابو داود انهم صالحوه على الفى حلة النصف فى صفر و البقية فى رجب و ثلثين درعاً و ثلثين فرساً و ثلثين بعيراً و ثلثين من كل صنف من اصناف السلاح و روى احمد فى مسنده عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال لو خرج الذين يباهلونہ لرجعوا لا يجدون مالا ولا اهلا و روى الطبرانى مرفوعاً لو خرجوا لا حترقوا ﴿إِنَّ هَذَا﴾ المذكور ﴿لَهُوَ الْقَصَصُ﴾ الخبر ﴿الْحَقُّ﴾ الذى لا شك فيه ﴿وَمَنْ﴾ زائدة ﴿إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ فى ملكه ﴿الْحَكِيمُ﴾ فى صنعه ﴿فَإِنَّ تَوَلَّوْا﴾ اعرضوا عن الايمان ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِم بِالْمُفْسِدِينَ﴾ فيجازيهم و فيه وضع الظاهر موضع المضمرة .

ترجمہ

یاد کرو (جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ! میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تم کو) دنیا سے بغیر موت کے (اپنے پاس اٹھانے والا ہوں، اور تم کو کافروں سے پاک رکھنے والا) یعنی ان سے دور رکھنے والا (ہوں اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے) یعنی جن مسلمانوں اور نصاریٰ نے تمہاری نبوت کی تصدیق کی ہے (انہیں ان لوگوں پر قیامت تک فوقیت دینے والا ہوں، جنہوں نے) تمہارے ساتھ (کفر کیا) اور وہ یہودی ہیں، ان پر ان کے ماننے والے، دلیل سے بھی اور تلوار سے بھی غالب رہیں گے۔ (پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پس میں) دین کے باب میں (جو تم اختلاف کرتے تھے، اس کا تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، پس جن لوگوں نے کفر کیا، انہیں دنیا میں) قتل، قید اور جزیہ کا (اور آخرت میں) جہنم کا (سخت عذاب دوں گا، اور ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا) یعنی عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا (اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور اچھے کام کئے، انہیں ان کا پورا اجر دوں گا) یوفیہم یاء کے ساتھ بھی اور نون کے ساتھ بھی (اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے) یعنی ان کو سزا دیتے ہیں، مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک بدلی بھیجی، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، ان کی ماں ان سے چمٹ گئیں، اور رونے لگیں، انہوں نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہمیں اکٹھا کر دے گا، اور یہ واقعہ لیلۃ القدر میں بیت المقدس کے اندر پیش آیا، اس وقت ان کی عمر ۳۳ سال تھی، ان کی والدہ مکرمہ اس واقعہ کے بعد چھ سال زندہ رہیں اور بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے، اور ہمارے نبی ﷺ کی شریعت کے مطابق حکومت کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو فنا کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور جزیہ کا حکم ختم کر دیں گے، اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ وہ دنیا میں سات سال قیام فرمائیں گے، اور ابوداؤد طیالسی کی ایک حدیث میں ہے کہ چالیس سال رہیں گے، اور پھر وفات پائیں گے، اور ان پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس حدیث میں احتمال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام کی زمین کے اوپر پوری مدت قیام کا ذکر ہو، آسمان پر جانے سے پہلے اور نازل ہونے کے بعد کی مجموعی مدت! (یہ) عیسیٰ علیہ السلام کی بات جو ذکر کی گئی (ہم تم سے بیان کرتے ہیں جو کہ آیات ہیں اور ذکر حکیم ہے) من الآیات، حال ہے نسلوہ کی ضمیر مفعولی سے، اور اس کا عامل اشارہ کا معنی ہے جو کہ ذلک سے مفہوم ہوتا ہے، ذکر حکیم یعنی ذکر محکم، مراد قرآن ہے (بے شک عیسیٰ کی مثال) یعنی ان کی عجیب و غریب شان (اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے) یعنی بغیر باپ کے پیدا ہونے میں، انہیں کی جیسی شان ہے، اور یہ غریب کی تشبیہ اغرب سے ہے، تاکہ خصم کے لئے زیادہ مسکت ہو۔ اور زیادہ موثر ہو (ان کو) یعنی آدم کو، یعنی آدم کے ڈھانچے کو (مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ) بشر (ہو جا، پس وہ ہو گیا) ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ بغیر باپ کے ہو جا، پس وہ

ہو گئے۔ (حق ہے تمہارے رب کی طرف سے) یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے، یعنی عیسیٰ کا معاملہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے (پس) اس سلسلے میں (شک کرنے والوں میں سے مت ہو، پھر جو کوئی) نصاریٰ میں سے (اس بات میں تم سے جھگڑے، بعد اس کے کہ تمہارے پاس) اس معاملہ کا (علم آچکا ہے تو تم) ان سے (کہو کہ) آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں، اور ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو بلائیں (پھر ان کو جمع کریں) (اس کے بعد گریہ وزاری سے دعا کریں، اور اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ڈالیں ہیں) یعنی یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ! حضرت عیسیٰ کی شان میں جو جھوٹا ہے، اس پر لعنت بھیجے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے نجران کے وفد کو، جبکہ انہوں نے آپ سے اس مسئلہ میں نزاع کی تھی اس مباہلہ کے لئے دعوت دی، انہوں نے کہا ذرا ہم غور کر لیں، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، تو ان میں جو عقل مند تھا، اس نے کہا، تم ان کی نبوت کو پہچان چکے ہو، اور جب کسی قوم نے کسی نبی سے مباہلہ کیا ہے، تو وہ قوم ہلاک ہو گئی ہے، لہذا تم اس شخص سے صلح کر لو، اور یہاں سے لوٹ چلو، پھر وہ لوگ آپ کے پاس آئے، اور آپ نکل چکے تھے، آپ کے ساتھ حضرت حسن، حسین، فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہم تھے، آپ نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا، نجران کے وفد نے اس مباہلہ اور ملاعنہ سے انکار کیا اور جزیہ کے عوض صلح کر لی، رواہ ابو نعیم اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ اگر یہ مباہلہ کے لئے نکلتے، تو گھروں کو اس حال میں لوٹتے کہ نہ مال انھیں ملتا اور نہ گھر والے ملتے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ لوگ اگر نکلتے تو خود جل جاتے (بے شک یہ) جو کچھ ذکر کیا گیا (خبر حق ہے) جس میں کوئی شبہ نہیں ہے (اور کوئی معبود بجز اللہ کے نہیں ہے) من زائدہ ہے (اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ) اپنی حکومت میں (غلبہ والے) اپنے کام میں (حکمت والے ہیں، پس اگر یہ روگردانی کریں) یعنی ایمان لانے سے اعراض کریں (تو اللہ تعالیٰ مفسدوں کو جانتے ہیں) انھیں بدلہ دیں گے، اور اس میں اسم ظاہر کو ضمیر کی جگہ لایا گیا ہے۔

تشریحات

قابضک : - توفی کے معنی پورا وصول کر لینا۔ مکمل قبضہ کرنا۔ یہاں متوفی کی تفسیر میں دو بات کہی گئی ہے ایک یہ کہ کلام اپنے حال پر ہے اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری عمر کی مدت پوری کروں گا، اور کفار سے بچا کر تمہیں آسمان پر اٹھالوں گا، اس تشریح کے لحاظ سے توفی اپنے حقیقی معنی میں ہے، اس کا التزامی معنی وفات ہے، جب عمر پوری وصول ہو جائے گی تو وفات اس کے لئے لازم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلام میں تقدیم و تاخیر ہے اور اصل عبارت اس طرح ہوگی۔ انسی رافعک و متوفیک الخ، کیونکہ رفع الی السماء پہلے ہے، اور موت بعد میں ہے، اس صورت میں توفی کو موت کے معنی میں لیا گیا ہے، اور واو مطلق جمع کے لئے ہے، اس لئے تقدیم و تاخیر سے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن پہلی توجیہ زیادہ مناسب

ہے، مفسر نے اس کی تفسیر قابضک سے کی ہے، اس میں بھی یہ دونوں احتمال جاری ہو سکتے ہیں، اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ ان کے نزدیک راجح کیا ہے۔

صدقوا بنبوتک من المسلمین و النصارى :- حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی، انہیں یہود پر غالب رکھوں گا، تو پیروی کرنے کون ہیں؟ نصاریٰ ہیں یا مسلمان؟ اگر نصاریٰ اس کے مصداق ہیں تو وہ پیروی سے بہت دور ہٹ گئے، حتیٰ کہ ان کا ایمان بھی سلامت نہیں ہے، اور اگر صرف مسلمان مراد ہیں، تو یہ براہ راست پیروی کرنے والے نبی کریم ﷺ کے ہیں؟ مفسر نے تفسیر میں جو لفظ ذکر کیا ہے، اس سے جواب کا اشارہ نکلتا ہے۔ انہوں نے اس کا مصداق ان لوگوں کو بنایا ہے، جو ان کی نبوت کو مانتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو انکار نہیں کرتے، اس میں مسلمان بھی داخل ہیں اور نصاریٰ بھی، ان دونوں کا غلبہ یہودیوں پر قیامت تک رہے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے آج تک صورت حال یہی ہے کہ سیاسی اعتبار سے بھی اور نظریاتی اعتبار سے بھی یہودی، ان دونوں قوموں سے مغلوب ہیں، اور ہمارے زمانے میں بظاہر ایک جگہ جو ان کا غلبہ نظر آتا ہے، وہ درحقیقت عیسائیوں کا غلبہ ہے، اور یہ بھی جلد فنا ہونے والا ہے۔

یعلونہم بالحجة و السیف :- حجت سے مراد دلائل و براہین اور سیف سے مراد سیاسی غلبہ۔

یعاقبہم :- پیچھے گزر چکا ہے کہ محبت اپنے ابتدائی معنی کے لحاظ سے ایک انفعالی کیفیت ہے جس سے اللہ کی شان برتر ہے، اور اپنی انتہاء کے اعتبار سے ایک فعل ہے، یعنی انعام و اکرام، تو جب اس کی نفی کی جائے گی، تو سزا و عقاب کا معنی ہوگا، مفسر نے اسی انتہاء کے لحاظ سے لایحیٰ کا ترجمہ یعاقب سے کیا ہے۔

ولہ ثلاث و ثلاثون سنة :- آسمان پراٹھائے جانے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ۳۳ سال تھی، اس عمر کے سلسلے میں المواہب اللدنیہ اور اس کی شرح زرقاتی میں تنقید کی گئی ہے کہ نبوت ملنے کی عمر چالیس سال ہے، اس سے کم نہیں، کیونکہ وہی ”سن کمال“ ہے اور انبیاء اسی عمر میں وحی و نبوت سے سرفراز کئے گئے ہیں، یہ بات تمام انبیاء کو شامل ہے حتیٰ کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے متعلق بھی درست یہی ہے کہ انہیں ۴۰ سال کی عمر میں نبوت ملی۔ چنانچہ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ۳۳ سال کی عمر میں اٹھائے گئے تو اس سلسلے میں کوئی ”اثر متصل“ نہیں ہے، جس کو ماننا ضروری ہو، شامی نے کہا یہی بات صحیح ہے اور عمر کی یہ روایت نصاریٰ سے منقول ہے۔ لیکن احادیث نبویہ میں تصریح ہے کہ وہ ایک سو بیس سال کی عمر میں آسمان پراٹھائے گئے۔ پھر علامہ زرقاتی نے (مہمہ) کے عنوان کے تحت ذکر کیا ہے کہ حافظ جلال الدین سیوطی نے محلی کی تفسیر کے تکملہ میں اور شرح نقایہ وغیرہ میں جزماً لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ۳۳ سال کی عمر میں آسمان پراٹھائے گئے اور نزول کے بعد سات سال دنیا میں قیام فرمائیں گے، اور مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ

اتنے زبردست حفظ و اتقان اور جامع معقول و منقول ہونے کے باوجود انھوں نے کیوں کر اس پر جزم کیا، لیکن بعد میں میں نے ان کی کتاب ”مرقاۃ الصعود“ میں دیکھا کہ انھوں نے اس سے رجوع کر لیا ہے۔ (جمل)

عاملہ مافی ذلک من معنی الاشارة :۔ ذلک نتلوه علیک من الآیات میں من الآیات حال ہے نتلوه کی ضمیر مفعولی سے، اور اس حال میں عامل اشارہ کا وہ معنی ہے، جو ذلک میں ہے، لیکن یہاں مفسر سے تسامح ہو گیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ ذوالحال کا عامل، حال کا بھی عامل ہوتا ہے، اور یہاں ذوالحال ہاء ضمیر ہے جو نتلو کا مفعول ہے، تو جب ذوالحال کا عامل نتلو ہے، تو حال یعنی من الآیات کا عامل بھی وہی ہے۔

ہاں مفسر نے جو کچھ کہا ہے وہ ایک دوسری ترکیب کے لحاظ سے صحیح ہے، وہ یہ کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ذلک مبتدا ہے اور من الآیات خبر ہے، اور نتلوه کا جملہ موضع نصب میں حال ہے، اور ذلک ذوالحال ہے، اس وقت البتہ اشارہ کا معنی حال میں عامل ہوگا۔

وهو من تشبیه الغریب بالاغرب :۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے عجیب ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی خلقت بغیر ماں باپ کے عجیب تر ہے، تو یہاں عجیب کی عجیب تر سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ای آدم ای قالبہ :۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، سے مراد آدم کا قالب اور بدن ہے، یہ اس لئے مراد لیا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے وہ ترتیب اس پر منطبق رہے، فرمایا کہ خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا پھر فرمایا، ہو جا پس وہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ خطاب خود حضرت آدم سے نہیں ہے، ان کے ڈھانچے اور قالب سے ہے، اسی کو اللہ نے آدم بنایا ورنہ آدم کے آدم بن جانے کے بعد کن کہنے کا کوئی حاصل نہیں ہے۔

بامرہ :۔ اس میں ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے ہے۔

نتضرع فی الدعاء :۔ نبتھل کے اصل معنی لعنت بھیجنے کے ہیں۔ بھلہ سے مشتق ہے، جس کے معنی لعنت کے ہیں، پھر یہ لفظ ہر اس دعاء میں استعمال کیا جانے لگا ہے، جس میں خوب تضرع و زاری ہو۔

وفیه وضع الظاهر موضع المضممر :۔ موقع عبارت کا اس طرح تھا فان تولوا فان اللہ علیم بهم مگر ضمیر کی جگہ بالمفسدین اسم ظاہر کو لا کر اشارہ کیا کہ روگردانی کرنے والے مفسد ہیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلالت قدر اور معجزانہ احوال و وقائع کے باوجود، یہود نے ان کے ساتھ سخت دشمنی کا رویہ اختیار کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے قتل کا منصوبہ اس قوم نے بنایا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا

کہ یہ سرکش قوم اپنے منصوبہ میں کامیاب ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی پیغمبرانہ شان کی وجہ سے مطمئن تھے، مگر آپ کے اصحاب ہر اسماں تھے، اسی وقت میں جبکہ سازشوں کا حلقہ آپ کے گرد کسا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ ہم تم کو جسم و روح سمیت اپنی پناہ میں لینے والے ہیں اور تمہیں اپنے پاس اٹھالیں گے، اور کافروں کی دست اندازی سے تمہیں محفوظ رکھیں گے، اور جو لوگ تمہاری نبوت کو تسلیم کرنے والے ہیں، انہیں کافروں کے اوپر سر بلندی عطا فرمائیں گے علمی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی اور یہ قیامت تک کیلئے ہوگا، پھر میرے پاس تم سب لوٹ کر آؤ گے، میں تمہارے تمام اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا، دنیا کا عذاب یہ ہے کہ ان پر قتل و قید اور جزیہ مسلط ہوگا اور آخرت کا عذاب جہنم ہے، اور انہیں اس سے کوئی بچانے والا مددگار نہ ملے گا۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں، اور انہوں نے اچھے کام کئے ہیں، ان کو ان کا پورا اجر ملے گا، اور سزا و عقاب تو ظالموں کے لئے ہے، اس بشارت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی جیسی چیز آسمان سے بھیجی، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھالیا۔ والدہ مکرمہ حضرت مریم نے انہیں کو پکڑ لیا اور رونے لگیں، فرمایا کہ قیامت کے روز اٹھے ہوں گے، وہ بدلی انہیں آسمان پر لئے چلی گئی۔ مفسر نے فرمایا کہ اس وقت حضرت عیسیٰ کی عمر ۳۳ سال تھی۔ حضرت مریم ان کے بعد چھ سال حیات رہیں۔ پھر احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ اس وقت وہ خاتم النبیین ﷺ کے قانون کو نافذ کریں گے۔ دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو فنا کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، اور جزیہ کا حکم ختم کر دیں گے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ زمین پر سات سال قیام فرمائیں گے، اور ابوداؤد طیالسی کی روایت میں ہے کہ چالیس سال قیام فرمائیں، پھر ان کی وفات ہوگی، اور ان کی نماز جنازہ ادا کی جائیگی، ممکن ہے کہ چالیس سال سے مراد زمین پر قیام کی مجموعی مدت ہو یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اور اس کے بعد کی (اس سلسلے میں کچھ بحث تشریحات میں گزر چکی ہے، ملاحظہ فرمائیں) یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے، یہ ہمیں بیان کر رہے ہیں، یہ آیات الہی ہیں اور حکمت سے لبریز تذکرہ ہے، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی مثال کہ انہیں بغیر ماں باپ کے محض مٹی سے پیدا فرمایا، پھر کہہ دیا کہ بشر بن جا، پس وہ ہو گئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمادیا۔ یہ اگر عجیب ہے تو وہ عجیب تر ہے۔ یہ بالکل حق ہے، اس میں ذرا بھی شبہ نہ کرو بلکہ شبہ کرنے والوں کی طرف جاؤ بھی مت۔ پھر اگر اس علم و یقین کے آجانے کے بعد بھی اگر کوئی تم سے نزاع کرے، تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم تم اپنی اولادوں، اپنی عورتوں اور خود اپنے آپ کو حاضر کریں، پھر اللہ کے حضور گریہ و زاری سے دعا کریں، اور جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت برسائیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے وفد نجران کو جو عیسائی لوگ تھے، اس مباہلہ کیلئے دعوت دی، انہیں

چونکہ دل سے آپ کی حقانیت کا یقین تھا، اس لئے مباہلہ کرنے سے معذرت کر دی، اور جزیہ کے اوپر صلح کر لی، ورنہ اگر مباہلہ کر لیتے تو اپنا سب کچھ برباد کر دیتے، یہ بالکل سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہی عزیز و حکیم ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی ایمان لانے سے یہ روگردانی کرتے ہیں تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ فساد یوں کو جانتے ہیں، وہ سزا سے بچ نہیں سکتے۔



﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ اليهود والنصرى ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ﴾ مصدر بمعنى مستو امرها ﴿بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ هي ﴿أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ كما اتخذتم الاحبار والرهبان ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ اعرضوا عن التوحيد ﴿فَقُولُوا﴾ انتم لهم ﴿اشْهَدُوا بِنَا مُسْلِمُونَ﴾ موحدون و نزل لما قالت اليهود ابراهيم يهودى و نحن على دينه و قالت النصارى كذلك ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ﴾ تخاصمون ﴿فِي إِبْرَاهِيمَ﴾ بزعمكم انه على دينكم ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ﴾ بزمان طويل و بعد نزولهما حدثت اليهودية والنصرانية ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ بطلان قولكم ﴿هَا﴾ للتنبيه ﴿أَنْتُمْ﴾ مبتدأيا ﴿هُؤُلَاءِ﴾ والخبر ﴿حَاجَّجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ من امر موسى و عيسى و زعمتم انكم على دينهما ﴿فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ من شان ابراهيم ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ شانه ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ قال تعالى تبرية لابراهيم ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا﴾ مائلا عن الاديان كلها الى الدين القيم ﴿مُسْلِمًا﴾ موحدا ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ﴾ احقهم ﴿بِإِبْرَاهِيمَ لِلذِّينِ اتَّبَعُوهُ﴾ فى زمانه ﴿وَهَذَا النَّبِيُّ﴾ محمد لموافقته له فى اكثر شرعه ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ من امته فهم الذين ينبغي ان يقولوا نحن على دينه لا انتم ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ناصرهم و حافظهم و نزل لما دعا اليهود معاذا و حذيفة و عما را الى دينهم ﴿وَوَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ لان اثم اضلالهم عليهم و المؤمنون لا يطيعونهم فيه ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ بذلك ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ القرآن المشتمل على نعت محمد ﷺ ﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ تعلمون انه حق ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبَسُونَ﴾ تخلطون ﴿الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ بالتحريف و التزوير ﴿وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ﴾ اى نعت النبى ﷺ ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ انه حق .

ترجمہ

(تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب) یہود و نصاریٰ (ایک ایسی بات پر آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے) سواء مصدر ہے، لیکن معنی میں اسم فاعل مستو کے ہے وہ (یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں، اور نہ ہم میں کا بعض، بعض دوسرے کو اللہ کے علاوہ رب قرار دے) جیسا کہ تم نے احبار اور رهبان کو قرار دے رکھا ہے (پھر اگر وہ) توحید سے (روگردانی کریں تو تم) ان سے (کہو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں) یعنی توحید کو ماننے والے ہیں۔

اور جب یہود نے دعویٰ کیا کہ ابراہیم یہودی تھے اور ہم ان کے دین پر ہیں، اور نصاریٰ نے بھی ایسا ہی دعویٰ کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی (اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو) یہ دعویٰ کر کے کہ وہ تمہارے دین پر تھے (حالانکہ توریت و انجیل کا نزول ان کے) بہت زمانے (بعد ہوا ہے) اور توریت و انجیل کے نازل ہونے کے بعد ہی یہودیت اور نصرا نیت کا وجود ہوا ہے (کیا تم) اپنے قول کے غلط ہونے کو (سمجھتے نہیں ہو، خوب سمجھ لو) ہا تنبیہ کے لئے ہے (تم نے) مبتدا ہے۔ اے (لوگو!) اور خبر یہ ہے (ایسی چیز میں جھگڑا کیا جس کا تم کو علم ہے) یعنی موسیٰ اور عیسیٰ کے معاملہ میں اور تمہارے اس خیال میں کہ تم ان کے دین پر ہو (پس اس چیز میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو علم نہیں ہے) یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں (اور اللہ) ان کے حال کو (جانتے ہیں اور تم لوگ نہیں جانتے) اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برأت ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ (ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، لیکن وہ حنیف تھے) تمام دینوں سے یکسو ہو کر صرف دین قیم کی جانب تھے (مسلم تھے) موحد تھے (اور مشرکین میں نہ تھے، بیشک لوگوں میں ابراہیم سے نزدیک تر) یعنی ان کے دین پر ہونے کے دعوے کے مستحق (وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی) ان کے زمانہ میں (اور یہ نبی) یعنی محمد ﷺ، کیونکہ اکثر امور میں یہ ان کے موافق ہیں (اور وہ لوگ جو ایمان لائے) یعنی آپ کی امت یہی لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے دین پر ہیں، تم لوگ نہیں کہہ سکتے (اور اللہ، اہل ایمان کے ولی) یعنی حافظ و ناصر (ہیں)

ایک بار یہود نے حضرت معاذ، حضرت حذیفہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم کو اپنے دین میں شامل ہونے کی دعوت دی، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا (اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کرے، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں) کیونکہ ان کے اضلال کا گناہ انہیں پر ہوگا، اور اہل ایمان اس باب میں ان کی پیروی نہیں کریں گے (اور وہ) اسے (نہیں سمجھتے، اے اہل کتاب! تم اللہ کی آیات کا) یعنی قرآن کا جو محمد ﷺ کی صفات پر مشتمل ہے (کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو) کہ وہ حق ہے (اے اہل کتاب! تم حق کو باطل کے ساتھ) تحریف و تزویر سے (کیوں خلط ملط کرتے ہو، اور حق کو) یعنی نبی کی صفات کو (کیوں چھپاتے ہو،

حالانکہ تم جانتے ہو) کہ یہ حق ہے۔

﴿ تشریحات ﴾

بمعنی مستو امرھا: آیت کریمہ میں سوائے لفظ کے اعتبار سے مصدر ہے، لیکن معنی مصدری کے ساتھ وہ کلمہ کی صفت نہیں بن سکتا تو فرمایا کہ اسم فاعل مستو کے معنی میں ہے۔

كما اتخذتم الاحبار والرهبان :- احبار، حبر کی جمع ہے اس کا اطلاق علماء یہود پر ہوتا تھا، اور رهبان، راہب کی جمع ہے، اس کا اطلاق نصاریٰ کے عبادت گزاروں پر ہوتا تھا۔ یہود نے تحلیل و تحریم کے مسئلے میں اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا اور عیسائی تو اپنے راہبوں کو سجدہ تک کرتے تھے، حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ عیسائیت سے اسلام کی طرف آئے تھے، انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ ہم لوگ احبار و رهبان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے اسے تم حلال مان لیتے تھے اور جس چیز کو حرام قرار دیتے تھے، اسے حرام مان لیتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہوتا تھا، آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے۔

شارح عرض کرتا ہے کہ عیسائی اپنے پادریوں سے ہفتہ بھر کے گناہ اتوار کو معاف کر لیا کرتے ہیں۔ گویا گناہ کو معاف کرنے کی طاقت انھوں نے پادریوں کے اندر مان رکھی تھی، یہ تو واضح طور پر رب بنانا ہوا۔
بزمین طویل :- کہتے ہیں ابراہیم و موسیٰ کے درمیان ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے، اور ابراہیم اور عیسیٰ کے درمیان دو ہزار سال کا۔

یا (ھولاء) : ھولاء منادی ہے، یا حرف ندا محذوف ہے، اسم اشارہ کے ساتھ حرف ندا کا حذف اہل کوفہ کے نزدیک درست ہے۔

بالتحریف والتزویر :- تحریف کے معنی ترمیم اور تبدیلی کے ہیں اور تزویر کے معنی غلط بات کو مزین کر کے پیش کرنا، یہود یہ دونوں عمل کرتے تھے، یعنی توریت کے کلمات کو بدل دیتے تھے، اور کبھی اس کا غلط مطلب بیان کرتے تھے، مگر عوام کے سامنے اسے اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتے تھے کہ وہ اسے درست سمجھنے لگتے تھے۔ اہل اسلام میں بھی باطل فرقے قرآن کے اندر تزویر کا عمل بہت کرتے ہیں۔

﴿ مضامین آیات و تفسیر ﴾

اللہ تعالیٰ نہایت حکیمانہ انداز میں اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم ان سے کہو، اے اہل کتاب! جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو انہیں درگزر کرو، ایک ایسی بات پر تو آؤ جس پر ہمارا اور تمہارا اتفاق ہے، اسے مشترک طور سے اپنے ایمان کی بنیاد قرار دو، وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ

کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اور کوئی بندہ، دوسرے بندے کو رب نہ بنائے، چلو اسی کو مضبوطی سے تھامو، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اس سے بھی یہ روگردانی کریں، تو تم کہہ دو کہ ہم تو اسی توحید پر ہیں، تم گواہ رہنا۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے ایک عجیب دعویٰ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی تھے، کیسی عجیب بات ہے، یہودیت ہو یا عیسائیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد وجود میں آئی ہے، پھر یہ کس قدر جہالت ہے کہ انہیں یہودی یا نصرانی کہا جائے۔ وہ نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، وہ تو حنیف تھے، مسلم و موحد تھے، تم لوگوں کا حال عجیب ہے جس سلسلے میں تمہیں کچھ معلومات ہیں، مثلاً حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام ان کے بارے میں تو تم نے جھگڑا کیا تھا، اب وہاں بھی جھگڑنے چلے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ اللہ جانتا ہے، تم کیا جانو؟ اگر کوئی بجا طور پر یہ دعویٰ کرنا چاہے کہ وہ ابراہیم کے دین پر ہے، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دور نبوت میں ان کی پیروی کی، اور بعد والوں میں یہ نبی یعنی محمد ﷺ، کیونکہ یہ اکثر امور شرعیہ میں ان کے موافق ہیں، اور اہل ایمان (یعنی محمد ﷺ کی امت) ان کے دین پر ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔

لیکن ہدایت آجانے کے بعد ان کی جرأت دیکھو کہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، خیر انہیں کیا گمراہ کریں گے، یہ خود گمراہ ہیں۔ لیکن سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب! تم جانتے بوجھتے اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، اور کتاب اللہ میں حق و باطل کو گڈ مڈ کیوں کرتے ہیں، اور سچی بات کو چھپاتے کیوں ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو، تو جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کرنا چاہئے۔



﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ الْيَهُودُ لِبَعْضِهِمْ ﴿آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اِی الْقُرْآنَ ﴿وَجَهَ النَّهَارِ﴾ اُولَهُ ﴿وَ اكْفُرُوا﴾ بِهِ ﴿آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ﴾ اِی الْمَوْمِنِينَ ﴿يَرْجِعُونَ﴾ عَنِ دِينِهِمْ اِذْ يَقُولُونَ مَا رَجِعَ هَوْلَاءُ عَنْهُمْ بَعْدَ دُخُولِهِمْ فِيهِ وَهُمْ اَوْلُو عِلْمِ الْاِلَاحِ لَعَلَّهُمْ بَطْلَانُهُ وَقَالُوا اَيْضًا ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا﴾ تَصَدَّقُوا ﴿اِلَّا لِمَنْ﴾ الْاِلَاحِ زَائِدَةٌ ﴿تَبِعَ﴾ وَافَقَ ﴿دِينَكُمْ﴾ قَالَ تَعَالَى ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ ﴿اِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللّٰهِ﴾ الَّذِي هُوَ الْاِسْلَامُ وَ مَا عَدَاهُ ضَلَالٌ وَ الْجَمَلَةُ اعْتِرَاضٌ ﴿اَنْ﴾ اِی بَانَ ﴿يُؤْتِي اَحَدًا مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ﴾ مِنَ الْكُتُبِ وَ الْحِكْمَةِ وَ الْفَضَائِلِ وَ اِنْ مَفْعُولٌ تَوَمَّنُوا وَ الْمَسْتَشْنَىٰ مِنْهُ اِحْدَ قَدَمٍ عَلَيْهِ الْمَسْتَشْنَىٰ الْمَعْنَى لَا تَقْرُوا بَانَ اِحْدَا يُوْتِي ذَلِكُ الْاِمْنِ تَبِعَ دِينَكُمْ ﴿اَوْ﴾ بَانَ ﴿يُحَاجُّوْكُمْ﴾ اِی الْمَوْمِنُونَ يَغْلِبُوْكُمْ ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَانَكُمْ اَصْحَابُ دِيْنًا وَ فِي قِرَاءَةٍ اَنْ بِهَمْزَةٍ التَّوْبِيْحِ اِمْرٌ اِيْتَاءُ اِحْدَ مِثْلِهِ تَقْرُونَ بِهِ قَالَ تَعَالَى ﴿قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ﴾ فَمَنْ اَيْنَ لَكُمْ اِنَّه لَا

يوتى احد مثل ما اوتيتهم ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ ﴾ كثير الفضل ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بمن هو اهله ﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ ﴿ اى بمال كثير ﴾ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ ﴿ لامانته كعبد الله بن سلام او دعه رجل الفا و مائتى اوقية ذهابا فادها اليه ﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ ﴿ لخيانته ﴾ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴿ لا تفارقه فمتى فارقه انكره ككعب بن الاشرف استودعه قرشى دينارا فجحده ﴾ ذَلِكَ ﴿ اى ترك الاداء ﴾ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ﴿ بسبب قولهم ﴾ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ ﴿ اى العرب ﴾ سَبِيلٌ ﴿ اى اثم لاستحلالهم ظلم من خالف دينهم و نسبه اليه تعالى قال تعالى ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾ فى نسبة ذلك اليه ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ انهم كاذبون ﴿ بلى ﴾ عليهم فيهم سبيل ﴿ مَنْ أَوْفَى بَعْثِهِ ﴾ الذى عاهد الله عليه او بعهد الله عليه من اداء الامانة و غيره ﴿ وَاتَّقَى ﴾ الله بترك المعاصى و عمل الطاعات ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ فيه وضع الظاهر موضع المضمرة اى يحبهم بمعنى يشبههم و نزل فى اليهود لما بدلوا نعت النبى ﷺ و عهد الله اليهم فى التوراة اوفى من حلف كاذبا فى دعوى او فى بيع سلعة ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ ﴾ يستبدلون ﴿ بَعْدَ اللَّهِ ﴾ اليهم فى الايمان بالنبى ﷺ و اداء الامانة ﴿ وَآيْمَانِهِمْ ﴾ حلفهم به تعالى كاذبا ﴿ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ من الدنيا ﴿ أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ ﴾ نصيب ﴿ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ﴾ غضبا عليهم ﴿ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ﴾ يرحمهم ﴿ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ﴾ يطهرهم ﴿ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ مؤلم ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ ﴾ اى اهل الكتاب ﴿ لَفَرِيقًا ﴾ طائفة ككعب بن الاشرف ﴿ يَلُؤْنَ أَسِنَّتَهُمْ بِالْكِتَابِ ﴾ اى يعطفونها بقراءته عن المنزل الى ما حرفوه من نعت النبى ﷺ ونحوه ﴿ لِتَحْسَبُوهُ ﴾ اى المحرف ﴿ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ الذى انزل الله تعالى ﴿ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ انهم كاذبون و نزل لما قال نصارى نجران ان عيسى امرهم ان يتخذوه ربا او لما طلب بعض المسلمين السجود له ﷺ ﴿ مَا كَانَ ﴾ ينبغى ﴿ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ ﴾ اى الفهم للشريعة ﴿ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ ﴾ يقول ﴿ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ ﴾ علماء عاملين منسوب الى الرب بزيادة الف و نون تفخيما ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ اى بسبب ذلك فان فائدته ان تعملوا ﴿ وَلَا يَأْمُرْكُمْ ﴾ بالرفع استيناف اى الله والنصب عطفاً على يقول اى

البشر ﴿أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا﴾ ﴿كَمَا اتَّخَذَتِ الصَّابِئَةُ الْمَلَائِكَةَ وَالْيَهُودُ عَزِيرًا وَالنَّصْرِيُّ عِيسَى﴾ ﴿أَيُّمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿لَا يَنْبَغِي لَهُ هَذَا﴾ .

﴿ترجمہ﴾

(اہل کتاب) یعنی یہود (کے ایک گروہ نے) بعض دوسرے سے (کہا کہ اس بات پر جو ایمان والوں پر نازل ہوئی ہے) یعنی قرآن پر (دن کے شروع میں ایمان لے آؤ، اور اس کے آخر میں اس کا انکار کر دو، شاید وہ لوگ) یعنی اہل ایمان بھی اپنے دین سے (پھر جائیں) کیونکہ وہ یہ سوچیں گے کہ یہ اصحاب علم جب اس دین میں داخل ہو کر پھر گئے ہیں، تو ضرور یہ اس کے باطل ہونے کو جان گئے ہیں، جیسی پھرے ہیں، نیز انھوں نے یہ بھی کہا کہ (اور ان لوگوں کے سوا جو تمہارے دین کے ماننے والے) یعنی موافق (ہیں، کسی کی بات نہ مانو) لمن میں لام زائد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد! (تم) ان سے (کہدو، بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے) جو کہ اسلام ہے اور اس کے ماسوا سب گمراہی ہے، یہ جملہ معترضہ ہے (کہ کسی کو اس چیز کے مثل دی جائے جو تمہیں دی گئی ہے) یعنی کتاب و حکمت اور فضائل وغیرہ۔ ان یوتی، ولا تو منوا کا مفعول بہ ہے، اور مستثنیٰ منہ احد ہے، اس سے پہلے مستثنیٰ یعنی الا لمن تبع دینکم لایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لا تقروا بان احدا یوتی مثل ما اوتیتم الا لمن تبع دینکم، یعنی اس بات کا اقرار اور تصدیق نہ کرو کہ کسی کو اس جیسی چیز عطا ہوگی جو تمہیں دی گئی ہے، مگر ہاں جو کوئی تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے تو اس کی تصدیق کرو (یا یہ کہ وہ) اہل ایمان (تم سے تمہارے رب کے پاس) قیامت کے دن (جھگڑیں) یعنی تم پر غلبہ پائیں، کیونکہ تم دین کے اعتبار سے صحیح تر ہو، اور ایک قرأت میں اُن ہمزہ تو بیخ کے ساتھ ہے، یعنی کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو کہ تمہاری جیسی نعمت کسی اور کو مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (تم کہدو، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں) تو تمہیں یہ حق کہاں سے حاصل ہوا کہ جیسی نعمت تمہیں عطا ہوئی، ویسی کسی اور کو نہیں ملے گی (اور اللہ وسعت والے ہیں) یعنی کثیر الفضل ہیں جو اس کا اہل ہے اسے (جاننے والے ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں، خاص کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر انہیں مال کثیر کا امین بناؤ تو اسے) اپنی امانت و دیانت کی وجہ سے (تمہیں ادا کر دیں گے) جیسے عبد اللہ بن سلام کہ ان کے پاس ایک شخص نے دو سو اوقیہ سونا بطور امانت کے رکھا، انھوں نے اسے پورا لوٹا دیا (اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر انہیں ایک دینار بطور امانت کے تم دیدو تو وہ تمہیں) اپنی خیانت کی وجہ سے (نہیں لوٹائیں گے، مگر یہ کہ ان کے سر پر سوار رہو) اور اس سے جدا نہ ہو، اور جہاں ذرا جدا ہوئے کہ وہ انکار کر دیں گے، جیسے کعب بن اشرف، اس کے پاس ایک قریشی نے ایک دینار امانت رکھ دیا، اس نے اس کا انکار کر دیا (یہ) یعنی ادا نہ کرنا (اس واسطے

ہے کہ انھوں نے کہا کہ ہم پرامیوں (یعنی عرب) کے سلسلے میں کوئی مواخذہ (یعنی گناہ) نہیں ہے) وہ اپنے دین کے مخالف پر ظلم کرنے کو حلال و جائز قرار دیتے ہیں، اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (وہ) اس کی نسبت خدا کی طرف کرنے میں (اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں) کہ وہ جھوٹے ہیں (کیوں نہیں) ان پر ان کے بارے میں مواخذہ ہے، ہاں (جو کوئی اپنے عہد کو) جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے یا یہ کہ اللہ کے عہد کو جو انھوں نے اس سے لیا ہے یعنی امانتوں کی ادائیگی وغیرہ کا (پورا کرے اور) اللہ سے (ڈرے) یعنی معاصی کو ترک کرے اور طاعتوں کا عمل کرے (تو اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتے ہیں اس میں ضمیر کے بجائے اسم ظاہر لایا گیا ہے، یعنی یحبہم ان سے محبت رکھتے ہیں، بمعنی ثواب دینے کے۔

یہود نے رسول اللہ ﷺ کے ان اوصاف و حالات کو، جو توریت میں بیان کئے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں جو ان سے عہد لیا تھا، جس کا ذکر توریت میں موجود ہے، ان سب کو بدل دیا تھا تو ان کے متعلق اگلی آیت نازل ہوئی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ دعویٰ میں، سامان بیچنے میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کے بارے میں اتری ہے۔ فرماتے ہیں (بے شک وہ لوگ جو اللہ کے) اس (عہد کے عوض میں) جو ان سے نبی ﷺ پر ایمان لانے کے بارے میں، اور امانت کی ادائیگی کے بارے میں لیا گیا ہے (اور اپنی قسموں کے عوض میں) جو وہ اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کے بدلے میں، دنیا کی (تھوڑی قیمت خریدتے ہیں) یعنی لیتے ہیں (یہ لوگ وہ ہیں کہ آخرت میں ان کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے) (اور) غصہ کی وجہ سے (اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، اور نہ ان کی طرف نظر) رحمت (فرمائیں گے، اور نہ ان کو، پاک و صاف فرمائیں گے، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور بے شک ان میں سے) یعنی اہل کتاب میں سے (ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہے جیسے کعب بن اشرف جو اپنی زبانوں کو کج کرتے ہیں) یعنی جو کچھ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کے پڑھنے میں اپنی زبانیں کج کر کے اس بات کی طرف لے جاتے ہیں جو انھوں نے نبی ﷺ کے اوصاف و احوال کے بارے میں تحریف کر رکھی ہے (تا کہ تم اس) تحریف شدہ بات کو اس (کتاب کا ایک حصہ سمجھو) جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے (حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اللہ کے اوپر جھوٹی بات کہتے ہیں، اور وہ اسے خوب جانتے ہیں) کہ وہ جھوٹے ہیں۔

نجران کے عیسائیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا ہے کہ ان کو اپنا رب مان لیں، اس کے جواب میں اگلی آیت اتری، یا یہ کہ بعض مسلمانوں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمیں اجازت ہو کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی (کسی بشر کے لئے) مناسب (نہیں ہے) کہ اللہ تعالیٰ اسے

کتاب اور حکم) یعنی شریعت کا فہم (اور نبوت عطا فرمائیں اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، لیکن) وہ یہ کہتا ہے کہ (تم ربانی بنو) یعنی عالم باعمل بنو، ربانی رب کی طرف منسوب ہے، اس میں الف اور نون کا اضافہ عظمت و تحمیم کے لئے ہوا ہے (اس واسطے کہ تم کتاب کو پڑھاتے ہو) تعلمون باب تفعیل سے بھی ہے اور مجرد سے بھی، دو قرأتیں ہیں (اور اس واسطے کہ تم پڑھتے ہو) یعنی پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے ربانی بنو، اس لئے کہ اس پڑھنے اور پڑھانے کا فائدہ عمل کرنا ہے (اور نہ یہ کہ تمہیں اس بات کا حکم دے) ولا یامر میں دو قرأت ہے، ایک تو یامر کے رفع کے ساتھ، اس صورت میں یہ جملہ مستانفہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتے الخ دوسرے یہ کہ نصب کے ساتھ ہو، اس صورت میں یہ ثم یقول پر عطف ہوگا۔ یعنی نہ یہ کہ وہ بشر تم کو اس بات کا حکم دے (کہ تم ملائکہ کو اور انبیاء کو رب بنا لو) جیسا کہ صائبین نے فرشتوں کو اور یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا تھا (کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تم کو کفر کا حکم دے سکتا ہے) یہ اس کے لئے بالکل مناسب نہیں ہے

﴿ تشریحات ﴾

اليهود لبعضهم: طائفة من اهل الكتاب سے مراد یہود کا ایک طبقہ ہے، ان لوگوں نے اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کے ساتھ مل کر سازش کی، یہ خیبر کے کچھ یہود علماء تھے جنہوں نے باہم یہ قرارداد پاس کی اور کچھ لوگوں کو متعین کیا کہ صبح کو محمد ﷺ کے دین میں زبان سے داخل ہو جاؤ اور شام ہوتے ہوتے واپس آ جاؤ، اور یہ پروپیگنڈہ کرو کہ ہم نے انہیں مان کر اور ان سے قریب رہ کر جب دوبارہ اپنی آسمانی کتاب کا مطالعہ کیا، اور اپنے علماء سے مزید تحقیق کی تو کھلا کہ جس پیغمبر آخر الزماں کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، وہ یہ نہیں ہیں، اس طرح کرنے سے ممکن ہے، ماننے والے بھی شبہ میں پڑ جائیں اور ان کے قدم اکھڑ جائیں۔

وقالوا ايضا:- اور مزید انہوں نے وہ بات بھی کہی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

(ولا تو منوا) تصدقوا (الامن) اللام زائدة (تبع دينكم) :- اس آیت کی تفسیر میں مفسر نے جو کچھ فرمایا ہے، وہ بہت مجمل ہے، عبارت سے پوری بات واضح نہیں ہوتی، یہ ایسا اختصار و اجمال ہے، جو فہم معنی میں مخل ہے، ہم جمل کے حوالے سے کسی قدر اس کی توضیح کرتے ہیں

مفسر کے اجمال سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں دو توجیہیں مراد لی۔

(۱) پہلی توجیہ یہ ہے کہ الا لمن میں لام زائدہ ہے اور ان یوتی مفعول بہ ہے، اور مستثنیٰ منہ احد ہے، مستثنیٰ اس پر مقدم ہے اور او یحاجو کم کا عطف یوتی پر ہوگا۔ اس صورت میں تقدیری عبارت یوں ہوگی ولا تو منوا ان یوتی احد مثل ما و تیتم الا من تبع دينكم او یحاجو کم عند ربکم، یعنی تم یہ

بات نہ تسلیم کرو کہ کسی اور کو وہ نعمتیں اور فضائل و فواضل عطا فرمائے جائیں گے، جو تمہیں عطا ہوئے ہیں، مگر یہ کہ وہ تمہارے دین کے موافق ہو تو مانو کہ اس کو وہ تمہاری والی نعمتیں عطا ہوئی ہوں گی، اور یہ بھی مت مانو کہ وہ دوسرے لوگ تمہارے رب کے پاس تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ ایسا بالکل نہ ہوگا، اس توجیہ کی صورت میں اویحاجو کم عند ربکم سے مستثنیٰ کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔

(۲) دوسری توجیہ مفسر کے اجمال سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ لام زائد نہ ہو، اس توجیہ کا قرینہ یہ ہے کہ آگے مفسر نے فرمایا ہے کہ المعنی لا تقروا بان احد ایوتی ذالک الا لمن تبع دینکم۔ اس تقریر میں مفسر نے لمن تبع دینکم کے لام کو برقرار رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لام زائدہ نہیں ہے۔ اس توجیہ کی صورت میں مستثنیٰ منہ محذوف ہوگا اور اویحاجو کم کا عطف حسب سابق یوتی پر ہوگا اور اس کا بھی تعلق استثنا سے ہوگا۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی ولا تو منوا اے لا تقروا بان یوتی احد مثل ما و تیتم اویحاجو کم عند ربکم لاحد اے عند احد الا لمن اے عند من تبع دینکم۔ یعنی تم کسی کے سامنے اس بات کا اعتراف و اقرار مت کرو کہ کسی کو تمہاری جیسی نعمتیں اور فضیلتیں مل سکتی ہیں، یا وہ تمہارے رب کے پاس تم پر غالب آسکتا ہے، مگر اس شخص کے سامنے، جو دین میں تمہارے موافق ہو، مطلب یہ ہے کہ تمہاری جیسی نعمتیں بھی کسی شخص کو تمہارے علاوہ مل سکتی ہیں، یا قیامت کے دن پروردگار کے پاس وہ دوسرا شخص تم پر غالب آسکتا ہے اس کا اقرار و اعتراف کسی کے پاس مت کرو، البتہ جو شخص تمہارے مذہب پر ہے، اس کے سامنے کر سکتے ہو، اگر مسلمانوں کے پاس اس کا اقرار کرو گے تو وہ اپنے ایمان میں اور مضبوط ہو جائیں گے، اور مشرکین کے سامنے کرو گے تو خطرہ ہے کہ دین اسلام میں داخل نہ ہو جائیں، اور آپس میں اگر اقرار کرو گے تو مضائقہ نہیں، کیونکہ تم اپنے دین پر پختہ ہو۔ تم سے کوئی اندیشہ نہیں، اس توجیہ کی صورت میں الا لمن تبع دینکم میں لازم زائدہ نہیں ہے مگر وہ عند کے معنی میں ہے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کی دو جہتیں ہیں۔ پہلی جہت یہ ہے کہ علماء یہود باہم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو تسلیم ہی مت کرو کہ تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین کا دعویٰ کرنے والا کمالات نبوت اور فضائل و مناقب اور نعمائے الہیہ سے سرفراز ہو سکتا ہے، یا اللہ کے پاس اس کی بات چل سکتی ہے۔ اگر کوئی تمہارے مذہب کی موافقت کرتا ہے، اور اس کے بعد نبوت وغیرہ کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ قابل تسلیم ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء بنی اسرائیل سب انہیں کے دین و مذہب پر رہے، اسی طرح آج بھی اگر کوئی اسی دین و مذہب پر قائم ہے اور وہی تمہارا بھی دین ہے، اور پھر دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو خیر قابل تسلیم ہے، ورنہ نہیں۔ اور یہ نبی محمد ﷺ ظاہر ہے کہ یہودیت پر نہیں ہیں، اس لئے ان کا دعوائے نبوت ہرگز قابل

تسلیم نہیں ہے۔ اس طرح ان یہود نے اپنے دین و مذہب کے ابدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ یہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری جہت یہ ہے کہ جو کمالات و فضائل تمہیں ملے تھے، وہ دوسروں کو بھی مل سکتے ہیں، جیسا کہ ہماری کتابوں سے ظاہر ہے، مگر اس کا سب کے سامنے اقرار مت کرو اور سب کے سامنے اس کا بھی اقرار مت کرو کہ خدا کے یہاں دوسروں کی کوئی بات چل سکتی ہے، یہ اعتراف و اقرار صرف اپنے ہم مذہبوں کے سامنے کر سکتے ہو، مسلمانوں یا مشرکوں کے سامنے کرو گے تو ایک فریق کے اپنے دین میں مضبوط ہو جانے اور دوسرے فریق کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے، اس لئے اس اقرار کو چھپائے ہی رکھو۔

پہلی صورت میں انکار آیات ہے، اور دوسری صورت میں کتمان آیات! اور یہود کے مزاج میں یہ دونوں باتیں داخل ہیں۔

والجملة اعتراض :۔ قل ان الهدیٰ ہدی اللہ جملہ معترضہ ہے، فعل اور اس کے مفعول کے درمیان آیا ہے۔ لانکم اصح دیناً :۔ یہ اس نفی کی توجیہ ہے جس کے تحت او یحاجو کم کا جملہ ہے، یعنی وہ تم پر غالب نہیں آئیں گے، کیونکہ تم زیادہ صحیح دین پر ہو۔

وفی قرأۃ أن بہمزة التوبیخ :۔ ایک قرأت میں أن یوتی احد مثل ما او تیتم کے بجائے أن یوتی احد مثل ما او تیتم ہے اس میں ہمزہ استفہام برائے توبیخ ہے، اس صورت میں یہ جملہ مستانفہ ہوگا۔ لفظ کے اعتبار سے ما قبل سے علیحدہ ہے، پچھلی ساری تقریر اس قرأت کی صورت میں ختم ہو جائے گی۔ اس قرأت کی صورت میں مطلب یہ ہے کہ ایتساء احد مثله تقرون۔ کیا تم اس کا اقرار کرو گے کہ تمہاری جیسی نعمت اور کسی کو مل سکتی ہے۔ خبردار یہ اقرار نہ کرنا، اس قرأت کی صورت میں او یحاجو کم میں او، حتی کے معنی میں ہوگا یعنی کیا تم ایسا اقرار کرو گے، یہاں تک کہ وہ تمہارے اسی اقرار کی وجہ سے اللہ کے دربار میں تم پر غلبہ پالیں گے۔ مطلب کی یہ تقریر جمل سے تلخیص کر کے بقدر ضرورت تھوڑے سے اضافے کے ساتھ لکھ دی گئی ہے۔ اضافہ یہ ہے کہ صاحب جمل نے الا لمن تبع دینکم کے لام کے زائد ہونے کی صورت میں او یحاجو کم عند ربکم کی تفسیر کو نہیں چھیڑا ہے۔ اس حقیر نے انہیں کی عبارت سے اس کا مطلب بقدر استعداد سمجھ کر لکھ دیا ہے۔ فان کان صواباً فمن اللہ والا من شر نفسی، اعاذنا اللہ منہ۔

مشہور مفسر واحدی نے لکھا ہے کہ یہ آیت تفسیر و اعراب کے اعتبار سے قرآن کریم کی مشکل ترین آیات میں سے ہے، میں نے اس آیت کے سلسلے میں اہل تفسیر و معانی کے اقوال پر غور کیا، مگر کوئی ایسا قول نہیں ملا جو پوری آیت پر من اولہ الی آخرہ بیان معنی اور صحت عبارت کے لحاظ سے منطبق ہو۔

فمن این لکم انه لا یوتی احد مثل ما او تیتم :۔ مفسر کی یہ عبارت ولا تو منوا الا لمن تبع

دینکم کی پہلی توجیہ سے مناسبت رکھتی ہے جس میں لام کو زائد قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس صورت میں سرے سے کسی دوسرے پر انعام الہی کا انکار ہے، اور اس عبارت میں انکار ہی پر زجر ہے۔
بمال کثیر :- قنطار مال کی کثیر مقدار کو کہتے ہیں۔

لا تفرقہ :- مادمت علیہ قائماً :- کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمہ وقت اس کے سر پر کھڑا رہے، بلکہ یہ ہے کہ اس سے جدا نہ ہو۔

الذی عاہد اللہ علیہ :- ومن اوفیٰ بعہدہ - کی مفسر نے دو توجیہیں کی ہیں ایک یہ کہ بعہدہ میں ضمیر غائب، من عاہد کی جانب راجع ہے اور وہی عہد کا فاعل ہے، یعنی اس نے اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہے، اسے پورا کرے۔

اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ بعہدہ میں ضمیر غائب اللہ کے لئے ہو، یعنی اللہ نے جو عہد و پیمان اس سے لیا ہے، اسے پورا کرے۔

بترک المعاصی وعمل الطاعات :- تقویٰ کا تحقق انھیں دونوں پر موقوف ہے کہ آدمی معاصی کو ترک کرے، اس سے اجتناب کرے، اور طاعتوں پر کار بند رہے

یحبہم بمعنی یشیبہم :- محبت بمعنی اعطائے ثواب ہے، محبت کا یہ معنی باعتبار انتہا کے ہے، کیونکہ محبت اپنے ابتدائی درجات میں انفعال و تاثر ہے، جو ایک طرح کا نقص ہے، اور اللہ کی ذات تمام تر نقائص و عیوب سے پاک ہے، اور محبت اپنے آخری درجے کے اعتبار سے انعام و اکرام پر منتج ہے اس معنی کے لحاظ سے محبت خدائے تعالیٰ کے شایان شان ہے، پس مفسر نے اسی آخری درجے کے اعتبار سے محبت کا ترجمہ کیا ہے۔

ونزل فی الیہود لما بدلو انعت النبی الخ :- حضرت مفسر نے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثم ناقلوا الخ کے تین اسباب نزول اختصار کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں۔

اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں رسول ﷺ کے اوصاف و احوال کو واضح طور پر بیان فرمایا تھا۔ اور یہود کو اسی کا پابند کیا تھا کہ جب یہ نبی دنیا میں ظاہر ہوں، تو تم جہاں کہیں ہو، ان پر ایمان لانا، اس بات کو انھوں نے اس لئے بدل ڈالا کہ اگر عام لوگ ان اوصاف و احوال اور معاہدہ کی بنا پر رسول ﷺ پر ایمان لائے، تو ان سے جو آمدنی، نذرانے وغیرہ کی ہوا کرتی ہے، وہ بند ہو جائے گی اس آمدنی کو بچانے کے لئے انھوں نے کتاب اللہ میں تحریف کر ڈالی۔

دوسرا یہ کہ کسی شخص نے مقدمہ میں جھوٹی قسم کھائی تھی۔

تیسرا یہ کہ کسی نے مال کے بیچنے میں جھوٹی قسم کھائی تھی۔

یشترون :- اللہ کے عہد کے بدلے میں کوئی اشتراء تو بظاہر نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے عوض میں مالی منافع حاصل ہو رہے ہیں۔ اس لئے اسے اشتراء سے تعبیر کیا، یہ بمعنی استبدال ہے۔

يعطفونها بقراءته عن المنزل :- جس وقت قرآن کا نزول مسلسل ہو رہا تھا۔ اور بار بار یہود کا، توریت کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا، تو عوام یہود، اپنے اہل علم افراد سے سوال کرتے رہتے تھے، انھیں مجبوراً توریت پڑھ کر سنانی پڑتی تھی، تو جہاں سچی بات آتی، وہاں زبان کو توڑ مروڑ کر، گھما پھرا کر کچھ اور پڑھ دیتے، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ حالانکہ وہ ان کا گھڑا ہوا ہوتا اور وہ یہ سب جان بوجھ کر کرتے تھے۔

علماء عاملین منسوب الی الرب :- ربانی ان علماء کو کہتے ہیں، جو صاحب عمل ہوں، یہ نسبت رب کی جانب ہے، عظمت و تحمیم کے لئے اس میں الف اور نون کا اضافہ کر دیا ہے، جیسے موٹی گردن والے کو رقبائی، زیادہ بال والے کو شعرانی اور گھنی اور لمبی داڑھی والے کو لہجیانی کہا جاتا ہے۔

ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ربان کی طرف نسبت ہو۔ ربان معلم خیر اور سردار کو کہتے ہیں، اس میں الف اور نون وصف کے زیادہ ہونے کو بتانے کیلئے ہے، جیسے عطشان، ریان، جو عان وغیرہ، اس صورت میں اس میں یاء نسبتی کی بظاہر کوئی حاجت نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی مبالغہ کے لئے آتی ہے، جیسے احمر سے احمری کہتے ہیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی گمراہیوں اور ان کے سازشی خیالات پر اہل اسلام کو متنبہ فرمایا ہے، اور ان کی کجروی اور ہٹ دھرمی کا ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں نے باہم یہ سازش رچی کہ کچھ لوگ جا کر حضور کی خدمت میں مسلمان ہو جائیں، صبح کو یہ کام ہو تو شام تک اسلام کو ترک کر کے اپنے سابق دین کی طرف پلٹ جائیں، اس طرح مسلمانوں میں ایک ہلچل مچ جائے گی۔ اور ذرا بھی ایمان میں کمزوری ہوگی تو ان کو دیکھ کر وہ بھی پلٹ جائیں گے۔ سوچیں گے کہ جب یہ پڑھے لکھے لوگ اور آسمانی کتابوں کے عالم اس میں جا کر پلٹ گئے، تو ضرور اس میں کوئی خرابی ہوگی۔ اور یہ بھی انھوں نے باہم طے کیا کہ کتاب و حکمت اور نبوت کے ملنے کا اپنے ہم مذہب کے علاوہ کسی کے حق میں اقرار نہ کرو، خواہ وہ کوئی ہونبوت تو ہمارے ساتھ مختص ہے، پھر عرب میں کوئی نبی کیسے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت تو خدا کے ہاتھ میں ہے اور فضل بھی انھیں کے قبضے میں ہے، جسے چاہیں دیں، کوئی کون ہوتا ہے ان کا ہاتھ پکڑنے والا؟

ان اہل کتاب کے بعض افراد تو ایماندار ہیں کہ ان کے پاس ڈھیروں امانت رکھی جائے تو ذرا بھی خیانت نہیں کریں گے، اور بعض اتنے نادہند ہیں کہ ایک دینار بھی پا جائیں تو خیانت کرنے سے نہ چوکیں۔ الا یہ کہ ان کے سر پر سوار رہا جائے، اور ایسا کرنے کو حرام و ناجائز نہیں سمجھتے، اس لئے جری بھی بہت ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے

کہ اپنے ہم مذہبوں کے علاوہ سے ہر طرح کی خیانت درست ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی اجازت اللہ نے دی ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، یہ خیانت کیونکر جائز ہو سکتی ہے۔ البتہ جو لوگ اللہ کے عہد کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، اور تقویٰ پر کار بند ہیں تو یہی متقی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت انہیں حاصل ہے۔

جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر تھوڑی سی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے، ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔

اہل کتاب کی جرأت کا حال یہ ہے کہ کتاب اللہ کے پڑھنے میں زبان کو توڑ مروڑ کر اس میں تحریف کر دیتے ہیں اور اس تحریف شدہ مضمون کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے یہ بھی کتاب اللہ کا ایک حصہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں حالانکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا، اور جان بوجھ کر خدا پر بہتان باندھتے ہیں۔

عیسائیوں کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا کہ انہیں وہ اپنا رب مانیں، بعض مسلمانوں نے بھی حضور اکرم ﷺ سے آپ کے سامنے سر بسجود ہونے کی اجازت چاہی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ کسی بشر کو اس کا حق ہرگز نہیں ہے کہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت دی جائے اور پھر لوگوں سے یہ کہنے لگ جائے کہ اللہ کو چھوڑ کر اسے معبود بنا لیں، وہ تو یہ کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بنو کیونکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو، اور اسے یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ ملائکہ اور انبیاء کو خدا بنا لے گا حکم دے، کیا کسی کے لئے یہ جائز ہے کہ کسی کو مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے، نہیں ہرگز نہیں!



﴿وَ اذْکُرْ اِذْ حَیْنَ ﴿۱﴾ اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ النَّبِیِّیْنَ ﴿۲﴾ عٰہِدَہُمْ ﴿۳﴾ لَمَّا ﴿۴﴾ بَفَتْحِ اللّٰمِ لِلْاِبْتِدَآءِ
و توکید معنی القسم الذی فی اخذ الميثاق و کسرہا متعلقہ باخذ و ما موصولہ علی
الوجهین ای للذی ﴿۱﴾ آتیتکم ﴿۲﴾ ایہ و فی قراءۃ اتینکم ﴿۳﴾ مِنْ کُتُبٍ وَّ حِکْمَۃٍ ثُمَّ جَآءَ کُمْ
رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ ﴿۴﴾ مِنَ الْکِتَابِ وَالْحِکْمَۃِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ ﴿۵﴾ لَتُوْمِنُنَّ بِہِ وَ لَتَنْصُرُنَّہُ ﴿۶﴾
جواب القسم ان ادر کتموه و اممہم تبع لهم فی ذلک ﴿۱﴾ قَالَ ﴿۲﴾ تَعَالٰی لَہُمْ ﴿۳﴾ اَقْرَرْتُمْ ﴿۴﴾
بِذٰلِکَ ﴿۵﴾ وَ اَخَذْتُمْ ﴿۶﴾ قَبْلَتُمْ ﴿۷﴾ عَلٰی ذٰلِکُمْ اِصْرٰی ﴿۸﴾ عٰہِدٰی ﴿۹﴾ قَالُوْا اَقْرَرْنَا قَالْ فَاشْہَدُوْا ﴿۱۰﴾ عَلٰی
انفسکم و اتباعکم بذلک ﴿۱۱﴾ وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰہِدِیْنَ ﴿۱۲﴾ عَلَیْکُمْ و عَلَیْہُمْ ﴿۱۳﴾ فَمَنْ تَوَلٰی ﴿۱۴﴾
اَعْرَضَ ﴿۱۵﴾ بَعْدَ ذٰلِکَ ﴿۱۶﴾ الْمِیْثَاقِ ﴿۱۷﴾ فَاُوْلٰئِکَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ اَفْغِیْرَ دِیْنِ اللّٰهِ یَبْغُوْنَ ﴿۱۸﴾ بِالْاِیَّآءِ اٰی

المتولون والتاء ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ﴾ انقاد ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا﴾ بلا اباہ ﴿وَوَكَّرَهَا﴾
 بالسيف ومعاینہ ما یلجئى الیہ ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ بالتاء والیاء والهمزة للانکار ﴿قُلْ﴾ لهم
 یا محمد ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ
 الْأَسْبَاطِ﴾ اولادہ ﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾
 بالتصديق والتكذيب ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ مخلصون فی العبادۃ و نزل فیمن ارتد ولحق
 بالكفار ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ لمصيره
 الی النار المؤبدۃ علیہ ﴿كَيْفَ﴾ ای لا ﴿يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا﴾ ای
 وشهادتهم ﴿أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَقَدْ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ الحجج الظاهرات علی صدق النبی
 ﷺ ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ الكافرين ﴿أُولَٰئِكَ جزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ
 وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ ای اللعنة او النار المدلول بها علیها ﴿لَا يُخَفَّفُ
 عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ یمهلون ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾
 عملهم ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لهم ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم و نزل فی اليهود ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بعیسیٰ
 ﴿بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ بموسیٰ ﴿ثُمَّ ارْزَادُوا كُفْرًا﴾ بمحمد ﴿لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ اذا غرغروا او
 ماتوا کفاراً ﴿وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ
 مِلٌّءُ الْأَرْضِ﴾ مقدار ما یملاًها ﴿ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ﴾ ادخل الفاء فی خبر ان لشبه الذين
 بالشرط وایذانا بتسبب عدم القبول عن الموت علی الکفر ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
 مولم ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصِيرِينَ﴾ مانعین منه .

ترجمہ

(اور) یاد کرو (جب کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے) لمام کے فتح
 کے ساتھ ہے، یہ لام ابتداء ہے، اور اس قسم کے معنی کی تاکید کے لئے ہے، جو اخذ میثاق سے مفہوم ہوتی ہے،
 اور ایک قرآۃ میں لام کے کسرہ کے ساتھ ہے، اور اخذ کے متعلق ہے، اور مادونوں صورتوں میں موصولہ ہے،
 اور ایک قرأت میں بجائے ائتیکم کے آئیناکم بصیغہ جمع ہے (یعنی کتاب اور حکمت، پھر تمہارے پاس کوئی
 رسول آئے جو اس) کتاب و حکمت (کی تصدیق کرتا ہو، جو تمہارے پاس ہے) مراد اس سے محمد رسول اللہ ﷺ
 ہیں (تو تم ان پر ضرور ایمان لاؤ گے، اور ضرور ان کی نصرت کرو گے) یہ جواب قسم ہے، اگر تم ان کو پاؤ، اور ان کی
 امتیں اس سلسلے میں ان کی تابع ہیں (اللہ تعالیٰ نے) ان سے (فرمایا کہ کیا تم نے اس کا اقرار کیا، اور اس

پر میرے عہد کو لیا) یعنی قبول کیا (انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا) فرمایا (پس) اس بات کے (گواہ ہو جاؤ) اپنے اوپر بھی اور اپنے پیروی کرنے والوں پر بھی (اور میں تمہارے ساتھ) تم پر اور ان پر (گواہوں میں ہوں، تو جو کوئی اس عہد کے بعد روگردانی کرے گا، پس یہی لوگ فاسق ہیں، کیا یہ) روگردانی کرنے والے (اللہ کے دین کے علاوہ) کوئی دین (چاہتے ہیں) یسغون یساء کے ساتھ ہے، اور ایک قرأت میں تساء کے ساتھ بھی ہے (حالانکہ زمین و آسمان میں جو بھی ہے، سب خوشی سے) یعنی بغیر انکار کے (یا مجبوری سے) یعنی تلوار سے اور اس چیز کو دیکھ کر جو اسے مجبوراً طاعت کر دے (اسی کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں اور انہیں کی جانب تم سب پلٹائے جاؤ گے) تر جمعون تاء کے ساتھ بھی ہے، اور یاء کے ساتھ بھی اور افعیر میں ہمزہ انکار کیلئے ہے (تم) ان سے (کہدو) اے محمد (کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کہ ہم پر اتارا گیا، اور جو کچھ ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط) یعنی ان کی اولاد (پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان) تصدیق اور تکذیب کا (فرق نہیں کرتے، اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں) یعنی عبادت میں مخلص ہیں۔

اور جو لوگ مرتد ہو کر کفار میں شامل ہو گئے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت اتری کہ (اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہتا ہے تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ میں پڑے گا) کیونکہ اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا، جو اس پر دائمی عذاب بن کر رہے گا (اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دیں گے) یعنی ہدایت نہیں دیں گے (جس نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا حالانکہ اس نے گواہی دی تھی) یعنی اس بات کی گواہی دینے کے بعد (کہ رسول حق ہیں، اور) حال یہ ہے (اس کے پاس) نبی کی صداقت پر (واضح دلائل آچکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں) یعنی کافروں (کو راہ نہیں دکھاتے، یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس میں) یعنی لعنت میں، یا جہنم میں، جس پر لعنت کی دلالت التزامی ہے (ہمیشہ رہیں گے اور ان سے عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور) اپنے عمل کی (اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ) ان کے حق میں (غفور ہیں) ان پر (رحم فرمانے والے ہیں)

یہود کے بارے میں یہ آیت اتری کہ (بے شک جن لوگوں نے) عیسیٰ کے ساتھ (کفر کیا) موسیٰ پر (ایمان لانے کے بعد، پھر) محمد ﷺ کے انکار کی وجہ سے (کفر میں اور بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی) جب کہ وہ جانکنی کی حالت میں پہنچ جائیں یا کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہو جائے (اور یہی لوگ گمراہ ہیں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اور کافر ہی مر گئے، تو ان میں سے کسی کی طرف سے زمین بھر کر سونا) یعنی اتنی مقدار سونا جو

زمین کو بھردے (قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ فدیہ میں پیش کرے، ان کی خبر میں فاء کو اس لئے داخل کیا کہ الذین شرط کے مشابہ ہے، اور اس بات کی خبر دینے کے لئے کہ فدیہ کا قبول نہ ہونا، کفر پر موت کی وجہ سے ہے) یہی لوگ ہیں کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لئے کوئی مددگار (یعنی عذاب سے بچانے والا) نہیں ہے)

تشریحات

بفتح اللام الخ :- مفسر نے لما میں دو قرأت بتائی ہے، پہلی قرأت بفتح اللام ہے، یہ لام ابتدائی ہے جو تاکید کے لئے آتا ہے، عہد و پیمان کے ضمن میں قسم کا معنی شامل ہے، کیونکہ جو بھی پختہ عہد لیا جاتا ہے، وہ قسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس قسم کے معنی کی تاکید کیلئے لام تاکید آیا، اور ما موصولہ مبتدا ہے اور من کتاب و حکمة اس کا بیان ہے، اور آیتکم اس کا صلہ ہے، اور صلہ میں عائد محذوف ہے، جس کو مفسر نے اپنی تفسیری عبارت میں ایہا کہہ کر ظاہر کر دیا ہے، اور ثم جاء کم صلہ پر یعنی آیتکم پر عطف ہے، پس وہ بھی صلہ ہی ہے، اس کا بھی عائد مقدر ہے یعنی جاء کم بہ، بہ کی ضمیر مجرور ما آیتکم کی طرف راجع ہے، جو کہ مبتدا ہے، یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس صلہ میں عائد کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسم موصول جو کہ مبتدا تھا، خود اسی کا معنایاً عائد ہو گیا ہے، چنانچہ لما معکم میں ما موصولہ اسی کے معنی میں ہے، پس رابط کی ضرورت نہیں۔ اور خبر محذوف ہے، یعنی تو منون بہ و تنصرونہ اس کا قرینہ آگے جواب قسم ہے، یعنی لتو منن بہ الخ۔ ترجمہ اسی ترکیب کے اعتبار سے کیا گیا ہے۔

دوسری قرأۃ لام کے کسرہ کے ساتھ ہے، یہ لام تعلیلیہ حرف جر ہے، جو اخذ سے متعلق ہے اس صورت میں عبارت میں ایک مضاف محذوف ہوگا۔ عبارت یوں ہوگی۔ واذ اخذ اللہ میثاق النبیین لرعاية و حفظ ما آیتکم الخ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا ہے، تاکہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس کا اہتمام اور اس کی حفاظت ہو۔

وفی قرأۃ آیتناکم : آیتناکم کی قرأت لما میں لام کے فتح کی صورت میں ہے، کسرہ کی صورت میں ایک ہی قرأۃ آیتکم کی ہے، گویا بفتح اللام کی صورت میں دو قرأتیں ہیں بصیغہ واحد متکلم اور بصیغہ متکلم مع الغیر اور بکسر اللام کی صورت میں ایک ہی قرأت ہے بصیغہ واحد متکلم۔

وهو محمد :۔ ثم جاء کم رسول الخ سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک پیغمبر آخر الزماں ﷺ ہیں، اگرچہ لفظ میں یہ بھی احتمال ہے کہ ہرنبی سے دوسرے انبیاء کے بارے میں عہد لیا گیا ہو کہ جب کسی کو کسی کا زمانہ ملے تو اس پر ایمان لائیں، ان کی نصرت کریں، چنانچہ سعید بن جبیر، حسن بصری اور طاووس وغیرہ کا یہی قول ہے، لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک یہ عہد و میثاق ہرنبی سے محمد ﷺ کے متعلق لیا گیا ہے۔ یہ قول صحابہ میں حضرت علی، حضرت

ابن عباس کا ہے، وکفیٰ بہما قدوة .

واممہم تبع لہم :- ایمان و نصرت کا یہ عہد انبیاء کرام سے لیا گیا ہے، ان کے ضمن میں اس عہد و پیمان کے اندران کی امتیں بھی شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر تو اپنی دنیوی زندگی کے ماہ و سال پورے کر کے دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ان کی امتیں موجود ہوں گی، ان کو اس عہد کی پاسداری ضروری ہوگی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے حق تعالیٰ نے فرمایا فمن تولى بعد ذلك الخ ظاہر ہے کہ یہ بات انبیاء کے حق میں نہیں ہے کیونکہ وہ تو معصوم ہیں، ان سے روگردانی کا کوئی احتمال نہیں ہے، یہ روئے سخن امتوں ہی کی طرف ہے۔

انقاد الخ :- آسمان و زمین والے سب اللہ تعالیٰ کے مطیع و منقاد ہیں، انقیاد و طرح کا ہوتا ہے، ایک انقیاد تکوینی، دوسرے انقیاد تشریحی، انقیاد تکوینی یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا، وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا، مریض بنا دیا، تو وہ مریض ہے، گورا کالا جیسا بنایا ویسا ہی ہے، بارش، دھوپ، ہوا پانی وغیرہ امور تکوینیہ میں آدمی یکسر مطیع و منقاد ہے، کچھ لوگ ان سب امور پر خوشی سے راضی اور منقاد ہیں۔ اور کچھ جبراً و کرہاً منقاد ہیں کہ اس کے خلاف چل ہی نہیں سکتے، اس طرح دیکھا جائے تو زمین و آسمان کی تمام تر مخلوق اللہ کی مطیع منقاد ہے

اور انقیاد تشریحی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے جن احکام کا مکلف بنایا ہے، بندہ اپنے اختیار و ارادہ سے ان احکام کو بجالائے، یہ انقیاد صاحب اختیار مخلوق میں جو کہ مکلف ہے متصور ہے، یعنی انسان و جنات میں۔

مفسر نے اس آیت میں انقیاد تشریحی مراد لیا ہے، چنانچہ طوعاً کی تفسیر میں بلا ابراء کہا کہ بخوشی بغیر انکار کے اطاعت کرتے ہیں، اور کرہاً کی تفسیر میں بالسيف اور بمعاینة ما یدلجی، الیہ کہا کہ طاقت کا زور دیکھ کر اطاعت کرتے ہیں یا ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو انہیں اطاعت پر مجبور کرتی ہیں، مثلاً بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ان کے سر پر پہاڑ لٹکا دیا گیا ہے اور مثلاً فرعون جب ڈوبنے لگا اور عذاب کے فرشتے نظر آنے لگے تو کلمہ ایمان پکارنے لگا، یا مرتے وقت جب آخرت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں تو ہر آدمی مجبوراً ایمان لاتا ہے۔

لیکن یہ تفسیر اشکال سے خالی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان سے روگردانی کرنے والوں کو سمجھایا گیا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان کے تمام لوگ طوعاً ہو یا کرہاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، پھر تم کو بھی چاہئے کہ طوعاً اللہ کی اطاعت کرو، ظاہر ہے کہ انقیاد تشریحی زمین و آسمان کے تمام افراد میں نہیں پایا جاتا۔ پھر اس کا حوالہ دینا مشکل ہے، اسی لئے عام طور سے مفسرین نے اس سے انقیاد تکوینی مراد لیا ہے کہ اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے، چنانچہ جمل میں ہے فالمراد بهذا الانقیاد لما قدرہ علیہم من الحیاة والصحة والسعادة و اضدادھا فلا یرد کیف قال و له اسلم الآیة مع

ان اکثر الانس والجن کفرہ، مراد اس سے اس تقدیر کا انقیاد ہے جو اللہ نے ان پر مقرر فرمادی ہے، یعنی زندگی، صحت اور سعادت اور ان کے اضداد، اس صورت میں یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اکثر انسان اور جنات تو کافر ہیں، پھر ولہ اسلم الآیۃ کیوں کر کہا۔

والاسباط (اولادہ) : جس طرح بنی اسماعیل کی شاخوں کو قبائل کہتے ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل کی شاخوں کو اسباط کہا جاتا ہے، ان اسباط میں چونکہ پیغمبر بکثرت ہوئے ہیں، اسلئے فرمایا گیا کہ جو کچھ اسباط پر اتار گیا۔
بالتصدیق والتکذیب :۔ یہ جو کہا گیا کہ ہم ”انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے“ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان فرق مراتب فضائل و کمالات کے اعتبار سے نہیں کرتے، اس اعتبار سے فرق مراتب تو قرآن سے ثابت ہے، ارشاد تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض بلکہ مطلب یہ ہے کہ تصدیق و تکذیب کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے کہ کسی نبی کو مانیں، اس پر ایمان لائیں اور کسی نبی کو نہ مانیں اور اس کا انکار کریں، اہل ایمان کا یہ شیوہ نہیں ہے، ایک نبی کے انکار سے سب انبیاء کا انکار لازم آئے گا اور آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ خصوصیت صرف اسلام کی ہے، ورنہ یہودیت اور نصرانیت نے تو دل کھول کر انبیاء کے درمیان تصدیق و تکذیب کے لحاظ سے تفریق کی ہے۔

(کیف ای لا (یهدی اللہ) : کیف کی تفسیر میں لا کو ذکر کر کے مفسر نے یہ بتایا ہے کہ یہ استفہام انکار کے لئے ہے۔

ای وشہادتہم :۔ اشارہ ہے کہ و شہدوا کا عطف ایمانہم پر ہے، اور یہ فعل اسم کی تاویل میں ہے۔
ای اللعنة او النار المدلول بها علیہا :۔ خلدین فیہا میں ضمیر مونث کا مرجع اللعنة یا یہ کہ ”النار“ ہے، لیکن لفظ ”النار“ عبارت میں نہیں ہے، اس لئے فرمایا ”النار“ پر لعنت کا لفظ التزاماً دلالت کرتا ہے کیونکہ لعنت کے لئے جہنم لازم ہے۔

بعیسی :۔ یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور کفر میں گرے۔ پھر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا انکار کر کے اپنے کفر کو بڑھا لیا، اسی بات کو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفراً۔

اذا غرغروا وماتوا کفاراً :۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ توبہ تو کافر کی بھی قبول ہوتی ہے، پھر ان کافروں کی توبہ کیوں قبول نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ توبہ وہی قبول ہوتی ہے، جو صحیح ہو، اور توبہ صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ عالم غیب کے شہود ہونے سے پہلے توبہ کر لے، اور غرغره کی حالت میں جبکہ جان نکل رہی ہوتی ہے، موت و عذاب کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اور عالم آخرت کا ظہور ہونے لگتا ہے، اس وقت توبہ صحیح نہیں ہوگی،

اسی طرح موت کے بعد کی توبہ بھی صحیح اور مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **ولیس التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذاباً الیماً**۔ ان لوگوں کی توبہ صحیح نہیں ہے جو زندگی بھر برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب ان میں کسی کو موت آئی یعنی نزع کی حالت طاری ہوئی تو کہنے لگے کہ میں نے اس وقت توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ صحیح ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے

ادخل الفاء فی خبر ان الخ :۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملاً الارض ذهباً۔ اس آیت کی ترکیب میں بظاہر ایک اشکال ہے۔ وہ یہ ہے کہ **فلن يقبل من احدهم الخ** ان کی خبر ہے، اور **خبر فاء جزائیہ** کا محل نہیں ہوتی۔ جواب یہ ہے کہ ان کے اسم یعنی **الذين كفروا** میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا جب اسم موصول ہو، یا اسم موصول کی طرف مضاف ہو، اور صلہ جملہ فعلیہ ہو تو اس مبتدا میں شرط کا معنی شامل ہوتا ہے، اور اس کی خبر میں فاء جزائیہ کا لانا جائز ہوتا ہے، اور یہاں صورت حال یہی ہے، اس میں اس بات پر تشبیہ ہے کہ فدیہ کا قبول نہ ہونا اس لئے ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اس رکوع میں حق تعالیٰ نے اقوام و امم کو ان کا ایک عہد یاد دلایا ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے واسطے سے ان سے لیا گیا تھا، وہ یہ کہ اللہ نے ہر نبی سے عہد لیا تھا کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت عطا کی ہے، اگر تمہارے پاس وہ رسول پہونچے جو تمہاری کتاب و حکمت کی تصدیق کرتا ہو یعنی محمد ﷺ تو تم ان پر ایمان لانا، اور ان کی نصرت کرنا، اس عہد میں اتنی تاکید پیدا کی کہ فرمایا: کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، اور میرے اس عہد کو قبول کرتے ہو؟ سب نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ رہو میں بھی گواہ ہوں اور جو کوئی اس عہد سے روگردانی کرے گا، وہ فاسق ہے کھلی بات ہے کہ انبیاء سے تو اس روگردانی کا تصور بھی نہیں ہے، درحقیقت روئے سخن امتوں کی جانب ہے، کیا یہ انحراف کرنے والے اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ آسمان وزمین کی تمام مخلوقات اسی کے تابع فرمان ہیں، خواہ طوعاً ہو یا کرہاً اور سب کو وہیں لوٹ کر جانا ہے۔

اے نبی! ان سے کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا، اور جو کچھ ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو عطا ہوا، ہمارا سب پر ایمان ہے، ہم انبیاء میں اقرار و انکار کے لحاظ سے کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی کا اقرار کریں اور کسی کا انکار کریں۔ اور ہم اللہ کے مخلص فرمانبردار ہیں اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرتا ہے تو پروردگار کے نزدیک وہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ اور وہ آخرت میں خسارے میں رہے گا، جن لوگوں نے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی شہادت دینے

کے بعد کفر کو اختیار کیا، حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل بھی آچکے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کیوں کر راستہ دکھائیں گے، ظالم اسی طرح راستے سے محروم رہتے ہیں۔ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس میں یعنی لعنت میں یا جہنم میں جو لعنت کا نتیجہ ہے، ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر عذاب کی تخفیف کی جائے گی، اور نہ انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنے اعمال کو درست کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ یہود جو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کفر میں مبتلا ہوئے، اور حضور اکرم ﷺ کا انکار کر کے اپنے کفر کو بڑھا لیا، اور اسی حالت میں موت کی جاننی شروع ہوگئی، اور مر گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں، اور یہی لوگ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، جو لوگ کفر میں مبتلا ہوئے اور اسی حال میں مر گئے تو اگر وہ ساری زمین بھر کر سونا فدیہ کریں تو وہ بھی مقبول نہ ہوگا، ان کیلئے دردناک عذاب ہوگا، اور انہیں کوئی بچانے والا مددگار نہ ہوگا۔



﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ﴾ ای ثوابہ وهو الجنة ﴿حَتَّى تُنْفِقُوا﴾ تصدقوا ﴿مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ من اموالکم ﴿وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ فیجازی علیہ و نزل لما قال اليهود انک تزعم انک علی ملة ابراهيم و کان لا یاکل لحوم الابل والبانها ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا﴾ حلالاً ﴿لَبْنِيْ اِسْرَائِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ﴾ یعقوب ﴿عَلَى نَفْسِهِ﴾ وهو الابل لما حصل له عرق النساء بالفتح والقصر فنذر ان شفى لا یاکلها فحرم علیہ ﴿مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ﴾ و ذلك بعد ابراهيم و لم تكن علی عهدہ حراما کما زعموا ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿فَاتُوا بِالَّتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا﴾ لیتبین صدق قولکم ﴿اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ﴾ فیہ فبهتوا ولم یاتوا بها قال تعالیٰ ﴿فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلٰی اللّٰهِ الْكُذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ﴾ ای ظهور الحجۃ بان التحريم انما کان من جهة یعقوب لا علی عهد ابراهيم ﴿فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ المتجاوزون الحق الی الباطل ﴿قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ﴾ فی هذا کجميع ما اخبر به ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ﴾ الی انما علیہا ﴿حَنِيفًا﴾ مائلا عن کل دین الی دین الاسلام ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ و نزل لما قالوا قبلتنا قبل قبلتکم ﴿اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ﴾ متعبدا ﴿لِلنَّاسِ﴾ فی الارض ﴿لِلَّذِيْ بَيَّكَ﴾ بالباء لغة فی مكة سمیت بذلك لانها تبک اعناق الجبابرة ای تدقها بناه الملائكة قبل خلق آدم و وضع بعده الاقصر و بينهما اربعون سنة کما فی حدیث الصحیحین و فی حدیث انه اول ما ظهر علی وجه الماء عند خلق السموات والارض زبدة بیضاء فدحیت الارض من تحته

﴿مُبْرَكًا﴾ حال من الذی ای ذا برکة ﴿وَّ هُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾ لانه قبلتهم ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾
 منها ﴿مُقَامُ اِبْرَاهِيمَ﴾ ای الحجر الذی قام علیه عند بناء البيت فاطر قدماہ فیہ و بقى الى
 الآن مع تطاول الزمان و تداول الايدى عليه و منها تضعيف الحسنات فیہ وان الطير لا
 يعلوه ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ لا يتعرض له بقتل او ظلم او غير ذلك ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
 حِجُّ الْبَيْتِ﴾ واجب بكسر الحاء و فتحها لغتان فى مصدر حج بمعنى قصد و يبدل من
 الناس ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾ طريقا فسرہ صلی اللہ علیہ وسلم بالزاد والراحلة رواہ الحاکم و غیرہ
 ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ بِاللَّهِ او بما فرضه من الحج ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ الانس والجن
 والملائكة و عن عبادتهم ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ القرآن ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ
 عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾ فيجازيكم عليه ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ﴾ تصرفون ﴿عَنْ سَبِيلِ
 اللَّهِ﴾ ای دينه ﴿مَنْ آمَنَ﴾ بتكذيبكم النبى و كتم نعتہ ﴿تَبْغُونَهَا﴾ ای تطلبون السبيل
 ﴿عِوَجًا﴾ مصدر بمعنى معوجة ای مائلة عن الحق ﴿وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ﴾ عالمون بان الدين
 المرضی هو القيم دين الاسلام كما فى كتابكم ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ من الكفر
 والتكذيب وانما يؤخركم الى وقتكم فيجازيكم و نزل لما مر بعض اليهود على الاوس
 والخزرج فغاظه تالفهم فذكرهم بما كان بينهم فى الجاهلية من الفتن فتشاجروا و كادوا
 يقتتلون ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
 كَافِرِينَ ۚ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ استفهام تعجيب و توبيخ ﴿وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ
 رَسُولُهُ وَ مَن يَعْصِمُ﴾ يتمسك ﴿بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

ترجمہ

(تم ہرگز نیکی) یعنی اس کے ثواب اور وہ جنت ہے (کو نہیں پاسکتے، جب تک کہ ان چیزوں میں سے
 صدقہ نہ کرو، جن کو تم پسند کرتے ہو، اور جو کچھ تم صدقہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں) اس پر جزا
 عطا فرمائیں گے۔

یہود نے کہا کہ آپ کا گمان ہے کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہیں، حالانکہ وہ اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال
 نہیں کرتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا کہ (بنی اسرائیل کے لئے ہر کھانا حلال تھا، مگر وہ چیز جسے
 اسرائیل) یعقوب (نے توریت کے نزول سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا) اور وہ اونٹ تھا، انہیں عرق انسانا
 نون کے فتنہ اور قصر کے ساتھ ہے کا مرض لاحق ہوا، انھوں نے اللہ کے حضور نذر مانی کہ اگر مجھے شفا ہوگئی تو اونٹ کا

گوشت نہ کھاؤں گا، اس کے نتیجے میں اونٹ حرام ہوا۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے۔ ان کے عہد میں یہ حرام نہ تھا جیسا کہ ان لوگوں نے گمان کیا ہے (تم) ان سے (کہو کہ توریت کو لاؤ اور اسے پڑھو) تاکہ تمہارے قول کی صداقت کا پتہ چل جائے (اگر تم) اس بات میں (سچے ہو) پس وہ متحیر ہو کر رہ گئے اور توریت کو نہ لاسکے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا (تو جو کوئی اس کے بعد) یعنی اس بات کی دلیل ظاہر ہو جانے کے بعد کہ تحریم یعقوب کی طرف سے تھی، ابراہیم کے زمانے میں نہ تھی (اللہ پر جھوٹا افتراء کرے گا، تو یہی لوگ ظالم ہیں) یعنی حق سے باطل کی جانب تجاوز کرنے والے ہیں (تم کہہ دو کہ اللہ نے) اس بارے میں (سچی بات بتادی) جیسے اور بھی تمام سچی باتیں بتائی ہیں (تو ملت ابراہیم کی پیروی کرو) جس پر میں ہوں (وہ) ہر دین سے دین اسلام کی جانب (یکسو تھے اور مشرکین میں نہ تھے)

اور جب اہل کتاب نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا قبلہ تمہارے قبلہ سے پہلے کا ہے، تو آیت اتری کہ (بے شک پہلا گھر، جو لوگوں کے لئے) زمین میں عبادت گاہ (بنایا گیا، وہ وہ ہے جو بکہ میں ہے) مکہ میں ایک لغت ”بکۃ“ ہے باء کے ساتھ بکہ اس کا نام اس لئے رکھا گیا کہ وہ تبک اعناق الجبابرة سرکشوں کی گردن توڑ دیتا ہے، بک کے معنی توڑنے کے آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی تھی، اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ دونوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کرنا چاہا تو ابتداءً پانی کی سطح پر وہ ایک سفید جھاگ جیسا نمودار ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے نیچے سے زمین کو پھیلا دیا (برکت والا) یہ الذی سے حال ہے (اور ہدایت ہے دنیا والوں کے لئے) اس لئے کہ وہ ان کا قبلہ ہے (اس میں واضح دلائل ہیں) ان میں سے ایک (مقام ابراہیم ہے) یعنی وہ پتھر جس پر بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے تھے، اس پر ان کے قدموں کا نشان بن گیا، اور طویل زمانہ گزرنے اور بار بار لوگوں کے ہاتھ لگنے کے باوجود اب تک باقی ہے، اور انہیں آیات بینات میں سے نیکیوں کا المضاعف ہونا ہے، اور یہ کہ پرندہ اس کے اوپر سے اڑتا ہوا نہیں جاتا (اور جو کوئی اس میں داخل ہو گیا، وہ مامون ہو گیا) اس کے ساتھ قتل، ظلم وغیرہ کے ذریعہ تعرض نہیں کیا جاسکتا (اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا قصد لازم ہے) حج حاء کے کسرہ اور فتح کے ساتھ ہے، حج کے مصدر میں یہ دو لغت ہے قصد کرنے کے معنی میں ہے، اور الناس کا بدل یہ ہے (جو وہاں تک جانے کی قدرت رکھتا ہو) اس قدرت کی تفسیر رسول اللہ ﷺ نے زاد و راہلہ سے کی ہے، رواہ الحاکم وغیرہ (اور جو کوئی) اللہ کا یا اللہ کے فرض کئے ہوئے حج کا (انکار کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے) یعنی انسان، جنات اور ملائکہ اور ان کی عبادتوں سے (مستغنی ہیں، تم کہو: اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو) یعنی قرآن کا (حالانکہ جو کچھ تم

کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے شاہد حال ہیں) وہ تمہیں اس پر سزا دیں گے (تم کہو! اے اہل کتاب تم اللہ کی راہ سے) یعنی اس کے دین سے (ایمان لانے والوں کو کیوں روکتے ہو) یہ روکنا اس طرح ہے کہ تم نبی کی تکذیب کرتے ہو اور ان کے اوصاف و حالات کو چھپاتے ہو (اور کجی والا راستہ تلاش کرتے ہو) عوج مصدر ہے بمعنی اسم مفعول معوجة یعنی حق و صداقت سے منحرف راستہ (حالانکہ تم جانتے ہو) کہ پسندیدہ دین فقط دین قیم، دین اسلام ہے، جیسا کہ تمہاری کتاب میں اس کی تصریح ہے (اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہیں) یعنی کفر و تکذیب سے وہ تمہیں تمہارے وقت مقررہ تک مہلت دیئے ہوئے ہیں تاکہ تمہیں اس کا بدلہ دیں۔ ایک یہودی اوس و خزرج کے پاس سے گزرا، ان کی باہمی محبت اور بھائی چارگی دیکھ کر وہ بہت برہم ہوا، اس نے ان کے درمیان ان فتنوں اور لڑائیوں کا تذکرہ چھیڑ دیا جن میں عہد جاہلیت میں وہ مبتلا تھے، ان لڑائیوں کا ذکر ہونا تھا کہ یہ لوگ باہم الجھ گئے، اور قریب تھا کہ قتل و قتال کی آگ بھڑک اٹھتی، اس پر آیت اتری (اے ایمان والو! اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مان لو گے، تو یہ تم کو ایمان کے بعد کافر بنا کر چھوڑیں گے، اور تم کیونکر کفر کرو گے) یہ استفہام تعجب و توبیح کا ہے (حالانکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت ہوتی ہے، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اور جو کوئی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے، اسے سیدھے راستے کی ہدایت حاصل ہوگی)۔

تشریحات

ثوابہ: - مفسر نے ثواب کا لفظ ذکر کرے بتایا کہ نیکی پانے کا مطلب نیکی کا ثواب ہے، گویا البر مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف ثواب ہے جو محذوف ہے۔

من اموالکم: - یہ مما تحبون کا بیان ہے یعنی جو چیز محبوب اور پسندیدہ ہو اسے خرچ کیا جائے، گھٹیا مال بالقصد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بے ادبی ہے۔

فیجازی علیہ: و ما تنفقوا کا جواب ہے، اور فان اللہ بہ علیم اس جواب کی تعلیل ہے، یعنی جو بھی تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیں گے کیونکہ وہ سب ان کے علم میں ہے، اور جیسا مال خرچ ہوگا، ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ یعقوب: - حضرت اسرائیل کا دوسرا نام یعقوب ہے، یہ حضرت ابراہیم کے فرزند، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، ان کے بارہ بیٹے ہوئے انہیں بیٹوں کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔

لما حصل له عرق النسا: . النسا بفتح النون وبالالف المقصورة ہے، یہ ایک رگ ہے جو کولہے سے چل کر ان کے اندر ہوتی ہوئی گھٹنے تک آتی ہے، اس کا درد بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب کو اس کی تکلیف ہوئی، تو انہوں نے اللہ کے حضور نذر مانی کہ اگر میں اس مرض سے شفا یاب ہو گیا تو کھانے پینے کی جو چیزیں مجھے سب سے زیادہ مرغوب ہے، ان سے اللہ کے حق میں دستبردار ہو جاؤں گا، چنانچہ وہ اچھے ہو گئے تو

اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، ان کے اتباع میں ان کی اولاد میں بھی اونٹ کا گوشت اور دودھ متروک ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو کھلی بات ہے کہ یہ نذر والی تحریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں ہوئی خود ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کی حرمت کا کوئی سوال ہی نہیں، لیکن یہود دھاندلی کرتے تھے، اور بعد والی چیز اگلے بزرگوں کے نام تھوپ دیتے تھے، جیسے گزر چکا ہے کہ انھوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ یہودی تھے، اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ وہ عیسائی تھے حالانکہ ان کے دور میں نہ یہودیت کا گزر تھا اور نہ عیسائیت کا۔

التی انا علیہا :- جب بات تسلیم ہوگئی کہ ملت ابراہیم قابل اتباع ہے، اس پر یہود و نصاریٰ کا بھی اتفاق ہے، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتادی کہ ملت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام نہ تھا تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آؤ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اور وہ وہی ملت ہے جس پر اس وقت رسول اللہ ﷺ ہیں۔
متعبدا: - یہاں مطلق گھر بنانے کا ذکر نہیں ہے بلکہ عبادت گاہ بنانے کا ذکر ہے، اس کو مفسر نے متعبدا (عبادت گاہ) کہہ کر ظاہر کر دیا ہے۔

بالباء لغة في مكة :- مکہ کا دوسرا نام ”بکہ“ ہے بک بک کے معنی توڑ دینے کے آتے ہیں، یہ شہر چونکہ بڑے بڑے متکبرین کی گردن توڑ کر رکھ دیتا ہے اس لئے اسے بکہ کہتے ہیں، اور مکہ اس لئے کہتے ہیں کہ مک یمک کے معنی چوس لینے کے آتے ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں مک الفصیل ضرع امہ، بچے نے اونٹنی کا تھن چوس لیا، چونکہ یہاں پانی کم ہے، اس زمین نے سب پانی چوس لیا ہے، اس لئے اس کا نام مکہ ہے۔
انه اول ما ظهر :- بیت اللہ شریف کی زمین اولاً پانی میں بشکل سفید جھاگ ظاہر ہوئی، اس کے نیچے سے زمین پھیلائی گئی، اسی مناسبت سے اس جگہ کو ام القریٰ کہتے ہیں۔

فاثر قدماء فيه :- کعبہ کی دیواریں جب بلند ہوئیں تو ضرورت ہوئی کہ کوئی اونچی چیز ہو، جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام ہو سکے، اس کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسمعیل سے ایک پتھر منگایا، وہ ایک اچھا سا پتھر لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی اس پر چڑھے، وہ نرم ہو گیا اور ان کا پیر ٹخنوں تک اس میں دھنس گیا۔ یہ نشان آج تک باقی ہے۔ حالانکہ اس پر کئی ہزار سال گزر گئے ہیں اور ان ہزاروں سالوں میں نہ جانے کتنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ ہوا ہوگا۔

ومنہا تضعیف الحسنات :- حرم میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہوتا ہے۔

وان الطير لا يعلوه :- پرندے اوپر سے اڑتے ہوئے جاتے ہیں، تو جب کعبہ کی محاذات میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے اوپر سے اڑتے ہوئے نہیں جاتے بلکہ کتر کر نکلتے ہیں، ہاں کوئی مریض ہوتا ہے تو اس کی فضا میں

داخل ہوتا ہے اور اسے شفا حاصل ہوتی ہے۔

لا یتعرض الیہ بقتل او ظلم :- حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی رب اجعل هذا بلداً آمناً، اے اللہ سے شہر امان بنا دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے شہر امان بنا ہی دیا، جو کوئی مجرم قتل کا ہو یا زنا وارتداد کا ہو، باہر سے مجرم بن کر آیا ہے تو اس سے اس ”شہر امن“ میں قصاص وغیرہ نہیں لیا جائے گا، اگر سزا ضروری ہوگی تو اس پر ایسے حالات پیدا کر دیئے جائیں گے کہ وہ مجبور ہو کر اس شہر کو چھوڑے، پھر جو سزا دینی ہوگی دی جائیگی۔ ہاں اگر کوئی جرم کر کے داخل نہیں ہوا، بلکہ حرم ہی میں جرم کیا ہے تو وہ اس آیت میں داخل نہیں۔ حرم کے اندر اگر نیکی بڑی ہوتی ہے تو جرم بھی اسی حساب سے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو حرم کے مجرم کو حرم کے اندر ہی سزا دی جائے گی۔

واجب :- علی لزوم کیلئے ہے۔ اس سے وجوب کا معنی ثابت ہوا۔

لغتان :- حَجُّ الْبَيْتِ اور حَجُّ الْبَيْتِ دو قرأتیں ہیں۔

فسرہ صلی اللہ علیہ وسلم بالزاد والراحلة :- من استطاع الیہ سبیلاً کی تفسیر رسول کریم ﷺ نے زاد وراحلہ سے کی ہے، زاد سفر خرچ ہے اور راحلہ سواری ہے، یعنی اپنے گھر سے حرم تک جانے، وہاں مدت مقررہ تک رہنے، اور پھر واپس آنے تک کے اخراجات ہوں، اور پھر اتنے دنوں تک اس کے اہل و عیال، یعنی بیوی، نابالغ اولاد، اور جن کا نفقہ ان کے ذمے شرعاً واجب ہو، ان سب کے اخراجات موجود ہوں اور سواری کا انتظام بھی ہو، تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں مدینہ جانے کے اخراجات شامل نہیں ہیں اور نہ بالغ اولادوں کے۔

بتکذیبکم النبی وکتبہ نعتہ :- یہود اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لانے کا ارادہ کرتے تھے، مختلف حیلوں سے روکتے تھے، ایک حیلہ یہ تھا کہ نبی ﷺ کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیتے تھے، اس طرح لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتے تھے کہ یہ لوگ آسمانی کتابوں کے عالم ہیں۔ ان کے پاس ضرور کوئی شناخت ہوگی، جس کی وجہ سے یہ جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ اس سے ایمان والوں کے دل میں بھی کمزوری پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جو ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کے ارادے میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔

دوسرا حیلہ یہ کہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ ﷺ کے جو حالات و کمالات لکھے ہوئے ہیں اور اب ان کا ہو بہو مصداق سامنے ہے۔ ان اوصاف کو چھپانے کا اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں لوگ اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔

تطلبون السبیل :- تبغونہا میں ہا ضمیر کا مرجع ”سبیل“ ہے اور یہ لفظ تذکیر اور تانیث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔

مصدر بمعنی معوجة :- عوجا مصدر ہے، لیکن اسم مفعول کے معنی میں ہے، یعنی معوجة ترکیب میں یہ

حال ہے۔ یعنی سیدھا راستہ موجود ہے، مگر اسے چھوڑ کر ٹیڑھے راستے کی تلاش میں سرگرداں ہیں، حالانکہ انہیں خوب معلوم ہے کہ سیدھا راستہ وہ یہی دین اسلام ہے۔

بعض الیہود :- جمل میں ہے کہ وہ شناس بن قیس تھا، خازن میں حضرت زید بن اسلم سے نقل کیا ہے شناس بن قیس بڑا خبیث اور بد باطن بڑھا یہودی تھا، وہ مسلمانوں کی باہمی الفت دیکھ کر جلتا تھا۔ ایک بار انصار مدینہ کے دو قبیلے اوس و خزرج کے کچھ لوگ اکٹھے اور بیٹھے ہوئے محبت و بھائی چارگی کی فضا میں گفتگو کر رہے تھے، جبکہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان دور جاہلی میں سخت لڑائیاں رہ چکی ہیں، اسے مسلمانوں کا یہ دوستانہ پاکیزہ ماحول بہت ناگوار ہوا، اس نے باتوں باتوں میں ان جاہلی لڑائیوں کا ذکر چھیڑ دیا اور اس دور میں جو شعلہ بار نظمیں دونوں طرف کے لوگوں نے لکھی تھیں، انہیں دہرانے لگا، اس کی ان باتوں سے فضا گرم ہونے لگی اور جو دوستانہ ماحول بنا ہوا تھا اس میں غیظ و غضب کی چنگاریاں اڑنے لگیں۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں پھر سے جنگ ٹھن جائے گی، یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپ فوراً کچھ مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ کے آتے ہی شیطان بھاگ گیا، غیظ و غضب کے شرارے، رحمت کی پھوار میں تبدیل ہو گئے۔ آپ کی پرسوز تلقین نے دلوں میں ندامت کے جذبات اور آنکھوں میں آنسوؤں کی لہر پیدا کر دی، سب گلے ملے، ایک دوسرے سے معافی مانگی، اور فضا خوشگوار ہو گئی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ **فما رأیت يوماً اقبح اولاً واحسن آخراً من ذلک الیوم**۔ میں نے اس دن سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں دیکھا جس کا آغاز اتنا برا ہو اور انجام اتنا اچھا ہو، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

استفہام تعجیب و توبیخ :۔ کیف تکفرون صورۃً تو استفہام ہے، مگر استفہام مقصود نہیں ہے، بلکہ اظہار تعجب ہے اور سرزنش ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اوپر یہ ذکر آیا تھا کہ کفر کے ہوتے ہوئے، اگر زمین بھر کر کوئی سونا بطور فدیہ کے، یا بطور صدقہ کے دے دے، تب بھی اس کا کچھ نفع نہ ہوگا، نہ وہ قبولیت کی سعادت پائے گا۔ اسی کی مناسبت سے یہاں یہ بتایا گیا کہ نفع دینے والی چیز کیا ہے، فرمایا کہ کامل نیکی اور وفاداری، نیز اس کا صلہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا۔ جب تک آدمی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دے ایمان کی کسوٹی اور وفاداری کا معیار یہی ہے کہ اللہ کے لئے اپنے محبوب ترین چیز سے دستبردار ہو جایا جائے، اور جو کوئی بھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ یہی وہ بات تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب عرق النسا کی شدید بیماری لاحق ہوئی، اور کسی دوا سے وہ اچھی نہیں ہوئی تو انھوں نے اللہ کے حضور نذر مانی کہ اگر مجھے شفا حاصل ہو جائے گی، میں اپنی محبوب ترین غذا

اپنے اوپر حرام کر لوں گا، چنانچہ وہ شفایاب ہو گئے تو انھوں نے نذر پوری کی، اور اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ اپنے اوپر حرام قرار دے لیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حرام رہا ہو، اس لئے یہود جو الزام دیتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، حالانکہ وہ ملت ابراہیمی میں حرام ہے، غلط ہے، اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب نے اپنی نذر کی تکمیل کیلئے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس کا کوئی تعلق ملت ابراہیم سے نہیں ہے، اچھا گرم سچے ہو تو توریت لا کر اس میں یہ مضمون دکھاؤ، اور تم ہرگز یہ بات توریت میں نہیں دکھا سکتے تو خوب سمجھ لو کہ اللہ پر جھوٹا افتراء کرنے والا بڑا ظالم ہے۔ اللہ کی بات حق ہے، آؤ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، جیسا کہ تم اس کے مدعی ہو، وہ بلاشبہ حنیف تھے، اور شرک سے بہت دور اور بیزار تھے، ہم بتاتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کے جو تم مدعی ہو تو اس پر تمہارا عمل کتنا ہے، ملت ابراہیم میں قبلہ وہ گھر ہے جو عبادت کے واسطے زمین میں سب سے پہلے تعمیر کیا گیا ہے، یعنی خانہ کعبہ جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے وہ برکتوں والا ہے، سارے جہان کے لئے ہدایت کا سامان ہے، اس میں واضح نشانیاں اور دلائل ہیں، جن سے اس کا اول و اقدم اور افضل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو اس میں مقام ابراہیم ہے۔ جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی ہے، پھر یہ کہ اس کی ابتدائی تعمیر آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کے ہاتھوں ہوئی ہے، بیت المقدس تو اس کے بعد تعمیر ہوا، نیز اس کی تعمیر حضرت ابوداؤد اور سلیمان علیہما السلام کے ہاتھوں ہوئی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد ہوئے ہیں، پھر تمہارا دعویٰ ملت ابراہیمی کہاں گیا؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے چڑھ کر کعبہ مقدسہ کی دیواریں بلندی پر پہنچائی تھیں، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان پڑ گیا تھا۔ وہ آج بھی باقی ہے، پھر یہ کہ اس میں حسنت لاکھ گنا تک بڑھتی ہیں۔ پرندے بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ ٹھیک اس کے اوپر سے نہیں اڑتے، اور وہ امن و امان کی جگہ ہے، کوئی مستحق سزا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے تو مامون ہو جاتا ہے، اور اللہ کے لئے اس گھر کی زیارت اور حج قدرت و مقدرت والوں پر واجب ہے، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان؟ وہ تو دنیا سے دنیا والوں سے اور دنیا والوں کی عبادتوں سے بے نیاز اور مستغنی ہیں۔

اے نبی آپ ان اہل کتاب سے کہئے کہ تم جان بوجھ کر اللہ کی آیات یعنی قرآن کریم کا انکار کیوں کرتے ہو، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو، تمہاری تکذیب کی وجہ سے اور تمہارے کتمان علم (علم کو چھپانے) کی وجہ سے، جو لوگ حق کی راہ چلنا چاہتے ہیں ان میں ہچکچاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، آخر سیدھی راہ کو جانتے ہو، اس سے بخوبی واقف ہو پھر اسے چھوڑ کر ٹیڑھا میڑھا راستہ کیوں طلب کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں سے غافل نہیں ہیں۔ لیکن یہ حق کی راہ کیا اختیار کرتے، اور اس کی رہنمائی کیا کرتے، ان کے دلوں میں تو حسد کی

آگ جل رہی ہے کہ اہل ایمان کا اتفاق و اتحاد انہیں سخت ناگوار ہوتا ہے۔ اتنا ناگوار کہ ایک بد بخت نے اپنی اشتعال انگیزی سے محبت و الفت کے ماحول کو نفرت و عداوت کی آگ میں جھونک دینا چاہا تھا۔ قریب تھا کہ مسلمانوں میں کشت و خون ہو جائے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا۔ نبی ﷺ تشریف لائے، اور بات رفع دفع ہو گئی بلکہ محبت کے جذبات تازہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو متنبہ کیا کہ اگر کبھی تم نے ان اہل کتاب میں کچھ لوگوں کی بات مان لی تو سمجھ لو کہ یہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے اور تم سوچو کہ کیا تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اس کے باوجود تم کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے، سیدھا راستہ بس یہی ہے کہ اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو۔



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ بان يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر
 فلا ينسى فقالوا يا رسول الله و من يقوى على هذا فسخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم ﴿وَلَا
 تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ موحدون ﴿وَاعْتَصِمُوا﴾ تمسكوا ﴿بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ اى دينه
 ﴿جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ بعد الاسلام ﴿وَأذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ انعامه ﴿عَلَيْكُمْ﴾ يا معشر الاوس
 والخرج ﴿إِذْ كُنْتُمْ﴾ قبل الاسلام ﴿أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ﴾ جمع ﴿بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾ بالاسلام
 ﴿فَأَصْبَحْتُمْ﴾ فصرتم ﴿بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ فى الدين والولاية ﴿وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا﴾ طرف
 ﴿حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ﴾ ليس بينكم و بين الوقوع فيها الا ان تموتوا كفارا ﴿فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾
 بالايمان ﴿كَذَلِكَ﴾ كما بين لكم ما ذكر ﴿يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلِتَكُنْ مِنْكُمْ
 أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ الاسلام ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ﴾
 الداعون الآمرون الناهون ﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الفائزون ومن للتبعيض لان ما ذكر فرض
 كفاية لا يلزم كل الامة ولا يليق بكل احد كالجاهل و قيل زائدة اى لتكونوا امة ﴿وَلَا
 تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا﴾ عن دينهم ﴿وَاخْتَلَفُوا﴾ فيه ﴿مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ وهم
 اليهود والنصارى ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ اى يوم
 القيامة ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ وهم الكفرون فيلقون فى النار ويقال لهم توبيخا
 ﴿اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ يوم اخذ الميثاق ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ
 ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ وهم المؤمنون ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ اى جنته ﴿هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ﴾
 اى هذه الآيات ﴿آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ﴾ يا محمد ﴿بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا

لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱﴾ بَانَ يٰۤاٰخِذْهُمۡ بِغَيْرِ جَرۡمٍ ﴿۲﴾ وَّلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ﴿۳﴾ مَلٰكًا وَّ خَلْقًا وَّ عِبَادًا ﴿۴﴾ وَّ اِلٰى اللّٰهِ تُرْجَعُ ﴿۵﴾ تَصِيْرًا ﴿۶﴾ الْاُمُوْرُ ﴿۷﴾

ترجمہ

(اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا واقعی اس سے ڈرنا چاہئے) کہ ان کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ ہو، ان کا شکر ادا کیا جائے ناشکری نہ ہو، انہیں یاد رکھا جائے، انہیں بھولا کبھی نہ جائے، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول! اس تقویٰ پر کسے قدرت ہوگی۔ تب یہ حکم فاتقوا اللہ ما استطعتم سے منسوخ ہو گیا (اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم) موحد (ہو، اور اللہ کی رسی) اس کے دین (کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور) اسلام لانے کے بعد (متفرق نہ ہوؤ، اور اپنے اوپر) اے اوس و خزرج (اللہ کے احسان کو یاد کرو، جب تم) اسلام سے پہلے (باہم دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے قلوب کے درمیان) اسلام کی وجہ سے (محبت پیدا کر دی، پس تم اس کے فضل و احسان سے) دین میں اور حمایت و نصرت میں (بھائی بھائی ہو گئے، اور تم لوگ جہنم کے گڈھے کے کنارے پر تھے) کہ تمہارے درمیان اور اس گڈھے میں گرنے کے درمیان بجز حالت کفر میں موت کے اور کوئی رکاوٹ نہ تھی (پس) ایمان کے ذریعہ (تم کو اس سے بچالیا) جیسے تمہارے لئے مذکورہ چیزیں بیان کی گئی ہیں (ایسے ہی تمہارے لئے اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتے ہیں، شاید تم لوگ ہدایت پر آ جاؤ، اور ضروری ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو خیر) یعنی اسلام (کی طرف دعوت دے اور معروف کا حکم کرے اور منکر سے روکے، یہی) دعوت دینے والے، حکم دینے والے، روکنے والے (کامیاب ہیں) من تبعیض کے لئے ہے، کیونکہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے، وہ فرض کفایہ ہے، پوری امت کو لازم نہیں ہے، اور نہ ہر ایک کے مناسب ہے، جیسے جاہل، اور کہا گیا ہے کہ من زائد ہے، یعنی ضروری ہے کہ تم ایسی امت بنو (اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے تفرق اختیار کیا) یعنی اپنے دین سے (اور) اس میں (واضح دلائل کے آجانے کے بعد اختلاف کیا) اور وہ یہود و نصاریٰ ہیں (اور یہی لوگ ہیں جن کے لئے بڑا عذاب ہے، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے) یعنی قیامت کے دن (تو جن کے چہرے سیاہ ہو گئے) اور یہ کفار ہوں گے، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ان سے تو بیخا کہا جائے گا (کیا تم نے) میثاق والے دن کے (ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا، تو اپنے کفر کی وجہ سے عذاب چکھو، اور جن کے چہرے روشن ہوئے) اور یہ اہل ایمان ہیں (وہ اللہ کی رحمت میں) یعنی جنت میں ہیں (اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ) یعنی یہ آیات (اللہ کی آیات ہیں) اے محمد (ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے) کہ بغیر جرم کے ان کی گرفت فرمائیں (اور اللہ ہی کے لئے ہے، جو کچھ کہ آسمان میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے) ملکیت کے لحاظ سے بھی خلقت کے لحاظ

سے بھی، اور غلامی کے اعتبار سے بھی۔ (اور اللہ ہی کی طرف امور لوٹائے جاتے ہیں)

﴿ تشریحات ﴾

بان يطاع ولا يعصى :- تقویٰ کا حق تو یہی ہے کہ اطاعت بغیر معصیت کے ہو۔ شکر بغیر ناشکری کے ہو، اور ذکر بغیر نسیان اور غفلت کے ہو، مگر اس مرتبہ تک پہنچنے کی کس کو طاقت ہے، پس اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اور سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا: فاتقوا الله ما استطعتم جس قدر تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو، مفسر نے طاہر کے اعتبار سے اس آیت کو نسخ قرار دیا ہے۔ مگر بغور دیکھئے تو نسخ نہیں ہے بلکہ یہ حق تقویٰ کے حصول کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، جس وقت، جس قدر استطاعت ہو، تقویٰ اختیار کرنے میں کمی نہ کرو، زندگی کے ہر مرحلہ میں انسان جب اس پر کار بند ہوگا، تو جیسا تقویٰ چاہئے حاصل ہو جائے گا، کیونکہ مسلسل عمل سے ہر لحظہ اس میں ترقی اور پختگی ہوتی چلی جائے گی۔

موحدون :- موت کے وقت جب کہ تمام اعمال کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت اسلام یعنی فرمانبرداری کی یہی شکل متعین ہے کہ آدمی اپنے دل میں توحید کے اعتقاد کو جما کر رکھے، یہاں ایک سرسری سا اشکال ہے کہ کسی حالت پر مرنا انسان کی اختیاری بات نہیں ہے، پھر حالت توحید میں مرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے۔

جواب: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت تک اسلام و توحید پر قائم رہو، زندگی کے آخری لمحات تک انسان کا اختیار عمل کرتا ہے، پس اسلام پر دوام رہنا چاہئے، اور جب یہ دوام ہوگا تو موت اسی حالت پر آئے گی، جس پر زندگی گزری ہے۔ زندگی کے تمام تر اختیار کے ساتھ موت کی چند لمحوں کی بے اختیاری بھی، برنگ اختیار ہی ہو جائے گی۔ ان شاء اللہ۔

ای دینہ :- جبل کے معنی رسی کے ہیں، یہاں مراد اللہ کا دین ہے یا قرآن ہے، جس طرح رسی پکڑ کر انسان گرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے ذریعہ بلندی پر چڑھ جاتا ہے، اسی طرح دین، قرآن جو آسمان سے اترا ہوا ہے، اسے تھام کر انسان جہنم میں گرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بلکہ جنت کے درجات حاصل کرتا ہے۔

یا معشر الاوس والخزرج :- اوس اور خزرج مدینہ کے بت پرست باشندوں کے دو بڑے قبیلے تھے، یہود ان دونوں کو باہم برسر پیکار رکھتے تھے۔ مدتوں دونوں میں جنگیں چلتی رہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو تشریف آوری کی دعوت دی۔ آپ کا آنا تھا، اور اسلام کا پھیلنا تھا کہ عداوتیں کا فور ہو گئیں، لڑائیاں موقوف ہو گئیں، اب دونوں باہم شیر و شکر ہو گئے۔ یہود کو یہ بات بری لگی، انہوں نے فتنہ انگیزی کی، اوپر ذکر آیا ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ دونوں میں پھر سے جنگ ٹھن جاتی، اللہ کے رسول

نے شیطان کے اثرات کو دفع کیا، چونکہ آیت کا سبب نزول اسی واقعہ کو تحریر کیا گیا ہے، اس لئے علیکم کا مخاطب بطور خاص اوس و خزرج کو قرار دیا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بات تمام صحابہ کرام پر منطبق ہے، کیونکہ ان سب کا حال عہد جاہلیت میں وہی تھا جو اوس و خزرج کا تھا

فی الدین والولاية :- بھائی چارگی دین میں اور حمایت و نصرت میں ایسی قائم ہوئی کہ خونی رشتہ اس کے سامنے ماند پڑ گیا، بلکہ ایک مرحلہ تو ایسا بھی آیا کہ وراثت میں بھی شرکت قرار پا گئی تھی۔

ومن للتبعيض .: ولتكن منكم میں من تبعیضیہ ہے، کیوں کہ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پوری امت پر نہیں ہے بلکہ امت کے بعض افراد اس کے ذمہ دار ہیں، بلکہ مفسر نے فرمایا، سب لوگ اس لائق بھی نہیں ہیں کہ وہ اس فریضہ کو انجام دیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں، جب وہ شرطیں موجود ہوں گی تو یہ فریضہ عائد ہوگا، ورنہ عائد تو کیا ہوتا جائز بھی نہ ہوگا، بنیادی شرط، اس کے لئے علم ہے، یعنی دعوت اور امر و نہی کے مواقع کو جانتا ہو، اور خود یہ بھی جانتا ہو کہ معروف کیا ہے؟ اور منکر کیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ جاہل ہے تو اسے یہ کام جائز نہیں ہے۔

وقیل زائدة : کہا گیا ہے کہ ولتكن منكم میں من زائد ہے، یعنی ولتكونوا امة يدعون الی الخیر الخ تم ایسی امت بنو، جو دعوت الی الخیر کرے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فریضہ پوری امت پر عائد ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ فریضہ فرض کفایہ ہے، کچھ اس فریضہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھالیں تو باقی لوگوں پر سے ساقط ہو جاتا ہے، اگر کوئی نہ کرے تو مواخذہ سب سے ہوگا، لیکن جس طرح نماز کے لئے وضو وغیرہ کی شرط سب کے لئے ہے، بغیر ان شرطوں کو پورا کئے نماز جائز نہیں، اسی طریقے سے دعوت اور امر و نہی کیلئے بھی شرطیں ہیں جیسے علم وغیرہ ان کی تکمیل کے بغیر عمومی طور پر یہ فریضہ جائز نہ ہوگا۔

عن دینہم : . ولا تكونوا كالذین تفرقوا میں تفرقوا سے مراد مطلق اختلاف نہیں ہے، بلکہ دین سے الگ ہو جانا ہے، دین سے الگ آدمی اسی وقت ہوتا ہے، جب بنیادی اصول اور عقائد میں الگ راستہ اختیار کرے، تو حاصل یہ نکلا کہ اصول و عقائد میں اختلاف نہ کرو، یہ چیز دین سے الگ کر دے گی، اور وہ اختلاف جو فروع کے اندر ہے، اس کا وجود دور رسالت سے ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بشرطیکہ نص صریح غیر منسوخ کے خلاف نہ ہو۔

وہم الیہود والنصارى : . كالذین تفرقوا سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں، انہوں نے باہم اصول دین میں اور عقائد میں افتراق پیدا کیا اور مثال میں ان دونوں کو مفسر نے اس لئے پیش کیا ہے کہ تفرق سے اختلاف الفروع کا مراد نہ ہونا ثابت ہو جائے۔ کیونکہ یہود و نصاریٰ کا اختلاف فروع میں نہیں بلکہ اصول و عقائد میں تھا،

چنانچہ یہود میں بکثرت اللہ کے نبیوں کا انکار ہے، اور نصاریٰ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندگی سے اٹھا کر الوہیت پر پہنچا ہی دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: افتقرت الیہود علی احدی و سبعین فرقة و تفرقت النصری علی ثنتین و سبعین فرقة و تفرقت امتی علی ثلاث و سبعین فرقة (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ و حاکم) یہود کے اکہتر اے فرقے ہوئے، نصاریٰ کے بہتر اے فرقے ہوئے، میری امت کے تہتر اے فرقے ہوں گے۔ ابن ماجہ میں عوف بن مالک کی روایت سے اتنا اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک فرقہ جنت میں ہے باقی ۲۷ فرقے جہنم میں، عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! وہ کون فرقہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جماعت، اور امام حاکم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے نقل کیا ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ وہ ایک کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہیں۔

یہی ما انا علیہ الیوم و اصحابی والی جماعت، جماعت حق ہے، جس کی شناخت یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کی سنتوں کی قدر بھی پہچانی، اور صحابہ کرام کے عمل اور دستور کا بھی احترام کیا، اور انہیں سے اللہ کے رسول کو پہچانا، ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک سے اگر انحراف ہوا، تو وہ تفرق ہے، جو آدمی کو جہنم کی طرف لیجاتا ہے، اس معیار پر تمام فرقوں کو پرکھا جاسکتا ہے۔ (تفصیل کیلئے مؤلف کا رسالہ ”اہل حق و اہل باطل کی شناخت“ دیکھئے)

یوم اخذ الميثاق : اکفرتم بعد ایمانکم پر ایک سرسری اشکال ہے، وہ یہ کہ کافر تو ابتداء ہی سے کافر ہے، اس سے اس قول کا کیا معنی کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا؟ مفسر نے جواب دیا کہ اس سے مراد وہ ایمان ہے، جو دنیا میں آنے سے پہلے ہر انسان سے عہد لیا گیا تھا جسے ہمارے عرف میں عہد الکتبت کہتے ہیں، اس کی تفسیر سورہ اعراف میں آئے گی۔

راقم عرض کرتا ہے کہ کلام کے موقع اور محل کا لحاظ کیا جائے تو اس کے مخاطب وہ ہیں جن کے بارے میں الذین تفرقوا کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے دین میں داخل ہونے کے بعد تفرق اور انتشار کی راہ اختیار کی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کا راستہ کیوں اختیار کیا، اور جو لوگ اصل دین پر قائم رہے، ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ عبارة النص کے لحاظ سے اس کے مصداق یہی لوگ ہیں، اور دلالت النص کے اعتبار سے یہ انجام تمام کفار کو شامل ہے۔

ای جنتہ :۔ ففی رحمة اللہ سے مراد جنت ہے، کیونکہ اصل محل رحمت جنت ہی ہے، تو حال بول کر محل مراد لیا گیا ہے۔

ای ہذہ :۔ تلک اشارہ بعید کا ہے، اس سے بعد مرتبہ اور علوئے شان کی طرف اشارہ ہے، ورنہ اشارہ تو

قریب ہی کا ہے، اسی لئے مفسر نے تفسیر میں ہذہ کہا ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن يعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم۔ یہ سابق رکوع کا آخری جملہ ہے، اس رکوع میں اسی اعتصام باللہ اور صراط مستقیم کے اجمال کی تفصیل ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ تقویٰ اختیار کرو جو اس کی شان کے مناسب ہو، اور مرتے دم تک ایمان و اسلام اور توحید و طاعت پر قائم رہو، یعنی زندگی اس طرح بسر کرو کہ طاعت ہی طاعت ہو، معصیت کا نشان نہ ہو، شکرگزاری ایسی ہو کہ ناشکری کا نام تک نہ ہو، ذکر ایسا ہو کہ بھول اور غفلت کا پتہ نہ ہو، اور اللہ کی رسی یعنی اس کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور سب مل کر تھامو، ادھر ادھر کا راستہ نہ اختیار کرو، اور یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت دے کر تمہارے قلوب میں وحدت پیدا کر دی، اور تم لوگ اس احسان کے ثمرے میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم لوگ جہنم کے گڈھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے، بس مرتے اور اس میں گرتے، مگر اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اور اس سے بچالیا، اسی طرح تمہاری ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان فرماتے ہیں، تم میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہنی چاہئے، جو خیر کی اور اسلام کی دعوت دیتی رہے، معروف کا حکم کرے اور منکر سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہیں، امت کے تمام نہیں، بلکہ بعض افراد مثلاً علماء اس امر کے مکلف ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری امت پر یہ بات بطور فرض کفایہ کے لازم ہو کہ کچھ لوگ اس ذمہ داری کو پورا کر دیں تو پوری امت عہد برآ ہو جائیگی۔

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو ٹکڑیوں میں بٹ گئے، اور دین کی راہ سے الگ ہو گئے، اور یہ اختلاف ان میں اس وقت ہو جب ان کے پاس واضح دلائل آچکے تھے، یہ یہود و نصاریٰ ہیں۔ ان کے لئے بڑا عذاب ہے، اس دن جب کہ بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سے سیاہ پڑے ہوں گے، یہ قیامت کا دن ہوگا، تو جن کے چہرے سیاہ پڑے ہوں گے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا، تو اپنے کفر کی وجہ سے عذاب چکھو، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم اے محمد تمہیں پڑھ کر ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے کہ انہیں بغیر کسی جرم کے پکڑیں اور آسمان وزمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لئے ہے، ملکیت کے لحاظ سے بھی خلقت کے لحاظ سے بھی، اور عبدیت کے لحاظ سے بھی اور تمام کام اللہ ہی کے حضور پہنچتے ہیں۔

﴿ كُنْتُمْ ﴾ يا امة محمد في علم الله تعالى ﴿ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ ﴾ اظهرت ﴿ لِلنَّاسِ ﴾
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ بِاللَّهِ
﴿ لَكَانَ ﴾ الايمان ﴿ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ كعبدالله بن سلام واصحابه ﴿ وَ اَكْثَرُهُمْ
الْفٰسِقُونَ ﴾ الكافرون ﴿ لَنْ يَضُرُّوَكُمْ ﴾ اى اليهود يا معشر المسلمين بشئى ﴿ اِلَّا اَذَى ﴾
باللسان من سب و وعيد ﴿ وَاِنْ يُقَاتِلُوْكُمْ يُؤَلُّوْكُمْ اِلَّا دُبَارًا ﴾ منهزمين ﴿ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾
عليكم بل لكم النصر عليهم ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ اَيْنَمَا تُقِفُوا ﴾ حيثما وجدوا فلا عزلهم
ولا اعتصام ﴿ اِلَّا ﴾ كائنين ﴿ بِحَبْلِ مِّنَ اللّٰهِ وَ حَبْلِ مِّنَ النَّاسِ ﴾ المؤمنين وهو عهدهم اليهم
بالايمان على اداء الجزية اى لا عصمة لهم غير ذلك ﴿ وَبَاءَ وَا ﴾ رجعوا ﴿ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ ﴾ اى بسبب انهم ﴿ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَ
يَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذٰلِكَ ﴾ تاكيد ﴿ بِمَا عَصَوْا ﴾ امر الله ﴿ وَ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴾
يتجاوزون الحلال الى الحرام ﴿ لَيْسُوْا ﴾ اى اهل الكتاب ﴿ سَوَاءٌ ﴾ مستوين ﴿ مِّنْ اَهْلِ
الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ ﴾ مستقيمة ثابتة على الحق كعبدالله بن سلام واصحابه ﴿ يَتْلُوْنَ آيَاتِ اللّٰهِ
اَنَاءَ اللَّيْلِ ﴾ اى فى ساعاته ﴿ وَ هُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴾ يصلون حال ﴿ يَوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَ اُولٰٓئِكَ ﴾ الموصوفون
بما ذكر ﴿ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴾ ومنهم من ليسوا كذلك و ليسوا من الصالحين ﴿ وَ مَا تَفَعَّلُوْا ﴾
بالتاء ايها الامة و بالياء اى الامة القائمة ﴿ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفِرُوْهُ ﴾ بالوجهين اى تعد موا
ثوابه بل تجاوزون عليه ﴿ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ ﴾ تدفع ﴿ عَنْهُمْ
اَمْوَالُهُمْ وَ لَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ ﴾ اى عذابه ﴿ شَيْئًا ﴾ و خصهما بالذكر لان الانسان يدفع عن
نفسه تارة بفداء المال و تارة بالاستعانة بالاولاد ﴿ وَ اُولٰٓئِكَ اصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ
مَثَلُ ﴾ صفة ﴿ مَا يُنْفِقُوْنَ ﴾ اى الكفار ﴿ فِى هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ﴾ فى عداوة النبي ﷺ او
صدقة و نحوها ﴿ كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ ﴾ حرا و برد شديد ﴿ اَصَابَتْ حَرْتٌ ﴾ زرع ﴿ قَوْمٍ
ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ﴾ بالكفر والمعصية ﴿ فَاهْلَكَتْهُ ﴾ فلم ينتفعوا به فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا
ينتفعون بها ﴿ وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ ﴾ بضياع نفقاتهم ﴿ وَ لٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴾ بالكفر
الموجب لضياعها ﴿ يَا يٰهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بَطَانَةً ﴾ اصفياء تطلعونهم على سرهم ﴿ مِّنْ
دُوْنِكُمْ ﴾ اى غيركم من اليهود والمنافقين ﴿ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ﴾ نصب بنزع الخافض اى لا

يقصرون لكم جهدهم في الفساد ﴿وَدُّوا﴾ ﴿تَمَنُّوا﴾ ﴿مَا عَنَتُمْ﴾ ای عنتکم وهو شدة الضرر ﴿قَدْ بَدَتِ﴾ ﴿ظَهَرَتْ﴾ ﴿الْبُغْضَاءُ﴾ العداوة لكم ﴿مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ بالوقیعة فیکم واطلاع المشركين على سرکم ﴿وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ﴾ من العداوة ﴿أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ على عداوتهم ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ذلك فلا تو الوهم ﴿هَآ﴾ للتنبیه ﴿أَنْتُمْ﴾ ﴿يَا﴾ ﴿أَوْلَاءِ﴾ المؤمنین ﴿تُحِبُّونَهُمْ﴾ لقربتهم منكم و صداقتهم ﴿وَلَا يُحِبُّونَكُمْ﴾ لمخالفتهم لكم فی الدین ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ﴾ ای بالکتب كلها ولا يؤمنون بکتابکم ﴿وَإِذَا لَقُّوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَیْكُمْ الْإِنَامِلَ﴾ اطراف الاصابع ﴿مِنَ الْغَيْظِ﴾ شدة الغضب لما یرون من ایتلافکم و یعبر عن شدة الغضب بعَضِ الْإِنَامِلِ مجازا وان لم یکن ثم عض ﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾ ای ابقوا علیه الی الموت فلن تروا ما یسرکم ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ بما فی القلوب ومنه ما یضمره هولاء ﴿إِنْ تَمَسَّسْكُمْ﴾ تصبکم ﴿حَسَنَةً﴾ نعمة کنصر و غنیمة ﴿تَسُوهُمْ﴾ تحزنهم ﴿وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ﴾ کھزیمة و جذب ﴿یَفْرَحُوا بِهَا﴾ وجملة الشرط متصلة بالشرط قبل و ما بینهما اعتراض والمعنی انهم متناهون فی عداوتکم فلم تو الونهم فاجتنبوهم ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا﴾ علی اذاهم ﴿وَتَتَّقُوا اللَّهَ﴾ فی موالاتهم و غيرها ﴿لَا یَضُرُّكُمْ﴾ بکسر الضاد و سکون الراء و ضمها و تشدیدها ﴿کَیْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ بالیاء والتاء ﴿مُحِيطٌ﴾ . عالم فیجازیهم به .

ترجمہ

(تم لوگ) اے امت محمد! اللہ کے علم میں (خیر امت تھے، جو لوگوں کیلئے ظاہر کئے گئے، معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو) یہ ایمان لانا (ان کے لئے بہتر ہوتا، ان میں بعض مومن ہیں) جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب (اور ان میں اکثر فاسق) یعنی کافر (ہیں) اے مسلمانوں کی جماعت یہود (تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے) زبان سے (تکلیف پہنچانے کے) کہ کچھ گالی گلوچ اور دھمکیاں دے لیں (اور اگر وہ تم سے لڑائی چھیڑیں تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی) تمہارے خلاف (مد نہیں ہوگی) بلکہ تمہاری ہی مدد ان کے خلاف ہوگی (ان پر ذلت کا ٹھپہ لگا دیا گیا ہے جہاں بھی وہ ہوں) ان کے لئے نہ غلبہ و عزت ہے، نہ کوئی بچاؤ ہے (مگر اللہ کی طرف سے کسی مدد کے واسطے سے، اور لوگوں) یعنی اہل ایمان (کی طرف سے کسی مدد کے واسطے سے) اور مدد یہ ہے کہ ان سے جزیہ ادا کرنے کی شرط پر امن و امان کا معاہدہ ہوا ہو، یعنی ان کے لئے اس کے علاوہ کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے (اور وہ اللہ کی

جناب سے غضب کے مستحق ہو کر لوٹے، اور ان پر مسکنت کا ٹھپہ لگا دیا گیا، یہ اس سبب سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، یہ اس واسطے کہ انھوں نے (اللہ کے امر کی (نافرمانی کی اور) حلال سے حرام کی جانب (تجاوز کرتے تھے) یہ جملہ تاکید ہے (یہ) اہل کتاب سب (ایک جیسے نہیں ہیں، اہل کتاب میں ایک جماعت) حق پر (قائم) اور ثابت (ہے) جیسے عبد اللہ بن سلام اور ان کے اصحاب (اللہ کی آیات کی وہ لوگ رات کی ساعتوں میں تلاوت کرتے ہیں، اور وہ سجدہ کرتے ہیں) یعنی نماز پڑھتے ہیں، یہ حال ہے (اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور معروف کا حکم کرتے ہیں، منکر سے نہی کرتے ہیں، اور بھلائیوں پر تیز چلتے ہیں، اور یہی لوگ) جو مذکورہ صفات کے ساتھ مذکور ہوئے (صالحین میں ہیں) اور ان میں بعض ایسے نہیں ہیں، اور وہ صالحین میں نہیں ہیں (اور جو کچھ تم بھلے کام کرو گے) تفعلوا تاء کے ساتھ ہے، تب مخاطب امت ہے، اور ایک قرأت میں یا کے ساتھ ہے تو ضمیر غائب امة قائمة کی جانب باعتبار معنی جمع کے لوٹے گی (ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی) تکفروہ بھی تاء اور یاء دونوں طرح ہے، یعنی ان کا ثواب برباد نہ ہوگا، بلکہ عطا کیا جائے گا (اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو جانتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے اموال اور ان کی اولاد، اللہ سے ان کا) یعنی اللہ کے عذاب سے (ہرگز کچھ دفاع نہیں کر سکیں گے) اموال اور اولاد کو بالتخصیص ذکر کیا اس لئے کہ انسان اپنا دفاع کبھی تو مال کے فدیہ سے کرتا ہے، اور کبھی اولاد کی مدد سے کرتا ہے (اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جو کچھ یہ) کفار (اس دنیاوی زندگی میں) رسول کی عداوت میں یا صدقہ وغیرہ میں (خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے، جس میں صرصر ہو) یعنی شدید گرمی یا شدید سردی (جو ان لوگوں کی کھیتوں پر پہونچی، جنھوں نے اپنے اوپر) کفر اور معصیت کر کے (ظلم کیا، پس اس نے ان کو برباد کر دیا) ان سے انہیں کوئی نفع نہیں حاصل ہو سکا، ایسے ہی ان لوگوں کے نفقات بھی برباد ہیں، ان سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا (اور) ان کے نفقات جو ضائع ہو گئے تو (اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں) کیونکہ وہ کفر پر ہیں جو ان کے نفقات کے ضیاع کا سبب ہے (اے ایمان والو! اپنے علاوہ دوسروں کو) یعنی یہود اور منافقین کو (اپنا راز دار نہ بناؤ) کہ انہیں اپنے رازوں سے باخبر کر دو (وہ تمہارے حق میں بگاڑ پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے) خیالاً منصوب بزوع الخافض ہے، یعنی حرف جر کو حذف کر کے نصب دے دیا گیا ہے، عبارت یہ ہوگی لا یالونکم فی الخبال یعنی لا یقصرون لکم فی الفساد (وہ تمہارے شدید نقصان کی تمنا رکھتے ہیں) تمہارے حق میں ان کی (دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے) کہ تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، اور تمہارے رازوں کو مشرکین تک پہونچاتے ہیں (اور جو کچھ) عداوت کو (ان کے سینوں نے چھپا رکھا ہے، وہ اور زیادہ ہے، بے شک ہم نے) ان کی عداوت پر (نشانیوں بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو) تو ان

سے دوستی نہ رکھو (سنو) ہاء تنبیہ کیلئے ہے (تم لوگ) اے اہل ایمان (ان سے) قرابت اور دوستی کی وجہ سے (محبت رکھتے ہو، اور وہ) دین میں تمہارے مخالف ہونے کی وجہ سے (تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم لوگ سب کتاب پر ایمان رکھتے ہو) یعنی تمام کتابوں پر، اور وہ لوگ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے (اور جب تم لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو انگلیوں کو تمہارے اوپر) غصہ کی شدت سے (چباتے ہیں) جب وہ تمہارے باہمی محبت و اخوت کو دیکھتے ہیں، شدت غضب کی تعبیر مجازاً انگلی چبانے سے کی گئی ہے، اگرچہ حقیقتاً انگلی چبانے کا وجود نہیں ہے (تم کہو کہ تم لوگ اپنے غصہ میں مر جاؤ) یعنی مرتے دم تک اسی غیظ و غضب پر باقی رہو، مگر تم ایسی کوئی چیز ہرگز نہ دیکھو گے جس سے تمہیں خوشی حاصل ہو (بے شک اللہ سینے) یعنی دل (کی باتوں کو جانتے ہیں) اور انہیں باتوں میں وہ بھی ہے، جو ان لوگوں نے چھپا رکھی ہے (اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے) مثلاً فتح و ظفر اور مال غنیمت (تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے) جیسے شکست اور قحط وغیرہ (تو انہیں خوشی ہوتی ہے) یہ جملہ شرطیہ ہے، ما قبل کی شرط سے مربوط ہے، اور درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تمہاری عداوت میں انتہاء کو پہنچے ہوئے ہیں، تو تم ان سے کیوں دوستی رکھتے ہو، ان سے بچو (اور اگر تم) ان کی ایذا رسانی پر (صبر کرو اور) ان کی دوستی وغیرہ میں (اللہ کا خوف کرو تو ان کی سازش تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی) لا یضرکم میں دو قرأت ہے، ایک ضاد کا کسرہ اور راء کا سکون، دوسرے ضاد کا ضمہ اور راء کی تشدید (بلاشبہ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے احاطہ میں لئے ہوئے ہیں) یعنی اسے جانتے ہیں، اس کی سزا انہیں ملے گی۔

﴿ تشریحات ﴾

فی علم اللہ تعالیٰ : . کنتم افعال ناقصہ میں ہے، جو زمان ماضی میں کسی شے کے کسی خاص صفت کے ساتھ موجود ہونے کو بتاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ اس خاص زمانے سے پہلے یا اس کے بعد اس خاص صفت کے ساتھ موجود تھی یا نہ تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وکان اللہ غفوراً رحیماً، یہ جملہ زمان ماضی میں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہونے کو بتاتا ہے، لیکن اس کی دلالت اس بات پر نہیں ہے کہ اب وہ غفور رحیم نہیں ہے، اس معنی کے لحاظ سے آیت کریمہ میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔

لیکن مفسر نے کنتم کے ساتھ فی علم اللہ للاحقہ جوڑ کر بات بالکل واضح کر دی کہ تم لوگ اللہ کے علم میں پہلے ہی سے خیر امت قرار پا چکے تھے۔ یہ خطاب رسول اللہ ﷺ کی امت سے ہے، اس کے مخاطب اولین حضرات صحابہ کرام ہیں، ان کا خیر امت ہونا تو قطعی ہے، بعد میں آنے والی نسل مجموعی اعتبار سے خیر امت ہے، ہر فرد کے لحاظ سے نہیں۔

اس امت کے خیر ہونے کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ سلسلہ جب تک قائم ہے، برائیاں سمٹی اور بھلائیاں پھیلتی رہیں گی، اور فلاح دنیا و آخرت اسی میں ہے۔

باللسان من سب و وعید :- یہود کی ایذا رسانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے بشرطیکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ تمہارے اندر قائم رہے، جب آدمی کا اندرون مضبوط ہوتا ہے تو بیرونی طاقتیں حملہ آور نہیں ہوتیں یا ہوتی ہیں تو کچھ نقصان نہیں پہنچا پاتیں۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ زبان سے کچھ تکلیف پہنچائیں، مثلاً گالیاں دیں، تہمت تراشیاں کریں، دھمکیاں دیں، لیکن ان زبانی حملوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم نہیں قرار دیا۔ اہل ایمان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ ان کی باتوں، ان کے پریس، ان کی میڈیا کی زیادہ فکر نہ کریں، اپنے کارمنصوبی کا اہتمام کریں۔ انشاء اللہ ان کا کچھ ضرر نہیں ہوگا۔ نقصان اور تکلیف کے راستے اپنے اندر سے کھلتے ہیں، انہیں بند کرنے کی فکر کرنی چاہئے۔

(الا) کائنین : الابحبل من اللہ و حبل من الناس کے ساتھ کائنین کو مقدر مان کر مفسر نے یہ بتایا ہے کہ یہ جار و مجرور حال کے محل میں ہے، وہ حال کائنین ہے، اور بحبل من اللہ اسی سے متعلق ہے، حبل من اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا عہد اور ان کی ذمہ داری یعنی ان یہود کی ذلت کے ازالہ کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آجائیں، یعنی ایمان قبول کر لیں۔

المومنین و هو عہدہم الیہم :- یہود کی ذلت کے ازالہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں سے معاہدہ امان ہو، مفسر نے ”لوگوں“ سے مراد اہل ایمان کو لیا ہے، کہ اسلامی حکومت میں جزیہ دے کر رہنا قبول کر لیں۔ اس صورت میں بھی انہیں ذلت کے ٹھپے سے نجات ملی رہے گی، ورنہ ذلت لازم ہے۔

ہمارے دور میں یہودیوں نے فلسطین میں سمٹ کر ایک حکومت بنالی ہے۔ اس سے بعض لوگوں کو قرآن کی اس خبر پر اشکال ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ حکومت اور دولت کے باوجود ان کی ذلت و گھٹیا پن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ حکومت تو درحقیقت امریکہ کی ہے جو مسلمان حکمرانوں کے اعمال بد کی سزا کے طور پر مسلط ہے، امریکہ نے اسرائیل کی صورت میں ایک کتا چھوڑ رکھا ہے جو عربوں کو بھونک بھونک کر خوفزدہ کرتا ہے، کتا خواہ کتنا ہی غرائے ذلیل ہی رہتا ہے۔

اسی طرح مسکنت یعنی احتیاج کی کیفیت ان کے لازم حال ہے، انہیں اپنی جان اور اپنے مال کے بچاؤ کے لئے ہمیشہ مدد کی ضرورت قائم رہتی ہے، اپنی ذات اور اپنے طور پر نہ انہیں عزت حاصل ہے، اور نہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، ایسی قوم جس پر ذلت اور احتیاج مسلط ہو، طبعی طور پر نہایت گھٹیا اور سازشی ہوتی ہے، چنانچہ اس زمانے میں سازشی سیاست کی سب سے بڑی علامت یہود ہیں۔

مستقیمۃ ثابتۃ علی الحق :۔ اہل کتاب کا ایک گروہ وہ ہے جو اپنے دین پر استقامت رکھتا تھا، اس گروہ کے سامنے جو نبی رسول اللہ ﷺ کی دعوت پہنچی اس نے قبول کر لیا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسلام سے پہلے بھی حق پر قائم تھے، راتوں کے عبادت گزار تھے، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، بالآخر صالحین میں شمار ہوئے اور اسلام قبول کیا۔

حرأوبرد شدید : صر کے دو معنی مذکور ہیں۔ ایک شدید گرمی جو بدن کو جھلسا دینے والی ہو، دوسرے صرصر کے معنی میں، یعنی شدید ٹھنڈک، کھیتی کیلئے یہ دونوں مضر ہیں، اور دونوں ہی کاشت کو جلا دیتی ہیں۔

اصفیاء تطلعونہم علی سرکم :۔ بطانۃ اس شخص کو کہتے ہیں جو رازوں سے واقف ہو، اور راز دار وہی ہو سکتا ہے جو مخلص اور گہرا اور بے تکلف دوست ہو، جس کو عربی میں صفی کہتے ہیں، جس کی جمع اصفیاء ہے یعنی یہود اور منافقین نیز دوسرے کفار کو اپنا دلی دوست جو رازوں سے واقف ہو، مت بناؤ، یہ نقصان پہنچانے کے مواقع سے چوکیں گے نہیں۔

جب بھی مسلمانوں نے اس حکم کی تعمیل میں کوتاہی کی تباہی میں پڑے، بہت سے خلفاء و حکام نے اپنے منشی اور کاتب خاص (پرائیویٹ سکرٹری) غیر مسلموں کو بنایا۔ بہتوں نے رافضیوں (منافقین) کو بنایا، اور حکومت تہہ وبالا ہو کر رہ گئی۔

نصب بنزع الخافض : خبالاً فی الاصل مجرور تھا، اصل عبارت یوں ہوگی لا یالونکم فی الخبال ، خبال اس بیماری کو کہتے ہیں جو انسان کے سکون کو درہم برہم کر دے، یہاں مراد فساد اور خرابی ہے، حرف جر کو حذف کر کے خبالاً کو تمیز بنا دیا، اس بنا پر وہ منصوب ہے، یہ ترکیب کلام میں بہت عام ہے۔ اسے اصطلاح میں منصوب بنزع الخافض کہا جاتا ہے۔

عنکم :۔ ما عنتم میں ما مصدر یہ ہے، اسی لئے اس کی تفسیر عنکم سے کی ہے۔

بالوقیعة : وقیعة کہتے ہیں بدگوئی، زبان سے ایذا رسانی اور غیبت اور چغلی وغیرہ کو۔

ای بالکتب کلہا : بالکتب کلہ میں الف لام استغراق ہے مراد کتاب کا ہر فرد ہے۔

ابقوا علیہ :۔ ابقوا جمع مذکر حاضر ہے، بقی یبقی سے، اصل میں ابقیوا بروزن اعلما ہے یا متحرک ہے اور اس کے ما قبل فتح ہے، اسے الف سے بدل دیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے اسے حذف کر دیا۔

نعمة :۔ ان تمسکم حسنة میں حسنة سے مراد دنیوی نعمت ہے، چنانچہ مفسر نے کنصر و غنیمۃ کہہ کر اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حسنة سے یہاں اخروی نعمت مراد نہیں ہے۔ اس پر دنیا میں کسی کو جلن نہیں ہوتی۔

وجملة الشرط متصلة بالشرط قبل :۔ یہ جملہ شرط ان تمسکم حسنة الخ ہے، اور جس سے

متصل ہے وہ واذا لقوكم قالوا آمنة، درمیان میں قتل موتوا الخ جملہ معترضہ ہے۔ دونوں شرطوں کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ تمہاری عداوت میں انتہاء کو پہنچے ہوئے ہیں، اس لئے ان سے رازدارانہ تعلق نہ رکھو، اور رہا یہ اندیشہ کہ یہ اپنی عداوت کی وجہ سے تمہارا کچھ نقصان کریں گے، اس لئے مصلحتاً ان سے دوستی رکھی جائے تو اس وہم و خیال میں مت رہو، اگر تم ثابت قدم رہے، اور اللہ سے ڈرتے رہے، یعنی نافرمانی تم نے نہیں کی، تو ان کی سازش تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان کی ہر کر توت اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم و قدرت میں ہے

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اے نبی آخر الزماں! تم ان سے کہو کہ تم لوگ کیونکر باہم ٹکرانے لگتے ہو، یہ تو دوسروں کا شیوہ ہے۔ تم تو پہلے ہی اللہ کے علم میں ”خیر امت“ ہو تمہیں تو دنیا میں اس لئے برپا کیا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو، تم کو تو اسی پر کار بند رہنا چاہئے، ذرا ذرا سی بات پر ٹکرانے لگنا تمہارے منصب کے خلاف ہے، اور اگر یہ اہل کتاب جو تمہیں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر یہ بھی تمہاری طرح سچا ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ ان میں بعض تو صاحب ایمان ہیں، لیکن اکثر فاسق ہی ہیں، یعنی کافر، یہ تم کو تکلیف پہنچانا تو ضرور چاہتے ہیں، لیکن اطمینان رکھو، سوائے اس کے کہ زبان سے برا بھلا کہہ کر، دھمکیاں دیکر، تمہارے دل کو پریشان کریں اور کچھ نہیں کر سکتے، تم سے یہ لوگ لڑ نہیں سکتے، اور اگر لڑ جائیں تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، یہ جہاں بھی ہوں گے، ان کے اوپر ذلت اور محتاجی کی مہر لگ گئی ہے، اگر انہیں پناہ مل سکتی ہے تو اللہ کی ذمہ داری میں، جبکہ یہ مسلمان ہو جائیں، یا مسلمانوں کی حفاظت میں جبکہ یہ جزیہ دے کر اسلامی حکومت میں رہنے پر راضی ہوں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس لئے کہ یہ معصیت کوش تھے اور حدود سے تجاوز کیا کرتے تھے۔

سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، بعض ان میں سے حق و ہدایت پر ثابت قدمی سے جمے ہوئے ہیں، جیسے عبد اللہ بن سلام اور ان کے تلامذہ و رفقاء، یہ لوگ راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، رکوع و سجد میں مشغول رہتے ہیں، اللہ پر، قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ بھلے کا حکم کرتے ہیں اور برے سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں تیز چلتے ہیں، یہ صاحب صلاح و خیر ہیں، اور بعض دوسری طرح کے لوگ ہیں، یہ لوگ جو بھی بھلا کام کریں گے، اس کی ناقدری نہ ہوگی، اس کا پورا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ تقویٰ کس کے اندر ہے، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان سے عذاب کونہ ان کا مال دفع کر سکے گا، اور نہ اولاد کچھ کام آئے گی، یہ واقعی جہنمی ہیں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔

کفار جو کچھ بھی اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ نبی کی عداوت میں ہو، یا صدقہ وغیرہ ہو، اس کی

مثال ایسی ہے جیسے کوئی تیز ہوا ہو، اس میں شدید ٹھنڈک یا جلادینے والی گرمی ہو، اور وہ ظالموں کے کھیت پر چلی، اور اسے جلا کر خاک سیاہ کر دیا، ایسے ہی ان لوگوں کے صدقے وغیرہ کا حال ہے کہ کفر کی باد صرصر سب کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔

اے ایمان والو! تم اپنے ہم مذہبوں کے علاوہ دوسرے مذاہب والوں کو اپنا راز دار اور قلبی دوست نہ بناؤ خواہ وہ یہود و نصاریٰ ہوں یا اہل نفاق ہوں۔ یہ لوگ تمہارے درمیان خرابی پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، چاہتے ہیں کہ تم کسی مصیبت میں پڑو، یہ عداوت ان کی زبانوں سے ظاہر ہوئی پڑتی ہے، اور جو کچھ ان کے دل میں چھپا ہوا ہے وہ تو اور بڑھ کر ہے، ہم تمہیں اپنی آیات سے ان کی عداوت پر متنبہ کئے دیتے ہیں، ذرا سمجھ سے کام لو، تم لوگ تو قرابت داری وغیرہ کی وجہ سے ان سے مخلصانہ محبت رکھتے ہو، اور یہ تم سے قطعاً محبت نہیں رکھتے، اور تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ تمہاری ہی کتاب کا انکار کرتے ہیں اور جب تم سے ملتے ہیں تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو غیظ و غضب کی شدت میں انگلیاں چبا جاتے ہیں، تم ان سے کہو کہ اپنے غصہ میں مرجاؤ، تمہارا مقصد پورا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو جانتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر تم کو کوئی اچھی بات اور اچھی چیز حاصل ہو جائے تو انہیں سخت ناگوار گزرتا ہے، دلی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو دل سے خوش ہوتے ہیں، اسی سے ان کی عداوت کا اندازہ کر لو، لیکن یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تم ثابت قدمی سے جمے رہو، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو اور تمام امور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تو ان کی کوئی سازش تمہارا نقصان نہیں کر سکتی، جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم و قدرت میں ہے، ہر ایک کا بدلہ انہیں ملے گا۔



﴿وَ اذْکُرْ یَا مُحَمَّدٌ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِکَ﴾ ﴿مِنَ الْمَدِیْنَةِ﴾ ﴿تُبُوِّی﴾ ﴿تَنْزِلَ﴾ ﴿الْمُؤْمِنِیْنَ مَقَاعِدَ﴾ ﴿مَرَاکِزِ یَفْقُوْنَ فِیْهَا﴾ ﴿لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ﴾ ﴿لَا قَوْلَ الْکُمْ﴾ ﴿عَلِیْمٌ﴾ ﴿بِاِحْوَالِکُمْ وَ هُوَ یَوْمَ اَحَدٍ خَرَجَ النَّبِیُّ ﷺ بِالْفِ اَوْ الْاِخْمَسِیْنَ رَجُلًا وَ الْمَشْرُکُوْنَ ثَلَاثَةَ اَلْفٍ وَ نَزَلَ بِالْشَّعْبِ یَوْمَ السَّبْتِ سَابِعِ شَوَالِ سَنَةِ ثَلَاثٍ مِنَ الْهَجْرَةِ وَ جَعَلَ ظَهْرَهُ وَ عَسْکَرَهُ اِلٰی اَحَدٍ وَ سَوٰی صَفُوْفِهِمْ وَ اجْلَسَ جِیْشًا مِنَ الرَّمَاةِ وَ اَمَرَ عَلَیْهِمْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنَ جَبْرِ بِسَفْحِ الْجَبَلِ وَ قَالَ اَنْضَحُوْا عَنَا بِالْغَبْلِ لَا یَاتُوْنَا مِنْ وَّرَائِنَا وَلَا تَبْرَحُوْا غَلْبِنَا اَوْ نَصْرِنَا﴾ ﴿اِذْ﴾ ﴿بَدَلَ مِنْ اِذْ قَبْلِهِ﴾ ﴿هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْکُمْ﴾ ﴿بَنُو سَلْمَةَ وَ بَنُو حَارِثَةَ جَنَاحِ الْعَسْکَرِ﴾ ﴿اَنْ تَفْشَلَا﴾ ﴿تَجْبِنَا عَنِ الْقِتَالِ وَ تَرْجِعَا لِمَا رَجَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِی الْمُنَافِقِ وَ اَصْحَابِهِ وَ قَالَ عَلَامَ نَقْتَلُ اَنْفُسَنَا﴾

واولادنا وقال لابی حاتم السلمی القائل له اُنشِدْكُمْ اللهُ فى نبيكم و انفسكم لو نعلم قتالا
لا تبعناكم فثبتهما الله تعالى ولم ينصرفا ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ ناصرهما ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فليتَوَكَّلْ
المؤمنون ﴾ ليقنوا به دون غيره و نزل لما هزموا تذكيرا لهم بنعمة الله ﴿ وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ
اللَّهُ بِبَدْرٍ ﴾ موضع بين مكة والمدينة ﴿ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ﴾ بقلة العدد والسلام ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ نعمه ﴿ إِذْ ﴾ ظرف لنصركم ﴿ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ توعدهم تطمينا
لقلوبهم ﴿ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدُّكُمْ ﴾ يعينكم ﴿ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴾
بالتخفيف و التشديد ﴿ بَلَى ﴾ يكفيكم ذلك و فى الانفال بالف لانه امدهم اولاً بها ثم
صارت ثلثة ثم صارت خمسة كما قال تعالى ﴿ اِنْ تَصْبِرُوا ﴾ على القاء العدو ﴿ وَتَتَّقُوا ﴾
الله فى المخالفة ﴿ وَيَأْتُواكُمْ ﴾ اى المشركون ﴿ مِنْ فُورِهِمْ ﴾ وقتهم ﴿ هَذَا يُمَدِّدُكُمْ رَبُّكُمْ
بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ بكسر الواو وفتحها اى معلمين و قد صبروا وانجز
الله و عددهم بان قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفرا و بيض ارسلوها
بين اكتافهم ﴿ وَ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ ﴾ اى الامداد ﴿ اِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ ﴾ بالنصر ﴿ وَلِتَطْمَئِنَّ ﴾
تسكن ﴿ قُلُوبُكُمْ بِهِ ﴾ فلا تجزع من كثرة العدو و قلتكم ﴿ وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ يوتيه من يشاء و ليس بكثرة الجند ﴿ لِيَقْطَعَ ﴾ متعلق بنصركم اى ليهلك
﴿ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالقتل و الاسر ﴿ اَوْ يُكَبِّتَهُمْ ﴾ يذلهم بالهزيمة ﴿ فَيَنْقَلِبُوا ﴾
يرجعوا ﴿ خَائِبِينَ ﴾ لم ينالوا ما راموه و نزل لما كسرت ربا عيته صلوات الله و شج وجهه يوم احد
و قال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ ﴾ بل الامر لله
فاصبر ﴿ اَوْ ﴾ بمعنى الى ان ﴿ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ بالاسلام ﴿ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَانَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾
بالكفر ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ﴾ ملكا و خلقا و عبدا ﴿ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾
المغفرة له ﴿ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ تعذيبه ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ ﴾ لا وليائه ﴿ رَحِيمٌ ﴾ باهل طاعته.

ترجمہ

(اور) اے محمد یاد کرو (جب تم علی الصباح اپنے گھر سے) یعنی مدینہ سے (نکلے، ایمان والوں کو لڑنے کی
جگہوں پر) جہاں وہ کھڑے ہوں (متعین کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ) تمہاری باتوں کو (سننے والے) تمہارے
احوال کو (جاننے والے ہیں) یہ جنگ احد کا دن تھا۔ نبی ﷺ ایک ہزار یا پچاس کم لوگوں کو لے کر نکلے تھے، اور
مشرکین تین ہزار تھے، اور آپ گھاٹی میں سینچر کے دن ۷ شوال ۳ھ کو اترے، آپ نے اپنی اور لشکر کی پشت احد

کی جانب رکھی، صفوں کو درست کیا، اور تیر اندازوں کے ایک دستہ کو پہاڑی درہ میں بیٹھا دیا، اور ان کا امیر عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا، اور فرمایا کہ تیر برساً کر دشمن کو ہم سے ہٹائے رکھنا، وہ ہمارے پیچھے سے نہ آئیں، اور یہاں سے نہ ہٹنا، ہم مغلوب ہوں یا غالب ہوں (جبکہ) اذا ما قبل کے اذ سے بدل ہے (تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کر لیا تھا) بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے جو لشکر کے دو بازو تھے (کہ) جنگ سے (ہمت ہار دیں) اور لوٹ جائیں، یہ اس وقت ہوا تھا، جب عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھی لوٹ گئے تھے اور کہا تھا کہ کس بنیاد پر ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو قتل کریں، اور اس نے ابو حاتم سلمی سے کہا جنھوں نے اس سے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو تمہاری جانوں اور تمہارے نبی کے بارے میں قسم دیتا ہوں۔ تب اس نے کہا کہ اگر ہم یہ جانتے کہ یہ جنگ ہے، تو ہم تمہارے ساتھ رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ثابت قدم رکھا، اور وہ لوگ واپس نہیں ہوئے (اور اللہ ان دونوں کا حامی و ناصر ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ رکھنا چاہئے) دوسرے کسی پر نہیں۔

اور جب اہل اسلام احد کی جنگ میں پسپا ہوئے، تو اگلی آیات اتریں اور اللہ کا احسان یاد دلایا (اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد بدر کے میدان میں کی) بدر، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے (اس حال میں کہ تم کمزور تھے) تعداد بھی کم اور ہتھیار بھی کم (پس اللہ سے ڈرو، شاید تم) اس کی نعمتوں کی (قدر کرو، جب) اذ، نصر کم کا ظرف ہے (تم اہل ایمان سے کہہ رہے تھے) یعنی ان دلوں کو مطمئن کرنے کیلئے ان سے وعدہ کر رہے تھے (کہ کیا تم کو یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد تین ہزار فرشتوں سے کرے، جو اتارے جائیں گے) منزلیں تخفیف اور تشدید دونوں طرح ہے یعنی باب افعال سے اور باب تفعیل سے (کیوں نہیں) یہ تمہارے لئے کافی ہے، اور سورہ انفال میں ایک ہزار کا ذکر ہے، کیوں کہ ابتداءً مدد ایک ہزار سے ہوئی تھی، پھر تین ہزار سے ہوئی، پھر پانچ ہزار سے ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (اگر تم) دشمن کے مقابلے میں (ثابت قدم رہے، اور) مخالفت کرنے میں (اللہ سے ڈرتے رہے، اور تم پر وہ لوگ) یعنی مشرکین (فوری طور پر آپڑے، تو تمہارا رب تمہاری مدد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا، جو علامت) یعنی وردی (والے ہوں گے) مسومین، واو کے کسرے اور فتح کے ساتھ، یعنی نشان والے، چنانچہ اہل ایمان ثابت قدم رہے۔ اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، ان کے ساتھ فرشتے چتکبرے گھوڑے پر سوار ہو کر شریک جنگ رہے، ان کے سروں پر سفید یا زرد عمامے تھے، جن کے شملے دونوں طرف مونڈھوں کے درمیان لٹک رہے تھے (اور اللہ نے یہ) امداد (صرف اس لئے فرمائی کہ تمہارے لئے) نصرت کی (بشارت بن جائے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان) و سکون (حاصل ہو جائے) دشمن کی کثرت تعداد اور اپنی قلت سے نہ گھبراؤ (اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، جو عزیز و حکیم ہے) جسے چاہتا ہے مدد سے نوازتا ہے، اس کا تعلق کثرت فوج سے نہیں ہے (تاکہ کافروں کے

ایک حصہ کو) قتل اور قید کے واسطے سے (ہلاک کر دے) لیکقطع کا تعلق نصر کم سے ہے (یا ان کو) شکست دے کر (کمزور کر دے، پس ناکام و نامراد ہو کر واپس جائیں) جو انہوں نے سوچا تھا، وہ حاصل نہ ہو۔

جنگ احد میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، چہرہ مبارک پر زخم آ گیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کیونکر فلاح پاسکتی ہے، جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے بھر دیا ہے، اس پر اگلی آیت نازل ہوئی (معاملہ کا کوئی حصہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے) بلکہ معاملہ سارا اللہ کے اختیار میں ہے اس لئے صبر کرو (تا آنکہ اللہ تعالیٰ) ان کو اسلام کی توفیق سے نواز کر (ان پر مہربانی فرمائیں) او، الی ان کے معنی میں ہے (یا ان کو عذاب دیں، بلاشبہ یہ) کفر کی وجہ سے (ظالم ہیں، اور اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے) ملکیت کے اعتبار سے بھی، خلقت کے لحاظ سے بھی، اور بندگی کے اعتبار سے بھی (جس کے لئے) مغفرت کا (ارادہ کرتا ہے، مغفرت فرماتا ہے، اور جس کو) عذاب دینا (چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ) اپنے اولیاء کی (مغفرت فرمانے والے) اپنے اطاعت گزاروں پر (رحم فرمانے والے ہیں)

﴿ تشریحات ﴾

واذکریا محمد الخ :- یہ آیات غزوہ احد سے متعلق ہیں، رسول اللہ ﷺ صبح کے وقت حجرہ عائشہ سے نکلے اور کوہ احد کی جانب اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے، اس کا واقعہ اجمالاً یہ ہے کہ مشرکین مکہ، مدینہ پر حملہ کے ارادے سے بدھ کے دن (مفسر کے بیان کے مطابق ۷ شوال ۳ھ کو) احد کے دامن میں اترے، واضح ہو کہ احد پہاڑ مدینہ کے شمال میں ہے اور مکہ جنوب میں ہے، مشرکین موقع محل کی رعایت سے جنوب سے شمال کی جانب مسلسل چل کر مدینہ کے شمال میں پہنچ گئے، اور احد پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالا، رسول اللہ ﷺ کو علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو مشورے کیلئے طلب فرمایا اور پہلی مرتبہ عبداللہ بن ابی منافق کو بھی بلایا، آپ نے اس سلسلے میں مشورہ چاہا، اکثر انصار نے اور عبداللہ بن ابی نے یہ رائے دی کہ، آپ مدینہ میں تشریف رکھیں، باہر نہ نکلیں، تجربہ یہ ہے کہ اگر ہم مدینہ سے باہر نکل کر لڑے ہیں تو ہمارا نقصان ہوا ہے، اور اگر دشمن ہمارے اوپر چڑھ کر آبادی میں آیا ہے، تو اسے نقصان اٹھانا پڑا ہے، آپ کی موجودگی میں اگر دشمن گھس آیا تو یقیناً وہ بری طرح شکست سے دوچار ہوگا، تو حضرت انہیں وہیں چھوڑیئے، اگر وہ وہاں ہی ٹھہرے رہے تو وہ برا قید خانہ ہے، وہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا اور اگر وہ آبادی میں گھسے تو مرد سائے سے لڑیں گے، اور عورتیں اور بچے اوپر سے پتھر ماریں گے، اور اگر لوٹیں گے تو ناکام لوٹیں گے، آپ کو یہ رائے پسند آئی، بعض اصحاب نے رائے دی کہ حضرت! ان کتوں کی طرف چلنا چاہئے، کہیں وہ ہمارے ٹھہرنے کو بزدلی پر نہ محمول کریں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے آس پاس ذبح کی ہوئی گائیں ہیں اس کی تعبیر تو اچھی ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ میری تلوار کی دھار ٹوٹی

ہوئی ہے، اس کی تعبیر تو ہزیمت ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ گویا میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں ڈالا ہے۔ اس کی تعبیر میں نے مدینہ کو سمجھا ہے، پس اگر تمہاری رائے ہو تو مدینہ میں رہو اور انہیں چھوڑے رکھو، اگر وہ رکے رہیں گے تو بری جگہ ہوں گے اور اگر مدینہ میں داخل ہوں گے تو ہم ان سے لڑیں گے آپ کو یہی بات پسند تھی، کہ وہ مدینہ میں گھسیں تو ان سے مدینہ کے گلی کوچوں میں جنگ ہو۔ لیکن بعض صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور غزوہ احد میں انہیں شہادت سے سرفراز ہونا تھا، ان کا اصرار ہوا کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب ان کا شوق جہاد دیکھا تو آپ اندر تشریف لے گئے، اور ہتھیار باندھ کر باہر تشریف لائے۔ ادھر تو یہ ہوا اور ادھر صحابہ کرام جو اصرار کر رہے تھے، پشیمان ہوئے کہ ہم نے ناحق حضور پر اپنا مشورہ مسلط کیا۔ آپ باہر آئے تو وہ لوگ معذرت کرنے لگے، آپ نے فرمایا کہ نبی جب مسلح ہو جائے تو جہاد و قتال سے پہلے ہتھیار اتارنا اس کیلئے مناسب نہیں ہے۔ آپ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے، عبد اللہ بن ابی نے ازراہ نفسانیت آپ کے لشکر سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے ساتھ تین سو آدمی تھے، آپ کا کل لشکر ایک ہزار تھا۔ تین سو نکل گئے تو سات سو ہی بچا، آپ کا قیام ایسی جگہ ہوا کہ احد پہاڑ آپ کی پشت کی جانب تھا۔ ادھر ایک درہ تھا جس میں اگر کفار کا لشکر داخل ہو کر نکلتا۔ تو آپ کے آگے پیچھے دونوں طرف دشمن کی فوج ہوتی۔ آپ نے درہ کے اوپر پہاڑی پر پچاس تیر اندازوں کو حضرت عبد اللہ بن جبیر کی سرکردگی میں متعین کر دیا کہ کفار کو ادھر سے آنے نہ دینا اور تم لوگ کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا خواہ ہم جیتیں یا ہاریں۔

پھر جنگ شروع ہوئی ابتداءً میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا، کفار بھاگ نکلے، مسلمانوں نے ان کا تعاقب شروع کیا، تو تیر اندازوں کو اطمینان ہو گیا کہ اب جنگ ختم ہوگئی، یہ بھی اس خیال سے کہ ہم کوئی داد شجاعت نہ دے سکے، کفار کے پیچھے دوڑ پڑے، حضرت عبد اللہ بن جبیر نے اور بعض دوسرے حضرات نے منع بھی کیا مگر زیادہ تر حضرات تاویل کر کے چل نکلے، صرف دس آدمی پہاڑی پر رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت کفار کے لشکر میں تھے، انہوں نے موقع کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا، میدان کو خالی دیکھا، ایک دستہ جوانوں کا لیکر ادھر آگئے، جو لوگ وہاں موجود تھے، وہ مقابلہ کرتے ہوئے شہادت سے سرخ رو ہو گئے۔ اس دستہ نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان بدحواس ہو گئے۔ سامنے کا بھاگتا ہوا لشکر پھر پلٹ پڑا، درمیان میں اہل اسلام گھر گئے افراتفری مچ گئی۔ اس صورت واقعہ میں اس رکوع کو پڑھئے۔

من المدینة .: من اهلک کی تفسیر ہے، گھر والوں سے نکلنے کا مطلب ہے مدینہ سے نکلنا
تنزل .: تبوی کے معنی جگہ دینے کے ہیں، یعنی ہر ایک کے کھڑے ہونے کی جگہ رسول اللہ ﷺ نے متعین کر دی تھی۔

سابع شوال: - دوسرے مفسرین نے ۱۵ شوال لکھا ہے۔

الرماء: . رامی کی جمع ہے، تیر انداز۔

سفع الجبل: - پہاڑ کا نچلا حصہ، جڑ۔

انضحوا: - نضح بمعنی رش ہے یعنی برسانا، مطلب یہ ہے کہ تیر برسا کر دشمن کو ہم سے روکے رہنا۔

بدل من اذ قبلہ: - یہ اذما قبل کے اذ غدوت سے بدل ہے، اور یہی مقصود بالبیان ہے، ہمت میں ہم

سے مراد عزم نہیں ہے بلکہ اس سے کم درجہ کا ارادہ ہے۔ انسان کے دل میں جو چیز ابتداءً گزرتی ہے اسے خاطر

کہتے ہیں، خاطر اگر قوت پکڑتا ہے تو اسے حدیث نفس کہتے ہیں، وہ ترقی کرتی ہے تب اسے ہم کہا جاتا ہے

، ہم سے معاملہ آگے بڑھا تو وہ عزم ہے اس کے بعد آدمی کا یا تو قول ہوتا ہے یا فعل، یہاں عزم مراد نہیں ہے،

بلکہ اس سے پہلے والا درجہ مراد ہے۔

دو گروہ جو پھسلنے کو سوچ رہے تھے، وہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ تھے، بنو سلمہ کا تعلق خزرج سے تھا اور بنو حارثہ، اوس

کی شاخ تھے۔

جناح العسکر: - لڑائیوں میں لشکر کے پانچ حصے کئے جاتے تھے، اسی وجہ سے لشکر کو خمیس کہا جاتا

ہے۔ ایک حصہ آگے ہوتا تھا، اسے مقدمة الجیش کہتے ہیں۔ ایک حصہ پیچھے رہتا تھا اسے ساقہ کہا جاتا ہے،

دو حصے دائیں اور بائیں ہوتے تھے، دایاں حصہ میمنہ اور بائیں حصہ میسر کہلاتا تھا، ایک حصہ درمیان میں ہوتا

تھا اسے قلب کہا جاتا تھا۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ، میمنہ اور میسرہ میں تعینات تھے۔

تجبناً: . فشل کے معنی کمزوری اور بزدلی کے ہیں، بعض لوگوں نے کہا ہے، فشل کا تعلق اگر رائے سے ہے تو

عاجزی اور ناہمی کے معنی میں ہے، اور اگر اس کا تعلق بدن سے ہے تو اس کے معنی شدید تکان کے ہے کہ آدمی نہ

اٹھ سکے۔ اور اگر اس کا تعلق لڑائی سے ہے تو اس کے معنی بزدلی کے ہیں باب سمع سے استعمال ہوتا ہے۔

وقال لابی حاتم السلمی الخ: - عبداللہ بن ابی جب اپنے ساتھیوں کو لے کر لشکر سے نکلنے لگا تو بنو سلمہ

کے حضرت ابو حاتم نے اس سے کہا انشدکم اللہ فی نبیکم و انفسکم کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے کہتا

ہوں کہ اپنے نبی کا خیال کرو، اور اپنی جان کا بھی خیال کرو تو اس کے جواب میں عبداللہ بن ابی بولا: لو نعمم قتالاً

لا تبعناکم، اگر ہم جانتے کہ یہ جنگ ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے، لیکن یہ جنگ کہاں ہے، جنگ میں لشکر کی

مقدار میں ہتھیاروں میں کچھ تو توازن ہوتا ہے، اور یہاں تو کوئی توازن ہی نہیں ہے، ایک طرف کفار کا لشکر جزار

تین ہزار جوانوں پر مشتمل سامان جنگ سے معمور ہے، اور ایک طرف چند سو کی تعداد ہے جس کے پاس ٹھکانے کا

کوئی ہتھیار نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کی خودکشی ہے۔

مفسر علام نے آگے چل کر لو نعلم قتالا لا تبناکم (آیت: ۱۶۷) کی تفسیر میں لو نعلم کی تفسیر لو نوحسن سے کی ہے، یعنی اگر ہم کو لڑنے کا بخوبی علم ہوتا تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے، مگر افسوس کہ ہمیں لڑائی کا فن اور اس کا طریقہ ٹھیک سے معلوم نہیں ہے، اس لئے ہم تمہارا ساتھ دینے سے معذور ہیں، لیکن اس تفسیر کے مقابلے میں پہلی والی تفسیر زیادہ بر محل ہیں۔ منافقین لڑائی سے ناواقف نہ تھے، اور نہ وہ اس کا اقرار کر سکتے تھے، اس میں ان کی توہین تھی، عبد اللہ بن ابی جسے ہجرت سے پہلے مدینہ کی بادشاہت ملنے والی تھی، اسے یہ غصہ تھا کہ میری بات نہیں مانی گئی اس لئے وہ ساتھ چھوڑ رہا تھا، اس کیلئے کوئی بہانہ چاہئے تھا، تو بہانہ یہ نہیں تھا کہ ہم لڑائی سے ناواقف ہیں، بلکہ یہ تھا کہ یہ لڑائی نہیں ہے، ایک طرح کی خودکشی ہے، اور ہم کو وہ منظور نہیں۔

انشدکم :- باب نصر سے ہے، اس کے معنی سوال کرنے کے ہیں۔ اللہ منصوب بزوع الخافض ہے، یعنی انشدکم باللہ۔ اللہ کے واسطے سے میں تم سے سوال کرتا ہوں، یہ لفظاً معناً قسم دینے کیلئے ہے۔

تذکیراً لہم بنعمة اللہ :- غزوہ احد کی شکست کا ملال اور صدمہ مسلمانوں کو بہت تھا، ان کی تسلی اور دل کی تقویت کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر کیا ہے، جو غزوہ بدر میں مسلمانوں پر ہوا تھا، اسی مناسبت سے غزوہ بدر کا ذکر یہاں آیا۔

موضع بین مکة والمدینة :- بدر، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ جہاں ۱۷ رمضان ۲ھ میں کفار سے پہلی فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی۔

نعمہ :- تقویٰ کے حصول پر نعمتوں کی شکرگزاری موقوف ہے، دو وجہ سے اول یہ کہ آدمی جتنا متقی ہوگا، اسی قدر اس پر اللہ کی نعمتوں کا فیضان ہوگا، اور اسے شکرگزاری کے مواقع زیادہ مہیا ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ تقویٰ کی وجہ سے دل کا سارا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا، تو ہر نعمت کو اور ہر احسان کو وہ اللہ ہی کی طرف سے سمجھے گا، اپنا کوئی کمال نہیں سمجھے گا، اور نہ اپنی سعی و جہد کا اثر جانے گا تو اس کے اندر شکرگزاری کا داعیہ پیدا ہوگا۔

ظرف لنصرکم :- اذ تقول کا تعلق نصرکم سے ہے، یہ قول غزوہ بدر کے وقت کا ہے

توعدہم تطمیناً :- یہاں مفسر نے توعدہم باب افعال سے لکھا ہے، لیکن معلوم ہے کہ باب افعال سے اوعد یوعد کے معنی دھمکی کے ہیں۔ یعنی وعدہ شر کے، اور وعدہ خیر کے لئے مجرد سے وعد یعد آتا ہے، اس لئے یہاں تعدہم ہونا چاہئے تھا۔ صاحب جمل نے لکھا ہے کہ جلالین کے بعض نسخوں میں تعدہم ہی ہے۔

وفی الانفال بالف الخ :- اس آیت کے مضمون اور سورہ انفال کی آیت اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکة مردفین۔ (الانفال: ۹) کے مضمون میں بظاہر تعارض ہے، کیونکہ یہاں تین ہزار فرشتوں کی امداد کا ذکر ہے، اور سورہ انفال کی اس آیت میں ایک ہزار فرشتوں کا ذکر ہے، اس

اشکال کا جواب مفسر نے دیا ہے کہ وعدہ نصرت کے تین مرحلے ہیں سورہ انفال میں پہلے مرحلے کا ذکر ہے کہ فرشتوں کی تعداد ایک ہزار ہوگی، جو مسلمانوں کے اطمینان قلب کیلئے اترے گی، پھر یہ تعداد بڑھا کر تین ہزار کر دی گئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ اگر کفار کو اچانک کہیں سے مکمل گئی تو فرشتوں کی تعداد بڑھا کر پانچ ہزار کر دی جائیگی۔ چنانچہ ارشاد ہے ان تصبروا و اتقوا و یاتوکم من فورہم ہذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اگر تم ثابت قدم رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، اور وہ یعنی کفار تمہارے اوپر اچانک آپڑیں گے تو مدد کیلئے پروردگار کی طرف سے پانچ ہزار نشان والے فرشتے اتر پڑیں گے۔

معلمین: مسومین اگر بکسر الواو ہے، تو تفسیر کا یہ لفظ معلمین بکسر اللام پڑھے، اور اگر مسومین بفتح الواو ہے تو معلمین بفتح اللام پڑھے اسم مفعول۔ مطلب یہ ہے کہ خاص علامتوں والے ہوں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی خاص وردیاں ہوں گی جیسا کہ آگے مفسر نے بیان کیا ہے کہ ان کے گھوڑے چتکبرے تھے اور وہ سب صافہ بند تھے، کچھ کے صافے سفید تھے، کچھ کے زرد تھے اور ان کے شملے دونوں کاندھوں کے درمیان لٹک رہے تھے۔

بالنصر: اللہ نے جو امداد بھیجی تھی، وہ اس لئے نہ تھی کہ فرشتے اپنی طاقت سے کفار کو نیست و نابود کر دیں بلکہ اس لئے کہ مسلمانوں کو فتح کی خوش خبری مل جائے اور یہ بہادری کے ساتھ حوصلہ مندی سے لڑیں، اور اس لئے تاکہ ان کے دل مطمئن رہیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اس سے پہلے والے رکوہ میں ذکر تھا کہ اگر اہل ایمان صبر و تقویٰ سے کام لیں تو کفار کی سازش ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس رکوہ میں دو نمونے ذکر کئے گئے ہیں، ایک نمونہ صبر و تقویٰ میں کمی کا، اور دوسرا اس میں پورا اترنے کا، پہلے نمونہ کو صراحتاً نہیں ذکر کیا ہے، بلکہ ایک بہت لطیف اشارے کے پیرائے میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، وہ یہ کہ غزوہ احد میں صحابہ کی ایک جماعت نے جنگ کے شروع ہونے سے پہلے مدینہ کے باہر نکل کر جنگ کرنے پر منشاء رسول کے خلاف اصرار کیا تھا، اور پھر آپ اس کے لئے تیار ہو گئے تھے، اس میں یہ لغزش ہوئی کہ شوق جہاد میں انہوں نے منشاء رسالت پر زیادہ دھیان نہیں دیا، پھر دوسرا قصور یہ ہوا کہ تیر اندازوں میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی مرضی کے خلاف مسلمانوں کی فتح یابی کی صورت میں جگہ چھوڑ دی تھی، تیسری بات یہ ہوئی کہ افراتفری میں لوگ منتشر ہو گئے، اس میں پہلی بات تو مشورہ کی مجلس میں ہوئی تھی، وہ تو قطعاً اجتہادی خطا تھی، جس پر مواخذہ نہیں، دوسری غلطی میں رسول اللہ ﷺ کا صریح حکم موجود تھا کہ یہاں سے نہ ہٹنا، مگر کچھ حضرات نے اجتہاد کیا اور اب ٹھہرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، یہ غلطی پہلی سے اہم تھی، لیکن اس میں بھی اجتہاد کا دخل تھا، گو بے موقع

اجتہاد تھا، تیسری غلطی یہ تھی کہ بہت سے حضرات نے میدان چھوڑ دیا تھا، یہ غلطی پہلی دونوں غلطیوں سے بڑی تھی، یہاں صبر و تقویٰ میں قصور ہوا، اور مسلمانوں کو کفار سے نقصان پہنچا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھئے کہ ان غلطیوں میں سے یہاں کسی غلطی کا تذکرہ نہیں کیا، صرف واقعہ احد کا ایک ہلکا سا تذکرہ کیا اور معاً بعد غزوہ بدر میں اپنی نصرت کا تذکرہ فرمایا، اس سے ایک لطیف اشارہ نکلا کہ غزوہ احد میں جو نصرت کا وہ انداز نہیں ہوا جو غزوہ بدر میں بدتر تھا تو اس کا باعث وہی ہوا جس کا تذکرہ اس سے پہلے والے رکوع میں ہوا تھا، یعنی صبر و تقویٰ میں کچھ قصور، اس قصور کا دنیا میں جو لازمی نتیجہ تھا۔ یعنی قدرے نقصان وہ تو ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے یہ لوگ بچے رہے، کیوں کہ پہلے دونوں قصوروں میں تو اجتہاد کا دخل تھا اور تیسری غلطی اس لئے ہوئی کہ اضطرار جیسی کیفیت حضرات صحابہ پر چھا گئی تھی کیوں کہ شیطان نے پکار دیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ شہید ہو گئے ہیں، اس اضطرار میں لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، ان میں سے بعض غلطیوں کا قرآن کریم کی اسی سورت میں تذکرہ آیا ہے، مگر علیحدہ علیحدہ، اور سرزنش کے پیرائے میں نہیں، بلکہ ان کی طرف سے معذرت، معافی کے پیرائے میں، دوسرا نمونہ غزوہ بدر میں صبر و تقویٰ کے نتیجے میں نصرت الہی کا ہے۔

اس تمہید کے بعد اس رکوع کے مضامین کا مطالعہ کیجئے، فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم علی الصباح گھر سے نکلے اور میدان احد میں لوگوں کو لڑائی کیلئے مناسب مقامات پر کھڑا کر رہے تھے، اور تم میں سے دو گروہوں کے دل ڈگمگا رہے تھے، عبداللہ بن ابی منافق تو اپنے جرگہ کو لے کر چلا ہی گیا تھا، یہ دو قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے دل بھی خیالات بد میں مبتلا تھے، لیکن اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، پھر وہ جم گئے، اور بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری اس وقت مدد کی تھی، جب تم کمزور تھے، فوج بھی بہت کم تھی، اور سامان جنگ بھی بہت قلیل تھا مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیابی بخشی یعنی بدر کے میدان میں اس لئے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اس کے بعد تم شکر گزار بندے بنو گے، اس وقت اے نبی تم اہل ایمان سے کہہ رہے تھے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد تین ہزار فرشتوں کا اتار کر کریں تو کیا تم کو یہ کافی نہیں ہے؟

کیوں نہیں کافی تو یہی ہے، لیکن سنو اگر تم صبر و تقویٰ پر کار بند رہو اور فوری طور پر اچانک دشمنوں کی فوج آجائے، یعنی ان کی کہیں سے مدد آجائے، تو اللہ تعالیٰ پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ یہ مدد اس لئے ہے تاکہ تم کو فتح کی بشارت حاصل ہو اور تمہارے دلوں کو اطمینان رہے، اور مدد کا تعلق تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، جو عزیز و حکیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ کافروں کا ایک حصہ ہلاک ہو جائے یا وہ کمزور پڑ جائیں اور نامراد ہو کر یہاں سے لوٹیں۔

رسول اللہ کو غزوہ احد کے واقعات اور مسلمانوں کی تکلیف کا بڑا صدمہ تھا۔ خود آپ کو زخم کی تکلیف شدید ہوئی تھی، چہرہ انور لہو لہان ہو گیا تھا۔ آپ کو رنج تھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ جس قوم نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے بھر دیا ہو، وہ بھلا کیسے فلاح پاسکتی ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب معاملات تمہارے قبضہ و اختیار کے نہیں ہیں۔ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، تم تو صبر کئے جاؤ، اللہ کو منظور ہوگا، تو انہیں توبہ و ہدایت کی توفیق ملے گی، یا انہیں منظور ہوگا تو انہیں مبتلائے عذاب کریں گے۔ یہ تو ظالم ہیں ہی۔ اور آسمان میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ انہیں کی ملکیت میں ہے، وہی سب کے خالق ہیں، وہی سب کے آقا و پروردگار ہیں، مغفرت و عذاب سب ان کے ہاتھ میں ہے چاہیں تو بخشیں اور چاہیں تو عذاب دیں، اور اللہ تعالیٰ بخش دینے والے، رحمت والے ہیں۔



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ بالف و دونہا بان تزیدوا فی المال عند حلول الاجل و تؤخروا الطلب ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ بترکہ ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ تفلزون . ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ ان تعذبوا بها ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ و سارِعُوا ﴿بِوَاوٍ وَدُونَهَا﴾ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴿ای کعرضہما لو وصلت احدهما بالاخری و العرض السعة﴾ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿اللہ بعمل الطاعات و ترک المعاصی﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ ﴿فی طاعة الله﴾ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴿ای اليسر والعسر﴾ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ ﴿الكافين عن امضائه مع القدرة﴾ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴿ممن ظلمهم ای التارکین عقوبتہ﴾ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿بہذہ الافعال ای یشیہم﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ﴿ذنباً قبیحاً کالزنا﴾ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴿بما دونہ کالقبلة﴾ ذَكَرُوا اللَّهَ ﴿ای وعیدہ﴾ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ ﴿ای لا﴾ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا ﴿یدیمو﴾ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا ﴿بل اقلعوا عنہ﴾ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ان الذی اتوہ معصیة﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ ﴿حال مقدرہ ای مقدرین الخلود﴾ فِيهَا ﴿اذا دخلوها﴾ وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿بالطاعة هذا الاجر و نزل فی ہزیمہ احد﴾ قَدْ خَلَتْ ﴿مضت﴾ مِّن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ﴿طرائق فی الکفار بامہالہم ثم اخذہم﴾ فَسِيرُوا ﴿ایہا المؤمنون﴾ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿الرسال ای آخر امرہم من الہلاک فلاتحزنوا لغلبتہم فانا امہلہم لوقتہم﴾ هَذَا ﴿القرآن﴾

﴿بَيِّنًا لِلنَّاسِ﴾ ﴿كُلِّهِمْ﴾ ﴿وَهُدًى﴾ ﴿مِنَ الضَّلَالَةِ﴾ ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿مِنْهُمْ﴾ ﴿وَلَا تَهِنُوا﴾ ﴿تَضَعُوا عَن قِبَالِ الْكُفَّارِ﴾ ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ ﴿عَلَى مَا أَصَابَكُمْ بِأَحَدٍ﴾ ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ ﴿بِالْغَلْبَةِ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿حَقًّا وَجَوَابَهُ دَلَّ عَلَيْهِ مَجْمُوعٌ مَا قَبْلَهُ﴾ ﴿إِنْ يَمْسَسُكُمْ﴾ ﴿يَصْبِكُمْ بِأَحَدٍ﴾ ﴿قَرْحٌ﴾ ﴿بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّهَا جَهْدٌ مِنْ جَرْحٍ وَنَحْوِهِ﴾ ﴿فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ﴾ ﴿الْكُفَّارِ﴾ ﴿قَرْحٌ مِّثْلُهُ﴾ ﴿بِدَرٍ﴾ ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا﴾ ﴿نَصْرُهَا﴾ ﴿بَيْنَ النَّاسِ﴾ ﴿يَوْمًا لِّفِرْقَةٍ وَيَوْمًا لِآخَرَى لِيَتَعَظُّوا﴾ ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ﴾ ﴿عِلْمَ ظُهُورِ﴾ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ﴿أَخْلَصُوا فِي آيْمَانِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ﴾ ﴿وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾ ﴿يَكْرَهُهُمْ بِالشَّهَادَةِ﴾ ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿الْكَاْفِرِينَ أَيْ يَعْاقِبُهُمْ وَمَا يَنْعَمُ بِهِ عَلَيْهِمْ اسْتِدْرَاجٌ﴾ ﴿وَلِيَمْحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ﴿يَطَهِّرُهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ بِمَا يَصِيبُهُمْ﴾ ﴿وَيَمْحَقُ﴾ ﴿يَهْلِكُ﴾ ﴿الْكَاْفِرِينَ أَمْ﴾ ﴿بَلْ أ﴾ ﴿حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا﴾ ﴿لَمْ﴾ ﴿يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ ﴿عِلْمَ ظُهُورِ﴾ ﴿وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿فِي الشَّدَائِدِ﴾ ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ﴾ ﴿فِيهِ حَذْفُ أَحَدِي التَّائِينَ فِي الْأَصْلِ﴾ ﴿الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ﴾ ﴿حَيْثُ قَلْتُمْ لَيْتَ لَنَا يَوْمًا كَيَوْمِ بَدْرٍ لِننالَ مَا نَالَ شُهَدَاءَهُ﴾ ﴿فَقَدَّرَ أَيَّتْمُوهُ﴾ ﴿أَيْ سَبَبَهُ وَهُوَ الْحَرْبُ﴾ ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ ﴿أَيْ بَصَرَاءُ تَتَامَلُونَ الْحَالَ كَيْفَ هِيَ فَلَمْ أَنْهَزْتُمْ﴾

﴿ترجمہ﴾

(اے ایمان والو! دونوں چوگنا کر کے سو دنہ کھاؤ) مضاعفۃ الف کے ساتھ بھی ہے اور بغیر الف کے بھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ مدت قرض پوری ہونے کے بعد سود میں اضافہ کر دیتے تھے اور مطالبے کو موخر کر دیتے تھے (اور) اسے چھوڑ کر (اللہ سے ڈرنا کہ تمہارا بھلا ہو، اور بچو اس آگ سے، جو کافروں کے واسطے تیار ہوئی ہے) کہ اس میں تمہیں عذاب دیا جائے (اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تا کہ تم پر رحم ہو اور دوڑو) (واو عاطفہ کے ساتھ اور بغیر واو کے بھی) (اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف، جس کا عرض آسمان وزمین ہے) (یعنی تمام زمین و آسمان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے، تو اس کے برابر عرض ہے، عرض کے معنی وسعت کے ہیں) (ان لوگوں کے لئے تیار ہوئی ہے جو) طاعت پر عمل کر کے اور معاصی کو ترک کر کے (اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو لوگ) اللہ کی طاعت میں (خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی) (یعنی خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی) (خرچ کرتے ہیں، اور غصہ کو دبا لینے والے ہیں) (یعنی قدرت کے باوجود غصہ کو نافذ کرنے سے باز رہتے ہیں) (اور لوگوں کو) جنھوں نے ان پر ظلم کیا ہے (معاف کرنے والے ہیں) (یعنی ان کو سزا نہیں دیتے) (اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں) (یعنی انھیں ثواب دیتے ہیں جو ان کاموں کو کر کے) (نیکی کرنے والے

ہیں، اور وہ لوگ کہ جب وہ کسی فاحشہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں (یعنی بیچاری کا گناہ جیسے زنا (یا اپنے اوپر) اس سے ہلکا کام کر کے مثلاً بوسہ دیکر (ظلم کرتے ہیں، تو اللہ کو) یعنی اس کی وعید کو (یاد کرتے ہیں، پس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ گناہوں کی مغفرت کون کر سکتا ہے) یعنی کوئی نہیں کر سکتا (اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اس پر اصرار نہیں کرتے۔) بلکہ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں (اور وہ جانتے ہیں) کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے، وہ معصیت ہے (یہی لوگ ہیں کہ ان کی جزاء ان کے رب کی جانب سے مغفرت ہے، اور ایسے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے) خالدین حال مقدرہ ہے یعنی مقدرین الخلود فیہا اذا دخلوها۔ (اور کیا خوب) یہ (اجر ہے، ان لوگوں کا جو) طاعت کا (عمل کرتے ہیں)

احد کی ہزیمت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ (تم سے پہلے واقعات گزر چکے ہیں) یعنی کفار کی مہلت کے اور پھر اس کے بعد ان کی گرفت کے (پس) اے ایمان والو! (تم زمین پر چلو پھرو، پس دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو) رسولوں کو (جھٹلاتے تھے) یعنی ان کا آخری انجام ہلاکت ہوا، اس لئے ان کے غلبہ کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہو، میں انہیں ان کے وقت تک مہلت دے رہا ہوں (یہ) قرآن تمام (لوگوں کے واسطے بیان ہے اور) گمراہی سے (ہدایت ہے اور) ان میں سے (اہل تقویٰ کے لئے نصیحت ہے، اور سست نہ ہو) یعنی کفار کی جنگ سے کمزور نہ پڑو (اور) جو کچھ احد میں تم پر مصیبت آئی اس سے (رنجیدہ نہ ہو، اور تمہیں لوگ) ان پر غلبہ پا کر (سر بلند ہو گے۔ اگر تم) سچے (مومن ہو) شرط کے جواب پر ماقبل کا مجموعی کلام دلالت کرتا ہے (اگر تم کو) احد میں (زخم کا صدمہ پہنچا ہے) قروح قاف کے فتح اور اس کے ضمہ کے ساتھ ہے، زخم وغیرہ کی مشقت اور صدمہ (تو قوم) یعنی کفار (کو اسی جیسا زخم) بدر میں (لگ چکا ہے، اور یہ دن، ہم اسے لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں) کسی دن ایک فرقہ کے لئے، کسی دن دوسرے فرقے کے لئے، تاکہ عبرت حاصل کریں (اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ) علم ظہور کے طور پر (جان لیں ایمان والوں کو) جو اپنے ایمان میں مخلص ہیں، وہ دوسروں سے ممتاز ہو جائیں (اور تم میں سے بعض کو شہادت سے نوازیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے) یعنی کافروں سے، انہیں سزا دیں گے، اور ان پر جو انعام دکھائی دیتا ہے، وہ استدرج ہے (اور اس لئے تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو) مصائب کی وجہ سے گناہوں سے (پاک و صاف کر دیں، اور کافروں کو ہلاک کر دیں، بلکہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں تمہیں داخل مل جائے گا، حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا ہے (یعنی بطور ظہور کے) جنہوں نے جہاد کیا، اور جو) شدائد میں (جمنے والے ہیں، اور بے شک تم لوگ تو اس مقابلے سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے) تمنون میں اصل میں ایک تاء کا حذف ہے، تم نے کہا تھا کہ کاش ہمارے لئے بھی بدر جیسا دن ہوتا کہ ہم کو بھی وہ بات حاصل ہوتی جو بدر کے شہداء کو حاصل ہوئی تھی (تو تم نے اسے دیکھ لیا) اس

کے سبب یعنی لڑائی کو (اور تم لوگ غور کر رہے تھے) کہ یہ حال کیسا ہے، پھر کیوں تم بھاگے۔

﴿ تشریحات ﴾

بالف و دونہا :- مضاعفہ میں دو قرآت ہے، الف کے ساتھ یعنی باب مفاعلت سے، اور بغیر الف کے یعنی باب افعال سے اضعاف مضاعفہ کا طریقہ یہ ہے کہ قرض کا وقت پورا ہو گیا اور مقروض ادا نہ کر سکا تو اصل اور سود کے مجموعہ پر پھر سود بڑھا دیتے تھے اور مطالبہ کو موخر کر دیتے تھے، اس طرح سود در سود بڑھتا رہتا تھا، اور بسا اوقات اصل سے سود بہت بڑھ جاتا تھا۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب معاملہ سود در سود کا ہو جبھی سود حرام ہو، چونکہ عام طور سے سود کی یہی صورت ہوتی ہے، اس لئے اس کو خصوصیت سے ذکر کر دیا، ورنہ اگر سود مفرد بھی ہو، تب بھی حرام ہے۔
ان تعذبوا بہا :۔ النار سے بدل اشمال ہے، جہنم سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عذاب سے بچا جائے۔

و سار عوا :۔ اس لفظ میں دو قرآت ہے، واو عاطفہ کے ساتھ واطیعو اللہ پر عطف ہے، اور بغیر واو عاطفہ کے، تب یہ جملہ مستانفہ ہے۔

کعرضہا لو وصلت احدہما الخ :۔ زمین و آسمان سب کو اکٹھا کر کے ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اندازہ کرو کتنی وسعت ہوگی، اسی سے جنت کی وسعت کا اندازہ کر لو
والعرض السعة :۔ مفسر نے فرمایا کہ یہاں عرض وہ نہیں ہے، جو طول کے مقابلے میں ہے، بلکہ مطلق وسعت کے معنی میں ہے۔

بعمل الطاعات و ترک المعاصی :۔ یہ اللہ کے تقویٰ کا مصداق اور اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ طاعات پر عمل کرنا، طاعات ظاہری پر بھی اور طاعت باطنی پر بھی، اور تمام گناہوں کا ترک کر دینا، یہی تقویٰ ہے، اور یہی حصول تقویٰ کا ذریعہ بھی ہے۔

فی طاعة اللہ :۔ جس انفاق کی تعریف کی جا رہی ہے، وہ مطلق انفاق نہیں ہے، ورنہ یہ انفاق تو ہر شخص کرتا ہے، یہاں وہ انفاق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ہو۔

الکافین عن امضائہ :۔ یعنی صبر کر لیتے ہیں اور ان کے چہرے بشرے پر بھی غصہ کے آثار نہیں ظاہر ہوتے۔
مع القدرة :۔ کمال ضبط یہی ہے کہ غصہ کو نافذ کرنے کی طاقت ہے، مگر آدمی اسے پی جائے۔ حدیث میں ہے:
من کظم غیظا وهو یقدر علی انفاذہ ملأ اللہ قلبہ امناً وایماناً (احمد و ابوداؤد) جس نے غصہ کو ضبط کر لیا، جبکہ وہ اس کے نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن و سکون اور ایمان سے بھر دیتے

ہیں۔ کظم کے معنی روکنے کے ہیں

ممن ظلمہم :۔ یہ والعافین عن الناس میں الناس کا بیان ہے، یعنی وہ لوگ جو ان پر ظلم کرتے ہیں، انہیں معاف کر دیتے ہیں۔

التارکین عقوبتہم :۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی بدلہ نہیں لیتے، انہیں کوئی سزا نہیں دیتے۔
بہذہ الافعال امے یشیہم :۔ جو لوگ نیکی کے مذکورہ بالا اعمال کرتے ہیں، وہ محسن ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی انہیں ثواب عطا فرماتے ہیں، محبت کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس کی بحث پچھلے صفحات میں گزر چکی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔

ذنباً قبیحاً :۔ فاحشہ سے مراد بڑا گناہ ہے، جس کا گناہ ہونا بھی ظاہر ہے، اور اسے لوگ بڑا بھی سمجھتے ہیں، اور ظلموا انفسہم سے کم درجے کا گناہ مراد ہے۔

وعیدہ :۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دھمکی کو یاد کرتے ہیں، جو گناہوں پر ہے۔

حال مقدرہ امے مقدرین الخلود فیہا۔ خالدین حال ہے، اس کا ذوالحال جزاء ہم میں ضمیر ہے، کیونکہ وہ معنی کے اعتبار سے مفعول بہ ہے کیوں کہ معنی یوں ہوگا۔ یجزیہم اللہ جنات تجری من تحتہا الانہار فی حال خلود ہم۔

حال کے باب میں قاعدہ یہ ہے کہ حال کا زمانہ اور عامل کا زمانہ متحد ہوتا ہے۔ جاء نی زید را کبائیں جاء کا زمانہ اور را کبائیں کا زمانہ متحد ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ عامل کا زمانہ پہلے ہو، اور حال کا زمانہ بعد میں ہو، لیکن اس جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جزاء کا زمانہ جو کہ عامل ہے پہلے ہے کیونکہ خلود تو اس جزاء کے حاصل ہونے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد ہوگا۔ تو جزاء دخول جنت سے حاصل ہوگئی، اور خلود اس کے بعد ہوگا۔

مفسر نے اس اشکال کا جواب دیا کہ یہ حال، جس کا زمانہ عامل کے زمانہ کے بعد ہے، حال مقدرہ کہلاتا ہے، یہاں درحقیقت حال خالدین نہیں ہے بلکہ تقدیر و تعیین خلود ہے، اور ظاہر ہے کہ جزاء کا زمانہ اور تقدیر خلود کا زمانہ ایک ہی ہے، عبارت اس طرح ہوگی۔ اولئک جزاء ہم مغفرة من ربہم جنات تجری من تحتہم الانہار مقدرین الخلود فیہا اذا دخلوہا۔ یعنی یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس حال میں کہ جب اس میں داخل ہوں گے، اسی وقت ان کے حق میں جنت کے اندر خلود متعین ہوگا۔

هذا لاجر :۔ نعم اجر العاملين میں نعم فعل مدح ہے، اجر العاملين فاعل ہے، اور مخصوص بالمدح محذوف ہے، یعنی هذا لاجر

ونزلت فی ہزیمۃ احد :- غزوہ احد میں اہل اسلام کو جو نقصان پہونچا، اس کا مسلمانوں کو شدید رنج اور صدمہ تھا، ایک صدمہ تو ہزیمت کا، دوسرے رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کا، یہ بہت شدید تھا، پھر اس کے نتیجے میں خود رسول اللہ ﷺ کا زخمی ہونا، بلکہ آپ کی شہادت کی افواہ کا اڑ جانا یہ حضرات صحابہ کیلئے بہت زیادہ قلبی تکلیف کا باعث تھا۔ پھر مزید یہ کہ ان سب حالات سے رسول اللہ ﷺ کی آزر دگی کا ندیشہ اور سوہان روح تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کی تسلی اور تقویت قلب کیلئے قد خلت من قبلکم الخ کو نازل فرمایا۔

بامہالہم ثم اخذہم :- اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی کفار کو انبیاء کے مقابلے میں اس طرح کی مہلت دی گئی ہے، لیکن وہ ان کی فتح نہ تھی۔ شکست کی تمہید تھی، پھر وہ اللہ کی گرفت میں مبتلا ہوئے، وہی طریقہ یہاں بھی ہوگا، جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ یہ ایک پیشین گوئی تھی، دنیا نے اس کے بعد جلد ہی اس کی صداقت دیکھی۔

الرسول :- یہ المکذبین کا مفعول بہ ہے، رسولوں کی تکذیب کرنیوالوں کا آخری انجام ہلاکت ہے، تو اس عارضی غلبہ سے دل شکستہ نہ ہو۔

للساس کلہم :- یہ قرآن تمام انسانوں کیلئے حق و صداقت کی وضاحت ہے، چنانچہ تمام عالم انسانیت کے سامنے ان مقابلوں اور جہادوں کے ذریعے، اور شکست و فتح کے واسطے سے حق واضح ہو چکا ہے۔

تضعفوا عن قتال الکفار :- اس عارضی شکست کی وجہ سے تمہارے دلوں میں یہ کمزوری نہیں آنی چاہئے، ہوا یہ کہ ابھی یہ زخم خوردہ شکستہ فوج میدان احد میں اپنی قوت کو سمیٹ رہی تھی کہ خبر پھیل گئی کہ کفار جو میدان چھوڑ کر مکہ کی طرف کوچ کر چکے تھے، وہ پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ خبر سن کر حضرات صحابہ کو ان کے مقابلے کیلئے تیاری کا حکم دیا، اس وقت فوج پر افسردگی طاری تھی، یہ افسردگی حرکت و عمل میں ظاہر ہونا چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹوکا، اور اپنی ان ہدایات کے ذریعے انہیں تازہ دم کر دیا۔

جوابہ دل علیہ مجموع ما قبلہ :- ان کنتم مومنین شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے، اور اس جزائے محذوف کا قرینہ ما قبل کے کلام کا مجموعہ ہے، یعنی ان کنتم مومنین فسیروا فی الارض ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون .

بفتح القاف و ضمہا :- قرح میں یہ دونوں لغتیں ہیں، معنی ایک ہی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فتح کے ساتھ زخم کے معنی میں ہے اور بالضم زخم کی تکلیف کے معنی میں ہے۔

نصر فہا :- نداول، مداولت سے ہے، اس کے معنی ہیں باری باری یکے بعد دیگرے کسی چیز کو لینا، مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ایام میں نوبت بہ نوبت سب کی شرکت ہوتی ہے، کبھی ایک گروہ کا غلبہ ہوتا ہے تو کبھی دوسرا گروہ

غالب ہوتا ہے، اس میں کفر و ایمان کی تخصیص نہیں ہے۔ آخرت میں مداولت کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس مداولت کا فائدہ یہ ہے کہ دوسروں کیلئے عبرت و نصیحت بنے۔

لیتعظوا : حضرت مفسر نے ندا و لہا کی تعلیل میں **لیتعظوا** کو اس لئے مقدر مانا ہے کہ اس پر آگے والے جملہ **ولیعلم اللہ** اور اس کے بعد والے معظوفات یعنی **ویتخدمکم** اور **ولیمحص اللہ** اور **ولیمحق** کا عطف ہو سکے، ورنہ لفظوں میں ان معظوفات کا معظوف علیہ موجود نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مداولت کی پانچ علتیں بیان کی گئیں، اول عبرت پذیری، دوسرے مخلصین کا ظاہر ہونا، تیسرے کچھ لوگوں کو شہادت سے سرفراز کرنا، چوتھے اہل ایمان کی گناہوں سے تطہیر، پانچویں کفار کا خاتمہ، ان میں سے پہلی علت تو مفسر نے مضمون کلام کی روشنی میں مقدر مانی ہے، تاکہ اسے معظوف علیہ قرار دیا جائے، اس کے بعد کی چار علتیں قرآن کریم میں مذکور ہیں، ان چار میں پہلی تین کا تعلق اہل ایمان سے ہے، اور آخری ایک کا تعلق کفار سے ہے۔

ولیعلم اللہ : علم ظہور مداولت کی ایک علت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو کہ اپنے ایمان میں مخلص ہیں جان لیں، اس پر سوال ہے کہ کیا پہلے سے اللہ تعالیٰ کو ان کا علم نہ تھا؟ اس کا جواب مفسر علم ظہور کا لفظ ذکر کر کے دیا۔ بات یہ ہے کہ علم کا دو درجہ ہے۔ ایک یہ کہ کسی واقعہ کے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور وہ ٹھیک اسی طرح واقع ہوگا۔ جیسا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ ”علم ثبوت“ ہے اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ واقعہ اپنے وقت پر ظاہر ہو گیا۔ اس وقت کا علم ”علم ظہور“ کہلاتا ہے، یہ نہ تو علم کی تجدید ہے، اور نہ کوئی نیا علم ہے۔ بلکہ اس علم کا خارجی دنیا میں ظہور ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے علاوہ بندگان خدا بھی اس کو جان لیتے ہیں، یہاں جو اللہ تعالیٰ نے **ولیعلم اللہ** فرمایا، اس سے علم ظہور مراد ہے۔ پس کوئی اشکال نہیں۔

ای **یعاقبہم** : لا یجب کا معنی اپنے انتہائی مرتبے کے لحاظ سے عقاب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، محبت کی نسبت اللہ کی طرف ہو، تو اسکی بحث پہلے گذر چکی ہے،

یطہرہم من الذنوب بما یصیبہم - مصیبت کی وجہ سے انسان کی گناہوں سے تطہیر ہو جاتی ہے۔

بل ا۔ ام حسبتم میں ام منقطعہ ہے، جو بل اور ہمزہ استفہام پر مشتمل ہے، بل اضراب کے لئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تسلی و تقویت سے ہٹ کر یہاں قدرے تنبیہ فرما رہے ہیں، ہمزہ استفہام، انکار کے لئے ہے۔

ولما ﴿ لم یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ﴾ علم ظہور۔ لما ماضی میں وقت تکلم تک نفی کے استمرار کو بتاتا ہے، آگے اس کے اثبات کی توقع ہوتی ہے، جیسے ان الرجل قد دخل المسجد ولما یصل، آدمی مسجد میں داخل تو ہو گیا، مگر ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے، اس میں داخل ہونے کے وقت سے تکلم کے

وقت تک نماز پڑنے کی نفی مستمر ہے، لیکن یہ بات ہے کہ نماز پڑھنے کی توقع ہے، جب یہ لَمَّا، يَعْلَمُ اللہ پر داخل ہوا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں جانا ہے، مگر توقع جاننے کی ہے، ظاہر ہے کہ یہ معنی خدا تعالیٰ کی نسبت سے غلط ہے، اسلئے مفسر نے اسے مطلق نفی کے معنی میں لیا ہے، اور لم سے اس کا ترجمہ کیا، اور مراد علم سے علم ظہور ہے، تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

ای سببہ وهو الحرب فقد رأیتموہ میں ضمیر غائب مفعول کا مرجع الموت ہے، یعنی موت کو تم نے دیکھ لیا، سوال یہ ہے کہ موت تو ایک معنوی چیز ہے، اس کا تعلق دیکھنے سے کیسے ہوگا۔ مفسر نے اس کا جواب دیا کہ موت کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سبب کا دیکھنا اور موت کا سبب اس جگہ جنگ ہے، اسے دیکھا، اس کے ضمن میں موت کو دیکھا۔ رأیتموہ، یہاں افعال قلوب میں سے نہیں ہے، بلکہ اس سے رویت بصری مراد ہے، اسی لئے ایک ہی مفعول پر اکتفا کیا گیا ہے۔

ای بصراء تتاملون الحال: فقد رأیتموہ میں رویت سے مراد رویت بصری ہے، اس کے بعد وانتم تنظرون فرمایا، اس نظر سے مراد نظر قلبی ہے، اسی لئے مفسر نے اس کے ترجمے میں بصراء تتاملون الحال ذکر فرمایا۔ بصراء، بصیر کی جمع ہے، اس کا اطلاق صاحب عقل و فہم پر ہوتا ہے، اور تتاملون الحال تو اس معنی میں بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے رویت بصری کے ساتھ نظر قلبی کو جمع کر کے تاکید پیدا کی ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں کہ آپس میں سودی کاروبار نہ کرو، اس میں بظاہر نفع تو ضرور ہے کہ مال اپنی اصل سے بڑھ کر دو گنا بلکہ کئی گنا ہو جاتا ہے، مگر اس باب میں اللہ سے ڈرو، یہی کامیابی اور فلاح کا زینہ ہے، اور جہنم سے بچنے کا اہتمام کرو، وہ درحقیقت کافروں کے لئے بنائی گئی ہے۔ تمہارے لئے، تم کو اگر اس میں عذاب دیا جائے تو بڑے ننگ کی بات ہے، اور اللہ و رسول کی فرمانبرداری کرو، تم پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو، اس کی وسعت سارے زمین و آسمان کے مثل ہے، یہ جنت اہل تقویٰ کیلئے بنائی گئی ہے، تو جو گھر تمہارے لئے ہے اسی میں جانے کی کوشش کرو، کفار کے گھر سے دور بھاگو، یہ اہل تقویٰ کون ہیں؟ (۱) وہ ہیں جو اللہ کی طاعت میں اپنا مال ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ خوشحال ہوں یا ننگ دست ہوں (۲) اور جو اپنے غصہ کو ضبط کرنے والے ہیں کہ باوجود قدرت کے غصہ کے تقاضے کو دبا کر رکھتے ہیں (۳) اور جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ظلم کرنے والوں کو بھی بتلائے عقوبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں اور جو لوگ یہ نیکیاں کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں (۳) اور جن سے کبھی بڑا یا چھوٹا گناہ صادر ہو جاتا ہے، تو انہیں اللہ تعالیٰ اور ان کی وعیدیں یاد آجاتی ہیں اور وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ اور

ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، اور وہ جان لینے کے بعد گناہ پر اصرار نہیں کرتے بلکہ اسے ترک کر دیتے ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور یہ کارگزاروں کا بہترین معاوضہ ہے۔

تم کو احد کی شکست کا غم ہے، تو سمجھ لو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ کفار کو مہلت دی گئی، پھر انہیں گرفتار کیا گیا، تمہارا جی چاہے تو گھوم پھر کر دیکھ لو کہ رسولوں کو جن لوگوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا؟ آخر وہ ہلاک ہوئے۔

یہ قرآن کریم تمام لوگوں کیلئے اللہ کا بیان ہے، مگر ابھی کیلئے ہدایت کا سامان ہے۔ متقیوں کے لئے عبرت و نصیحت کا نشان ہے، اس شکست کی وجہ سے نہ تو تم کمزور پڑو، اور نہ رنج و غم میں ہلاک ہو، اگر تمہارا ایمان سچا ہے، تو غلبہ تمہارے ہی لئے مقدر ہے، اگر احد کے میدان میں تمہیں کچھ زخم کا صدمہ سہنا پڑا ہے، تو تمہاری مد مقابل قوم بھی اسی جیسا صدمہ سہہ چکی ہے، دنیا میں ہم یونہی الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ تاکہ لوگوں کو نصیحت و عبرت حاصل ہو، اور یہ اس لئے بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ مخلصین کو منافقین سے ظاہراً ممتاز کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی بات تھی کہ جو لوگ شہادت کے بہت آرزو مند تھے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کی آرزو پوری کر دی جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہیں ناراض تو ظالموں سے ہیں، ان کو جو مہلت دی گئی ہے، وہ استدراراج ہے، انعام نہیں، اور یہ بات بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور یہ بھی ارادہ الہی تھا کہ کافروں کو ختم کر دیا جائے۔

اور کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ یونہی جنت میں جا داخل ہو جاؤ گے، جبکہ جہاد کرنے والے اور ثبات قدم رہنے والے ابھی کھل کر سامنے نہیں آئے تھے، اور تم تو اس مقابلے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، تو اس کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر کیوں گھبرا گئے۔



و نزل فی ہزیمتہم لما شیع ان النبی ﷺ قتل وقال لہم المنافقون ان کان قتل فارجعوا الی دینکم ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَأَنْتُمْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ﴾
 کغیرہ ﴿انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ رجعتم الی الکفر والجملة الاخیرة محل الاستفہام
 الانکاری ای ما کان معبوداً فترجعوا ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً﴾ وانما
 یضر نفسه ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّكِرِينَ﴾ نعمہ بالثبات ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ

اللَّهِ ﴿بِقَضَائِهِ﴾ كِتَابًا ﴿مصدر ای كتب الله ذلك ﴿مَوْجَلًا﴾ موقتاً لا يتقدم ولا يتاخر فلم انهمزتمم والهزيمة لا تدفع الموت والنيات لا يقطع الحياة ﴿وَمَنْ يُرِدْ﴾ بِعَمَلِهِ ﴿ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ ای جزاء منها ﴿نُوتِهِ مِنْهَا﴾ ما قسم له ولا حظ له في الآخرة ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَا﴾ ای من ثوابها ﴿وَسَنْجَرِي الشُّكْرَيْنِ وَكَأَيِّنْ﴾ كم ﴿مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ﴾ و في قراءۃ قاتل والفاعل ضميره ﴿مَعَهُ﴾ خبر مبتدؤه ﴿رَبِّيُونَ كَثِيرٌ﴾ جموع كثيرة ﴿فَمَا وَهَنُوا﴾ جنوا ﴿لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ من الجراح و قتل انبيائهم واصحابهم ﴿وَمَا ضَعُفُوا﴾ عن الجهاد ﴿وَمَا اسْتَكَانُوا﴾ خضعوا لعدوهم كما فعلتم حين قيل قتل النبي ﷺ ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ على البلاء ای يشبههم ﴿وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ﴾ عند قتل نبیهم مع ثباتهم و صبرهم ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا﴾ تجاوزنا الحد ﴿فِي أَمْرِنَا﴾ ايداناً بان ما اصابهم لسوء فعلهم و هصما لانفسهم ﴿وَوَثِّبْتَ أقدامنا﴾ بالقوة على الجهاد ﴿وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ النصر والغنيمه ﴿وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ﴾ ای الجنة و حسنه التفضل فوق الاستحقاق ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

ترجمہ

میدان احد میں یہ خبر پھیلا دی گئی تھی کہ نبی ﷺ شہید ہو گئے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی تھی، اور منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جب نبی ہی قتل کر دیئے گئے تو اب پھر سے اپنے دین کی جانب پلٹ چلو۔ اس پر آگے کی آیات نازل ہوئیں (اور محمد ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گذر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ مرجائیں یا قتل کر دیئے جائیں) جیسا کہ دوسرے رسولوں کے ساتھ یہ ہوا ہے (تو کیا تم الٹے پاؤں) کفر کی جانب (لوٹ جاؤ گے) اخیر کا جملہ، استفہام انکاری کا محل ہے، یعنی وہ نبی ہی ہیں۔ معبود نہیں ہیں کہ تم پلٹ جاؤ (اور جو کوئی الٹے پاؤں پلٹے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے گا) اپنا ہی نقصان کرے گا (اور اللہ تعالیٰ جلد ہی شکر گزاروں کو جزا عطا فرمائیں گے) یعنی نعمت کے قدر دانوں کو ثابت قدمی کا اجر دیں گے (اور کسی نفس کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے) (یہ ایک مدت متعینہ کا نوشتہ ہے) کتابا مفعول مطلق ہے، یعنی كتب الله ذلك کتاباً موجلاً، اللہ نے ایک مدت لکھ دی ہے، نہ اس سے کم ہو سکتی اور نہ زیادہ! تو تم کیوں بھاگے۔ بھاگنا موت کو ٹال نہیں سکتا، اور جہے رہنا زندگی کو کاٹ نہیں سکتا (اور جو کوئی) اپنے عمل سے (دنیا کے ثواب) یعنی دنیا کے عوض (کا ارادہ کرتا ہے، تو ہم اس میں سے) اس کا حصہ مقسوم دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، (اور جو کوئی آخرت کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے اس میں سے) یعنی

اس کے ثواب میں سے (ہم دیتے ہیں، اور ہم جلد ہی شکر گزاروں کو جزا دیں گے، اور کتنے نبی ایسے ہوئے ہیں، جو قتل کئے گئے) ایک قرآۃ میں قتل کے بجائے قاتل ہے، اس کا فاعل ضمیر مستتر ہے (ان کے ساتھ) معہ خبر ہے اس کا مبتداء ربیون کثیر ہے (بڑی فوج رہی ہے) وہ لوگ ان حادثوں کی وجہ سے جن سے اللہ کی راہ میں وہ دو چار ہوئے) یعنی زخم رسیدگی، انبیاء کی شہادت، رفقاء کا قتل وغیرہ ان کی وجہ سے (نہ تو وہ بزدل ہوئے نہ) جہاد سے (کمزور پڑے، اور نہ) دشمنوں کے سامنے (جھکے) جیسا کہ تم نے کیا، جب یہ خبر اڑائی گئی کہ نبی ﷺ قتل کر دئے گئے (اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں) جو بلاؤں پر صبر کرتے ہیں، انھیں ثواب عطا فرماتے ہیں (اور) انبیاء کے قتل کے وقت، ان کی ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ (ان کا قول بجز اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ انھوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے گناہوں کی اور ہمارے معاملے میں حد سے تجاوز کرنے کی مغفرت فرما دیجئے) یہ بات انھوں نے اس لئے کہی کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مصیبت آئی ہے، وہ ہماری خرابی اعمال کی وجہ سے آئی ہے، اور انکسار نفس بھی مقصود ہے (اور) جہاد کی قوت عطا فرما کر (ہمارے قدموں کو جما دیجئے، اور کافروں کے اوپر ہماری نصرت فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب عطا فرمایا) یعنی نصرت اور مال غنیمت (اور آخرت کا بہترین ثواب دیا) یعنی جنت، اور حسن ثواب کا مطلب یہ ہے کہ استحقاق سے بڑھ کر فضل فرمایا (اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتے ہیں)

﴿ تشریحات ﴾

لما شیع ان النبی قتل :- غزوہ احد میں یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اکرم ﷺ شہید ہو گئے، یہ خبر ابلیس نے پھیلائی، اسی نے میدان میں یہ جھوٹی آواز لگائی، کچھ منافقین جو لشکر میں باقی رہ گئے تھے، انھوں نے آپس میں کہا سنی شروع کر دی کہ اگر محمد نہیں رہے تو اب ان کے دین پر قائم رہنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے سابق دین پر پلٹ جائیں۔

رجعتم الی الکفر :- یہ انقلابی علی اعقابکم کا مفہوم ہے، اردو میں محاورہ ہے لٹے پاؤں لوٹ جانا۔
والجملة الاخيرة محل الاستفهام الانکاری :- افان مات او قتل انقلابتم میں ہمزہ استفہام انکار کے لئے ہے، لیکن انکار ان مات اور قتل کا نہیں ہے، انکار انقلابتم علی اعقابکم کا ہے، یعنی اگر وہ مرجائیں یا قتل کر دیئے جائیں۔ تو اٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے، تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہئے، لیکن شرط و جزا دونوں مل کر ایک جملہ ہوتا ہے، اور ہمزہ استفہام شروع جملہ میں آتا ہے، اس لئے ہمزہ استفہام شرط پر آیا ہے، حالانکہ محل انکار جزاء ہے۔

امے ماکان معبوداً الخ :- وما محمد الا رسول میں حصر اضافی ہے، یعنی محمد ﷺ کا وصف رسالت کے

اندر حصر علی الاطلاق نہیں ہے کہ رسول کے ماسواوہ کچھ ہیں ہی نہیں، بلکہ معبودیت اور الوہیت کے اعتبار سے یہ حصر ہے کہ آپ رسول ہی تو ہیں، معبود اور الہ تو نہیں ہیں کہ ان پر موت آئے ہی نہ! اور اگر آئے تو ان کا دین فنا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے۔

نعمہ بالثبات :۔ نعمہ، الشاکرین کا مفعول بہ ہے، اور بالثبات الشاکرین سے متعلق ہے، یعنی ثابت قدم رہ کر جو اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ بالثبات کا تعلق سیجزی سے ہو اور باء سببیہ ہو، یعنی جو لوگ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں، ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائیں۔ ترجمے میں اسی دوسرے احتمال کو اختیار کیا گیا ہے۔

مصدر :۔ کتابا موجلاً مفعول مطلق ہے جو ما قبل کے مضمون کے لئے تاکید ہے، اس کا عامل محذوف ہے، یعنی کتب اللہ ذلک کتاباً، اس کی نظیر وعد اللہ، صنع اللہ وغیرہ ہیں۔

فلم انہزمتم :۔ اس کلام کی غرض یہی ہے کہ جن لوگوں نے ہزیمت اختیار کی انہیں تنبیہ کر دی جائے۔

ای جزاء ہ منها :۔ دنیا کا ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں ہی چاہے

(و کاین) کم : کم سے مراد کم خبر یہ ہے، جس میں تکثیر کا معنی ہوتا ہے، کاین دو لفظوں سے مرکب ہے، پہلا کاف تشبیہ ہے، دوسرا ای استفہامیہ ہے، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، تو اس کا ایک مستقل معنی ہو گیا ہے۔ وہ کم خبریۃ تکثیریۃ کا معنی ہے، اس کی نظیر عندی کذاو کذا درہماً، اس میں بھی کاف تشبیہ ہے، اور ذرا اسم اشارہ ہے، دونوں کی ترکیب سے ایک دوسرا معنی تکثیر کا پیدا ہو گیا ہے۔

وفی قرأۃ قاتل :۔ مشہور قرأت جو امام حفص کی روایت سے ہے وہ قاتل ہے، مفسر نے قتل، فعل مجہول والی قرأت اختیار کی ہے۔

والفاعل ضمیرہ :۔ قاتل کی قرأت میں فاعل، اور قتل کی قرأت میں نائب فاعل اس کے اندر ضمیر غائب ہے، اسی پر جملہ تام ہو جاتا ہے، یعنی بہت سے نبی قتل کئے گئے، اور دوسری قرأت کے مطابق بہت سے نبی لڑے ہیں۔

خبر مبتداء ہ ربیون :۔ معہ خبر مقدم ہے، اور ربیون کثیر مبتدا موخر ہے، اور جملہ ما قبل سے حال ہے، ربیون، رب کی طرف منسوب ہے، جیسے ربانی، ربی، میں حرف رامفتوح ہونے کے بجائے مکسور خلاف قیاس استعمال ہوا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ لفظ ربیۃ کی طرف منسوب ہے جس کے معنی جماعت کے ہیں، مفسر نے یہی دوسرا معنی اختیار کیا ہے۔

تنبیہ :۔ راقم عرض کرتا ہے کہ و کاین من نبی قاتل معہ ربیون کثیر کی ایک ترکیب تو وہ ہے جسے

مفسر نے اختیار کیا ہے، یعنی کاین من نبی قاتل ایک جملہ ہے اور معہ ربیون کثیر علیحدہ جملہ ہے، دوسری ترکیب یہ ہے کہ قاتل یا قاتل کا فاعل یا نائب فاعل، ربیون ہو۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند اور حضرت تھانوی نے اسی ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے۔

☆ اور بہت نبی ہیں، جن کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں، بہت خدا کے طالب (حضرت شیخ الہند)

☆ اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ بہت بہت اللہ والے (کفار کے ساتھ) لڑے ہیں۔

(حضرت حکیم الامت)

یہ ترکیب اس لحاظ سے بہتر ہے کہ پہلی ترکیب میں جسے مفسر نے اختیار کیا ہے قاتل کی قرأۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ فوج کی موجودگی میں میدان جنگ کے اندر نبی قتل کئے گئے، حالانکہ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت حسن بصری اور اہل تفسیر کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ کوئی نبی معرکہ جنگ میں شہید نہیں ہوا، دوسری ترکیب میں اس طرح کا کوئی اشکال نہیں ہے

(وما استکانوا) خضعوا العدو ہم : استکانوا، سکون سے مشتق ہے، باب افتعال سے استعمال ہوا ہے، اصل میں استکن ہے، کاف کے فتح کو اشباع کے ساتھ پڑھا گیا تو الف پیدا ہو گیا، کلام عرب میں اس کی نظیر ہے، کسی نے کہا ہے۔

اعوذ بالله من العقرب الشائلات عقد الاذنان

یہ العقرب الشائلة ہے، عقرب میں را کے فتح میں اور الشائلة میں لام کے فتح میں اشباع کیا گیا، تو دونوں جگہ الف پیدا ہو گیا، بعض لوگوں نے اسے کون سے ماخوذ مانا ہے، بمعنی کمزوری، باب استفعال سے اصل میں استکون ہے، واو کے فتح کو کاف پر منتقل کر کے الف سے بدل دیا۔

کما فعلتم : اس کا ربط فما وھنوا الخ سے ہے۔

عند قتل نبیہم مع ثباتہم و صبرہم : گذشتہ انبیاء کی فوجیں، جب ان کے نبی شہید ہو گئے تو ثابت قدم رہیں، اور صبر و استقلال کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں، اور ان کا کلام بجز اس کے اور کچھ نہیں رہا کہ پروردگار ہمارے ہی گناہوں اور زیادتیوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے ہیں۔ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اور ہمیں ثابت قدم رکھئے اور کافروں پر ہماری مدد کیجئے۔

ایذانا بان ما اصابہم الخ : یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے قول قالوا کا مفعول لہ ہے، یعنی انھوں نے دعا میں جو کچھ کہا، وہ اس بات کے اعتراف اور کسر نفسی کے طور پر کہا کہ ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے ایسا ہوا۔

حسنہ التفضل فوق الاستحقاق : ثواب آخرت تو جنت ہے اور حسن ثواب الآخرة کا مطلب یہ

ہے کہ استحقاق سے بڑھ کر ثواب ملے گا۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

غزوہ احد کی ہزیمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے امت کو کچھ تنبیہات فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محمد کوئی خدا تو نہیں ہیں، رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول دنیا میں آئے اور چلے گئے، اسی طرح یہ بھی ایک رسول ہیں، ہمیشہ تو نہیں رہیں گے، پھر تمہیں بتاؤ کہ اگر یہ انتقال کر جائیں، یا شہید ہو جائیں تو تم اٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے۔ یہ تو کسی طرح درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اٹے پاؤں لوٹ ہی گیا تو کیا اللہ کا کچھ بگاڑ لے گا؟ ہرگز نہیں وہ اپنا ہی بگاڑے گا، اسی کی عاقبت ہی خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں اور نعمت کے قدر دانوں کو بہترین جزا عطا فرمائیں گے، اور کوئی جان اپنے آپ بغیر اللہ کے فیصلے کے ہرگز نہیں مرتی، اس کا تو اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، نہ ایک سکنڈ ادھر نہ ادھر، پھر کیوں فرار اختیار کیا، اور اگر کسی کا مقصد دنیا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرمادیتے ہیں، لیکن وہ آخرت میں محروم رہے گا، اور اگر کسی کا مقصد ثواب آخرت ہے تو اسے اس کا حصہ ملے گا، اور ہم شکر گزاروں کو جزائے خیر عنایت فرمائیں گے۔

اور آج کوئی نئی بات نہیں ہوئی، کتنے انبیاء قتل کئے گئے ہیں اور ان کے ساتھ بڑی بڑی جماعتیں رہی ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں حوادث و مصائب کی وجہ سے نہ وہ گھبرائے، نہ کمزور پڑے اور نہ دشمنوں کے سامنے جھک کر ذلیل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ صابریں سے محبت فرماتے ہیں، ایسے حادثات کے وقت ان کی بات صرف اتنی رہی ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری غلطیوں اور زیادتیوں کو معاف فرمادیتے، اور ہم کو ثابت قدم رکھئے اور کفار کے اوپر ہمیں مدد عنایت فرمائیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا یعنی فتح و ظفر بھی اور مال غنیمت بھی اور آخرت کا بہترین ثواب دیا کہ جتنے کے وہ اپنے عمل سے مستحق تھے، اس سے بڑھ کر عنایت فرمایا اور اللہ نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ﴿فِيمَا يَأْمُرُونَكُمْ بِهِ﴾ ﴿يَرُدُّكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ ﴿إِلَى الْكُفْرِ﴾ ﴿فَتَقَلَّبُوا خَاسِرِينَ﴾ ﴿بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ ﴿نَاصِرَكُمْ﴾ ﴿وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ ﴿فَاطِيعُوهُ دُونَهُمْ﴾ ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ ﴿بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا الْخَوْفِ﴾ ﴿وَقَدْ عَزَمُوا بَعْدَ ارْتِحَالِهِمْ مِنْ أَحَدٍ عَلَى الْعُودِ وَاسْتِيصَالَ الْمُسْلِمِينَ فَرَعَبُوا وَلَمْ يَرْجِعُوا﴾ ﴿بِمَا شَرَكُوا﴾ ﴿بِسَبَبِ إِشْرَاكِهِمْ﴾ ﴿بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَنًا﴾ ﴿حِجَّةَ عَلَى عِبَادَتِهِ وَهُوَ الْأَصْنَامُ﴾ ﴿وَمَا وَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَىٰ﴾ ﴿مَاوَىٰ﴾ ﴿الظَّالِمِينَ﴾ ﴿الْكَافِرِينَ هِيَ﴾ ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ﴾

اللَّهُ وَعَدَهُ ﴿١﴾ اياكم بالنصر ﴿٢﴾ اذْ تَحْسُونَهُمْ ﴿٣﴾ تقتلونهم ﴿٤﴾ بِأَذْنِهِ ﴿٥﴾ بارادته ﴿٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ ﴿٧﴾
 جبنتم عن القتال ﴿٨﴾ وَتَنَازَعْتُمْ ﴿٩﴾ اختلفتم ﴿١٠﴾ فِي الْأَمْرِ ﴿١١﴾ اى امر النبي بالمقام فى سفح الجبل
 للرمى فقال بعضكم نذهب فقد نصر اصحابنا و بعضكم لا نخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم
 ﴿١٢﴾ وَعَصَيْتُمْ ﴿١٣﴾ امره فتركتم المركز لطلب الغنيمه ﴿١٤﴾ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ ﴿١٥﴾ الله ﴿١٦﴾ مَا تُحِبُّونَ ﴿١٧﴾
 من النصر و جواب اذا دل عليه ما قبله اى منعكم نصره ﴿١٨﴾ مِّنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا ﴿١٩﴾ فترك
 المركز للغنيمه ﴿٢٠﴾ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ فثبت به حتى قتل كعبدالله بن جبير
 واصحابه ﴿٢٢﴾ ثُمَّ صَرَفَكُمْ ﴿٢٣﴾ عطف على جواب اذا المقدر ردكم بالهزيمة ﴿٢٤﴾ عَنْهُمْ ﴿٢٥﴾ اى
 الكفار ﴿٢٦﴾ لِيَبْتَلِيَكُمْ ﴿٢٧﴾ ليمتحنكم فيظهر المخلص من غيره ﴿٢٨﴾ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ﴿٢٩﴾ ما
 ارتكبتموه ﴿٣٠﴾ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ بالعفو اذكروا ﴿٣٢﴾ اذْ تُصْعِدُونَ ﴿٣٣﴾ تبعدون فى
 الارض هاربين ﴿٣٤﴾ وَلَا تَلُونُ ﴿٣٥﴾ تعرجون ﴿٣٦﴾ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ ﴿٣٧﴾ اى
 من ورائكم يقول الى عبادالله الى عبادالله ﴿٣٨﴾ فَآتَابَكُمْ ﴿٣٩﴾ فجازاكم ﴿٤٠﴾ غَمًّا ﴿٤١﴾ بالهزيمة
 ﴿٤٢﴾ بِغَمٍّ ﴿٤٣﴾ بسبب غمكم الرسول بالمخالفة و قيل الباء بمعنى على اى مضاعفاً على غم فوت
 الغنيمه ﴿٤٤﴾ لِكَيْلًا ﴿٤٥﴾ متعلق بعفا او باثابكم فلا زائدة ﴿٤٦﴾ تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴿٤٧﴾ من الغنيمه
 ﴿٤٨﴾ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ﴿٤٩﴾ من القتل والهزيمة ﴿٥٠﴾ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ
 الْغَمِّ أَمْنَةً ﴿٥١﴾ امناً ﴿٥٢﴾ نِعَاسًا يَغْشَىٰ ﴿٥٣﴾ بالياء والتاء ﴿٥٤﴾ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ ﴿٥٥﴾ وهم المؤمنون فكانوا
 يمشون تحت الجحف و تسقط السيوف منهم ﴿٥٦﴾ وَ طَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴿٥٧﴾ اى
 حملتهم على الهم فلا رغبة لهم الا نجاتها دون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فلم يناموا وهم
 المنافقون ﴿٥٨﴾ يَطْنُونَ بِاللَّهِ ﴿٥٩﴾ ظَنًّا ﴿٦٠﴾ غَيْرَ ﴿٦١﴾ الظن ﴿٦٢﴾ الْحَقِّ ظَنَّ ﴿٦٣﴾ اى كظن ﴿٦٤﴾ الْجَاهِلِيَّةِ ﴿٦٥﴾ حيث
 اعتقدوا ان النبي قتل او لا ينصر ﴿٦٦﴾ يَقُولُونَ هَلْ ﴿٦٧﴾ مَا ﴿٦٨﴾ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ ﴿٦٩﴾ اى النصر الذى
 وعدناه ﴿٧٠﴾ مِّنْ ﴿٧١﴾ زَائِدَةٍ ﴿٧٢﴾ شَيْءٍ قُلْ ﴿٧٣﴾ لَهُمْ ﴿٧٤﴾ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ ﴿٧٥﴾ بالنصب تو كيد او الرفع مبتدأ
 خبره ﴿٧٦﴾ لِلَّهِ ﴿٧٧﴾ اى القضاء له يفعل ما يشاء ﴿٧٨﴾ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ ﴿٧٩﴾ يظهرون
 ﴿٨٠﴾ لَكَ يَقُولُونَ ﴿٨١﴾ بيان لما قبله ﴿٨٢﴾ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴿٨٣﴾ مَا قُتِلْنَا هُنَا ﴿٨٤﴾ اى لو كان الاختيار
 الينا لم نخرج فلم نقتل لكن اخرجنا كرها ﴿٨٥﴾ قُلْ ﴿٨٦﴾ لَهُمْ ﴿٨٧﴾ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ ﴿٨٨﴾ و فيكم من
 كتب الله عليه القتل ﴿٨٩﴾ لَبَرَزَ ﴿٩٠﴾ خرج ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كُتِبَ قُضِيَ ﴿٩٢﴾ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ ﴿٩٣﴾ منكم ﴿٩٤﴾ إِلَىٰ
 مَضَاجِعِهِمْ ﴿٩٥﴾ مصارعهم فيقتلوا ولم ينجم قعودهم لان قضاه تعالى كائن لا محالة و فعل ما

فَعَلْ بِأَحَدٍ ﴿لِيَتَلَىٰ﴾ يَخْتَبِرُ ﴿اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ قُلُوبِكُمْ مِنَ الْإِخْلَاصِ وَالنَّفَاقِ
 ﴿وَلِيُمَحِّصَ﴾ يَمِيزُ ﴿مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ بِمَا فِي الْقُلُوبِ لَا يَخْفَى
 عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا يَتَلَىٰ لِيُظْهِرَ لِلنَّاسِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ﴾ عَنِ الْقِتَالِ ﴿يَوْمَ التَّقَىٰ
 الْجَمْعِينَ﴾ جَمَعَ الْمُسْلِمِينَ وَجَمَعَ الْكَافِرِينَ بِأَحَدٍ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ الْإِثْنَى عَشَرَ رَجُلًا ﴿إِنَّمَا
 اسْتَزَلَّهُمْ﴾ اَزَلَّهُمُ ﴿الشَّيْطَانُ﴾ بوسوستہ ﴿بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ مِنَ الذُّنُوبِ وَهُوَ مُخَالَفَةُ أَمْرِ
 النَّبِيِّ ﷺ ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿حَلِيمٌ﴾ لَا يُعَجِّلُ عَلَى الْعِصَاةِ۔

ترجمہ

(اے ایمان والو! اگر تم کافروں کی اطاعت) ان باتوں میں (کر لو گے) جن کا وہ تمہیں حکم دیتے ہیں
 (تو تم کو اٹے پاؤں) کفر کی طرف (لوٹا دیں گے، پھر ناکام ہو کر رہ جاؤ گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے مولیٰ و ناصر ہیں،
 اور وہ بہتر مددگار ہیں) اس لئے انہیں کی اطاعت کرو اور ماسویٰ کو چھوڑ دو (ہم جلد ہی کافروں کے دل میں رعب
 ڈال دیں گے) رعب عین کے سکون اور اس کے ضمے کے ساتھ ہے بمعنی خوف، مشرکین مکہ نے میدان احد سے
 روانگی کے بعد آگے چل کر ارادہ کیا کہ دوبارہ لوٹ جائیں اور مسلمانوں کا بالکل خاتمہ کر دیں، مگر پھر وہ مرعوب
 ہو گئے اور یہ ارادہ ترک کر دیا واپس نہیں آئے (کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک کیا ہے جس پر)
 یعنی جس کی عبادت پر (اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے) یہ شرکاء بت ہیں (اور ان کا ٹھکانا آگ ہے،
 اور) وہ (ظالموں کا) کافروں کا (برا ٹھکانا ہے) ہی مخصوص بالذم ہے (بیشک اللہ نے اپنا وعدہ تم پر سچ کر دکھایا)
 جو تمہاری مدد کا کیا تھا (جب کہ تم انہیں اس کے اذن) و ارادے (سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم کمزور
 پڑ گئے) یعنی لڑائی سے بزدلی کرنے لگے (اور) تیر اندازی کے لئے پہاڑی کے اوپر کھڑے رہنے کے سلسلے میں
 نبی کے (حکم میں اختلاف کرنے لگے) بعض نے کہا کہ ہماری فوج کامیاب ہوگئی ہم بھی یہاں سے چلیں، اور
 بعض نے کہا کہ ہم نبی ﷺ کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے (اور تم نے) ان کے امر کی (نافرمانی کی) تم نے مال
 غنیمت سمیٹنے کے خیال سے مرکز کو چھوڑ دیا (بعد اس کے کہ) اللہ تعالیٰ نے (تم کو وہ چیز دکھادی تھی، جو تم چاہتے
 تھے) یعنی فتح و ظفر، اذا کے جواب پر اس کا ماقبل دلالت کرتا ہے یعنی منعکم نصرہ (تم میں سے بعض دنیا کا
 ارادہ کرتے تھے) پس انہوں نے مال غنیمت کے لئے مرکز چھوڑ دیا (اور تم میں سے بعض آخرت کا ارادہ رکھتے
 تھے) وہ وہیں جمے رہے، حتیٰ کہ شہید ہو گئے، جیسے عبد اللہ بن جبیر اور ان کے رفقاء (پھر تم کو ان سے) یعنی کفار
 سے (ہٹا دیا) یعنی تم کو شکست سے دوچار کر کے ہٹا دیا، ثم صرفکم، اذا کے جواب مقدر پر معطوف ہے (تاکہ
 تمہارا امتحان کرے) اور مخلص اور غیر مخلص ظاہر ہو جائے (اور بے شک تم سے درگزر کیا) یعنی اس سے جو کہ تم نے

کیا (اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر) انھیں معافی دے کر (فضل فرمانے والے ہیں) یاد کرو (جب تم چڑھے چلے جاتے تھے) یعنی زمین میں بھاگتے چلے جا رہے تھے (اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور رسول تم کو تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے) فرما رہے تھے الی عباد اللہ، الی عباد اللہ کے بندو! میری طرف آؤ (تو اللہ تعالیٰ نے تم کو غم کے بدلے میں) یعنی تم نے جو رسول کو ان کے خلاف کر کے غم دیا اس کے بدلے میں (غم دیا) یعنی شکست دی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بغم میں باء بمعنی علی ہے یعنی غمماً مضاعفا علی غم فوت الغنیمۃ یعنی غنیمت کے فوت کے ہونے سے بڑھا ہو غم دیا (تاکہ جو) مال غنیمت (فوت ہوا ہے اس پر رنج نہ کرو اور نہ اس مصیبت پر افسوس کرو جو تم پر آئی) یعنی قتل و ہزیمت، لکیلا کا تعلق عفا سے ہے یا یہ کہ اثابکم سے ہے اس صورت میں لازائدہ ہے (اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں، پھر غم کے بعد تمہارے اوپر امن و اطمینان اتارا (ایک نیند) نعاسا، امنۃ سے بدل ہے (جو تم میں سے ایک گروہ پر چھائی جا رہی تھی) یعنی یاء اور تاء کے ساتھ ہے، وہ مخلص اہل ایمان تھے، وہ اپنی ڈھالوں کے نیچے جھوم رہے تھے، اور تلواریں ان کے ہاتھ سے گر گر جاتی تھیں (اور ایک گروہ ایسا تھا کہ انھیں اپنی ہی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، ان کو صرف اپنی نجات کی رغبت تھی، نہ نبی کی، نہ ان کے اصحاب کی، یہ لوگ نہیں سوئے، یہ منافقین تھے (وہ اللہ کے اوپر ناحق بدگمان ہو رہے تھے، جاہلیت جیسی بدگمانی) انھوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ نبی ﷺ مقتول ہو گئے، یا یہ کہ ان کی نصرت نہیں ہوگی (کہتے ہیں کیا ہمارے لئے اس امر کا) یعنی اس مدد کا جس کا ہم سے وعدہ کیا ہے (کوئی حصہ ہے) من زائدہ ہے، یعنی کوئی حصہ نہیں ہے (تم) ان سے (کہہ دو کہ سارا امر اللہ ہی کے لئے ہے) کملہ نصب کے ساتھ ہے تو تاکید ہے، اور فع کے ساتھ ہے، تو مبتدا ہے، اور خبر للہ ہے یعنی فیصلہ اسی کا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے (وہ اپنے جی میں وہ باتیں چھپاتے ہیں، جو تم سے ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں) یہ ما قبل کا بیان ہے (اگر ہمارے لئے اس معاملہ میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے) یعنی اگر ہمارا اختیار چلتا، تو نہ ہم نکلتے اور نہ ہم مارے جاتے، لیکن ہم کو تو زبردستی نکالا گیا (تم) ان سے (کہو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے) اور تم میں ایسا کوئی آدمی ہوتا جس پر اللہ تعالیٰ نے قتل لکھ دیا ہے (تو وہ لوگ، جن پر قتل لکھا جا چکا ہے، اپنے مقتل کی جانب ضرور نکل پڑتے) پس وہ قتل کئے جاتے، ان کا گھروں میں بیٹھنا، انھیں نجات نہیں دلا پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لامحالہ ہو کر رہتا ہے۔

(اور) غزوہ احد میں اللہ نے جو کچھ کیا (اس لئے) کیا (کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں میں) یعنی دلوں میں اخلاص و نفاق (ہے اس کا امتحان کر لے، اور تاکہ تمہارے دل کی باتوں کو ممتاز کر دے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں) ان پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور امتحان اس لئے لیتے ہیں، تاکہ لوگوں پر بھی سب کچھ عیاں ہو جائے (بے شک تم میں سے جن لوگوں نے) لڑائی سے روگردانی کی، جس دن کہ دونوں لشکر (یعنی

مسلمانوں کا لشکر اور کفار کا لشکر میدان احد میں (بھڑے تھے) اور یہ لوگ مسلمان تھے بجز بارہ آدمیوں کے (انھیں شیطان نے ان کے بعض کاموں کی وجہ سے) جو گناہ ان سے نبی ﷺ کے امر کی خلاف ورزی کی صورت میں ہو گیا تھا اس کی وجہ سے، اپنی وسوسہ اندازی کے ذریعے (پھسلا دیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما چکے، بے شک اللہ تعالیٰ) اہل ایمان کو (بخشنے والے، حلم والے ہیں) نافرمانی کرنے والوں پر عجلت نہیں کرتے۔

﴿تشریحات﴾

فیما یامرو نکم :۔ ان کفار نے کہا تھا کہ جب محمد ﷺ نہ رہے تو ہم اپنے قدیم دین پر لوٹ جاؤ
بسبب اشراکھم :۔ بما اشراکوا میں باء سبب کے لئے ہے، اور ما مصدر یہ ہے
وهو الاصل :۔ یہ مالم ینزل بہکا بیان ہے۔

ایاکم بالنصر :۔ ایاکم، وعد مصدر کا مفعول ہے، اور بالنصر اسی وعدے کا بیان ہے۔

فترکتہم المرکز لطلب الغنیمۃ :۔ جب لوگوں کو رسول اللہ ﷺ نے پہاڑی درے پر متعین کیا تھا کہ ہم ہاریں یا جیتیں، تم لوگ اس جگہ کو نہ چھوڑنا، لیکن جب مسلمانوں کا غلبہ ظاہر ہوا اور کفار بھاگنے لگے تو مذکورہ حضرات میں اختلاف ہوا کہ اکثر نے کہا کہ اب جنگ ختم ہو رہی ہے۔ ہم بھی مسلمانوں کے عام مجمع میں شریک ہو جائیں، کچھ دوسرے لوگوں نے اس بات پر نکیر کی۔ بالآخر دس حضرات کے سوا، سب نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، فتح کے اندر مسلمانوں کی فوج کے ساتھ شامل ہو گئے، انھوں نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی ہے کہ
منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرة، بعض لوگوں نے دنیا کا ارادہ کیا، اور بعض لوگوں نے آخرت کا ارادہ کیا۔ حق تعالیٰ نے اتنا ہی ارشاد فرمایا، یہ واضح نہیں فرمایا کہ دنیا سے مراد کیا ہے جس کا انھوں نے ارادہ کیا تھا۔ عام طور سے دنیا کا اطلاق مال دنیا پر ہوتا ہے، اس لئے حضرات مفسرین بے تکلف لکھ دیتے ہیں کہ ان حضرات نے مال غنیمت کی طلب میں جگہ چھوڑی تھی، گویا وہ یہ سمجھ رہے تھے جو جتنا لوٹ لے گا اس کا ہو جائے گا، دوسرے حضرات کو ان لوگوں نے دیکھا کہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو یہ بھی اس کے لئے کود پڑے، پھر اسی طلب غنیمت کو بنیاد بنا کر ہمارے زمانے کے ایک مدعی تفسیر نے حضرات صحابہ کو خوب زجر و توبیخ کی ہے۔

لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ”طلب غنیمت“ کا ذکر کیا نہیں، انھوں نے تو ”ارادہ دنیا“ کا تذکرہ کیا ہے، تو کیا یہ بات قطعی ہے کہ ”ارادہ دنیا“ سے ”طلب غنیمت“ ہی مراد ہے؟

اسلام نے جہاد اور جہاد سے ملنے والے مال غنیمت میں جو ضابطے اور اصول بنائے اور برتے ہیں، انہیں کوئی نگاہ میں رکھے تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ طلب غنیمت ان کا مقصد رہا ہو، اور اس کیلئے انھوں نے مرکز کو چھوڑا ہو، مال غنیمت کا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے کہ اس کے پانچ حصے کئے جائیں گے، ایک حصہ سرکاری

خزانے میں داخل ہوگا، اور چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ خواہ اسے کوئی بھی لوٹے اور جمع کرے۔ اس اصول کے پیش نظر مال غنیمت کی طلب میں حضرات صحابہ کا مرکز کو چھوڑنا خلاف عقل و فہم ہے، جب وہ جانتے تھے، ہم مال غنیمت جمع کریں یا نہ کریں سب کے برابر حصہ ملنا ہی ہے، تو محض مال غنیمت سمیٹنے کے خیال سے مرکز کو چھوڑنا، کسی طرح سمجھ میں نہیں آتا۔ پس ”ارادہ دنیا“ کا مصداق ”طلب غنیمت“ تو ہو نہیں سکتا، لہذا اس کا کوئی اور مصداق تلاش کرنا چاہئے۔

خاکسار شارح عرض کرتا ہے، ”دنیا“ کا مصداق صرف مال نہیں ہے بلکہ ہر وہ عمل ہے جس میں نیت رضائے الہی کی نہ ہو، یا جو اللہ کے حکم کے تقاضے سے نہ کیا گیا ہو، ایک کام اس لئے کیا جائے کہ یہ اللہ و رسول کا حکم ہے، اسی جذبہ تعیل سے اسے بجایا جائے تو وہ آخرت کا عمل ہے اور اگر جذبہ تعیل سے خالی ہو، اپنی طبیعت کے تقاضے اور اپنے نفس کے جذبے سے کیا جائے تو وہ دنیا ہے۔

یہاں صحابہ نے جو مرکز کو چھوڑا تو اس لئے نہیں چھوڑا کہ مال غنیمت حاصل کریں گے بلکہ یہ بہادروں کی ایک ٹیم تھی، انھوں نے دیکھا کہ لڑائی ختم ہونا چاہتی ہے اور ہمیں داد شجاعت دینے کا موقع سرے سے ملا ہی نہیں، وہ ایک ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں نہ کوئی دشمن آیا، نہ ان پر تیروں کی بارش ہوئی، نہ وہاں تلوار چمکی، انہیں اپنی قوت بازو اور ہتھیاروں کی تیزی کے استعمال کا کوئی موقع نہیں ملا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی بھی ختم ہو چاہتی ہے۔ لڑائی ختم ہو جائے، اور بہادروں کو لڑنے کا موقع تک نہ ملے، ان کو یہ بات بہت شاق گذری، انھوں نے سوچا کہ بھاگتے بھاگتے کچھ دشمنوں کو مار گرائیں، کچھ تو دل کی تسلی ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ جذبہ خدا کیلئے اور خدا کے حکم کی اطاعت میں نہ تھا، بلکہ اپنی فطری شجاعت کے استعمال کا جذبہ تھا، یہ جذبہ آخرت نہ تھا، جذبہ دنیا تھا، ارادہ آخرت تو صرف یہ ہوتا کہ لڑنے کا موقع ملے یا نہ ملے اللہ و رسول کی اطاعت ہاتھ سے نہ جائے۔

وہ مال کے حریص بالکل نہ تھے، ہاں جذبہ شجاعت بیقرار تھا، اسے نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا تو ایک مرحلہ میں پہنچ کر وہ میدان میں کود پڑے یہ ارادہ دنیا کا مصداق ہو تو ہو، وہ نہیں جسے حضرات مفسرین بے تکلف لکھ دیتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

و جواب اذا دل عليه ما قبله ، ای منعکم نصرہ : . حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون یہاں تک شرط ہے اس کی جزا محذوف ہے، اور اس کا قرینہ ما قبل کا کلام یعنی ولقد صدقکم اللہ و وعدہ الخ ہے، یعنی اللہ نے مدد تو فرمائی تھی، لیکن جب تم نے بزدلی دکھائی، آپس میں اختلاف کیا اور نافرمانی کر لی تو اللہ نے تمہاری مدد روک دی، منعکم نصرہ

فترک المركز للغیمة :۔ اس پر مفصل بحث گزر چکی ہے۔

عطف علی جواب اذا المقدر:۔ ثم صرفکم کا عطف اذا کے جواب مقدر پر ہے، یعنی منعکم نصرہ پر۔

بسبب غمکم للرسول بالمخالفة:۔ یعنی چونکہ تم نے رسول کو، ان کے امر کے خلاف کر کے غم پہنچایا، اس لئے اس کے بدلے میں تم کو غم میں مبتلا کیا۔

وقیل الباء بمعنی علی: فاتابکم غما بغم میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ باء، علی کے معنی میں ہے، یعنی فاصابکم غماً علی غم، یعنی غم بالائے غم کا صدمہ انہیں پہنچا اول شکست کا صدمہ، دوسرے مال غنیمت فوت ہونے کا افسوس!

متعلق بعفا او اثابکم: لکیلا تحزنوا کا تعلق یا تو عفا سے ہے یا اثابکم سے ہے، اگر اس کا تعلق عفا سے ہے تو لکیلا کا لاء نافیہ اپنی اصل پر ہے، یعنی اس لئے معاف کیا کہ تمہیں رنج و غم نہ ہو، اور اگر اس کا تعلق اثابکم سے ہے، تو بقول حضرت مفسر یہ لازماً ہے نافیہ نہیں ہے، یعنی غم بالائے غم اس لئے دیا کہ تم کو فوت شدہ مال غنیمت پر اور احد کی ہزیمت پر رنج و افسوس ہو۔

لاء نافیہ کے زائد ہونے کی بات خوب جی کو لگتی نہیں، کیونکہ انہیں غم کے عوض غم بالائے غم تو پہنچ ہی گیا، پھر اس کی یہ تعلیل کہ تم رنجیدہ ہو، گویا علت بھی وہی غم، معلول بھی وہی غم، گو کہ اس کی تاویل ہو سکتی ہے، مگر درواز کار معلوم ہوتی ہے، اس کی توجیہ میں حضرت حکیم الامت تھانوی کی مختصر سی تحریر زیادہ دل کو لگتی ہے، فرماتے ہیں۔

”سوال اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں غم دیا بسبب (تمہارے) غم دینے کے (رسول اللہ ﷺ کو) تاکہ (اس پاداش اور مصیبت سے تم میں پختگی پیدا ہو جائے جس سے پھر تم مغموں نہ ہو کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جاوے اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے“

یعنی یہ غم تم پر اس لئے مسلط کیا گیا، اور یہ حالات اس لئے پیدا کئے گئے کہ آئندہ تم میں مزید پختگی اور استقامت پیدا ہو جائے اور اس طرح کے حالات اگر کبھی آئندہ پیش آئیں تو تمہیں رنج و غم نہ ہو۔ یہ سوچ کر تسلی ہو جائے کہ جب رسول اللہ ﷺ کے ہوتے ہوئے مصائب آسکتے ہیں، تو اگر بعد میں یہ حالات پیدا ہوں، رنج کی بات نہیں، بلکہ اپنا احتساب کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی چاہئے۔

بالنصب تو کیداً والرفع مبتداً خبرہ للہ:۔ قل ان الامر کله للہ میں کله اگر منصوب ہے تو الامر کی تاکید ہے اور اگر مرفوع ہے، تو مبتدا ہے اور اس کی خبر للہ ہے اور پھر مبتدا و خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر ان الامر کی خبر ہے۔

مصارعہم:۔ مصرع کی جمع ہے، پچھاڑے جانے یعنی قتل کئے جانے کی جگہ، مضاجع، مضجع کی جمع

ہے، لیٹنے کی نگہ بمعنی مقتل

و فعل ما فعل باحد لیبتلی : . و لیبتلی اللہ الخ میں واو عاطفہ مقتضی ہے کہ اس کا کوئی معطوف علیہ ہو، اور وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ مفسر نے فعل ما فعل باحد لکھ کر اسی علت مقدرہ کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ان کی تحریر مخل مطلب ہے کیونکہ ان کی عبارت میں واو کا تعلق لیبتلی سے منقطع ہو کر فعل ما فعل سے ہو گیا ہے جس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لیبتلی معطوف نہیں ہے، بلکہ فعل ما فعل معطوف ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے، علت مقدرہ معطوف علیہ اس طرح مذکور ہوگا، فعل ما فعل باحد لمصالح جمۃ و لیبتلی اللہ، احد میں جو کچھ ہوا، وہ بڑی مصلحتوں کی وجہ سے ہوا اور اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ امتحان فرمائیں۔

وانما یبتلی لیظہر للناس : - اس ابتلاء کی مصلحت یہ بھی تھی کہ لوگوں کے سامنے منافقین و مخلصین الگ الگ واضح ہو جائیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اے ایمان والو! اگر تم کفار کی بات مانتے رہو گے تو وہ تمہیں اٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے تمہارے حامی و ناصر تو اللہ تعالیٰ ہیں، اطاعت تو انہیں کی کرو، تم کفار کے عارضی غلبہ سے گھبراؤ مت، بہت جلد ہی ہم ان کے دلوں میں تمہاری ہیبت ڈال دیں گے اور ان کے تمام ارادوں پر پانی پھر جائیگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو ٹھہرا رکھا ہے جن کے معبود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اور حجت نہیں اتاری ہے۔ ان کا انجام جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، اسے تو حق تعالیٰ نے پورا کر دیا تھا، چنانچہ تم لوگوں کے ساتھ اللہ کی مشیت تھی کہ تم انہیں قتل کئے جا رہے تھے، لیکن تمہارے اندر کمزوری راہ پاگئی اور تم لوگ نبی کے حکم کے بارے میں اختلاف کرنے لگے اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک صریح حکم کی خلاف ورزی واقع ہوئی، حالانکہ تم جو چاہتے تھے وہ بات حاصل ہوگئی تھی، لیکن تم میں سے بعض کی نیت دنیا کی ہوگئی اور بعض ارادہ آخرت پر ثابت قدم رہے، اس کا انجام یہ ہوا کہ تمہارا رخ کفار کی جانب سے پھیر دیا گیا تا کہ تمہارا امتحان ہو جائے کہ مخلص کون ہے؟ اور دوسرا کون ہے؟ خیر اللہ تعالیٰ نے تمہاری خطا معاف کر دی ہے اور مومنین پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

تم یہ بھی تو سوچو کہ بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کے پکارنے پر گردن موڑ کر بھی دیکھتے نہ تھے حالانکہ خود رسول تمہیں پیچھے سے آواز دے رہے تھے کہ اللہ کے بندو! میرے پاس آؤ۔ اس سے نبی کو تکلیف ہوئی تو اس کے عوض میں تم کو تکلیف پہونچی۔ یہ سارا معاملہ اس لئے ہوا کہ آئندہ تمہیں کسی بات کی تکلیف نہ ہونے اس کی جو تم سے فوت ہو کر رہ گئی، اور نہ اس کی جو مصیبت تم پر آئی، اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، پھر اس

عوض اور صدمہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک اطمینان نازل فرمایا، یعنی عین میدان جنگ میں تم پر اونگھ طاری ہوگئی، اور تم نیند میں جھوم رہے تھے، تلواریں ہاتھ سے گری جا رہی تھیں، اور ایک گروہ وہ تھا جسے صرف اپنی ہی پڑی تھی، طرح طرح کے شکوک و شبہات میں، جاہلیت کے شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے تھے، کہتے تھے کہ جس نصرت کا وعدہ کیا گیا تھا اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، تم بتا دو کہ سارا کام اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے دل میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں، جنہیں ظاہر کرنے کی جرأت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملہ میں ہماری بات چلی ہوتی، اور ہمارا بس چلتا تو اس جگہ ہم قتل نہ ہوتے، تم ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بند ہوتے، لیکن تم میں سے کسی پر قتل لکھا ہوا ہوتا تو خواہی نحواہی اپنے مقتل میں یعنی میدان جنگ میں آتا۔

یہ سب کارروائی اس لئے ہوئی کہ تمہارے دلوں کے اخلاص و نفاق کا امتحان ہو جائے، اور تاکہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس میں پاکیزگی اور طہارت پیدا ہو جائے۔ اس سے مخلص و منافق سب کھل کر سامنے آجائیں گے۔

جن لوگوں نے میدان احد میں پیٹھ پھیری تھی، شیطان کے بہکاوے میں آگئے تھے اور شیطان کو ان کی بعض غلطیوں کی وجہ سے ان پر سوسہ اندازی کا موقع مل گیا تھا، لیکن وہ مطمئن رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں، حلیم ہیں سزا میں عجلت نہیں کرتے۔



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ای المنافقین ﴿وَقَالُوا لِأَخْوَانِهِمْ﴾
 ای فی شانہم ﴿إِذَا ضَرَبُوا﴾ سافروا ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ فماتوا ﴿أَوْ كَانُوا غُزًى﴾ جمع غاز
 فقتلوا ﴿لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا﴾ ای لا تقولوا كقولهم ﴿لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ﴾
 القول فی عاقبة امرهم ﴿حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ فلا يمنع عن الموت
 قعود ﴿وَاللَّهُ بِمَا عَمَلُونَ﴾ بالتاء والياء ﴿بَصِيرٌ﴾ فيجازيكم به. ﴿وَلَئِنْ﴾ لام قسم ﴿قُتِلْتُمْ﴾
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿أَيُّ الْجِهَادِ﴾ أَوْ مُتُّمْ ﴿بِضْمِ الْمِيمِ وَ كَسْرِهَا مِنْ مَاتَ يَمُوتُ وَ يَمَاتُ أَيْ﴾
 اتاكم الموت فيه ﴿لَمَغْفِرَةً﴾ كائنة ﴿مِّنَ اللَّهِ﴾ لذنوبكم ﴿وَرَحْمَةً﴾ منه لكم على ذلك
 واللام ومدخولها جواب القسم وهو في موضع الفعل مبتدأ خبره ﴿خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾
 من الدنيا بالتاء والياء ﴿وَلَئِنْ﴾ لام قسم ﴿مُتُّمْ﴾ بالوجهين ﴿أَوْ قُتِلْتُمْ﴾ في الجهاد او
 غيره ﴿لَا إِلَى اللَّهِ﴾ لا الى غيره ﴿تُحْشَرُونَ﴾ في الآخرة فيجازيكم ﴿فَبِمَا﴾ ما زائدة
 ﴿رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ﴾ يا محمد ﴿لَهُمْ﴾ اي سهلت اخلاقك اذ خالفوك ﴿وَلَوْ كُنْتَ﴾

فَظًا ﴿سَيِّئِ الْخَلْقِ﴾ ﴿غَلِيظَ الْقَلْبِ﴾ جافيا فاغلظت لهم ﴿لَا أَنْفُسُوا﴾ تفرقوا ﴿مِنْ حَوْلِكَ﴾
 فَاغْفُ ﴿تَجَاوَزْ﴾ ﴿عَنْهُمْ﴾ ما اتوه ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ ذنوبهم حتى اغفر لهم ﴿وَشَاوِرْهُمْ﴾
 استخرج آراءهم ﴿فِي الْأَمْرِ﴾ اى شانك من الحرب و غيره تطيبيا لقلوبهم و ليستن بك
 و كان ^{صلى الله} كثير المشاورة لهم ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ﴾ على امضاء ما تريد بعد المشاورة ﴿فَتَوَكَّلْ﴾
 عَلَى اللَّهِ ﴿ثِقْ بِهِ لَا بِالْمَشَاوِرَةِ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ عليه ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ﴾
 يعينكم على عدوكم كيوم بدر ﴿فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ ﴿يَتْرِكْ نَصْرَكُمْ كِيَوْمِ أَحَدٍ﴾
 ﴿فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾ اى بعد خذلانه اى لا ناصر لكم ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ لا غيره
 ﴿فَلْيَتَوَكَّلْ﴾ لِيَتَّقِ ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ و نزل لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدر فقال بعض الناس
 لعل النبي ^{صلى الله} اخذها ﴿وَمَا كَانَ﴾ ينبغي ﴿لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلَّ﴾ يخون فى الغنيمة فلا تظنوا به
 ذلك و فى قراءة بالبناء للمفعول اى ينسب الى الغلول ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ﴾
 الْقِيَامَةِ ﴿حَامِلًا لَهُ عَلَى عُنُقِهِ﴾ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ﴿الْغَالَ﴾ و غيره جزاء ﴿مَا كَسَبَتْ﴾
 عملت ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ شيئاً ﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ فاطاع و لم يغل ﴿كَمَنْ بَاءَ﴾
 رجع ﴿بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ﴾ بمعصيته و غلوله ﴿وَمَا وَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ المرجع هى
 لا ﴿هُمُ دَرَجَتٌ﴾ اى اصحاب درجت ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ اى مختلفوا المنازل فلمن اتبع رضوانه
 الثواب و لمن باء بسخطه العقاب ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ فيجازيهم به ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ﴾
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ ﴿اى عربيا مثلهم ليفهموا عنه و يشرفوا به لا
 ملكا ولا عجمياً﴾ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ﴿الْقُرْآنِ﴾ وَيُزَكِّيهِمْ ﴿يطهرهم من الذنوب﴾ وَيُعَلِّمُهُمُ
 الْكِتَابَ ﴿الْقُرْآنِ﴾ وَالْحِكْمَةَ ﴿السُّنَّةِ﴾ وَإِنْ ﴿مُخَفَّفَةً﴾ اى انهم ﴿كَانُوا مِنْ قَبْلُ﴾ اى قبل
 بعثه ﴿لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ بين ﴿أَوْ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ﴾ باحد بقتل سبعين منكم ﴿قَدْ﴾
 أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا ﴿ببدر بقتل سبعين و اسر سبعين منهم﴾ قُلْتُمْ ﴿مُتَعَجِّبِينَ﴾ اِنِّي ﴿مَنْ آتَى﴾
 هَذَا ﴿الْخِذْلَانَ﴾ و نحن مسلمون و رسول الله فينا و الجملة الاخيرة فى محل الاستفهام
 الانكارى ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ لانكم تركتم المركز فخذلتم ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ومنه النصر و منعه و قد جازاكم بخلافكم﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقِي
 الْجَمْعِ ﴿بأحد﴾ فَبِإِذْنِ اللَّهِ ﴿بارادته﴾ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ ﴿علم ظهور﴾ الْمُؤْمِنِينَ ﴿حَقًّا﴾
 وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ﴿الَّذِينَ﴾ قِيلَ لَهُمْ ﴿لما انصرفوا عن القتال و هم عبد الله بن ابي﴾

واصحابہ ﴿ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ اعداء ہ ﴿ اَوْ اَدْفَعُوا ﴾ عنا القوم بتکثیر سواد کم ان لم تقاتلو ﴿ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ ﴾ نحس ﴿ فَنَالَا لَا تَبْعَنُكُمْ ﴾ قال تعالیٰ تکذیباً لهم ﴿ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ اقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ﴾ بما اظهروا من خذلانہم للمومنین و كانوا قبل اقرب الى الايمان من حيث الظاهر ﴿ يَقُولُونَ بافواھم ما لیس فی قلوبہم ﴾ ولو علموا قتالا لم يتبعوكم ﴿ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ من النفاق ﴿ الَّذِيْنَ ﴾ بدل من الذين قبلہ او نعت ﴿ قَالُوا لِاخْوَانِهِمْ ﴾ فی الدين ﴿ و ﴾ قد ﴿ قَعَدُوا ﴾ عن الجهاد ﴿ لَوْ اطاعونا ﴾ ای شهداء احد و اخواننا فی القعود ﴿ مَا قَاتِلُوا قُلْ ﴾ لهم ﴿ فادروا ﴾ ادفعوا ﴿ عَنْ اَنْفُسِكُمْ الْمَوْتِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ فی ان القعود ینجی منه و نزل فی الشهداء ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ای لاجل دینہ ﴿ اَمْوَاتًا بَلْ ﴾ هم ﴿ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ ارواحهم فی حواصل طیور خضر تسرح فی الجنة حيث شاءت كما ورد فی حدیث ﴿ يَرْزُقُونَ ﴾ یا کلون من ثمار الجنة ﴿ فَرِحِينَ ﴾ حال من ضمیر یرزقون ﴿ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ و ﴿ هُمْ ﴾ یستبشرون ﴿ یفرحون ﴾ بالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ﴿ من اخوانهم المؤمنین و یبدل من الذين ﴿ اَنْ ﴾ ای بان ﴿ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ ای الذين لم يلحقوا بهم ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ فی الآخرة المعنی یفرحون بامنهم و فرحهم ﴿ یستبشرون بنعمة ﴾ ثواب ﴿ مِّنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ ﴾ زیادة علیه ﴿ وَاَنْ ﴾ بالفتح عطفاً علی نعمة و الكسر استینافاً ﴿ اللَّهُ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ بل یاجرهم -

ترجمہ

(اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا، جنہوں نے کفر کیا) یعنی منافقین (اور اپنے بھائیوں کے لئے) یعنی ان کے حق میں (کہا جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں) پس ان کی موت آگئی (یا وہ غزوہ میں گئے) اور شہید کر دیئے گئے، غزاء، غازی کی جمع ہے (کہ اگر ہمارے پاس رہ گئے ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے) یعنی اس طرح کی بات مت بولو، اس قول کا انجام یہ ہوگا (کہ یہ بات اللہ ان کے دلوں میں حسرت بنا کر پیوست کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں) اس لئے بیٹھ رہنا موت سے بچا نہیں لے گا (اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں) اس کا بدلہ تمہیں دیں گے۔ تعملون، تاء کے ساتھ بھی اور یاء کے ساتھ بھی، (اور اگر) لئن میں لام قسم کے لئے (تم اللہ کی راہ میں) یعنی جہاد میں (قتل کر دیئے گئے، یا مر گئے) متم میم کے ضمہ کے ساتھ اور اس کے کسرہ کے ساتھ ہے، مات یموت اور مات یمات باب نصر اور سمع

سے، یعنی تم کو موت آگئی (تو اللہ کی جانب سے) تمہارے گناہوں کی ہونے والی (مغفرت اور) ان کی (رحمت) تمہارے اوپر اس کے عوض میں، لام اور اس کا مدخول یعنی لمغفرة جو اب قسم ہے اور موضع فعل میں ہے، مبتدا ہے، اس کی خبر یہ ہے (اس چیز سے بہتر ہے، جس کو یہ سمیٹتے ہیں) یعنی دنیا، یجمعون یا اور تاء سے دو قرأت ہے (اور اگر) لئن میں لام قسم کیلئے ہے (تم مر جاؤ) دونوں طرح پر، یعنی متم بکسر المیم اور متم بضم المیم (یا قتل کر دیئے جاؤ) جہاد وغیرہ میں (تو اللہ ہی کی طرف) نہ کہ کسی اور کی طرف آخرت میں (جمع کئے جاؤ گے) پھر وہ تم کو جزا دیں گے (بس اللہ کی طرف سے رحمت ہی ہے) فبما میں مازائد ہے (کہ) اے محمد (تم ان کیلئے نرم مزاج ہو) یعنی انہوں نے تمہاری خلاف ورزی کی، مگر تمہارے مزاج و اخلاق میں نرمی اور سہولت رہی (اور اگر تم بدخلق، سخت دل ہوتے) اور ان پر سختی کرتے (تو تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے تو ان سے درگزر کرو) جو کچھ ان سے قصور ہوا ہے معاف کر دو (اور ان کے لئے) ان کے گناہوں سے (استغفار کرو) کہ میں بھی انہیں معاف کر دوں (اور ان سے) لڑائی وغیرہ کے (معاملات میں) ان کے اطمینان قلب کے لئے (مشورے بھی کرو) یعنی ان کی رائے معلوم کر لیا کرو تا کہ یہ سنت قائم ہو جائے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ بکثرت مشورے لیتے تھے (پھر جب) مشورے کے بعد اپنے ارادے کو نافذ کرنے کا (عزم کر لو تو اللہ پر) نہ کہ مشورہ پر (بھروسہ کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے خلاف (تمہاری مدد کریں) جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا، (تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر تم کو) یعنی تمہاری مدد کو (ترک کر دیں) جیسا کہ غزوہ احد میں ہوا (تو کون ہے جو اس کے بعد) یعنی اس چھوڑنے کے بعد (تمہاری مدد کرے) یعنی کوئی مددگار نہ ہوگا (اور اللہ ہی پر) کسی اور پر نہیں (اہل ایمان کو توکل کرنا چاہئے)

اگلی آیت اس وقت نازل ہوئی جب بدر میں مال غنیمت میں سے ایک سرخ چادر کھو گئی تھی تو بعض لوگوں نے کہا کہ شاید نبی ﷺ نے رکھ لیا ہو (اور کسی نبی کیلئے مناسب نہیں ہے کہ) مال غنیمت میں (خیانت کرے) یہ بدگمانی نہ کرو اور ایک قرأت میں یُغَلَّ فعل مجہول ہے، یعنی یہ کہ نبی کو خیانت کے ساتھ منسوب کیا جائے، درست نہیں ہے (اور جو کوئی خیانت کرے گا تو اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو) قیامت کے دن اپنی گردن پر لاد کر (لائے گا، پھر ہر نفس کو) خواہ وہ خائن ہو یا امین ہو (وہ کام) یعنی اس کا بدلہ (جو اس نے کیا ہے، پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، بھلا جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی پیروی کی) یعنی اس کی اطاعت کی، اور خیانت نہیں کی (کیا اس شخص جیسا ہوگا جو) اپنی معصیت اور خیانت کی وجہ سے (اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے) نہیں دونوں ایک جیسے نہیں ہیں (وہ مختلف درجات) والے (ہیں اللہ کے نزدیک) جنہوں نے اللہ کی رضا کا اہتمام کیا، ان کیلئے ثواب ہے اور جنہوں نے ان کی ناراضگی مول لی، ان کیلئے

سزا ہے (اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں) انہیں اس کا بدلہ دیں گے۔

(بے شک اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان، ایک رسول انہیں میں سے) یعنی انہیں کے مثل عرب کا باشندہ تاکہ اس کی بات سمجھ سکیں اور اس واسطے کہ ان کو شرف حاصل ہو، نہ فرشتہ بھیجا اور نہ عجمی (جو انہیں اللہ کی آیات) یعنی قرآن (پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں) گناہوں سے (پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی) یعنی قرآن کی (اور حکمت) یعنی سنت (کی تعلیم دیتا ہے، اور بلاشبہ وہ لوگ) وان کانوا میں ان مخفف من الثقیلۃ ہے یعنی انہم (اس سے) یعنی رسول کی بعثت سے (پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور کیا جب تم پر) احد میں (وہ مصیبت آئی) یعنی ستر صحابہ کے قتل کی مصیبت (کہ اس کی دو گنا مصیبت تم) بدر میں ستر آدمیوں کے قتل اور ستر آدمیوں کو گرفتار کر کے (پہو نچا چکے تھے تو تم نے) ازراہ تعجب (کہا کہ) ہمارے لئے (یہ) عدم نصرت (کہاں سے ہے) حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہیں اور جملہ اخیرہ استفہام انکاری کا محل ہے (تم) ان سے (کہو کہ یہ تمہاری ہی طرف سے ہے) کیونکہ تم نے مرکز کو چھوڑ دیا، پس شکست سے دوچار ہو گئے (بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں) اور انہیں چیزوں میں نصرت بھی ہے اور اسے روک دینا بھی ہے، تو تم کو تمہارے خلاف حکم کرنے کی جزا ملی (اور جو بھی مصیبت تم پر اس دن آئی جس دن دونوں فوجیں ٹکرائی تھیں) یعنی احد میں (وہ اللہ کے اذن) یعنی ان کے ارادے (سے آئی، اور اس لئے تاکہ) اللہ تعالیٰ سچے (اہل ایمان کو) بطور علم ظہور کے (جان لیں اور اس لئے تاکہ اہل نفاق کو جان لیں، اور ان لوگوں کو بھی جن سے) جب وہ لڑائی سے لوٹ آئے تھے، اور وہ عبداللہ بن ابی اور اس کے لوگ تھے (کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں) اس کے دشمنوں سے (لڑو یا) یا اپنی تعداد کی تکثیر سے..... اگر لڑنا نہ ہو..... ہم سے قوم کو (دفع کرو) تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم لڑنا بخوبی جانتے تو ہم تمہارے پیچھے آتے) اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی اور فرمایا (وہ آج ایمان کی بہ نسبت کفر سے قریب تر ہیں) اس لئے انھوں نے کھلم کھلا مسلمانوں کی مدد کو ترک کر دیا، اور اس سے پہلے بظاہر وہ ایمان سے قریب تر تھے (اپنے منہ سے وہ بات بولتے ہیں جو دل میں نہیں ہے) حالانکہ اگر وہ لڑائی جانتے بھی ہوتے۔ تب بھی تمہارا ساتھ نہ دیتے (اور اللہ تعالیٰ اس) نفاق کو (جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں، جن لوگوں نے) الذین ما قبل کے الذین سے بدل ہے یا اس کی صفت ہے (اپنے) دینی (بھائیوں کے حق میں کہا، اس حال میں یہ خود) جہاد سے (بیٹھ گئے تھے، اگر ہماری بات) شہداء احد یا ہمارے بھائی جنگ سے بیٹھ رہنے میں (مان لئے ہوتے تو قتل نہ کئے جاتے، تم) ان سے (کہو اچھا تو اپنے آپ سے موت کو دفع کرو اگر تم) اس بات میں (سچے ہو) کہ بیٹھ رہنا قتل سے نجات دے دے گا۔

اور شہداء کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی (اور جو لوگ اللہ کی راہ میں) ان کے دین کے واسطے (قتل

کئے گئے ہیں) قتلوا تخفیف اور تشدید دونوں طریقے پر قرأت ہے (انہیں ہرگز مردہ مت گمان کرو بلکہ) وہ (اپنے رب کے پاس زندہ ہیں) ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، جنت میں جہاں چاہتی ہیں اڑتی پھرتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے (ان کو) جنت کے پھلوں کی (روزی ملتی ہے وہ اس فضل پر مسرور ہیں) فرحین، یوزقون کی ضمیر سے حال ہے (جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اور وہ ان لوگوں سے بھی خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، جو) ان کے مومن بھائی (ان کے پیچھے ہیں) اور الذین سے بدل یہ ہے کہ (ان پر) یعنی جو لوگ ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، ان پر (کوئی خوف نہیں ہے، اور نہ وہ) آخرت میں (عمگین ہوں گے) مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے امن و سرور سے خوشی محسوس کرتے ہیں (وہ اللہ کے احسان) یعنی ثواب (اور فضل سے) جو ثواب مزید ہے (خوش ہوتے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے) بلکہ انہیں اجدیتے ہیں وان الله لا يضيع اجر المومنین میں ان کے فتح کے ساتھ نعمۃ پر عطف ہے اور کسرے کے ساتھ جملہ مستانفہ ہے۔

﴿ تشریحات ﴾

ای المنافقین: الذین کفروا سے مراد عام کفار نہیں ہیں بلکہ منافقین ہیں، جو بظاہر ایمان والے تھے، مگر در حقیقت کافر تھے، لیکن الفاظ کے عموم کا اعتبار کرتے ہوئے، تمام کفار کا یہی حکم ہے۔

ای فی شانہم: قول کا صلہ لام آتا ہے تو عموماً اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس پر لام داخل ہے وہی اس قول کا مخاطب ہے، مثلاً قلت لزيد کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زيد سے کہا، قول کا مخاطب زيد ہے، قالوا لاخوانہم سے بھی بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انھوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، لیکن یہاں وہ مخاطب نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا یہ قول ”اخوانہم“ ان کے شہید ہونے یا مرجانے کے بعد صادر ہوا ہے۔ تو لاخوانہم کا مطلب ہوا فی شانہم یعنی اپنے بھائیوں کے بارے میں انھوں نے کہا۔

فماتوا: تشریح میں یہ لفظ کفار کے قول ماماتوا کے قرینے سے اور آگے قتلوا کا لفظ ما قتلوا سے ماخوذ ہے۔ فی عاقبة امرہم: لیجعل اللہ میں لام تعلیلیہ نہیں ہے بلکہ لام عاقبت ہے، یعنی اس کہنے کا انجام یہ ہوگا کہ یہ بات حسرت ورنج بن کر ان کے دل میں چبھی رہے گی، کیونکہ جب دل میں یہ بات جمی ہوگی کہ فلاں کام نہ کئے ہوتے تو نوح جاتے تو یہ تصور ہمیشہ تکلیف پہونچا تارہے گا۔

واللام ومدخولها جواب القسم: لام اور اس کا مدخول یعنی لمغفرة من اللہ مبتدا ہے اور اس کی خبر مما یجمعون ہے۔ یہ جملہ جواب قسم ہے اور قسم و لئن قتلتم او متم ہے، اور جواب شرط محذوف ہے، قاعدہ یہ ہے کہ قسم اور شرط جمع ہوتی ہے تو جواب شرط محذوف ہو جاتا ہے۔

وہو فی موضع الفعل :- ہو ضمیر کا مرجع مدخولہا یعنی لام کا مدخول مغفرة فعل کی جگہ پر ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی غفر لکم و رحمکم۔ صاحب جمل نے فرمایا ہے کہ اس کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جواب قسم کے لئے فعل کا ہونا ضروری نہیں ہے، جملہ اسمیہ جواب قسم ہوتا ہے، ہاں اگر شرط کی جزا کا مسئلہ ہوتا تو البتہ فی موضع الفعل کہنا بجا ہوتا کہ جواب شرط فعل ہی ہوتا ہے۔

ما زائدة : . فما رحمة من الله میں ما زائدہ ہے یعنی حرف جار اور مجرور کے درمیان فاصل ہے اور تاکید کیلئے آیا ہے، ما کافی نہیں ہے جس کی وجہ سے لفظوں میں حرف جر کا اثر باطل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، جیسے فما نقضہم میثاقہم میں ہے اور عما قلیل میں ہے اور مما خطیئاتہم میں ہے۔ اہل عرب کبھی کلام میں تاکید کیلئے کوئی ایسا لفظ بڑھا دیتے ہیں جس کی وہاں ضرورت نہیں ہوتی، جیسے فلما ان جاء البشیر میں ان زائد ہے مگر معنوی اعتبار سے مفید ہوتا ہے کہ اس سے تاکید کا معنی حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم مزاج ہیں۔

جافیا : جفوة سے مشتق ہے، دل کی اور مزاج کی سختی کو کہتے ہیں، اور فظاظۃ قول و عمل کی سختی ہے۔ یعنی بد خوئی، مطلب یہ ہے کہ آپ نہ دل کے سخت ہیں اور نہ معاملات میں قول و عمل کی سختی کا برتاؤ فرماتے ہیں، یعنی ظاہر و باطن ہر اعتبار سے نرم ہیں۔

استخرج آراءہم : مشورہ کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے، اس کی رائے معلوم کرنی ہوتی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دلداری: غزوہ احد میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بظاہر اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی کہ وہ کسی طرح قابل معافی دوسروں کے نزدیک نہ ہوتی۔ اس کا تقاضہ یہ تھا کہ کم از کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل کبیدگی ہو جاتی۔ لیکن یہاں عجیب بات ہے کہ اصحاب کرام کیلئے حق تعالیٰ سفارش فرماتے ہیں اور اس کی ترتیب نہایت فطری رکھی ہے، پہلے یہ فرمایا کہ ان سے درگزر کرو، تا کہ آپ کی کبیدگی دور ہو جائے، پھر فرمایا کہ ان کے لئے اللہ سے مغفرت کی درخواست کرو، اس میں بظاہر دو بڑی مصلحتیں ہیں، ایک یہ کہ ان کی خطا تمہارے معاف کر دینے کے بعد عند اللہ بھی معاف ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ دعا اسی کے حق میں کی جاتی ہے، جس کی طرف سے دل میں کبیدگی نہیں ہوتی۔ اگر ذرا بھی کبیدگی دل میں ہوگی۔ تو اس کے لئے دل سے دعا نہ نکلے گی۔ تو آپ کا دعا کرنا اس بات کی ضمانت ہوگی کہ آپ کے دل میں کبیدگی اور انقباض نہیں ہے۔ اس کے بعد سفارش کی آخری منزل یہ ہے کہ درپیش امور میں ان سے مشورہ بھی کرو خواہ وہ دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو جس پر مشورہ کی ضرورت ہو۔ فطری بات یہ ہے کہ آدمی جس سے ناراض ہوتا ہے، اور اس کی غلطی بڑی اور واضح ہوتی ہے، اس پر

سے اعتماد جاتا رہتا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، کبیدگی بھی دور ہو جاتی ہے، مگر اعتماد و اعتبار دیر میں پیدا ہوتا ہے، اور جس پر اعتبار نہیں ہوتا۔ اس سے مشورہ بھی نہیں لیا جاتا تو آپ کو حکم دیا گیا کہ ان سے مشورہ کیا کرو۔ تاکہ یہ اس بات کی سند بن جائے کہ آپ کو ان سے بے اعتمادی نہیں ہے، اس سے صحابہ کرام کے قلوب بالکل مطمئن ہو جائیں گے، انہیں کسی طرح کا وسوسہ اور دغذغہ باقی نہیں رہے گا۔

تطیباً لقلوبہم و لیستن بک :- یہ سارے احکام بالخصوص مشورہ کا حکم اس لئے دیا ہے کہ صحابہ کرام کے قلوب کو خوشی اور اطمینان کی دولت حاصل ہوگی۔ اور اس لئے بھی کہ اس میں آپ کی سنت جاری ہو جائے، بعد میں امت کے حکام کے سامنے ایسی مواقع پر نبی کریم ﷺ کا نمونہ رہے۔

ای بعد خذلانہ :۔ فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ میں بعد کا اصل مضاف محذوف ہے، یعنی بعد خذلانہ۔ یعنی بعد ترک نصرہ

حاملاً له علی عنقه :۔ روی الشیخان عن ابی ہریرۃ قال قام فینا رسول اللہ ﷺ ذات یوم فذکر الغلول فعظمہ و عظم امرہ حتی قال لا الفین احدکم یجئ یوم القیامۃ علی رقبته بعیر له رغاء یقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک من اللہ شیئاً قد ابلغتک الخ : بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور مال غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا۔ اور اسے بہت بڑا جرم بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اونٹ لاد کر لائے، اور وہ بلبلا رہا ہو، وہ مجھ سے کہے کہ اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، تو اس سے کہوں، میں اللہ کے مقابلے میں کوئی ملکیت نہیں رکھتا۔ میں تو بات پہلے ہی پہنچا چکا ہوں، اسی طرح کے کلمات آپ نے گائے، بکری، کپڑے اور سونا چاندی کے متعلق بھی فرمائے۔ اسی حدیث سے اخذ کر کے مفسر نے خیانت کے بارے میں حاملاً له علی عنقه فرمایا ہے۔

لا :۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ وماواہ جہنم و بس المصیر کے بعد لا کا کلمہ مفسر نے اس لئے ذکر کیا ہے کہ یہاں استفہام انکاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی جستجو میں رہتا ہے اور جو معصیت کر کے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک کیلئے ثواب ہے اور دوسرے کیلئے عذاب ہے۔

والجملة الخیرة محل الاستفہام الانکاری : اولما اصابتکم الخ میں ہمزہ استفہام انکار کیلئے ہے لیکن انکار لما اصابتکم کا نہیں بلکہ قلتہ انی هذا، استفہام انکاری کا محل ہے، یعنی تم کو تعجب سے یہ بات نہیں کہنی چاہئے، کیونکہ تمہیں ہزیمت کا سبب معلوم ہے، تعجب تو وہاں ہوتا ہے، جہاں سبب مخفی ہو اور یہاں تو

عیاں ہے۔

علم ظہور :۔ اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔

(و) قد (قعدوا) :۔ وقعدوا حال ہے، اور قاعدہ ہے کہ جملہ فعلیہ جب ماضی کے صیغہ سے ہو تو حال ہونے کیلئے شرط ہے کہ قد اس کے شروع میں ہو، تاکہ وہ زمانہ حال کے قریب ہو کر حال بن سکے۔ اگر لفظ قد نہ ہو تو مقدر ہوگا۔ چنانچہ اسی لئے مفسر نے یہاں قد کو ظاہر کر دیا

من اخوانہم المؤمنین :۔ شہداء بالخصوص شہداء احد جن پر اس خاص موقع پر بہت غم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کیلئے یہ آیت نازل فرمائی چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب واقعہ احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا، وہ جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں اور پھر ان قندیلوں میں آجاتے ہیں جو ان کیلئے عرش رحمن کے نیچے معلق ہیں۔ جب ان لوگوں نے اپنی راحت و عیش کی یہ زندگی دیکھی تو کہنے لگے کہ (ہمارے متعلقین دنیا میں ہمارے مرنے سے غمگین ہیں) کیا کوئی ہمارے حالات کی خبر ان کو پہنچا سکتا ہے تاکہ وہ ہمارے اوپر غم نہ کریں اور وہ بھی جہاد میں کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری یہ خبر ان کو پہنچائے دیتے ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (معارف القرآن ج: ۲ ص: ۲۳۷ بحوالہ قرطبی) پھر ان کو اس کی بھی خوشی ہوئی ہے کہ ان کے بعد والے اطاعت الہی اور جہاد فی سبیل اللہ میں سرگرم ہیں، انہیں بھی کوئی خوف و حزن نہ ہوگا۔

﴿ مضامین آیات و تفسیر ﴾

یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اے رسول! تم اپنے اصحاب اور امت کیلئے نہایت نرم مزاج اور نرم دل ہو، ورنہ انھوں نے جو تمہارے حکم کی خلاف ورزی کی تھی تو اگر تم بدخلق اور سخت دل ہوتے اور اس کے مطابق تمہارا معاملہ ہوتا تو یہ سب تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے، تو ان سے درگزر ہی کرو، اور اللہ کے حضور ان کے لئے استغفار کرو، اور کاموں میں ان سے مشورے بھی لو، تاکہ ان کے قلوب بھی مطمئن اور تمہاری ایک سنت بھی جاری ہو جائے اور مشورے کے بعد جب فیصلہ کو نافذ کرنے کا عزم ہو تو محض اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تو کل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں تو تم پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا، اور اگر وہ ہی مدد کو روک لیں تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اور ایمان والوں کو توکل تو اللہ تعالیٰ ہی پر کرنا ہے۔

نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اگر مال غنیمت میں کوئی چادر نہیں مل رہی ہے تو یہ گمان مت کرو کہ چپکے سے نبی نے اپنے لئے رکھ لیا ہوگا، نبی ایسا کر ہی نہیں کر سکتا، اور جو کوئی خیانت کا ارتکاب کرتا ہے،

قیامت کے دن وہ خیانت والے مال کو اپنی گردن پر لاد کر لائے گا، پھر سب کو ان کے کئے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔

ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگا رہتا ہے، اور ایک وہ ہے جو خدا کی ناراضگی مول لیتا رہتا ہے، یعنی مبتلائے گناہ رہتا ہے اور اس کا انجام جہنم ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بدترین جگہ ہے، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ ہرگز نہیں! ان کے درجات الگ الگ ہیں، ایک مستحق ثواب ہے اور ایک مورد عذاب! اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔

اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ، انہیں کے خاندان سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا تاکہ اس سے استفادہ کریں، اگر کوئی فرشتہ ہوتا یا اجنبی ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی، وہ رسول، اللہ تعالیٰ کی آیات کی ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے، ان کا گناہوں سے تزکیہ کرتا ہے، نیز کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، رسول کی بعثت سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔

ایک وقت یہ ہے کہ تم کو جنگ احد میں ایک مصیبت سے دوچار ہونا پڑا، لیکن ایک وقت وہ تھا کہ جنگ بدر میں تمہاری طرف سے کفار پر اس سے دو گنا مصیبت پڑ چکی ہے تو کیا اب تم کو تعجب ہو رہا ہے، اور تم حیرت سے کہہ رہے ہو کہ یہ شکست کیونکر ہوئی، جبکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے رسول ہمارے درمیان ہیں، حالانکہ اگر تم غور کرو تو اس کا سبب خود تمہیں ہو، کیونکہ بغیر اجازت کے بلکہ خلاف حکم تم نے اس مرکز کو چھوڑ دیا، جس پر بہر حال تم کو جبر رہنے کا حکم تھا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔

میدان احد میں جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہوا، اور اس لئے ہوا کہ سچے مومن اور جھوٹے منافق سب ممتاز ہو جائیں۔ وہ منافق جن سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا فوج اسلام کی تعداد بڑھا کر دشمنوں کو ہیبت زدہ ہی کرو کہ وہ قریب نہ آئیں، اس پر انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑنے کا فن جانتے تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، آج یہ لوگ بہ نسبت ایمان کے کفر سے قریب تر ہیں۔ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، جو کچھ یہ اپنے دل میں چھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔

یہ خود تو جہاد سے بیٹھ ہی رہے، ان کے بھائی بند جوڑائی میں شریک ہوئے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مانے ہوتے تو نہ مارے جاتے، ان سے کہو کہ ذرا یہ اپنی جان سے موت کو تو ٹالیں، اگر سچے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، رب کائنات کے پاس سے انہیں روزی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو فضل و بخشش عطا فرمائی ہے اس پر بے حد خوش ہیں، اور جو لوگ ابھی دنیا میں ہیں، اور طاعت و عبادت اور جہاد فی سبیل اللہ میں سرگرم ہیں، ان سے بہت مسرور و شاداں ہیں کہ انہیں

بھی کوئی خوف ورنج نہیں ہوگا، انہیں اس بات کی بڑی مسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کارناموں کا ثواب بھی عطا فرمایا، اور مزید انعامات سے نوازا، اور دائمی اور ابدی خوشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔



﴿الَّذِينَ﴾ مبتدأ ﴿اَسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ دعاء ه بالخروج للقتال لما اراد ابو سفيان واصحابه العود و تواعدوا مع النبي ﷺ سوق بدر العام المقبل من يوم احد ﴿مَنْ بَعْدَ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ﴾ باحد و خبر المبتدأ ﴿لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ﴾ بطاعته ﴿وَاتَّقُوا﴾ مخالفتہ ﴿اَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ هو الجنة ﴿الَّذِينَ﴾ بدل من الذين قبله او نعت ﴿قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ ای نعيم بن مسعود الاشجعي ﴿اِنَّ النَّاسَ﴾ ابا سفيان واصحابه ﴿قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ الجموع ليستاصلوكم ﴿فَاخْشَوْهُمْ﴾ ولا تاتوهم ﴿فَرَادَهُمْ﴾ ذلك القول ﴿اِيْمَانًا﴾ تصديقا بالله و يقيناً ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ كافينا امرهم ﴿وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ المفوض اليه الامر هو وخرجوا مع النبي ﷺ فوافوا سوق بدر والقي الله الرعب في قلب ابي سفيان واصحابه فلم ياتوا و كان معهم تجارات فباعوا و ربحوا قال تعالى ﴿فَانْقَلَبُوا﴾ رجعوا من بدر ﴿بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَ فَضْلِ﴾ بسلامة و ربح ﴿لَمْ يَمَسَّهُمْ سُوءٌ﴾ من قتل او جرح ﴿وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ بطاعته و رسوله في الخروج ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ على اهل طاعته ﴿اِنَّمَا ذَلِكُمُ الْقَائِلُ لَكُمْ اِنَّ النَّاسَ الْخٰٓشِطْنَ يُخَوِّفُ﴾ كم ﴿اَوْلِيَاءَ هٗ﴾ الكفار ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوْنَ﴾ في ترك امرى ﴿اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾ حقا ﴿وَلَا يَحْزَنُكَ﴾ بضم الياء و كسر الزاى و بفتحها و ضم الزاى من حزنه لغة في احزنه ﴿الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ﴾ يقعون فيه سريعا بنصرته وهم اهل مكة او المنافقون اى لا تهتم لكفرهم ﴿اِنَّهُمْ لَنْ يُّضُرُّوْا اللَّهَ شَيْئًا﴾ بفعالهم و انما يضررون انفسهم ﴿يُرِيْدُ اللَّهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِزًّا﴾ نصيباً ﴿فِي الْاٰخِرَةِ﴾ اى الجنة فلذلك خذلهم ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ في النار ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوْا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ﴾ اى اخذوه بدله ﴿لَنْ يُّضُرُّوْا اللَّهَ﴾ بكفرهم ﴿شَيْئًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ مؤلم ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ بِالْاِيْمَانِ وَالتَّاءِ﴾ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّمَا نُمَلِّىْ ﴿اى املاء نا﴾ لَهُمْ ﴿بتطويل الاعمار و تاخيرهم﴾ خَيْرٌ لَّانْفُسِهِمْ﴾ وان و معمولها سدت مسد المفعولين في قراءة التحتانية و مسد الثاني في الاخرى ﴿اِنَّمَا نُمَلِّىْ﴾ نمهل ﴿لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا﴾ بكثرة المعاصى ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ

مُهَيِّنٌ ﴿ذُو اِهَانَةٍ فِي الْآخِرَةِ﴾ ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ﴾ ﴿لِيَتْرَكَ﴾ ﴿الْمُؤْمِنِينَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ﴾ ﴿اِيهَا النَّاسُ﴾ ﴿عَلَيْهِ﴾ ﴿مِنْ اِخْتِلَاطِ الْمَخْلِصِ بِغَيْرِهِ﴾ ﴿حَتَّى يَمِيزَ﴾ ﴿بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ يَفْصَلُ﴾ ﴿الْخَبِيثَاتِ﴾ ﴿الْمِنَافِقِ﴾ ﴿مِنَ الطَّيِّبِ﴾ ﴿الْمُؤْمِنِ بِالتَّكْلِيفِ الشَّاقَّةِ الْمَبِينَةِ لِذَلِكَ فَفَعَلَ ذَلِكَ يَوْمَ اَحَدٍ﴾ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ ﴿فَتَعَرَفُوا الْمِنَافِقَ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ﴾ ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي﴾ ﴿يَخْتَارُ﴾ ﴿مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿فِيُطْلِعُهُ عَلَى غَيْبِهِ كَمَا اَطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ﴾ ﴿عَلَى حَالِ الْمِنَافِقِينَ﴾ ﴿فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَاِنْ تَوَمَّنَا وَاْتَقَوْنَا﴾ ﴿النَّفَاقَ﴾ ﴿فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ﴾ ﴿بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ﴾ ﴿الَّذِينَ يَخْلُونَ بِمَا اَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ﴿اِىْ بَزَكَاتِهِ﴾ ﴿هُوَ﴾ ﴿اِىْ بِخَلْعِهِمْ﴾ ﴿خَيْرًا لَهُمْ﴾ ﴿مَفْعُولٌ ثَانٍ وَالضَّمِيرُ لِلْفَصْلِ وَالْاَوَّلُ بِخَلْعِهِمْ مَقْدَرًا قَبْلَ الْمَوْصُولِ عَلَى الْفَوْقَانِيَّةِ وَقَبْلَ الضَّمِيرِ عَلَى التَّحْتَانِيَّةِ﴾ ﴿بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ﴾ ﴿اِىْ بَزَكَاتِهِ مِنَ الْمَالِ﴾ ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ﴿بَانَ يَجْعَلُ حَيَّةً فِي عُنُقِهِ تَنْهَشُهُ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ .﴾ ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ ﴿يَرِثُهُمَا بَعْدَ فَنَاءِ اَهْلِهِمَا﴾ ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ﴾ ﴿خَبِيرٌ﴾ ﴿فِي جَازِيكُمْ بِهِ .﴾

ترجمہ

(وہ لوگ) مبتدا ہے (جنہوں نے اللہ ورسول کی پکار پر لبیک کہی) جب کہ انہیں رسول نے جنگ کے واسطے نکلنے کی دعوت دی۔ یہ اس وقت ہوا جب ابوسفیان اور اس کے لشکر نے لوٹنے کا ارادہ کیا، اور رسول اللہ ﷺ کو چیلنج کیا کہ غزوہ احد کے اگلے سال بازار بدر میں پھر مقابلہ ہوگا (بعد اس کے کہ انہیں) احد میں (زخم لگ چکا تھا) مبتدا کی خبر یہ ہے کہ (ان میں سے جن لوگوں نے) ان کی فرمانبرداری کر کے (نیک عمل کیا اور) ان کے خلاف کرنے سے (بچے، ان کے لئے اجر عظیم ہے) وہ جنت ہے (وہ لوگ) یہ ما قبل کے الذین سے بدل ہے، یا اس کی صفت ہے (جن سے لوگوں نے کہا) یعنی نعیم بن مسعود اجمعی نے (کہ بے شک لوگوں نے) یعنی ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں نے (تمہارے لئے فوجیں اکٹھی کر رکھی ہیں) تاکہ تم کو جڑ سے ختم کر دیں (پس ان سے ڈرو) اور وہاں مت جاؤ (تو) اس بات نے (ان کو ایمان) یعنی تصدیق اور یقین (کے اعتبار سے اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہم کو) ان کے معاملے میں (کافی ہیں اور وہ بہترین کارساز ہیں) وکیل وہ ہے جس کے حوالے کوئی کام کر دیا جائے، یہ حضرات نبی ﷺ کے ساتھ نکل کر بازار بدر میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کے دل میں رعب ڈال دیا، وہ نہیں آئے، صحابہ کرام کے ساتھ تجارت کے سامان تھے، انہوں نے انہیں وہاں بیچا اور نفع کمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا (پس وہ) بدر سے (اللہ کی نعمت اور فضل) یعنی سلامتی او

رفع (کے ساتھ واپس آئے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی) نہ قتل کی اور نہ زخم کی (اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی پیروی کی) جنگ کیلئے نکلنے میں انہوں نے اللہ ورسول کی اطاعت کی (اور اللہ تعالیٰ) اپنے طاعت گزاروں پر (بہت فضل فرمانے والے ہیں، بے شک وہ) کہنے والا جس نے تم سے کہا تھا کہ ان الناس قد جمعوا لكم الخ (شیطان تھا، وہ) تم کو (اپنے حمایتیوں) یعنی کفار (سے ڈرا رہا تھا، تو تم ان سے مت ڈرو، اور) میرے امر کے چھوڑنے میں (مجھی سے ڈرو، اگر تم سچے مومن ہو)

(اور تم کو وہ لوگ جو کفر میں تیز چلتے ہیں) یعنی کفر کی مدد کر کے تیزی سے اس میں گرتے ہیں، اور یہ اہل مکہ ہیں یا منافقین ہیں (رنج میں نہ ڈالیں) لایحزنک یاء کے ضمہ اور زاء کے کسرہ کے ساتھ باب افعال سے، اور یاء کے فتح اور زاء کے ضمہ کے ساتھ حزن سے مشتق ہے، أحزن کے اندر ایک لغت یہ بھی ہے، یعنی تم ان کے کفر کی فکر مت کرو (بے شک یہ لوگ) اپنی حرکتوں سے (اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے) اپنا ہی بگاڑتے ہیں (اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کیلئے آخرت میں) یعنی جنت میں (کوئی حصہ نہ لگائے) اسی لئے ان کو توفیق سے محروم کر دیا ہے (اور ان کیلئے) جہنم میں بڑا عذاب ہے (بے شک جن لوگوں نے ایمان کے عوض میں کفر کو خرید لیا) یعنی اس کو لیا (وہ) اپنے کفر کی وجہ سے (اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کیلئے عذاب دردناک ہے۔

(اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں) یاحسبن یاء اور تاء دونوں طرح سے ہے (کہ ہم جو انہیں) ان کی عمر لمبی کر کے اور ان کی موت کو موخر کر کے (مہلت دیتے ہیں) وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا یہ مہلت دینا (ان کے لئے خیر ہے) ان اور اس کا معمول تحثانیہ کی قرأت کے اعتبار سے دونوں مفعولوں کے اور فو قانیہ کے اعتبار سے دوسرے مفعول کا قائم مقام ہے (ہم انہیں اس لئے مہلت دیتے ہیں کہ) معاصی کی کثرت کر کے (گناہ میں اور بڑھ جائیں اور ان کیلئے) آخرت میں (رسوا کن عذاب ہے، اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہے کہ اہل ایمان کو) اے لوگو! (اسی حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یعنی مخلص اور غیر مخلص کا مخلوط و مشتتبہ ہونا) یہاں تک کہ وہ خبیث (یعنی منافق) (کو پاک) یعنی مومن (سے) ان مشکل تکالیف کے واسطے سے جو اس کو واضح کرنے والی ہیں (علیحدہ و ممتاز کر دیں) یمیز تخفیف اور تشدید دونوں طرح سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر ایسا کر دیا (اور اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کر دیں) کہ تم منافق اور غیر منافق کو اس امتحان و تمیز سے پہلے ہی پہچان جاؤ (لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں جسے چاہتے ہیں منتخب فرماتے ہیں) اسے اپنے غیب پر مطلع فرماتے ہیں، جیسا کہ نبی ﷺ کو منافقین کے حال پر مطلع کر دیا تھا (پس اللہ پر اور ان کے رسول پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لائے اور) نفاق سے (بچے تو تمہارے لئے اجر عظیم ہے، اور وہ لوگ جو کہ اس فضل میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، بخل کرتے ہیں) یعنی اس کی زکوٰۃ میں (وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں) یاحسبن یاء سے بھی ہے اور تاء

سے بھی (کہ) ان کا (یہ) بخل (ان کیلئے بہتر ہے) خیراً مفعول ثانی ہے، اور ضمیر برائے فصل ہے، اور مفعول اول ”بخلہم“ ہے جو تاء کی قرآۃ میں اسم موصول سے پہلے مقدر ہے اور یاء کی قرآۃ میں ضمیر فصل سے پہلے ہے (بلکہ وہ ان کیلئے شر ہے، جلد ہی انہیں اس مال کا جس میں انہوں نے بخل کیا ہے) یعنی زکوٰۃ نہیں دی ہے (طوق بنا کر قیامت کے دن پہنا دیا جائے گا) سانپ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو اسے ڈستار ہے گا جیسا کہ حدیث میں وارد ہے (اور اللہ ہی کیلئے آسمان اور زمین کی میراث ہے) آسمان وزمین والوں کے فنا ہونے کے بعد سب کے وارث اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے (اور جو کچھ تم کرتے ہو) تعملاً یاء اور تاء دونوں کے ساتھ ہے (اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتے ہیں) تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔

﴿ تشریحات ﴾

لما اراد ابوسفیان و اصحابه العود : غزوہ احد میں جب کفار کو کچھ کامیابی ملی تو ان کے حوصلے قدرے بلند ہو گئے چنانچہ احد سے واپسی میں جب کفار کا لشکر حمراء الاسد پر پہنچا، یہ جگہ مدینہ طیبہ سے ۸ میل کے فاصلے پر ہے، تو وہاں ٹھہر کر کفار میں باہم مشورے ہونے لگے کہ مسلمان اس وقت شکست خوردہ اور خستہ جان ہیں، اگر ہم پلٹ کر دوبارہ حملہ کر دیں تو انہیں بڑی آسانی سے نیست و نابود کیا جاسکتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو ان کے اس ارادے کی خبر مل گئی، تو آپ نے اپنے زخمی اور دل گرفتہ اصحاب کو پکارا کہ کفار کا تعاقب کرنا ہے، چنانچہ حضرات صحابہ بخوشی تیار ہو گئے۔ جب آپ کا لشکر حمراء الاسد کی طرف بڑھا تو کفار مرعوب ہو کر بھاگ نکلے، آپ اس مقام تک پہنچے اور وہاں تین روز قیام فرمایا، جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ اب دشمنوں کی واپسی کا امکان نہیں ہے، تب آپ لوٹے، الذین استجابوا لله والرسول الخ، اسی غزوہ سے متعلق ہے، انہیں لوگوں کو جو باوجود یکہ خستہ جان ہو چکے تھے، مگر انہوں نے رسول کی ایک پکار پر لبیک کہی، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دوبارہ جنگ کے ارادے سے نکل پڑے، اجر عظیم کی بشارت ہے۔

وتواعدوا مع النبی سوق بدر العام المقبل من یوم احد : یہ ایک دوسرا واقعہ ہے۔ حضرت مفسر کا کلام اتنا مجمل ہے کہ دو واقعے جن کے درمیان ایک سال کا فاصلہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خلط ہو گئے۔ پہلا واقعہ غزوہ حمراء الاسد کا ہے، جس کا اوپر تذکرہ ہوا، یہ غزوہ احد کے دوسرے ہی دن پیش آیا۔

اور دوسرا غزوہ بدر صغریٰ کا ہے جو غزوہ احد کے سال کے بھر کے بعد پیش آیا، اس کا قصہ یوں ہوا کہ جب میدان احد سے ابوسفیان کی واپسی ہوئی تو اس نے پکار کر رسول اللہ سے کہا کہ بدر کا بدلہ بدر ہی میں لیا جائے گا۔ اگلے سال بدر میں پھر مقابلہ ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان شاء اللہ، اسی کو حضرت مفسر نے فرمایا: وتواعدوا مع النبی ﷺ سوق بدر العام المقبل من یوم احد۔

ابوسفیان نے قول و قرار کرانے کو تو کر لیا اور اس کی لاج رکھنے کیلئے مکہ سے ایک فوج لے کر نکلا بھی، اور اسے لیکر مر الظہر ان تک پہنچا بھی، مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس کے دل میں تقاضا تھا کہ واپس ہو جائے اور فوج بھی بے دل ہی تھی۔

اسی دوران وہاں ایک شخص نعیم بن مسعود اشجعی نامی پہنچا، وہ عمرہ کی غرض سے آیا تھا، اس کو ابوسفیان نے بہت سے مال کی لالچ دے کر تیار کیا کہ تم مدینہ جا کر لوگوں میں افواہ اڑا دو کہ ابوسفیان بہت بڑا جم غفیر لے کر آ رہا ہے۔ اب کی مسلمانوں کا بنیاد سے خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ نعیم مدینہ آیا، اس نے دیکھا کہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس نے یہ بات پھیلانی شروع کی کہ اب کے اہل مکہ کا ارادہ کچھ اور ہی ہے۔ اب مسلمانوں کا کوئی متنفس زندہ نہیں بچے گا۔ اس لئے خیریت اسی میں ہے کہ بدر کے میدان میں مسلمان نہ جائیں، کان کے کچے لوگ تو ہوتے ہی ہیں اور یہاں تو منافقین کا ایک پورا گروہ موجود تھا۔ یہ خبر بڑی تیزی سے گشت کر گئی۔ منافقین نے اس آواز کو زیادہ پھیلا یا۔

مگر مخلص مسلمانوں نے اس کا کوئی منفی اثر نہیں لیا، بلکہ وہ مطمئن ہو کر بولے کہ **حسبنا اللہ و نعم الوکیل** ہم کو اللہ کافی ہے، اور وہ بہترین وکیل ہیں، ہم تو بہر حال میدان میں پہنچیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ مسلمانوں کا لشکر لے کر بدر کے بازار میں پہنچے وہاں کفار میں سے کوئی نہ آیا تھا۔ مسلمانوں کا ایمان بڑھا، بازار میں تجارت کی، تو مال بڑھا، فتح و نصرت کا دروازہ کھلا، مدینہ جب یہ حضرات واپس آئے تو خوش حالی کا تحفہ لے کر آئے۔

بدل من الذین قبلہ او نعت :۔ الذین قال لهم الناس کو مفسر نے پچھلے الذین سے بدل قرار دیا ہے، لیکن معلوم ہو چکا ہے، پچھلے الذین سے وہ لوگ مراد ہیں جو غزوہ احد میں شریک تھے، اور غزوہ حراء الاسد میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے تھے، اور الذین قال لهم الخ میں الذین سے مراد مدینہ کے وہ تمام مسلمان ہیں جو نعیم کی افواہی باتوں سے متاثر نہیں ہوئے تھے۔ پس یہ اس کا بدل اور نعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ درحقیقت فعل محذوف امدح کا مفعول ہے۔

نعیم بن مسعود الاشجعی :۔ الناس سے مراد نعیم بن مسعود ہے، عام بول کر خاص فرد کو مراد لیا گیا، یہ محاورہ ہرزبان میں ہوتا ہے، نعیم بن مسعود اشجعی غزوہ خندق میں مسلمان ہو گئے تھے۔ رضی اللہ عنہ

يقعون فيه سريعاً نصرته :۔ یہ یسار عون فی الکفر کی توجیہ و تاویل ہے۔ بظاہر آیت کے اس حصے پر اشکال ہے کہ وہ تو کفر میں پڑے ہی ہوئے ہیں، پھر اس میں تیزی سے چلنے اور دوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسر نے اس کا جواب دیا کہ کفر میں دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کیلئے، اس کو قوت دینے کیلئے تیزی سے

دوڑتے ہیں، یعنی اس کی مدد کے کاموں اور مدد کی باتوں میں تیزی سے گرتے ہیں۔ تم ان کی فکر نہ کرو۔
املاء نا : ان ما نملی لهم میں مامصر یہ ہے، اسی لئے اس کی تفسیر میں املاء نا کہا۔ اور مہلت یہ ہے کہ
ان کی عمریں لمبی ہو رہی ہیں، موت مؤخر ہو رہی ہے۔

ان و معمولها سدت مسد المفعولین الخ : . ولا يحسبن افعال قلوب میں ہے، جن کیلئے دو مفعول
لازم ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں ولا يحسبن میں دو قرأت ہے، ایک یاء کے ساتھ غائب کا صیغہ، اس صورت میں
الذین کفروا، اس کا فاعل ہے۔ اور ان ما نملی لهم خیر لانفسہم دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہے،
اور دوسری قرأت تاء کے ساتھ ہے، مخاطب کا صیغہ، اس صورت میں الذین کفروا مفعول اول ہے اور ان ما
نملی لهم دوسرے مفعول کے قائم مقام ہے۔

فتعرفوا المنافق من غیرہ قبل التمییز :۔ یعنی اللہ کا دستور یہ نہیں ہے کہ عام لوگوں کو غیب کی خبر بتادیں
اور یہ بتادیں کہ فلاں منافق ہے اور فلاں مخلص ہے، خدا کے یہاں یہی دستور ہے کہ مشکلات کی بھٹی میں سب کو
اکٹھا ڈال دیتے ہیں، کھر اسونا الگ ہو جاتا ہے، میل کچیل الگ ہو جاتی ہے، یہی کام غزوہ احد میں کیا گیا اور سب
کے سامنے کھل کر آ گیا کہ راسخ الایمان اور وفادار کون ہے؟ اور کچا اور بے وفا کون ہے۔
بزکاتہ :۔ اللہ کے عطا کردہ فضل میں بخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی واجبی زکوٰۃ نہیں نکالتے، زکوٰۃ
پوری نکالنے والا بخیل نہیں ہے۔

مفعول ثانی والضمیر للفصل والاول بخلہم مقدراً قبل الموصول الخ : ولا تحسبن
الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ ہو خیراً لهم میں خیراً لهم، لا يحسبن کا مفعول ثانی ہے،
اور مفعول اول بخلہم مقدر ہے، لا تحسبن بالتاء کی قرأت پر اسم موصول سے پہلے مقدر ہے، یعنی ولا
تحسبن بخل الذین یبخلون بما آتاهم اللہ الخ اور لا يحسبن بالیاء کی قرأت پر ضمیر منفصل ہو سے
پہلے مقدر ہوگا۔ یعنی ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ بخلہم ہو خیراً لهم -
اس میں ہو ضمیر فصل ہے۔

تنبیہ: مفسر کی عبارت میں قدرے تسامح ہے، فرمایا ہے کہ مفعول اول بخلہم ہے، جو مقدر ہے،
لیکن تاء والی قرأت پر بخلہم مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ مقدر نہیں ہے بلکہ الذین سے پہلے لفظ بخل مقدر
ہے۔ دوسرے یہ لفظوں میں اس کا مفعول اول بخل نہیں ہے، بلکہ الذین یبخلون الخ ہے، کلمہ بخل تو معنوی
اعتبار سے اس لئے مقدر مانا گیا ہے کہ مفعول ثانی کا حمل اس پر درست ہو سکے، ورنہ لفظ کے اعتبار سے مفعول اول
وہ نہیں ہے، الذین یبخلون ہے۔

من المال :- یہ ما بخلوا بہ کا بیان ہے۔ یعنی جس مال میں بخل کیا ہے، اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے، وہ سانپ کا طوق بنا کر گردن میں لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف زکوٰۃ کو طوق بنایا جائے گا۔

کما ورد فی الحدیث :- حدیث یہ ہے: عن ابی ہریرۃ عنہ قال : قال رسول اللہ ﷺ : من آتاه اللہ مالا فلم یؤد زکوٰتہ مثل له یوم القیمة شجاعاً اقرع له زببتان یطوقہ یوم القیامة ثم یأخذ بلہزمتیہ ، ای شدقیہ . ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا ولا یحسبن الذین ینخلون بما آتاهم اللہ الآیۃ (بخاری شریف) جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، مگر اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے سامنے وہ مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں لایا جائے گا۔ جس کیلئے دو نقطے ہوں گے، اسے طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائیگا، وہ اس کے دونوں جبرٹوں کو پکڑے گا پھر کہے گا، میں تمہارا مال ہوں، تمہارا خزانہ ہوں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

وہ مخلص اہل ایمان، جن کو رسول نے شکست اور زخم کھانے کی تکلیف کے باوجود ایک اور غزوہ کیلئے جنگ احد کے دوسرے ہی دن پکارا کہ کفار حمراء الاسد میں جمع ہو کر دوبارہ حملہ کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اس آواز پر فوراً البیک کہی، ان کی نیکی اور تقویٰ کی وجہ سے ان کے لئے اجر عظیم ہے۔ انہیں مخلصین کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہوا کہ کفار نے بدر ہی کے میدان میں، پچھلی جنگ بدر کا بدلہ لینے کی دھمکی دی تھی، مسلمان اس کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک شخص نے افواہ اڑائی اور وہ لوگوں میں پھیلتی چلی گئی کہ کفار نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے۔ اس سے لڑنا مسلمانوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس بات کو مخلصین نے سنا تو بجائے کمزور ہونے کے ان کے ایمان میں ترقی ہوئی اور انہوں نے زبان و دل سے کہا حسبننا اللہ و نعم الوکیل، پھر وہ لوگ بدر

کے میدان میں گئے، وہاں کفار کا لشکر سرے سے نہ تھا، مسلمانوں نے وہاں تجارت کی اور بہت سارا نفع حاصل کر کے واپس ہوئے انہیں وہاں کوئی دکھ نہیں پہونچا، واقعی اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے۔ یہ شیطان تھا جو اپنے گروہ سے تم کو ڈرا رہا تھا، تم ان سے مت ڈرو، مجھی سے ڈرو، اگر تم صاحب ایمان ہو، یعنی میرے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، اور یہ لوگ جو کفر کی حمایت و نصرت میں بہت تیزی دکھاتے ہیں ان سے ذرا بھی پریشان نہ ہو، ان سے اللہ کا کچھ نہ بگڑے گا، یہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ کی مشیت یہی ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو، اور ان کیلئے بڑا عذاب ہے۔

جن لوگوں نے ایمان کو پا کر اس کے بدلے میں کفر کو مول لیا، وہ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، اور یہ جو کفر میں مبتلا ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں، یہ ان

کے حق میں کوئی بہتر چیز ہے، ہم تو اس لئے ڈھیل دے رہے ہیں کہ اور نافرمانی کر کے ڈھیر سا راگناہ جمع کر لیں، ان کیلئے بڑی رسوائی کا عذاب ہوگا۔

اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ اہل ایمان کو اسی حالت اشتباہ میں چھوڑے رکھیں جس پر تم لوگ ہو، یعنی مخلص و منافق سب خلط ملط ہیں، یہ منظور نہیں، وہ منافق اور مومن کو الگ الگ کریں گے، اس کے لئے ایسی تکلیفیں ڈالیں گے کہ منافق خود بخود بھاگ کھڑا ہوگا، اور یہ بھی نہ ہوگا کہ اللہ غیب کی خبر یعنی منافقین کی اطلاع تم کو چپکے سے دیدیں، اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں انتخاب فرماتے ہیں، چنانچہ رسول اللہ ﷺ پر منافقین کے احوال و شخصیات کو کھول دیا تھا، تم لوگ تو اللہ پر اور ان کے رسول پر ایمان لاؤ، اگر تمہارے اندر ایمان اور تقویٰ ہوگا تو تمہارے لئے اجر عظیم ہے۔

اور جو لوگ اللہ کے عطا فرمودہ مال میں بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا یہ بخل ان کے حق میں خیر ہے، یہ سراسر شر و آفت ہے، ایک وقت آئیگا کہ یہی مال سانپ بن کر ان کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا جو اسے ڈستار ہے گا اور آسمان وزمین کی تمام میراث اللہ کے لئے مسلم ہے اور وہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھتے ہیں۔



﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ وَهُمْ الْيَهُودُ قَالُوهُ لَمَّا نَزَلَ مِنَ ذَا الَّذِي يَقْرُضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا وَقَالُوا لَوْ كَانَ غَنِيًّا مَا اسْتَقْرَضْنَا ﴿سَنَكْتُبُ﴾ نَامِرُ بَكْتَبُ ﴿مَا قَالُوا﴾ فِي صَحَائِفِ أَعْمَالِهِمْ لِيَجَاوِزُوا عَلَيْهِ وَفِي قِرَاءَةِ بَالِيَاءٍ مَبْنِيَا لِلْمَفْعُولِ ﴿وَ﴾ نَكْتُبُ ﴿قَتَلَهُمْ﴾ بِالنَّصَبِ وَالرَّفْعِ ﴿الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقُولُ﴾ بِالنُّونِ وَالْيَاءِ أَيِ اللَّهِ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَلَى لِسَانِ الْمَلَائِكَةِ ﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ النَّارِ وَيَقَالُ لَهُمْ إِذَا لَقُوا فِيهَا ﴿ذَلِكَ﴾ الْعَذَابُ ﴿بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ﴾ عَبْرَ بَهُمَا عَنِ الْإِنْسَانِ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْأَفْعَالِ تَزَاوُلَ بَهُمَا ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ﴾ أَيِ بَدَى ظَلَمَ ﴿لِلْعَبِيدِ﴾ فَيُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ ﴿الَّذِينَ﴾ نَعَتْ لِلَّذِينَ قَبْلَهُ ﴿قَالُوا﴾ لِمُحَمَّدٍ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَهْدَ الْيَنَّا﴾ فِي التَّوْرَةِ ﴿إِلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ﴾ نَصَدَقَهُ ﴿حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانَ تَأْكُلُهُ النَّارُ﴾ فَلَا نُؤْمِنُ لَكَ حَتَّى تَأْتِينَا بِهِ وَهُوَ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ نَعْمٍ وَغَيْرِهَا فَانْ قَبْلَ جَاءَتْ نَارٌ بِيضَاءٍ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْرَقَتْهُ وَالْأَبْقَى مَكَانَهُ وَعَهْدَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ فِي الْمَسِيحِ وَ مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ تَعَالَى ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ تَوْبِيخًا ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بِالْمَعْجَزَاتِ ﴿وَبِالَّذِي قُلْتُمْ﴾ كَزَكْرِيَّا وَيَحْيَىٰ

فقتلتموهم والخطاب لمن فى زمن نبينا وان كان الفعل لاجدادهم لرضاهم به ﴿فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾ فى انكم تؤمنون عندالايان به. ﴿فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاوًا بِالْبَيِّنٰتِ﴾ المعجزات ﴿وَالزُّبُرِ﴾ كصحف ابراهيم ﴿وَالْكِتٰبِ﴾ و فى قراءة باثبات الباء فيهما ﴿الْمُنِيْرِ﴾ الواضح هو التوراة والانجيل فاصبر كما صبروا ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذٰئِقَةُ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُؤَفَّقُوْنَ اُجُوْرَكُمْ﴾ جزاء اعمالكم ﴿يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ زُحْرِحَ﴾ بعد ﴿عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاَزَ﴾ نال غاية مطلوبه ﴿وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا﴾ اى العيش فيها ﴿اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ﴾ الباطل يتمتع به قليلا ثم يفنى ﴿لَتَبْلُوْنَ﴾ حذف منه نون الرفع لتوالى النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين لتختبرن ﴿فِيْ اَمْوَالِكُمْ﴾ بالفرائض فيها والجوائح ﴿وَاَنْفُسِكُمْ﴾ بالعبادات والبلاء ﴿وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ اليهود والنصارى ﴿وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا﴾ من العرب ﴿اَذٰى كَثِيْرًا﴾ من السبب والطعن والتشبيب بنسائكم ﴿وَاِنْ تَصَبَّرُوْا﴾ على ذلك ﴿وَتَتَّقُوا اللّٰهَ فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ﴾ اى من معزوماتها التى يعزم عليها لوجوبها ﴿وَاذْكُرْ﴾ اذ اخذ الله ميثاق الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ﴿اى العهد عليهم فى التوراة﴾ لتبينته ﴿اى الكتاب﴾ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ﴾ بالتاء والياء فى الفعلين ﴿فَبَدُوْهُ﴾ طرحوا الميثاق ﴿وَرَاۤءَ ظُهُورِهِمْ﴾ فلم يعملوا به ﴿وَاَشْتَرُوْا بِهِ﴾ اخذوا بدله ﴿ثَمٰنًا قَلِيْلًا﴾ من الدنيا من سفلتهم برياستهم فى العلم فكتموه خوف فوته عليهم ﴿فَبَيْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ﴾ شراؤهم هذا ﴿لَا تَحْسَبَنَّ﴾ بالتاء والياء ﴿الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اٰتَوْا﴾ فعلوا من اضلال الناس ﴿وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا﴾ من التمسك بالحق وهم على ضلال ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهْمُ﴾ بالوجهين تاكيد ﴿بِمَفَازَةٍ﴾ بمكان ينجون فيه ﴿مِّنَ الْعَذَابِ﴾ فى الآخرة بل هم فى مكان يعذبون فيه وهو جهنم ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ مؤلم فيها ومفعولا يحسب الاولى دل عليهما مفعولا الثانية على قراءة التحتانية و على الفوقانية حذف الثانى فقط ﴿وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها ﴿وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ ومنه تعذيب الكافرين وانجاء المؤمنين .

ترجمہ

(بیشک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی، جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں) یہ کہنے والے یہودی تھے، یہ بات انہوں نے اس وقت کہی تھی، جب اللہ کی طرف سے آیت من ذالذی یقرض اللہ قرضاً

حسناً اتری، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ غنی ہوتے تو ہم سے قرض نہ مانگتے (ہم عنقریب اس بات کو جو انہوں نے کہا) ان کے نامہ اعمال میں (لکھ لیں گے) یعنی لکھ لینے کا حکم دیں گے تاکہ اس کا بدلہ دیا جاسکے اور ایک قرآن میں بیا کے ساتھ ہے، فعل مجہول کا صیغہ (اور ہم ان کے، انبیاء کرام کے ناحق قتل کرنے کو بھی لکھ لیں گے) قتلہم نصب کے ساتھ بھی ہے اور رفع کے ساتھ بھی ہے (اور ہم کہیں گے) نون اور بیا کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں فرشتوں کی زبان پر ارشاد فرمائیں گے (کہ جلنے کا) یعنی آگ کا (عذاب چکھو) اور جب انہیں اس میں ڈالا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ (یہ) عذاب (ان چیزوں کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے) ہاتھوں کے لفظ سے خود انسان کو تعبیر کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر افعال ہاتھ ہی سے انجام پذیر ہوتے ہیں (اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے) کہ انہیں بغیر گناہ کے عذاب دیں (وہ لوگ) یہ ما قبل کے الذین کی صفت ہے (جنہوں نے) محمد ﷺ سے (کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے) تورات میں (عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں) یعنی تصدیق نہ کریں (تا آنکہ وہ ہمارے پاس کوئی ایسی قربانی لائے، جس کو آگ کھا جائے) لہذا ہم آپ پر بھی اسی وقت ایمان لائیں گے جب آپ قربانی کی کوئی چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے، چوپائے وغیرہ لے کر آئیں، پس اگر وہ قربانی مقبول ہوگی تو آسمان سے سفید آگ اترے گی، اور اسے جلادے گی، ورنہ وہ اپنی جگہ پڑی رہ جائے گی، یہ عہد بنی اسرائیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد ﷺ کو مستثنیٰ کر کے لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بطور توبیح کے (تم کہو کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے متعدد رسول معجزات کو لے کر اور اس چیز کو لے کر، جس کو تم نے کہا آچکے ہیں) جیسے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، تو تم نے انہیں قتل کر دیا، اور خطاب ان یہودیوں سے ہے جو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں تھے، اگرچہ یہ کام ان کے آباء و اجداد کا تھا، کیونکہ وہ اس کام پر راضی ہیں (پس تم نے انہیں کیوں قتل کیا، اگر تم) اس بات میں (سچے ہو) کہ قربانی کے آنے پر تم ایمان لاؤ گے (پس اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو تم سے پہلے رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، جو معجزات اور صحائف) جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے (اور روشن کتاب لے کر آئے) یہ تورات اور انجیل ہے، پس صبر کرو، جیسا کہ ان حضرات نے صبر کیا، ایک قرآن دونوں لفظوں میں بیا کے اثبات کے ساتھ ہے یعنی بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر (ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے اور بلاشبہ تم کو تمہارا پورا بدلہ) یعنی اعمال کا پورا بدلہ (قیامت کے دن دیا جائے گا، پس جو کوئی آگ سے دور کر دیا گیا، اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا) یعنی اپنے مطلوب کی غایت پا گیا (اور دنیاوی زندگی) یعنی دنیا کی حیات (تو محض ایک دھوکے کا سامان ہے) یعنی باطل ہے، جس سے چندے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، پھر وہ فنا ہو جاتا ہے۔

(تم کو، تمہارے مالوں میں) ان میں فرائض متعین کر کے اور آفات سے (اور تمہاری جانوں میں)

عبادات اور بلاؤں سے (ضرور آزما جائے گا) لتبلون میں نون رفع کو تو الی نونات کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے، اور واو ضمیر جمع کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر دیا گیا ہے (اور تم، ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے) یعنی یہود و نصاریٰ سے (اور ان لوگوں سے جنہوں نے) اہل عرب میں سے (شرک کو اختیار کیا ہے ضرور بالضرور تکلیف کی بہت سی باتیں سنو گے) یعنی گالی گلوچ، طنز و طعن، اور تمہاری عورتوں کی طرف منسوب کر کے غزلیہ اشعار وغیرہ (اگر تم اس پر صبر کرو اور) اللہ سے (ڈرو تو یہ تاکید احکام میں سے ہے) یعنی ایسے موکد اور پختہ امور میں ہیں جن کے وجوب کی وجہ سے ان کی بڑی تاکید ہے (اور) یاد کرو (جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی عہد لیا) یعنی وہ عہد جو ان کے ذمے تورات میں ہے (کہ تم اس کو) یعنی کتاب کو (لوگوں کے سامنے ضرور بیان کر دو گے، اور اسے) یعنی کتاب کو (نہیں چھپاؤ گے) دونوں فعلوں میں تاء اور یاء کے ساتھ (پس اس کو) یعنی میثاق کو (انہوں نے اپنے پیٹھے پیچھے پھینک دیا) اس پر عمل نہیں کیا (اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت مول لی) دنیا کی تھوڑی قیمت، جو انہیں علم میں ریاست کی وجہ سے ان کے ماتحتوں کی طرف سے ملتی تھی، انہوں نے کتاب کو چھپایا کہ کہیں یہ تھوڑی سی قیمت فوت نہ ہو جائے (پس ان کا یہ خریدنا برا ہے، وہ لوگ جو کہ اپنے کئے پر) یعنی انہوں نے لوگوں کو جو گمراہی میں ڈال رکھا ہے اس پر وہ (خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اس کام پر تعریف کی جائے، جس کو انہوں نے کیا نہیں ہے) یعنی حق پر استقامت کی، حالانکہ وہ گمراہی میں ہیں (انہیں مت سمجھو) لالت حسبین تاء اور یاء کے ساتھ (کہ وہ) آخرت میں (عذاب سے بچ جانے کی جگہ میں ہیں) بلکہ وہ ایسی جگہ میں ہوں گے جہاں انہیں عذاب ہوگا اور وہ جہنم ہے (اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، پہلے یہ حسب کے دونوں مفعول پر تحانیہ کی قرأۃ پر دوسرے یہ حسب کے دونوں مفعول دلالت کرتے ہیں، اور فوقانیہ کی قرأت پر صرف دوسرا مفعول حذف ہے) (اور اللہ ہی کے لئے آسمان وزمین کی حکومت ہے) یعنی بارش، روزی اور پیداوار وغیرہ کے خزانے (اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں) اور انہیں میں کافر کو بتلائے عذاب کرنا اور مومن کو بخشنا ہے۔

﴿ تشریحات ﴾

فنامر بکتب ما قالوا: سنکتب ما قالوا کی تفسیر فرمائی ہے، ہم ان کی بات کو لکھوا لیں گے، یہ مجاز ہے، علاقہ سبیت کا ہے۔

بالنصب والرفع: سنکتب بالنون کی قرأت پر قتلہم منصوب ہے، اور سیکتب فعل مجہول کی قرأت پر قتلہم مرفوع ہے، اس کا عطف ما قالوا پر ہے۔

علی لسان الملائكة: کفار سے براہ راست اللہ تعالیٰ کا خطاب نہ ہوگا، بلکہ فرشتوں سے کہلوائیں گے، کیونکہ متعدد آیات و احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ کے شرف دید و زیارت اور شرف ہم کلامی سے محروم

رہیں گے۔

عبر بہما الانسان لان اكثر الافعال تزاوول بہما : بما قدمت ایدیکم کا مطلب ہے بما قدمت من العمل، جو عمل تم نے آگے کیلئے کیا ہے، تو ایدیکم سے مراد خود آدمی ہے، اور یہ تعبیر اس لئے اختیار کی کہ آدمی زیادہ تر کام ہاتھ ہی سے انجام دیتا ہے۔ اس لئے بجائے اس کے کہ قدمت ایدیکم کہا، یہ مجاز ہے کہ جز بول کر کل مراد لیا ہے۔

بذی ظلم: ظلام نسبت کا صیغہ ہے، جیسے تمار و لبان یعنی خدا کی طرف ظلم کی نسبت نہیں ہو سکتی۔

وهو ما يتقرب به الى الله من نعم : قربان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جانور وغیرہ اللہ کے نام پر اللہ کی عبادت کے لئے پیش کیا جاتا تھا۔ آسمان سے ایک سفید آگ اترتی تھی، اور اس کو جلا دیتی تھی، یہ قبولیت کی علامت تھی، اور اگر آگ نہیں اتری اور نہیں جلایا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ قربانی مقبول نہیں، مفسر فرماتے ہیں کہ توریت میں یہودیوں کو اس کا پابند کیا گیا تھا کہ جو رسول اس قربانی کو اپنی صداقت کی دلیل میں لائے، اسے تو مانو، اور جو مدعی نبوت اسے نہ لاسکے، اس کی تکذیب کرو، لیکن اس کلیہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ مستثنیٰ تھے، کیونکہ ان کے سلسلے میں توریت میں اتنی واضح اور روشن علامتیں لکھ دی گئی ہیں کہ ان کے بارے میں اشتباہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لئے آپ ﷺ سے ان کا مطالبہ بالکل غلط تھا۔

والخطاب لمن فی زمن نبینا الخ : . قل قد جاء کم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین پر بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ انبیاء کا قتل تو رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک کے یہود نے نہیں کیا تھا، وہ تو ان کے آباء و اجداد کی شرارت تھی، پھر یہ خطاب آپ کے معاصر یہود سے کیوں ہو رہا ہے، حضرت مفسر نے لرضاهم بہ کہہ کر اس کا جواب دیا ہے کہ یہ لوگ اپنے اجداد کی اس شرارت پر راضی بلکہ اس خوش ہیں، اور اسے برحق سمجھتے ہیں۔ اس لئے یہ بھی شریک عمل سمجھے گئے۔

الباطل یتمتع بہ قليلا ثم یفنی : . متاع الغرور میں اضافت بیان یہ ہے، غرور فنا ہونے والی چیز کو کہتے ہیں، یعنی دنیا ایک ایسی مایہ ہے جو فنا کے گھاٹ اتر جانے والی ہے۔

لتبلون حذف منه نون الرفع : لتبلون کا صیغہ تبلون سے بنا ہے جو اصل میں تبلوون تھا، اس میں اگر نون اعرابی یعنی نون رفع کے ساتھ نون ثقیلہ لگا دیا جائے تو تین نون یکے بعد دیگر اکٹھا ہو جائیں گے، ایک نون اعرابی اور دونوں ثقیلہ، اس لئے نون اعرابی کو گرا دیا۔ پھر واؤ ضمیر جمع اور نون ثقیلہ کے درمیان اجتماع ساکنین ہو گیا۔ اس لئے اسے گرا دیا۔ پس لتبلون ہو گیا۔

والتشبيب : - قصائد کے آغاز میں شاعر غزلیہ اشعار کہتا ہے، جس میں بہار و خزاں کا تذکرہ، اپنے عشق و محبت کا

ذکر، خوبصورت اور دلنواز عورتوں کی باتیں کرتا ہے۔ ان سب کے بعد وہ اپنے مقصد پر آتا ہے۔ غزلیہ اشعار کے اس حصہ کو تشبیہ کہتے ہیں۔

اے من معزوماتہا :۔ عزم الامور میں عزم مصدر، اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ یعنی وہ پختہ اور تاکیدی امور، جو واجب ہیں اور اسی وجہ کی وجہ سے وہ آدمی کیلئے بہت پختہ اور تاکیدی باتیں ہیں۔

مفعولاً بحسب الاولی الخ :۔ آیت شریفہ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتاهم اللہ الخ میں لا تحسبن دو مرتبہ آیا ہے، اور یہ افعال قلوب میں ہے، اسے دو مفعول چاہئیں۔ مفسر فرماتے ہیں لا تحسبن میں دو قرأت ہے۔ ایک یاء کے ساتھ اس صورت میں پہلے لا تحسبن کے دونوں مفعول حذف ہیں۔ اور الذین یفرحون فاعل ہے۔ ان دونوں مفعولوں پر بعد کے فلا یحسبنہم بمفازہ من العذاب کے دونوں مفعول دلالت کرتے ہیں۔ پہلا مفعول ہم ضمیر ہے، اور دوسرا مفعول بمفازہ من العذاب ہے، اور دوسری قرأت یاء کے ساتھ ہے، اس صورت میں پہلے لا تحسبن کا مفعول اول الذین یفرحون ہے جو کہ موجود ہے۔ پس صرف دوسرا مفعول محذوف ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اللہ تعالیٰ کو ان کفار کی شرارتوں کا پورا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کی بات بھی سن لی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ فقیر ہیں۔ اور ہم لوگ مالدار ہیں، اچھا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم اسے لکھ لے رہے ہیں، اور یہ بھی لکھ لے رہے ہیں کہ انھوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا ہے، اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے کہ آگ کا عذاب چکھو اور یہ سب کچھ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا کہ انہیں بغیر گناہ کے بتلائے عذاب کرے۔ انہیں لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے توریت میں یہ عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول کی تصدیق اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ وہ کوئی قربانی نہ پیش کرے، جسے حق تعالیٰ کی بارگاہ سے قبولیت کا شرف حاصل ہو جائے یعنی سفید آگ سے آسمان سے اتر کر جلا دے، جب تک یہ نہ ہو، اس رسول کو نہ ماننا، تم ان سے کہو کہ اچھا مجھ سے پہلے تو متعدد رسول معجزات لے کر آئے، اور وہ بات بھی لے کر آئے جس کا تم مطالبہ کرتے ہو تو بتاؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ جو کوئی رسول اس شان سے معجزات و علامات لے کر آئے گا، اسے تم مان لو گے، تو تم نے مذکورہ انبیاء کو کیوں قتل کیا۔

اے رسول انہیں چھوڑو اگر یہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے اور بھی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، جو معجزات و دلائل، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تو تم صبر کرو، آخر ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا تو جو کوئی جہنم سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا

گیا، اس کا مقصد حاصل ہوا، وہ کامیاب و بامراد ہوا، اور دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکہ ہے کہ اس سے قدرے آدمی نفع اندوز ہوتا ہے، پھر اچانک چراغ بجھ جاتا ہے۔

اے ایمان والو! تکلیف دہ حالات سے اور غیروں کی ایذا رسانیوں سے مت گھبراؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا امتحان ہوتا ہی رہے گا، مال میں بھی اور جان میں بھی، مال کا امتحان یہ ہے کہ اس میں فی سبیل اللہ کچھ فرائض مقرر ہوں گے، کبھی مال میں نقصان آئے گا، اور جان کا امتحان یہ ہے کہ عبادتیں مقرر ہوں گی اور بلائیں بھی آئیں گی۔ اور اہل کتاب کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے دلازار اور تکلیف دہ بہت سی باتیں سنو گے، لیکن اگر تم نے صبر کیا اور اللہ سے ڈرتے رہے، اس کی اطاعت پر جمے رہے تو بڑی ہمت کے کام ہیں اور ان کی بڑی تاکید ہے۔

یہ اہل کتاب جو تمہیں ستاتے ہیں بڑے مجرم ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ کتاب اللہ کی سب باتیں لوگوں کے سامنے واضح طور سے رکھ دیں گے اور کوئی بات ہرگز نہ چھپائیں گے۔ لیکن انہوں نے اس تاکید ذمہ داری کو پس پشت ڈال دیا اور کتاب اللہ کی باتیں چھپا چھپا کر اپنے ماتحتوں اور مریدوں سے دنیا کی معمولی قیمت وصول کرتے رہے، کتاب اللہ کے مضامین کو چھپا کر متاع دنیوی کی یہ خریداری بہت ہی بری ہے۔ یہ لوگ جو اپنی غلط اور گمراہ حرکتوں پر مگن ہوتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا نہیں ہے، اس پر ان کی تعریف کی جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ آپ لوگ طریق حق پر استقامت رکھتے ہیں، کسی کی بات سن کر اپنے راستے سے ہرگز نہیں ہٹتے، اس اصرار علی الباطل کو استقامت علی الحق قرار دے کر اس پر اپنی تعریف کے خواہاں ہیں۔ ان کو یہ نہ سمجھو کہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ ہرگز نہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اور اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی حکومت ہے، خواہ روزی ہو، بارش ہو، پیداوار ہو یا اور کچھ، سب خدا ہی کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔



﴿ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِمَا مِنَ الْعَجَابِ ﴾ ﴿ وَاٰخِثٰلِ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ ﴿ بِالْمَجْنٰى وَالذَّهَابِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ ﴾ ﴿ لآٰيٰتٍ ﴾ ﴿ دَلٰلٰتٍ عَلٰى قَدْرَتِهِ تَعَالٰى ﴾ ﴿ لَأُوْلٰى الْاَلْبَابِ ﴾ ﴿ لَذُوْى الْعُقُوْلِ ﴾ ﴿ الَّذِيْنَ ﴾ ﴿ نَعْتِ لِمَا قَبْلَهُ اَوْ بَدَلِ ﴾ ﴿ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَمًا وَقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ ﴾ ﴿ مَضْطَجِعِيْنَ اٰى فِى كُلِّ حَالٍ وَّعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ يَصْلُوْنَ كَذٰلِكَ حَسَبِ الطَّاقَةِ ﴾ ﴿ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴾ ﴿ لِيَسْتَدْلُوْا بِهٖ عَلٰى قَدْرَةِ صٰنِعِهِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴾ ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا ﴾ ﴿ الْخَلْقِ الَّذِىْ نَرٰهٗ ﴾ ﴿ بَاطِلًا ﴾ ﴿ حَالِ عِبْنٰ بِلِ دَلِيْلًا عَلٰى كَمَالِ قَدْرَتِكَ ﴾ ﴿ سُبْحٰنَكَ ﴾ ﴿ تَنْزِيْهًا لِّكَ عَنِ الْعِبْثِ ﴾ ﴿ فِقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ ﴾

للخلود فيها ﴿فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ اهنته ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ الكافرين فيه وضع الظاهر موضع المضمرة اشعاراً بتخصيص الخزي بهم ﴿مِنْ﴾ زائدة ﴿أَنْصَارٍ﴾ اعوان يمنعمهم من عذاب الله ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي﴾ يدعو الناس ﴿لِلْإِيمَانِ﴾ اى اليه وهو محمد او القرآن ﴿أَنْ﴾ اى بان ﴿آمَنُوا بِرَبِّكُمْ فَاْمُنَّا﴾ به ﴿رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ﴾ غط ﴿عَنَّا سَيِّئَاتِنَا﴾ فلا تظهرها بالعقاب عليها ﴿وَتَوْفَّنَا﴾ اقبض ارواحنا ﴿مَعَ﴾ فى جملة ﴿الْأَبْرَارِ﴾ الانبياء والصلحين ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا﴾ اعطنا ﴿مَا وَعَدْتَنَا﴾ به ﴿عَلَى﴾ السنة ﴿رُسُلِكَ﴾ من الرحمة والفضل وسؤالهم ذلك وان كان وعده تعالى لا يخلف سوال ان يجعلهم من مستحقيه لانهم لم يتيقنوا استحقاقهم له وتكرير ربنا مبالغة فى التضرع ﴿وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ الوعد بالبعث والجزاء ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ دعاءهم ﴿إِنِّي﴾ اى بانى ﴿لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ﴾ كائن ﴿مِنْ بَعْضٍ﴾ اى الذكور من الاناث وبالعكس والجملة مؤكدة لما قبلها اى هم سواء فى المجازاة بالاعمال وترك تضييعها نزلت لما قالت ام سلمة يا رسول الله لا اسمع الله ذكر النساء فى الهجرة بشئى ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ من مكة الى المدينة ﴿وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَوَدُّوا فِي سَبِيلِي﴾ دينى ﴿وَقَتَلُوا﴾ الكفار ﴿وَقَتَلُوا﴾ بالتخفيف والتشديد وفى قراءة بتقديمه ﴿لَا كَفْرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ استرها بالمغفرة ﴿وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا﴾ مصدر من معنى لا كفرن مؤكدة له ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ فيه التفات عن التكلم ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ الجزاء و نزل لما قال المسلمون اعداء الله فيما نرى من الخير و نحن فى الجهد ﴿لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تصرفهم ﴿فِي الْبِلَادِ﴾ بالتجارة والكسب هو ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾ يتمتعون به فى الدنيا يسيراً ويفنى ﴿ثُمَّ مَا وَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبُئْسَ الْمِهَادُ﴾ الفراش هى ﴿لِكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ﴾ اى مقدرين الخلود ﴿فِيهَا نُزُلًا﴾ هو ما يعد للضيف ونصبه على الحال من جنت والعامل فيها معنى الظرف ﴿مَنْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ من الثواب ﴿خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ من متاع الدنيا ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ كعبدالله بن سلام واصحابه والنجاشى ﴿وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ﴾ اى القرآن ﴿وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ﴾ اى التوراة والانجيل ﴿خَاشِعِينَ﴾ حال من ضمير يؤمن مراعى فيه معنى من اى متواضعين ﴿لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ التى عندهم

فی التوراة والانجیل من نعت النبی ﷺ ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ من الدنيا بان يكتموها خوفا على الرياسة كفعل غيرهم من اليهود ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ ثواب اعمالهم ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يوتونه مرتين كما في القصص ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ يحاسب الخلق في قدر نصف نهار من ايام الدنيا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا﴾ على الطاعات والمصائب و عن المعاصي ﴿وَصَابِرُوا﴾ الكفار فلا يكونوا اشد صبرامنكم ﴿وَرَابِطُوا﴾ اقيموا على الجهاد ﴿وَاتَّقُوا﴾ الله ﴿في جميع احوالكم﴾ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿تفوزون بالجنة و تنجون من النار .

﴿ترجمہ﴾

(بلاشبہ آسمان وزمین کے بنانے میں) اور جو کچھ ان دونوں میں عجائبات ہیں (اوررات اور دن کے بدلتے رہنے میں) یعنی آنے جانے اور کم و بیش ہونے میں، اللہ کی قدرت پر (نشانیوں میں عقل والوں کیلئے، جو لوگ کہ) الذین ما قبل سے نعت ہے یا بدل ہے (اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور کروٹ لیٹ کر بھی) یعنی ہر حال میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان تمام حالتوں میں اپنی استطاعت کے لحاظ سے نماز پڑھتے ہیں (اور آسمان وزمین کی خلقت میں غور کرتے ہیں) تاکہ اس سے ان کے خالق و صانع کی قدرت پر استدلال کریں اور کہتے ہیں (اے ہمارے رب! آپ نے اس) مخلوق کو جسے ہم دیکھ رہے ہیں (عبث نہیں بنایا ہے) بلکہ یہ آپ کے کمال قدرت پر دلیل ہے۔ باطلاً حال ہے (آپ کی ذات) عبث سے (پاک ہے، پس ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اے ہمارے پروردگار! بے شک جس کو آپ جہنم میں) دائمی طور پر (داخل کر دیں، اس کو آپ نے رسوا کر دیا، اور ظالموں) کافروں (کے لئے کوئی مددگار نہیں) جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے، و ما للظلمین میں ضمیر کے بجائے اسم ظاہر لایا گیا، حالانکہ ضمیر کا موقع تھا، اس میں نکتہ یہ ہے کہ رسوائی خاص ظالموں ہی کے لئے ہے۔ من انصار میں من زائد ہے (اے ہمارے رب! بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ پکار رہا تھا) لوگوں کو بلا رہا تھا (ایمان لانے کیلئے) اور وہ محمد ﷺ ہیں یا قرآن ہے (کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم) اس پر (ایمان لائے، اے ہمارے رب! پس ہمارے لئے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، اور ہم سے ہماری سینات کو مٹا دیجئے) ان پر سزا دے کر انہیں ظاہر مت فرمائیے (اور ہم کو ابرار) یعنی انبیاء و صالحین (کے ساتھ) یعنی ان کی جماعت میں شامل کر کے (وفات دیجئے) یعنی ہماری روحوں کو قبض کیجئے (اے ہمارے رب! اور ہم کو وہ چیز عطا فرمائیے، جس کا آپ نے ہم سے اپنے رسولوں) کی زبان (پر وعدہ فرمایا ہے) یعنی رحمت اور فضل اور ان کا اس کیلئے دعا کرنا اگرچہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وعدہ خلافی نہیں ہے..... درحقیقت اس بات کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس وعدے کے اہل استحقاق میں بنادیں، کیونکہ انہیں اپنے مستحق ہونے کا یقین

نہیں ہے، اور بسنا کو بار بار تضرع و زاری میں اضافہ کیلئے لایا گیا ہے (اور ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ فرمائیے، بے شک آپ وعدہ کے خلاف نہیں کریں گے) یعنی بعث اور جزاء کے وعدہ کے خلاف نہیں کریں گے (پس ان کے رب نے ان کیلئے) ان کی دعا (قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم میں کا بعض بعض سے ہے) یعنی مرد و عورت اور اس کے برعکس، اور یہ جملہ ما قبل کیلئے تاکید ہے، یعنی یہ سب اعمال کے مجازات میں اور اس بات میں کہ ان کے عمل ضائع نہیں ہوں گے، برابر ہیں۔

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں نہیں سنتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے باب میں عورتوں کا کوئی ذکر کیا ہو (اور وہ لوگ جنہوں نے) مکہ سے مدینہ (ہجرت کی، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، اور میرے) دین کے (راستے میں انہیں ستایا گیا اور وہ) کفار سے (لڑے اور قتل کئے گئے) تخفیف و تشدید کے ساتھ اور ایک قرأت میں یہ مقدم ہے (میں ضروران کی برائیوں کو ان سے مٹا دوں گا) یعنی مغفرت کر کے انہیں چھپاؤں گا (اور میں ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ کے پاس سے ثواب ہے) ثواباً مفعول مطلق ہے لا کفرن کے معنی سے اور اس کیلئے موکد ہے، من عند اللہ میں تکلم سے التفات ہے (اور اللہ، ان کے پاس بہترین بدلہ ہے)۔

اگلی آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کے دشمن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں خیر میں ہیں، اور ہم مشقت میں ہیں (تم کو شہروں کے اندر کافروں کا) تجارت اور کمائی کیلئے (چلنا پھرنا، دھوکہ میں مبتلا نہ کرے) (ایک تھوڑا فائدہ ہے) جس سے قدرے دنیا میں فائدہ اٹھائیں گے، اور پھر یہ فنا ہو جائے گا (پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ برا بچھونا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا، ان کیلئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے) یعنی اس حال میں کہ خلود مقرر ہوگا (مہمانی کا سامان ہے) (نزل ان چیزوں کو کہتے ہیں جو مہمان کیلئے تیار کی جاتی ہیں، نزلاً منصوب ہے، کیونکہ وہ جنات سے حال ہے، اور عامل اس میں معنی ظرف ہے) (اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ) ثواب (اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لئے) دنیا کے سامان سے (بہتر ہے، اور بے شک اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں) جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقاء اور نجاشی (اور اس چیز پر جو تمہاری جانب اتاری گئی ہے) یعنی قرآن پر (اور اس چیز پر جو ان کی جانب اتاری گئی ہے) یعنی توریت و انجیل پر (اس حال میں کہ، اللہ کے سامنے خشوع) یعنی تواضع (اختیار کر نیوالے ہیں) خاشعین یؤمن کی ضمیر سے حال ہے، اس میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے (اللہ کی آیات) جو ان کے پاس توریت و انجیل میں نبی ﷺ کے اوصاف و احوال کے متعلق ہیں، ان (کے عوض میں) دنیا کی (قدرے) قلیل قیمت نہیں لیتے کہ سرداری کے فوت ہونے کے اندیشے سے

انہیں چھپاتے، جیسا کہ دوسرے یہود کا عمل ہے (یہی لوگ ہیں کہ ان کیلئے ان کے رب کے پاس، ان کا اجر ہے) یعنی ان کے اعمال کا ثواب ہے، جو انہیں دوہرا دیا جائے گا جیسا کہ سورہ قصص میں ہے (بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب نمٹا دینے والے ہیں) کہ ساری مخلوق کا حساب دنیا کے دنوں کے اعتبار سے آدھے دن میں پورا کر لیں گے (اے ایمان والو!) طاعات پر، مصائب پر اور گناہوں سے (صبر کرو اور) کفار کے مقابلے میں (ڈٹے رہو) وہ ڈٹنے میں تم سے بڑھ کر نہ ثابت ہوں (اور) جہاد پر (جمے رہو، اور) اپنے تمام احوال میں (اللہ سے ڈرتے رہو، شاید تم کامیاب ہو،) یعنی جنت حاصل کر لو، اور جہنم سے نجات پا لو۔

﴿ تشریحات ﴾

مضطجعین : لیٹے ہونے کی حالت میں، یہ وعلیٰ جنوبہم کا ترجمہ ہے، اور اشارہ ہے کہ علیٰ جنوبہم بھی حال ہی ہے، یہ حال مؤولہ ہے، اس کا عطف حال صریحہ پر ہے، اس کے برخلاف دعانا لجنبہ او قاعداً او قائماً میں حال صریحہ کا حال مؤولہ پر عطف ہے۔

فی کل حال : عموماً انسان کی زندگی میں یہی تین حال ہوتے ہیں یا تو کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا، یا لیٹا ہوتا ہے، ان تینوں حالتوں میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام احوال میں ذکر کا تسلسل قائم رہتا ہے۔

وعن ابن عباس : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یذکرون سے یصلون مراد لیتے ہیں، یعنی جیسی استطاعت ہوتی ہے اسی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور استطاعت کی ترتیب وہی ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے، یعنی کھڑے ہو کر، اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر اور نہ لیٹ کر نماز پڑھیں۔

للخلود فیہا : یہ ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ جو بھی جہنم میں داخل کر دیا گیا، وہ رسوا ہو گیا، اور دوسری آیت میں ہے، یوم لا ینحزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان رسوا نہ ہوں گے، دونوں کے مجموعے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اہل ایمان جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر وہ جہنم میں جائیں تو رسوائی لازم ہوگی۔

مفسر نے جواب دیا کہ جہنم میں وہ دخول جو اس میں ہمیشہ رہنے کیلئے ہو، وہ باعث رسوائی ہے، اور اگر ایسا دخول ہو، جس کے بعد نکلتا ہو تو وہ علاج و تطہیر کے لئے ہے، کہ گناہوں کی وجہ سے روح کو جو بیماری ہوگئی ہے اور نجاست میں جو لبت پت ہوگئی ہے اس سے شفا اور طہارت حاصل ہو جائے۔

فیہ وضع الظاہر موضع المضمّر سیاق کلام کا تقاضا ضمیر کا ہے، یعنی ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته وماله یاو مالہم من انصار، اگر لفظ من کی رعایت ہو تو مالہ اور اگر اس کی معنویت کا لحاظ ہو تو مالہم، لیکن ضمیر کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اسم ظاہر ظالمین کو ذکر فرمایا۔ اس میں اس بات پر صراحتاً تنبیہ ہے کہ مددگار کا نہ

ہونا، ظلم یعنی کفر و شرک کی خصوصیت ہے، اس ظلم عظیم کیساتھ کوئی بھی مددگار نہیں مل سکتا۔ رسوائی لازم ہو کر رہے گی۔
 فلا تظہرہا بالعقاب علیہا : غلطی پر اگر سزا دی گئی تو وہ غلطی سب پر ظاہر ہو جاتی ہے، اور اگر اس پر کوئی
 سزا نہ دی جائے تو وہ پوشیدہ رہ جاتی ہے۔

یہاں گناہوں کی مغفرت اور سیئات کے مٹانے کی دعا ایک ساتھ کی گئی ہے، حالانکہ ایک کے ذکر کے
 اندر دوسری شامل ہے، بظاہر یہ تکرار ہے، لیکن یہ تکرار محض نہیں ہے، ذنوب سے گناہ کبیرہ مراد ہیں اور سیئات
 سے صغائر مراد ہیں، کبار فضل خداوندی سے معاف ہوتے ہیں اور صغائر کا کفارہ اعمال صالحہ بن جاتے ہیں، اس
 طرح دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔

و سوالہم ذلک وان کان وعدہ تعالیٰ لا یخلف اللہ: یہ ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جب اللہ
 تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور رسولوں کی زبان سے اس کا اظہار فرمایا ہے تو اسے تو پورا ہونا ہے ہی، اللہ تعالیٰ خلاف
 وعدہ تو کریں گے نہیں، پھر اس دعا کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کو وہ چیز عطا فرمائیے جس کا آپ نے وعدہ فرما رکھا ہے۔
 جواب یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرمائیں گے، لیکن اس کی کیا ضمانت ہے کہ اس وعدے کا
 استحقاق ہم بھی رکھتے ہیں، وعدہ اہل ایمان و تقویٰ سے ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارا ایمان اور تقویٰ اس معیار کا
 ہے یا نہیں؟ جس سے وعدہ کا استحقاق ہمارے لئے بھی ہو جائے، یہ دعا وعدہ پورا کرنے کی نہیں ہے اس بات کی
 دعا ہے کہ پروردگار ہم کو بھی اپنے اس وعدہ کا مستحق بنا دیتے۔

وتکریر ربنا مبالغۃ فی التضرع : . ربنا کی تکرار تضرع و زاری میں مبالغہ کیلئے ہے، حضرت جعفر صادق
 علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو کوئی سخت معاملہ پیش آئے اور وہ پانچ مرتبہ ربنا ربنا کہہ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ
 اس کی مشکل کو آسان فرمادیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیونکر کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ پڑھو الذین
 یذکرون اللہ قیاماً و قعوداً سے انک لا تخلف المیعاد تک۔ راقم عرض کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا: فاستجاب لہم سے اس قبولیت کا اظہار ہوتا ہے۔

ای الذکور والانات وبالعکس : اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی عمل کرنے والے کا میں عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ
 وہ مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثی کہہ کر اہل عمل کی دونوں صنفوں کو اس باب میں برابر قرار دیا، اور بعضکم من
 بعض کہہ کر اس کی علت بیان فرمائی کہ آخر دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، عورتوں سے مرد ہیں، مردوں سے
 عورتیں ہیں، یعنی جنس دونوں کی ایک ہے، اس لئے اعمال کی مجازا اور ترک تصدیح میں سب برابر ہیں، مفسر نے
 فرمایا کہ یہ جملہ یعنی بعضکم من بعض، من ذکر او انثی کی تاکید ہے، راقم عرض کرتا ہے کہ تاکید ہے، اور محل تعلیل
 میں ہے، اس لئے ابتداء میں میں نے عرض کیا کہ مجازا میں دونوں صنفوں کی تعیم و شمول کی علت بیان فرمائی ہے۔
 مجازا میں ان دونوں صنفوں کی تعیم کا صراحتاً تذکرہ اہل ایمان خواتین کی دلداری کیلئے ہے، چنانچہ مفسر

نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا کہ کیا بات ہے کہ عورتوں کا تذکرہ ہجرت وغیرہ کے باب میں نہیں ہوتا، حالانکہ ہجرت انہوں نے بھی کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات رکھ لی، اور بالتصریح خواتین اسلام کا ذکر کر دیا۔

من مکة الى المدينة: صحابہ کرام میں دو گروہ تھے، ایک گروہ وہ ہے، جس نے اولاً حبشہ کی جانب ہجرت کی، دوسرا گروہ وہ ہے، جس نے براہ راست مدینہ کی جانب ہجرت کی، یہ لفظ دونوں گروہ کو شامل ہے کیونکہ حبشہ کی ہجرت والے بھی بعد میں مدینہ طیبہ آ گئے تھے۔

مصدر من معنی لا کفرن مؤ کد لہ :- ثواباً کا کلمہ مفعول مطلق ہے، لا کفرن اور لا دخلن کے معنی کے مجموعہ سے جو فعل مفہوم ہوتا ہے اسی کا مصدر ہے۔ ظاہر ہے کہ گناہوں کی بخشش اور دخول جنت کے مجموعہ سے فعل اثابت مفہوم ہوتا ہے کہ میں انہیں ثواب عطا کروں گا۔ پس تقدیر عبارت یہ ہوگی۔ لا ینہم ثواباً۔ یہ مفعول مطلق تاکید کیلئے ہے، مفسر نے بنظر اقتصار صرف من معنی لا کفرن کہا ہے، ورنہ لا دخلن بھی ملحوظ ہے۔ اس سے ثواب کی بات مکمل ہو جاتی ہے۔

تصرفہم :- تغلب کے معنی شہروں میں گھومتے پھرنا، دورے کرنا۔

ارمے مقدرین الخلود :- خالدین حال مقدرہ ہے، حال مقدرہ کی مفصل بحث گزر چکی ہے۔

ونصب علی الحال :- نزلاً کا نصب حال ہونے کی بنا پر ہے، ذوالحال اس کا جنات ہے۔ سوال یہ ہے کہ ذوالحال یا تو فاعل ہوتا ہے یا مفعول بہ اور جنات نہ فاعل ہے اور نہ مفعول بہ، وہ تو مبتدا ہے، پھر ذوالحال کیونکر ہوا؟ جواب یہ ہے کہ اس میں عامل ظرف ہے، یعنی لہم اور اس کی وجہ سے یہ فاعل کے حکم میں ہے۔ یعنی لہم ثبت جنات تجری تو جنات، ثبت کیلئے بمنزلہ فاعل کے ہے، پس ذوالحال ہونا درست ہے۔

والنجاشی :- نجاشی حبشہ کا بادشاہ جو اہل کتاب میں سے تھا، یعنی نصرانی، وہ بھی ایمان لایا تھا اور نہایت مخلص تھا، رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ میں اس کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ نے غائبانہ اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔

مراعی فیہا معنی من :- خاشعین اللہ کے بارے میں مفسر نے فرمایا کہ یہ یومن کی ضمیر فاعل سے حال ہے، اس پر سوال یہ ہے کہ یومن کی ضمیر واحد ہے، اور خاشعین صیغہ جمع ہے، تو ذوالحال اور حال میں مطابقت نہ رہی۔ جواب یہ ہے کہ یہ ضمیر من کی جانب لوٹی ہے، اور من لفظاً واحد ہے اور معنی جمع ہے، تو ضمیر باعتبار لفظ کے راجع ہے، اور حال باعتبار معنی کے ہے۔

التي عندهم في التوراة والانجيل من نعت النبي :- لا يشترون بآيات الله في آيات من توريت وانجيل کی تمام آیات مراد نہیں ہیں بلکہ خاص وہ آیات مراد ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے اوصاف و کمالات کے بیان پر مشتمل ہیں۔

خوفاً علی الریاسة :- دوسرے یہودی علماء اوصاف نبی والی آیات کو اس لئے چھپاتے تھے کہ اگر انہیں ظاہر کر دیا گیا تو اپنے سب لوگ نبی ﷺ کی طرف چلے جائیں گے، اور ان کی چودھراہٹ خطرے میں پڑ جائے گی۔

یوتونہ مرتین :- سورہ قصص میں ہے الذین آتیناہم الکتب من قبلہ ہم بہ یومنون و اذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین اولئک یوتون اجرہم مرتین بما صبروا الخ (۵۲: ۵۳/۵۴) ترجمہ: وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ بلاشبہ یہ ہمارے رب کی جانب سے برحق ہے، ہم اس کو پہلے سے مانتے چلے آ رہے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ انہیں ان کا اجر دوہرا عطا فرمایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔

علی الطاعات والمصابب وعن المعاصی :- مفسر نے صبر کی تینوں قسموں کو اس آیت کے تحت سمیٹ دیا ہے، طاعات اور مصائب پر صبر یہ ہے کہ خواہ حالات کچھ ہوں، طاعتوں سے منحرف نہ ہو، اسی پر جمار ہے، اور مصائب خواہ کتنے ہی سنگین ہوں، جزع و فزع اور ناشکری نہ کرے اور معاصی سے صبر یہ ہے کہ معصیت کو چھوڑ کر اس پر جمار ہے، اور ہرگز معصیت کے گرد نہ بھٹکے۔

وصابروا الکفار: . یعنی غالبوہم فی الصبر، یعنی میدان جنگ میں بہادری سے ڈٹے رہنے میں، ان کفار سے زیادہ مضبوط رہو۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے آخری رکوع میں گویا پوری سورہ کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، سورہ کا آغاز بیان توحید سے ہوا تھا، پھر رسالت اور کتب سماویہ کے نزول کا ذکر تھا۔ پھر اس سلسلے میں اہل ایمان اور ان کے معاندین کے احوال اور ان کی باہمی آویزشیں، جہاد و قتال اور نصرت الہی کا بیان تھا۔ خاص طور سے اہل کتاب کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس رکوع میں ان سب کی تلخیص گویا آگئی ہے۔ دلائل توحید سے اس رکوع کا آغاز ہے، پھر اہل ایمان کا تذکرہ ان کی دعاؤں کے پیرائے میں ہے۔ اہل کفر کا تذکرہ بھی اختصار کے ساتھ اہل ایمان کی نصیحت کے ذیل میں ہے، پھر اہل کتاب میں جو لوگ سعید الفطرت ہیں ان کی تعریف کی ہے، اور آخر میں صبر و جہاد کی تلقین ہے، فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اور رات و دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا، دونوں ترتیب وار چلتے رہتے ہیں، ان میں عقل والے غور کریں تو بہت سی نشانیاں ہیں، توحید پر، قدرت الہی پر، علم الہی پر، عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے ہر حال میں کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں تاکہ انہیں قدرت الہی کی دلیل بنا سکیں، پھر وہ یہ سب دیکھ کر بول پڑتے ہیں کہ:

(۱) اے ہمارے پروردگار! آپ نے یہ ساری مخلوق بے وجہ نہیں پیدا فرمائی ہے، آپ کی ذات اس سے منزہ اور پاک ہے، پس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔

(۲) اے ہمارے پروردگار! جس کسی کو آپ جہنم میں ڈال دیں، اس کی پوری رسوائی ہوگئی اور واقعی ظالموں اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔

(۳) اے ہمارے پروردگار! ہم نے ایک پکارنے والے کی ندا سنی، جو ایمان کی ندا دے رہا تھا، یعنی محمد ﷺ کی ندا یا قرآن کی ندا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم مان گئے اور ہم ایمان لائے۔

(۴) اے ہمارے پروردگار! پس ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، اور ہماری برائیوں کو محو کر دیجئے اور ہم کو صالحین کے زمرے میں داخل کر کے ہماری روحیں قبض کیجئے۔

(۵) اے ہمارے پروردگار! آپ نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے جو وعدہ فرمایا ہے، وہ ہمیں عنایت فرمائیے اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچائیے، بلاشبہ آپ وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعائیں قبول فرمائیں اور بشارت دیدی کہ میں کسی بھی صاحب عمل کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آخر سب ایک دوسرے سے ہی تو متعلق ہیں، تو جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ستائے گئے اور کفار سے جہاد و قتال کیا اور شہید ہو گئے، میں ان کی لغزشوں سے درگزر کروں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کے ایمان و عمل اور جہاد و شہادت کا ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ثواب ہے۔

کفار کی خوشحالی، ان کا کسب معاش کیلئے سفر وغیرہ کرنا، تمہیں کسی الجھن میں نہ ڈالے، یہ تو ”متاع قلیل“ ہے پھر دیکھنا کہ ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

ہاں جن لوگوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا، ان کیلئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، نیکوں کیلئے دنیاوی سامانوں سے وہ بدرجہا بہتر ہے۔

اور اہل کتاب میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، وہ صاحب خشوع ہیں، اللہ کی آیات کے عوض میں دنیا کو بالکل نہیں چاہتے، ان کیلئے بھی ان کے رب کے پاس اجر ہے، بلکہ دوہرا اجر ہے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں،

اے ایمان والو! صبر و استقلال کو اختیار کرو، کفار کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو، اور جہاد کا اہتمام کرتے رہو اور اپنے تمام احوال میں خدا سے ڈرتے رہو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ لعل (شاید) بڑوں کے کلام میں وعدہ کے مرادف ہے، لہذا اس میں یقین کا معنی ہے۔

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

۱۳ رجب ۱۴۲۳ھ مطابق ۲۱ ستمبر ۲۰۰۲ء یوم السبت

☆☆☆☆☆

﴿سورة النساء﴾

سورة النساء مدنیة مائة وخمسة وستة او سبع وسبعون آية

سورة نساء مدنی ہے، اس میں ۷۵ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ اے اہل مکہ ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ اے عقابہ بأن تطيعوه ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ آدم ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ حواء بالمد من ضلع من اضلاعه اليسرى ﴿وَبَتَّ﴾ فرق ونشر ﴿مِنْهُمَا﴾ من آدم وحواء ﴿رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ كثيراً ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ﴾ فيه إدغام التاء في الاصل في السين وفي قراءة بالتخفيف بحذفها ای تَسَاءَلُونَ ﴿بِهِ﴾ فيما بينكم حيث تقول بعضكم لبعض أسالك بالله وأنشدك بالله ﴿وَاتَّقُوا﴾ اتقوا ﴿الْأَرْحَامَ﴾ أن تقطعوها وفي قراءة بالجر عطفاً على الضمير في به وكانوا يتناشدون بالرحم ﴿إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ حافظاً لاعمالكم فيجازيكم اے لم يزل متصفاً بذلك۔

ونزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه ﴿وَاتُّوا الْيَتْمَى﴾ الصغار الألى لأب لهم ﴿أَمْوَالَهُمْ﴾ إذا بلغوا ﴿وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ﴾ الحرام ﴿بِالطَّيِّبِ﴾ الحلال ای تاخذونه بدله كما تفعلون من أخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الردي من مالكم مكانه ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ﴾ مضمومة ﴿إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ﴾ اے أكلها ﴿كَانَ حُوبًا﴾ ذنباً ﴿كَبِيرًا﴾ عظيماً ولما نزلت تخرجوا من ولاية اليتامى و كان فيهم من تحته العشر أو الثمان من الأزواج فلا يعدل بينهن فنزلت ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا﴾ تعدلوا ﴿فِي الْيَتْمَى﴾ فتحر جتم من أمرهم فخافوا أيضاً ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن ﴿فَانكِحُوا﴾ تزوجوا ﴿مَا﴾ بمعنى من ﴿طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ﴾ ای اثنين اثنين وثلاثاً ثلاثاً واربعاً اربعاً ولا تزيدوا على ذلك ﴿فِي أَنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا﴾ فيهن بالنفقة والقسم ﴿فَوَاحِدَةً﴾ انكحوها ﴿أَوْ﴾ اقتصروا على ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ من الاماء إذ ليس لهن من الحقوق مالمزوجات ﴿ذَلِكَ﴾ ای نكاح الاربعة فقط أو الواحدة أو التسرى ﴿أَذْنَى﴾ أقرب

إِلَىٰ ﴿أَنْ لَا تَعُولُوا﴾ ۝ تَجوروا ﴿وَأَتُوا﴾ أعطوا ﴿النِّسَاءَ صَدُقْتِهِنَّ﴾ جمع صدقة مهورهن ﴿نِحْلَةً﴾ مصدر عطية من طيب نفس ﴿فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ تمييز محول عن الفاعل اے ان طابت أنفسهن لكم عن شئ من الصداق فوهبته لكم ﴿فَكُلُّوهُ هَنِئًا مَرِيًّا﴾ محمود العاقبة لا ضرر عليكم في الآخرة نزل ردًا على من كره ذلك ﴿وَلَا تُوْتُوا﴾ أيها الاولياء ﴿السُّفَهَاءَ﴾ المبذرين من الرجال والنساء والصبيان ﴿أَمْوَالِكُمْ﴾ اے أموالهم التي في ايديكم ﴿الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا﴾ مصدر قام اي تقوم بمعاشكم وصلاح اولادكم فيضيعونها في غير وجهها وفي قرأة قِيمًا جمع قيمة ماتقوم به الامتعة ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ أطعموهم منها ﴿وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ عدوهم عِدَّةٌ جميلةٌ بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا ﴿وَابْتَلُوا﴾ اختبروا ﴿الْيَتِمَى﴾ قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في احوالهم ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ اے صاروا أهلاً له بالاحتلام أو السن وهو استكمال خمس عشرة سنة عند الشافعي ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ﴾ أبصرتم ﴿مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ اصلاحاً في دينهم ومالهم ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا﴾ أيها الاولياء ﴿إِسْرَافًا﴾ بغير حق حال ﴿وَبِدَارًا﴾ اے مبادرين إلى انفاقها مخافة ﴿أَنْ يَكْبُرُوا﴾ رشداً فيلزمكم تسليمها إليهم ﴿وَمَنْ كَانَ مِنَ الْوَالِيَاءِ﴾ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ﴿أَي يَعْزُومُ عَنِ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَمْتَنِعُ مِنْ أَكْلِهِ﴾ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ ﴿مِنْهُ﴾ بِالْمَعْرُوفِ ﴿بِقَدْرِ أَجْرِهِ عَمَلُهُ﴾ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ﴿إِلَى الْيَتِيمِ﴾ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ﴿انْهَمُ تَسَلَّمُوها وَبَرِّئْتُمْ لِثَلَايِقِ اخْتِلَافٍ فَرَجَعُوا إِلَى الْبَيْنَةِ وَهَذَا أَمْرٌ ارشادٌ﴾ وَكَفَى بِاللَّهِ ﴿الْبَاءُ زَائِدَةٌ﴾ حَسِيْبًا ﴿حَافِظًا لِعَمَالِهِ خَلْقَهُ وَمَحَاسِبُهُمْ﴾

ترجمہ

(اے لوگو!) یعنی اے اہل مکہ (اپنے رب سے ڈرو) یعنی اس کے عقاب سے، اس طرح کہ اس کی اطاعت کرو (جس نے تم کو ایک ذات) آدم (سے پیدا کیا، اور اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا) یعنی حواء کو..... حواء مد کے ساتھ ہے..... ان کی بائیں پسلیوں میں سے ایک پسلی سے (اور ان دونوں) یعنی آدم و حواء (سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا یا، اور اللہ سے ڈرو، جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو) نساء لون میں دو قرأتیں ہیں، ایک قرأت سین کی تشدید کے ساتھ ہے، یعنی نساء لون، یہ باب تفاعل سے ہے، تفاعل کی تاء سین میں مدغم ہوگئی ہے، اور دوسری قرأت سین کی تخفیف کے ساتھ ہے، اس صورت میں تفاعل

کی تاء حذف ہوگئی ہے، یعنی تتساء لون ہے، یعنی اللہ کے نام کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال اور مطالبے کرتے ہو، چنانچہ کہتے ہو أسالک باللہ، اللہ کے نام سے تم سے سوال کرتا ہوں، اور أنشدک باللہ، اللہ کے نام کی تمہیں قسم دیتا ہوں (اور) ڈرو (قربت داریوں سے) یعنی ان کو توڑنے سے، اور ایک قرأت میں الارحام کے جر کے ساتھ ہے، اس صورت میں یہ بہ کی ضمیر مجرور پر معطوف ہے، وہ لوگ قربت داریوں کے واسطے سے بھی ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے (بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان تھے) یعنی تمہارے اعمال کو محفوظ رکھتے ہیں، پس تم کو ان کا بدلہ دیں گے۔ نگہبان تھے، یعنی اس صفت کے ساتھ دائماً متصف ہیں۔

اگلی آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک یتیم نے اپنے ولی اور سرپرست سے اپنا مال مانگا، اور اس نے انکار کر دیا (اور یتیموں) یعنی ان چھوٹے بچوں (کو) جن کے ماں باپ نہ ہوں (ان کا مال دیدو) جبکہ وہ بالغ ہو جائیں (اور خبیث) یعنی حرام (کو طیب) یعنی حلال (کے عوض نہ لو) جیسا کہ تم لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ یتیم کا اچھا مال، اپنے خراب مال کی جگہ لے لیا کرتے تھے (اور ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کر کے نہ کھاؤ، بے شک یہ) یعنی اس کا کھانا (بڑا گناہ ہے)

جب یہ آیت نازل ہوئی، تو لوگوں کو یتیم کی سرپرستی میں دقت اور تنگی محسوس ہوئی، اور حال یہ تھا کہ ان میں سے بعض کے تحت دس بیویاں تھیں، کسی کے تحت آٹھ بیویاں تھیں، اور وہ ان کے درمیان انصاف سے کام نہیں لیتا تھا۔ اس سلسلے میں اگلی آیت نازل ہوئی۔ (اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے) اس لئے ان کے معاملے میں تمہیں تردد ہو رہا ہے، تو اس سے بھی ڈرو کہ تم عورتوں کے درمیان نکاح کے بعد انصاف نہیں کر پاتے (اس لئے تم کو جو عورتیں پسند ہیں) ما بمعنی من ہے (ان میں سے دو دو اور تین تین اور چار چار سے نکاح کرو) اس سے زائد سے نہ کرو (پھر اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ) ان کے درمیان خرچ دینے میں اور باری مقرر کرنے میں (انصاف نہ کر سکو گے، تو ایک ہی) سے نکاح کرو (یا صرف ان عورتوں) پر اکتفا کرو (جو تمہاری ملکیت میں ہیں) یعنی باندیوں پر، کیونکہ ان کے لئے وہ حقوق نہیں ہیں، جو بیویوں کے لئے ہوتے ہیں (یہ) یعنی چار عورتوں سے، یا محض ایک عورت سے نکاح کرنا، یا باندیوں پر اکتفا کرنا (اس بات کے قریب تر ہے کہ تم ظلم نہ کرو، اور عورتوں کو ان کی مہر) صَدَقَات، صَدَقَةُ کی جمع ہے، اس کے معنی مہر کے ہیں (خوشی دل سے دو) نَحْلَةٌ مصدر ہے، بمعنی قلب کی خوشی سے عطیہ دینا (پھر اگر وہ دلی رضامندی سے، اس میں سے کچھ تمہارے لئے بخش دیں) نفساً تمیز ہے، جو اصل میں فاعل تھا، تقدیر عبارت یہ ہوگی: طابت أنفسهن لکم عن شیء من الصداق فوہبہن لکم (تو تم اسے کھاؤ وہ تمہارے لئے پاکیزہ اور خوشگوار ہے) یعنی اس کا انجام بخیر ہے آخرت میں، اس سے تم کو کچھ نقصان نہ ہوگا، جو لوگ اسے ناگوار سمجھتے تھے، ان کے خیال کی تردید

میں یہ آیت نازل ہوئی ہے (اور) اے اولیاء! (تم کم عقلوں کو) جو مال کو بے جا اڑانے والے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے (اپنا مال) یعنی ان کا وہ مال جو تمہارے پاس ہے انھیں (مت دو) وہ مال (جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے سامان زندگی بنایا ہے) قیماً مصدر ہے، یعنی مال وہ چیز ہے جس سے تمہاری معاش کا انتظام ہوتا ہے، اور تمہاری دشواریوں کی درستگی ہوتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ بے فائدہ اسے ضائع کر دیں، اور ایک قرأت میں قیماً ہے، جو قیمة کی جمع ہے، یعنی وہ مال جس سے سامانوں کی قیمت متعین کی جاتی ہے (اور اس میں سے انھیں کھلاؤ اور کپڑا پہناؤ، اور ان سے اچھی بات کہو) یعنی ان سے اچھی طرح وعدہ کرو کہ ان کا مال انھیں اس وقت دیدیا جائے گا، جب انھیں اس کی صلاحیت حاصل ہو جائے گی (اور یتیموں کا) بلوغ سے پہلے دین و دیانت میں اور ان کے مختلف احوال میں ان کے تصرفات کا (امتحان کر لیا کرو، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جائیں) یعنی نکاح کے اہل ہو جائیں، خواہ احتلام سے، یا عمر، اور یہ عمر سے پندرہ سال کی ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک (تو اگر تم ان میں) ان کے دین اور مال کے بارے میں (صلاحیت دیکھو، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور) اے سرپرستو! (اسے ناحق مت کھاؤ، اور نہ اس خوف سے) خرچ کرنے میں (جلدی کرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے) تو تمہارے لئے ضروری ہوگا کہ وہ مال ان کے سپرد کر دو (اور جو) اولیاء میں سے (غنی ہو، اسے چاہئے کہ) یتیم کے مال سے (بچے) اور اس کے کھانے سے پرہیز کرے (اور جو کوئی تنگ دست ہو تو چاہئے کہ دستور کے مطابق) یعنی اپنے عمل کی اجرت کے بقدر اس میں سے (کھائے، پس جب تم انھیں) یعنی یتیموں کو) ان کا مال دیدو، تو ان پر گواہ بنا لو) کہ انھوں نے اپنا مال پالیا، اور تم سبکدوش ہو گئے، تاکہ اختلاف نہ واقع ہو، اگر ایسا ہو تو بینہ کی طرف رجوع کرو، یہ امر ارشادی ہے (اور اللہ کافی ہے) باللہ میں باء زائد ہے (حساب لینے والا) یعنی اپنی مخلوق کے اعمال کی حفاظت کرنے والا اور حساب لینے والا۔

﴿تشریحات﴾

مائة وخمسة وستون آية: سورہ نساء کی آیات کے شمار میں ائمہ شمار کے نزدیک قدرے فرق ہے، چنانچہ حجازی یعنی مدنی، مکی نیز بصری شمار کے لحاظ سے اس میں ۱۷۵ آیتیں ہیں، اور کوفی شمار میں ۱۷۶ آیتیں ہیں، اور شامی شمار کے مطابق ۱۷۷ آیتیں ہیں۔

امی اهل مكة: قرآن کے مخاطب اول چونکہ اہل مکہ ہی ہیں، اس لئے یا ایہا الناس کے خطاب کی تفسیر یا اهل مكة سے کی، ورنہ اس خطاب میں تمام مکلف انسان شامل ہیں۔

من ضلع من اضلاعه اليسرى: بظاہر خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا سے شبہ ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی ذات سے حواء کو پیدا کیا، تو وہ ان کی بیٹی ہوئیں، نہ کہ بیوی، جواب یہ ہے کہ پیدائش کے عام قاعدے سے ان کی

پیدائش نہیں ہوئی تھی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان سے جدا کر کے اسی کو عورت بنا دیا۔

﴿وَاتَّقُوا﴾ ﴿الارحام﴾: الارحام ایک قرأت میں منصوب ہے، اس کا عطف اللہ پر ہے، یعنی واتقوا اللہ والاحرام، اللہ سے ڈرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے عذاب اور اس کی سزا سے ڈرو، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور قرابت داریوں سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انھیں توڑا نہ جائے، بلکہ جوڑا جائے، قطع رحمی گناہ کبیرہ ہے، اور شرور و آفات کا سبب ہے، اور صلہ رحمی خیر کا دروازہ ہے، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے یعنی برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، صلہ رحمی لوگوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، کبھی احسان، کبھی خدمت وغیرہ سے ہوتی ہے۔

وفی قرأۃ بالجر عطفاً علی الضمیر فی بہ: الارحام میں دوسری قرأت جر کی ہے، اس صورت میں بہ کی ضمیر مجرور پر معطوف ہے، یعنی تساء لون بہ وبالارحام تم ایک دوسرے سے اللہ کے نام پر سوال کرتے ہو اور تم دیتے ہو، اس طرح قرابت داریوں کا بھی واسطہ دیتے ہو۔ ارحام، رحم کی جمع ہے، اس کا استعمال قرابت اور رشتہ داریوں کے لئے ہوتا ہے، کیونکہ رشتہ دار ایک دوسرے سے رحم و محبت کا تعلق رکھتے ہیں، اس آیت سے قرابت داری کی اہمیت و عظمت کا پتہ ملتا ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، حق قرابت عرش الہی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کہتا ہے کہ جو مجھے جوڑے، اللہ تعالیٰ اسے جوڑے اور جو مجھے توڑے اللہ تعالیٰ اس کو توڑے۔

امی لم یزل متصفاً بذلک: ان اللہ کان علیکم رقیباً کے ظاہر الفاظ سے شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانہ ماضی میں نگران اور محافظ تھے، تو کیا زمانہ حال و مستقبل میں یہ صفت باقی نہیں رہی؟ مفسر نے اس کا جواب دیا کہ یہاں کان کا صیغہ دوام کے لئے ہے، یعنی یہ صفت اللہ کے لئے برابر علی الدوام ثابت ہے، اس میں انقطاع نہیں ہے، کیونکہ کان حال و استقبال میں انقطاع خبر کے لئے نص نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس صفت سے علی الدوام متصف ہونا نص قطعی ثابت ہے، اس لئے کان سے جو انقطاع خبر کا شبہ ہوتا ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔

ونزل فی یتیم طلب من ولیہ مالہ فمنعہ: و آتوا الیتامی الخ سے اللہ تعالیٰ نے قرابت داریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بیان کا آغاز فرمایا ہے۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ مر چکا ہے، یہ خطاب یتیم کے سرپرست کو ہے، جس کے پاس اس کا مال محفوظ ہو، دو در رسالت میں ایک یتیم نے اپنے ولی اور سرپرست سے جو کہ اس کا چچا تھا، اپنا مال طلب کیا، اس نے انکار کیا، یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

إِذَا بَلَغُوا: یتیموں کو ان کا مال اس وقت حوالے کیا جائے گا، جبکہ وہ بالغ ہو جائیں، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں ہیں، بالغ ہونے کے بعد انہیں یتیم پچھلے حال کی بنا پر تو کہا جاسکتا ہے، لیکن اب وہ درحقیقت یتیم نہیں رہ گئے ہیں، اس لئے ان کا مال روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔

﴿وَلَا تَبْدُلُوا الْخَبِيثَ﴾ الْحَرَامِ ﴿بِالطَّيِّبِ﴾ الْحَلَالِ: مفسر نے خبیث کی تفسیر حرام سے کی ہے، اور طیب کی حلال سے، اور خطاب ظاہر ہے کہ سرپرستوں سے ہے، تو سرپرستوں کے حق میں خبیث سے مراد یتیم کا مال ہے، خواہ وہ عمدہ ہو، کیونکہ وہ ان کے حق میں حرام ہے، اور طیب سے مراد خود سرپرستوں کا مال ہے، خواہ وہ ردی ہو، کیونکہ ان کے حق میں حلال ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اپنے حلال مال کے عوض میں حرام مال یعنی یتیموں کا مال نہ لو، ہوتا یہ تھا اپنا خراب مال لوگ یتیموں کے حصے میں لگا دیتے تھے، یتیم کا اچھا مال اپنے حصے میں لگا لیتے تھے، اس کو منع فرمایا گیا۔

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ﴾ مضمومۃ ﴿إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾: جو لوگ یتیموں کے ولی اور وصی ہوتے تھے، وہ بغیر کسی احتیاط کے یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا جلا کر استعمال کرتے تھے، اس طرح یتیم کی حق تلفی ہوتی تھی، اور اس کا مال جلد فنا ہو جاتا تھا، نہ کوئی امتیاز اور نہ کوئی حساب کتاب! شاید یہ سوچتے تھے کہ یتیم کا مال علیحدہ سے ہڑپ لینا تو حرام ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں آجانے کی وجہ سے ملامت اور مذمت کے دائرے میں آجائے گا، لیکن جب یتیم ہماری سرپرستی میں ہے اور اس کا کھانا کپڑا ہمارے ہی ذمہ ہے، تو ان کا مال اپنے مال میں شامل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس طرح اگر اس کا مال ہماری طرف زیادہ آ گیا اور جلد ختم ہو گیا تو مضائقہ نہیں، اس خیال کی جڑ اس آیت میں کاٹ دی اور حکم دیا کہ یتیم کے مال میں احتیاط کا رویہ اختیار کرنا ضروری ہے، ورنہ بڑا گناہ ہوگا۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ میں الیٰ محل اشکال ہو رہا ہے، کیونکہ اکل کا صلہ الیٰ نہیں آتا، مفسر نے مضمومۃ کا لفظ تحریر فرما کر بتایا کہ یہاں ولاتا کلو میں ضم کے معنی کی تضمین ہے، اور الیٰ اسی ضم کا صلہ ہے، یعنی مضمومۃ الیٰ اموالکم، جب ضرورت کے باعث یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ شامل کر کے کھانا درست نہیں ہے تو علیحدہ سے کھانا تو بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا۔

إِنَّهُ (اے اکلہا) : انہ میں ہاء ضمیر کا مرجع اکل ہے، جو لاتا کلو سے مفہوم ہوتا ہے۔

وَلَمَّا نَزَلَتْ تَحْرُجُوا مِنْ وَلايَةِ الْيَتَامَى الْخ: یتیموں کے بارے میں اور ان کے مال کے سلسلے میں جب مذکورہ بالا تا کیدی حکم نازل ہوا، تو لوگوں کو یتیموں کی سرپرستی میں دقت محسوس ہوئی، انہوں نے اس کا بڑا اہتمام کرنا شروع کیا کہ اس مسئلہ میں گنہگاری سے بچ جائیں، قلوب آمادہ ہو گئے کہ معصیت اور زیادتی کے شائبہ

سے بھی بچنا چاہئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذیل میں ایک اور کوتاہی پر تنبیہ فرمائی، اور یہ کوتاہی ایسی تھی کہ اس میں ابتلاء بھی زیادہ تھا، اور اسے معصیت سمجھنے کا مزاج بھی نہ تھا، وہ کوتاہی یہ تھی کہ عربوں میں متعدد نکاح کرنے کا رواج تھا، بسا اوقات ایک شخص کے نکاح میں آٹھ آٹھ، دس دس عورتیں جمع ہو جاتی تھیں، وہ نہ ٹھیک سے ان کا نفقہ دے پاتا تھا اور نہ ان کے درمیان انصاف کی رعایت کر پاتا تھا، ظاہر ہے کہ یہ سراسر ظلم بھی تھا اور معصیت بھی! تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ تم یتیموں کے سلسلے میں ظلم و زیادتی کے مسئلے میں تنگی اور دشواری محسوس کرتے ہو اور اس سے نکلنا چاہتے ہو، تو اس کے ساتھ یہ بھی خیال کرو کہ تم سے اپنی متعدد بیویوں کے سلسلے میں بھی انصاف نہیں ہو پاتا، یہاں بھی انصاف کا اہتمام کرو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ نکاح میں تعداد کے لحاظ سے ایک خاص حد کے پابند رہو، اتنی تعداد نہ بڑھا لو کہ معاملہ تمہارے قابو سے باہر ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ چار عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھو، ان چار سے تمہاری ضرورت کی تکمیل بھی ہوئے گی، اور انصاف کرنا بھی سہل ہوگا اور اگر ان میں بھی تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف میں کوتاہی ہوگی تو ایک پراکتفا کرو، یا شرعی باندیوں سے کام چلاؤ۔

اس آیت میں غلطی پر تنبیہ بھی فرمادی، اور اس سے بچنے کی تدبیر بھی بتادی، اللہ کی ذات کتنی مہربان ہے۔ حضرت مفسر کے کلام کی تشریح ہم نے کردی، اس آیت کے سمجھنے میں اتنی بات کافی ہے، حضرات مفسرین نے کچھ اور روایتیں اور اقوال اس جگہ نقل کئے ہیں۔ انہیں تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں۔

تحر جوا، فتحو جتم: یہ لفظ حرج سے ماخوذ ہے، جس کے معنی تنگی اور دشواری کے ہیں، باب تفعّل میں تکلف کی خاصیت ہے، اس کا معنی ہوگا تنگی محسوس کرنا۔

إثنتین اثنتین: مثنیٰ اور ثلاث اور رباع، یہ تینوں لفظ غیر منصرف ہیں، ان میں غیر منصرف کا سبب عدل ہے، ان کا معدول عنہ اثنتین، ثلاث ثلاث اور اربع اربع ہے۔

ولا تزیدوا علیٰ ذلک: چار سے زیادہ عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔

﴿ذلک﴾ ای نکاح الاربعۃ: ذلک أدنیٰ أن لا تعولوا میں ذلک کا اشارہ مذکورہ بالا تینوں باتوں یعنی چار سے نکاح کرنا، یا ایک سے، یا باندیوں پراکتفا کرنا، ان میں انصاف اور مساوات پر قائم رہنا آسان ہے۔ جمع صدقۃ مہورہن: و آتوا النساء صدقاتہن میں صدقات، صدقۃ بالفتح وبالضم کی جمع ہے۔ صدقہ مہر کو کہتے ہیں۔ صدقہ (بفتحتین وفتح و سکون) بھی کہتے ہیں، صداق (بالفتح واکسر) بھی کہتے ہیں۔

﴿نحلة﴾ مصدر عطیہ من طیب نفس: نحلة مفعول مطلق ہے، فعل کے لفظ کے بجائے اسی معنی میں دوسرا لفظ لائے ہیں، جیسے قعدت جلوساً کہتے ہیں۔ مفعول مطلق نحلة کے لفظ سے لانے کا فائدہ یہ ہے کہ

اس کے معنی میں خوش دلی کے ساتھ عطا کرنے کا مفہوم ہے، جبکہ ایتساء مطلق ہے، خواہ طوعاً ہو یا کرہاً۔ مطلب یہ ہے کہ مہر جو عورتیں پاتی ہیں، چاہئے کہ شوہر بہت خوش دلی کے ساتھ ادا کرے، جبراً اور کرہاً نہیں۔

تمییز محول عن الفاعل : فان طبن لكم عن شیء منه نفساً ، میں نفساً، طبن کی نسبت کی تمییز ہے، حقیقت میں یہ لفظ فاعل ہے، اس کو بدل کر تمییز بنا دیا ہے، اصل عبارت یوں ہوگی: فان طابت أنفسهن لكم عن شیء من الصداق، اگر مہر کے کسی حصے سے متعلق بیوی کی طبیعت راضی ہو اور برضا و رغبت وہ تمہیں دینا چاہے، تو اسے لے لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

امی أموالهم : اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ولا توتوا السفهاء أموالکم، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یتیموں کے سرپرست ”سفہاء“ کو اپنا مال نہ دیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے، یتیموں کا مال جو سرپرستوں کے پاس ہے، ان کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ یتیم جب تک سفیہ ہے، اسے اس کا مال نہ دیا جائے، لیکن چونکہ وہ مال سرپرستوں ہی کے ہاتھ میں ہے، اس تعلق سے ان کی طرف منسوب کر دیا، مفسر نے اسی کی وضاحت کے لئے اموالهم التی فی ایدیکم سے اس کی تشریح کی ہے۔

مصدر قام ای تقوم بمعاشکم وصلاح اذوکم : مال اللہ تعالیٰ نے قیام فرمایا، مفسر فرماتے ہیں کہ یہ قام کا مصدر ہے، مطلب یہ ہوا کہ اسی مال سے تمہاری معاش کا انتظام ہوتا ہے، اور تمہاری مشکلات درست ہوتی ہیں، ”اود“ کے معنی کچی کے ہیں، کچی سے دشواری پیدا ہوتی ہے، ترجمہ اور تشریح میں اسی التزامی معنی کو اختیار کیا گیا ہے، اس میں ایک نسخہ ”وصلاح امورکم“ ہے، اس کا معنی ظاہر ہے۔ جلالین کے ہندوستانی نسخہ میں وصلاح اولادکم ہے۔

فیضیعوها فی غیر وجہها : اس تشریح کا تعلق ولا توتوا السفهاء سے ہے، یعنی ان بے عقلوں کو ان کا مال و دولت مت دوور نہ یہ بے موقع اڑا پڑا ڈالیں گے۔

وفی قرأۃ قیماً : ایک قرأت میں قیماً کے بجائے قیماً پڑھا گیا ہے، یہ قیمت کی جمع ہے۔

قبل البلوغ فی دینہم وتصرفہم فی احوالہم : بالغ ہونے کے بعد یتیموں کو ان کا مال سپرد کر دینا ہے، اس لئے بالغ ہونے سے پہلے ان کا امتحان کرتے رہو کہ دینی امور میں اور مختلف حالات میں ان کی کارکردگی کس معیار کی ہے، احوال کے بجائے اموال ہوتا تو موقع کے زیادہ مناسب ہوتا۔

امی صاروا أهلاً له : نکاح تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کی اہلیت ان میں پیدا ہو جائے یعنی وہ بالغ ہو جائیں، بلوغ کی علامتیں دو ہیں۔ اول یہ کہ احتلام ہو۔ دوسرے یہ کہ ایک خاص عمر کو پہنچ جائیں، یہ عمر امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمد علیہم الرحمہ کے نزدیک پندرہ سال ہے، اور امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک

اٹھارہ سال ہے۔

أبصرتم : آنستم کی تفسیر حضرت مفسر نے أبصرتم سے کی ہے، جس کے اصل معنی آنکھ سے دیکھنے کے ہیں، اس لئے صاحب جمل نے فرمایا ہے کہ اگر اس کی تفسیر علمتم سے کرتے تو موقع اور مقام کے مناسب ہوتا۔

﴿اسرافاً﴾ بغیر حق حال ﴿بداراً﴾ اے مبادرین الیٰ اتفاقہما : اسراف کے معنی ناحق خرچ کرنا ہے، اور بداراً کے معنی جلدی جلدی اڑانا پڑانا، تاکہ بالغ ہوتے ہوتے سب مال ختم ہو جائے، اور پھر اسے کچھ دینا نہ پڑے۔ اسرافاً اور بداراً دونوں حال ہیں، مفسر نے پہلے لفظ کی تفسیر میں اس کے حال ہونے کی لفظاً تصریح کی ہے، چنانچہ حال فرمایا ہے، اور دوسرے لفظ کی تفسیر میں بجائے حال کہنے کے مبادرین کہہ کر اس کا حال ہونا ظاہر کیا ہے۔

مخافة ﴿أن یکبروا﴾ : أن یکبروا، بداراً کا مفعول لہ ہے، اور مخافة مضاف محذوف ہے اور اصل میں مفعول یہی مخافة ہے، اسے حذف کر کے أن یکبروا کو اس کا نائب بنا دیا ہے۔

بقدر أجرہ عملہ : یتیم کا سرپرست اگر تنگ دست ہے، تو سرپرستی اور پرورش کی ذمہ داری کی عرفاً جو اجرت ہو سکتی ہے، اس کے بقدر یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے۔

امر ارشاد : یتیموں کے حوالے ان کا مال کیا جائے، تو اس پر گواہ بنانے کا حکم وجوب کے لئے نہیں ہے، اسے ”امر ارشادی“ کہتے ہیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، جس نے تم کو ایک ذات آدم (الکلیۃ) سے پیدا کیا، اور آدم کی ایک پسلی سے ان کی زوجہ حواء کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے واسطے سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم آپس میں اپنے حقوق کا سوال کرتے ہو، اور رشتوں کے باب میں تقویٰ کا لحاظ کرو کہ اس کا بھی آپس میں حوالہ دیتے ہو، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہیں، وہاں سے ہر چیز کا بدلہ ملنے والا ہے۔

اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو، وقت پر انھیں دیدو اور ایسا نہ ہو کہ مال حلال کے عوض میں مال حرام لینے کے مجرم بن جاؤ۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ اپنا گھٹیا مال، یتیم کے اچھے مال سے بعض لوگ بدل لیتے تھے، اور ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کر کے اسے نہ کھاؤ، ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس آیت سے متاثر ہو کر لوگوں نے یتیموں کی کفالت میں کافی احتیاط شروع کر دی، لیکن بیویوں کے معاملے میں کوتاہی باقی رہی کہ

بعض لوگوں کی متعدد بیویاں تھیں، اور وہ ان کے درمیان انصاف نہیں کرتے تھے، تو یتیموں کے معاملہ میں احتیاط کا حوالہ دے ان سے کہا گیا کہ اگر یتیموں کے سلسلے میں تمہیں بے انصافی اور بے اعتدالی کا اندیشہ ہے اور اس کی وجہ سے تم تنگی محسوس کر رہے ہو، تو یہی خوف و اندیشہ بیویوں کے بارے میں بھی ہونا چاہئے، لہذا عورتوں سے نکاح کرنے میں ایک خاص مقدار سے آگے نہ بڑھو تا کہ عدل کرنا مشکل نہ رہے، وہ یہ کہ دو سے، یا تین سے، یا چار سے نکاح کرو، اس سے زیادہ بیک وقت اپنے نکاح میں عورتوں کو جمع نہ کرو، اور اگر ان میں بھی اندیشہ ہو کہ عدل کا دامن نہ تھام سکو گے، تو ایک ہی سے نکاح پر اکتفا کرو، یا باندیاں رکھو۔ یہ بات یعنی چار سے نکاح کرنا، یا ایک پر اکتفا کرنا، یا صرف باندی رکھنا معاملہ میں ناہمواری و بے اعتدالی سے بچنے کا قریب تر راستہ ہے، اور ہاں عورتوں کو ان کی مہر بخوشی قلب ادا کر دو، پھر اگر تمہیں اس کا کچھ حصہ بہہ یا ہدیہ کریں تو تمہارے لئے اس کا لے لینا بے تکلف جائز ہے، اس سے آخرت میں کوئی ضرر نہ ہوگا، بعض لوگ عورتوں کی مہر کو لینا غیرت کے خلاف سمجھتے تھے، اس آیت میں ان کی اصلاح کی گئی ہے۔

اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ یتیموں میں جو اپنے نفع و ضرر کی خبر نہیں رکھتے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت یا بچے، انہیں ان کا مال حوالے نہ کریں، مال ہی سے تو معیشت قائم ہے، بلکہ ان کے مال میں سے ان کی ضروریات یعنی کھانے پینے کا انتظام کرتے رہیں، اور انہیں سمجھائیں کہ جب ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے گا، اور ان یتیموں کا امتحان کرتے رہو، یہ امتحان کرنا بلوغ کے پہلے ہی سے ہوگا۔ دیکھ لو کہ دین میں، دنیاوی معاملات میں ان کی عقل و فہم کا کیا حال ہے، پھر جب وہ بالغ ہو جائیں، تو اگر تم کو اندازہ ہے کہ ان میں تصرفات و معاملات کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے، تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو، اور ایسا مت کرنا کہ ان کے بالغ ہونے سے پہلے اس ڈر سے کہ مال انہیں دینا پڑے گا جلدی جلدی مسرفانہ طور پر مال خرچ کر دو، یہ ہرگز نہ کرنا۔ احتیاط کو ملحوظ رکھنا، اور سرپرستوں میں اگر کوئی صاحب مال ہے، تو اسے یتیم کے مال سے بالکل یہ احتراز کرنا چاہئے اور جو کوئی تنگ دست ہو، اس کے لئے گنجائش ہے کہ اوسط درجے کی اجرت یتیم کے مال میں سے لے لے۔

اور جب تم یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو، تو اس حوالگی پر گواہ بنا لو تا کہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ پڑے، اور اگر پڑے تو گواہی موجود رہے، اور حساب لینے کے لئے تو اللہ تعالیٰ کافی ہیں، ان کا ڈر ہی ایمان داری اور دیانت داری کی بنیاد ہے۔



نزل ردًا لما كان عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار ﴿لِّلرِّجَالِ﴾ الاولاد

وَالْأَقْرَابَ ﴿ نَصِيبٌ ﴾ حَظٌّ ﴿ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ المتوفون ﴿ وَلِلنِّسَاءِ ﴾ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ ﴿ الْمَالِ ﴾ أَوْ كَثُرَ ﴿ جَعَلَهُ اللَّهُ ﴾ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ مَقْطُوعًا بِتَسْلِيمِهِ إِلَيْهِمْ ﴾ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ﴿ لِلْمِيرَاثِ ﴾ أُولُوا الْقُرْبَىٰ ﴿ ذَوَا الْقَرَابَةِ مِمَّنْ لَا يَرِثُ ﴾ وَالْيَتْمَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴿ شَيْئًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ ﴾ وَقُولُوا ﴿ أَيُّهَا الْوَالِدِيَّةُ ﴾ إِذَا كَانَ الْوَرِثَةُ صَغَارًا ﴿ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ جَمِيلًا بَانَ تَعْتَذِرُوا إِلَيْهِمْ أَنْكُمْ لَا تَمْلِكُونَهُ وَإِنَّهُ لَصَغَارٌ وَهَذَا قِيلَ مَنْسُوخٌ وَقِيلَ لَا وَلَكِنْ تَهَاوَنَ النَّاسُ فِي تَرْكِهِ وَعَلَيْهِ فَهُوَ نَدْبٌ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاجِبٌ ﴿ وَلِيُخَشَّ ﴾ أَيْ لِيُخَفَّ عَلَى الْيَتْمَى ﴿ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا ﴾ أَيْ قَارِبُوا أَنْ يَتْرَكَوْا ﴿ مِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ﴿ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا ﴾ أَوْلَادًا صَغَارًا ﴿ خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ الضِّيَاعُ ﴿ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ﴾ فِي أَمْرِ الْيَتْمَى وَلِيَأْتُوا إِلَيْهِمْ مَا يَحِبُّونَ أَنْ يُفْعَلَ بِذَرِيَّتِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ ﴿ وَلْيَقُولُوا ﴾ لِلْمَيْتِ ﴿ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ صَوَابًا بَانَ يَأْمُرُوهُ أَنْ يَتَّصِقَ بِدُونِ ثُلُثِهِ وَيَدَعَ الْبَاقِيَ لَوَرِثَتِهِ وَلَا يَتْرِكْهُمْ عَالَةً ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتْمَى ظُلْمًا ﴾ بَغَيْرِ حَقٍّ ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ﴾ أَيْ مَلَأُهَا ﴿ نَارًا ﴾ لِأَنَّهُ يُؤَلُّ إِلَيْهَا ﴿ وَسَيَصْلُونَ ﴾ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ يَدْخُلُونَ ﴿ سَعِيرًا ﴾ نَارًا شَدِيدَةً يَحْتَرِقُونَ فِيهَا۔

ترجمہ

زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ عورتوں اور نابالغ بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اس رسم بد کی تردید میں آیت اتری۔ (مردوں کے لئے) جو کہ اولاد ہوں یا قریبی رشتہ دار (اس مال میں حصہ ہے، جسے والدین نے اور رشتہ داروں نے) جن کا انتقال ہو گیا ہے (چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لئے بھی اس مال میں حصہ ہے جسے والدین نے اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے وہ مال کم ہو یا زیادہ) اللہ نے یہ (قطع فریضہ) بنایا (ہے) جس کا حوالے کرنا ضروری ہے۔

(اور جب) میراث کی (تقسیم کے وقت) وہ (رشتہ دار آجائیں) جن کو وراثت نہیں ملنی ہے (اور یتیم آجائیں اور مسکین آجائیں تو کچھ اس میں سے) تقسیم سے پہلے (انھیں دیدو، اور) اگر ورثہ نابالغ ہوں تو (ان سے کوئی اچھی بات کہہ دو) مثلاً معذرت کر دو کہ ہم لوگ اس کے مالک نہیں ہو، کیونکہ ورثہ نابالغ ہیں، اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ منسوخ تو نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنے میں تساہل ہو گیا، اس قول کے مطابق یہ حکم استحبابی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ حکم

وجوبی ہے (اور چاہئے کہ) یتیموں کے باب میں (وہ لوگ ڈریں، کہ اپنے بعد) یعنی اپنی موت کے بعد (ہوسکتا ہے کہ کمزور) یعنی چھوٹی (اولادیں چھوڑیں، تو انہیں ان پر) ضائع ہونے کا (اندیشہ ہوگا، پس چاہئے کہ) یتیموں کے سلسلے میں (وہ اللہ سے ڈریں) اور چاہئے کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں، جسے وہ اپنی اولاد کے سلسلے میں پسند کرتے ہیں (اور چاہئے کہ) مرنے والے سے (اچھی بات کہیں) مثلاً یہ حکم دیں کہ تہائی سے کم صدقہ کریں، اور باقی ورثہ کے لئے چھوڑ جائیں، اور انہیں محروم و تنگ دست نہ چھوڑیں (بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو ظماً) ناحق (کھاتے ہیں وہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں) یعنی اسی سے پیٹ بھرتے ہیں، کیونکہ اس کا انجام یہی ہے (اور عنقریب وہ دکھتی آگ میں داخل ہوں گے) جس میں وہ جلیں گے، سیصلون میں دو قرأت ہے، ایک فعل معروف، دوسرے فعل مجہول۔

﴿ تشریحات ﴾

نزل رداً لما كان عليه الجاهلية : دور جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو وراثت دینے کا دستور نہ تھا، وراثت کے بارے میں تقریباً تمام مذاہب میں افراط و تفریط ہے، شریعت اسلامی نے اس بے اعتدالی کو ختم کیا، یہاں صاف صاف حکم ہے کہ ہر قرابت قریبہ کو استحقاق وراثت ہے، خواہ مال متروکہ کم ہو یا زیادہ۔

الاولاد والاقرباء : للرجال کی تفسیر میں یہ تفصیل اس لئے کی کہ اللہ تعالیٰ نے والدین اور اقربین کا تذکرہ کیا ہے، تو والدین کی مناسبت سے اولاد کا اور اقربین کی مناسبت سے اقرباء کا ذکر مناسب ہے۔

جعلہ اللہ : نصیباً مفروضاً مفعول بہ ہے، اس کا فعل جعلہ محذوف ہے، اسے مفسر نے ظاہر کر دیا ہے۔

مقطوعاً بتسليمه إليهم : نصیباً مفروضاً کا مطلب یہ ہے کہ وارث کا حصہ اسے ہر حال میں ملنا واجب ہے، اگر وہ کہے کہ میں چھوڑتا ہوں تب بھی وہ اسی کا رہے گا، کسی کو اس کا لینا جائز نہیں ہے، ہاں اگر وہ اپنا حصہ لے کر پھر کسی کو ہبہ کر دے، تو صحیح ہے۔

وقولوا أيها الاولياء لهم إذا كان الورثة صغاراً : تقسیم میراث کے وقت اگر ایسے قرابت دار آجائیں، جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے، یا کچھ یتیم اور نادار لوگ آجائیں، تو تقسیم سے پہلے انہیں اس میں سے کچھ دیدینا چاہئے، لیکن یہ حکم اس صورت میں ہے، جب ورثہ میں کوئی نابالغ نہ ہو، اور اگر سب یا بعض ورثہ نابالغ ہوں تو اس مشترک مال سے کسی کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ نابالغ کے مال میں اس کے سرپرستوں کا یا خود اسی کا ایسا تصرف صحیح نہیں ہے جو تبرع ہو، اس لئے اس صورت میں یتیموں اور نابالغوں کے سرپرستوں سے خطاب ہے کہ ورثہ نابالغ ہوں تو ان قرابت داروں اور یتیموں اور ناداروں کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ اس مال میں سے کچھ دینا شرعاً صحیح نہیں ہے۔

وعلیہ فہو ندب: تقسیم میراث کے وقت اگر یہ رشتہ دار یا کوئی یتیم و مسکین آجائے تو انہیں کچھ دینے کا حکم بعض لوگوں نے کہا ہے کہ منسوخ ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ منسوخ تو نہیں ہے، لیکن عموماً اس پر عمل میں سستی ہوتی ہے، تو اس دوسرے قول کی بنیاد پر کہنا پڑے گا کہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے، بلکہ استحبابی ہے، وجوبی حکم میں سستی روا نہیں ہے، ہاں عمل مستحب کے پورا کرنے میں سستی ہو تو مضائقہ نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ حکم وجوبی ہے، مگر یہ قول ضعیف ہے۔

﴿وَلِيَقُولُوا﴾ لِلْمِيتِ ﴿قَوْلًا سَدِيدًا﴾: حضرت مفسر نے ”قول سدید“ کا مخاطب اس مریض کو قرار دیا ہے، جو عنقریب دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ اس سے اچھی اور انصاف کی بات کہی جائے، اگر وہ اپنا مال صدقہ کرنا چاہتا ہے، تو تہائی سے کم صدقہ کرے اور باقی مال وارثوں کے لئے چھوڑ جائے۔

صاحب جمل نے لکھا ہے کہ عبارت کی مناسبت کا اگر لحاظ کیا جائے تو بجائے ”میت“ کے اس کا مخاطب یتیموں کو بنانا چاہئے، یعنی اگر تقسیم میراث کے وقت کچھ یتیم جو میراث سے محبوب ہیں، آجائیں تو ان سے مناسب بات کی جائے، وہ بات جو خدا نخواستہ اگر وہ اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ کر گزر جائیں، تو جیسی بات ان سے کی جانی چاہئے ویسی ہی بات وہ دوسرے یتیموں سے کریں۔

لَا نَهْ يُوَلِّ إِيَّهَا یتیم کا مال ظلماً کھانے والے بظاہر مال کھا رہے ہیں، مگر انجام اس کا یہ ہوگا کہ وہ مال جہنم کا انگارہ بن کر رہے گا، اس لئے فرمایا کہ وہ انگارہ کھا رہے ہیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

عرب میں زمانہ جاہلیت میں یعنی عہد نبوت سے پہلے دستور تھا کہ عورتوں کو اور نابالغ بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، حق تعالیٰ نے اس رسم بد کو ختم فرمایا، ارشاد ہوا کہ مردوں کے لئے یعنی بیٹوں اور رشتہ داروں کے لئے بھی اس مال میں حصہ ہے، جسے والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لئے بھی والدین اور قرابت داروں کے ترکہ میں حصہ ہے، خواہ وہ ترکہ کم ہو یا زائد، اللہ نے ہر ایک کا حصہ متعین کر دیا ہے، جس کا سپرد کرنا ضروری ہے۔

البتہ یہ ہے کہ جب میراث تقسیم ہو رہی ہو، اس وقت اگر ایسے قرابت دار آجائیں جو اس میراث سے محبوب ہوں، یا یتیم و مسکین آجائیں، تو تقسیم سے پہلے انہیں اس میں سے کچھ دے سکتے ہو، اور اگر ورثہ میں کوئی نابالغ ہو، تو انہیں اچھی بات کہہ کر ٹال دو کہ نابالغ کے مال میں سے کچھ دینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ منسوخ نہیں ہے، لیکن لوگوں میں

اس مسئلہ پر عمل کا اہتمام نہیں رہا۔ حاصل یہ ہے کہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا وجوبی ہونا منقول ہے۔

یتیموں کے سلسلے میں شفقت و محبت کی تاکید اس لئے ہے کہ عین ممکن ہے کہ موجودہ لوگوں میں کسی کی موت ہو جائے اور اس کے پیچھے یتیم اولادیں رہ جائیں، تو ان کے بارے میں کیسا کچھ اندیشہ ہوگا، تو جو بروقت یتیم بچے ہیں ان کا اسی خیال سے خاص اہتمام کرنا چاہئے، وہی اہتمام جو وہ اپنی اولاد کے بارے میں چاہتے ہیں، اور ان کے حق میں اچھی بات کرنی چاہئے، اور یہ بات خوب سمجھ لینی چاہئے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور انجام یہ ہوگا کہ جہنم کی دہکتی آگ میں گریں گے۔



﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي شَانِ أَوْلَادِكُمْ﴾ بما يذکر ﴿لِلذَّكَرِ﴾ منہم ﴿مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ﴾ إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها النصف وله الثلثان وإن انفرد حاز المال ﴿فَإِنْ كُنَّ﴾ ای الاولاد ﴿نِسَاءً﴾ فقط ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ﴾ المیت و كذا لاثنتان لانه للاختين بقوله فلهما الثلثان مما ترك فهما اولیٰ ولأن البنت تستحق الثلث مع الذکر فمع الانثیٰ اولیٰ وفوق قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق الاثنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذکر ﴿وَإِنْ كَانَتْ﴾ المولود ﴿وَاحِدَةً﴾ وفي قرأة بالرفع فكان تامة ﴿فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوِيهَ﴾ ای المیت ویدل منہما ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴿ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَىٰ﴾ ونکته البدل أفادة أنهما لا يشترکان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالاب الجد ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ﴾ فقط أو مع زوج ﴿فَلِأُمَّه﴾ بضم الهمزة وكسرهما فراراً من الانتقال من ضمة الى كسرة لثقله في الموضوعين ﴿الْثُلُثُ﴾ ای ثلث المال أو ما يبقى بعد الزوج والباقي للاب ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ ای اثنان فصاعداً ذكوراً أو اناثاً ﴿فَلِأُمَّه السُّدُسُ﴾ والباقي للاب ولاشئ للإخوة وارث من ذکر ما ذکر ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصىٰ﴾ بالبناء للفاعل والمفعول ﴿بِهَا أَوْ﴾ قضاء ﴿ذَيْنِ﴾ عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخره عنه في الوفاء للاهتمام بها ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾ مبتدأ خبره ﴿لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ في الدنيا الآخرة فظان أن ابنه انفع له فيعطيه الميراث فيكون الاب انفع وبالعكس وإنما العالم بذلك الله ففرض لكم الميراث ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ﴿۱﴾ بِخَلْقِهِ ﴿۲﴾ حَكِيمًا ﴿۳﴾ فِيمَا دَبَّرَ لَهُمْ أَمْ لَمْ يَزَلْ مُتَصِفًا بِذَلِكَ ﴿۴﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴿۵﴾ مِنْكُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴿۶﴾ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿۷﴾ وَالْحَقُّ بِالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْابْنِ بِالْإِجْمَاعِ ﴿۸﴾ وَلَهُنَّ ﴿۹﴾ أَمْ الزَّوْجَاتُ تَعْدُنَ أَوْلَا ﴿۱۰﴾ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿۱۱﴾ وَوَلَدُ الْابْنِ كَالْوَلَدِ إِجْمَاعًا ﴿۱۲﴾ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ ﴿۱۳﴾ صَفَةً وَالْخَبْرُ ﴿۱۴﴾ كَلَالَةً ﴿۱۵﴾ أَيْ لِوَالِدٍ وَوَلَدٍ ﴿۱۶﴾ أَوْ امْرَأَةً ﴿۱۷﴾ تَوْرَثُ كَلَالَةً ﴿۱۸﴾ وَلَهُ ﴿۱۹﴾ أَيْ لِلْمُورَثِ الْكَلَالَةَ ﴿۲۰﴾ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ﴿۲۱﴾ أَمْ مِنْ أُمِّ وَقَرَأَ بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ ﴿۲۲﴾ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴿۲۳﴾ مِمَّا تَرَكَ ﴿۲۴﴾ فَإِنْ كَانُوا أَيْ الْإِخْوَةَ وَالْإِخْوَاتُ مِنَ الْأُمِّ ﴿۲۵﴾ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ﴿۲۶﴾ أَيْ مِنْ وَاحِدٍ ﴿۲۷﴾ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ﴿۲۸﴾ يَسْتَوِي بِهِ ذَكَورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ ﴿۲۹﴾ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ﴿۳۰﴾ حَالٍ مِنْ ضَمِيرِ يَوْصِي أَيْ غَيْرِ مُدْخَلِ الضَّرَرِ عَلَى الْوَرِثَةِ بَانَ يَوْصِي بِأَكْثَرٍ مِنَ الثَّلَاثِ ﴿۳۱﴾ وَصِيَّةٌ ﴿۳۲﴾ مَصْدَرٌ مُؤَكَّدَةٌ لِيَوْصِيكُمْ ﴿۳۳﴾ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴿۳۴﴾ بِمَا دَبَّرَ لِخَلْقِهِ مِنَ الْفَرَائِضِ ﴿۳۵﴾ حَلِيمٌ ﴿۳۶﴾ بِتَأْخِيرِ الْعُقُوبَةِ عَمَّنْ خَالَفَهُ وَخَصَّتِ السَّنَةَ تَوْرِيثٌ مِنْ ذِكْرِ بَمَنْ لَيْسَ فِيهِ مَانِعٌ مِنْ قَتْلِ أَوْ إِخْتِلَافِ دِينٍ أَوْ رِقٍّ ﴿۳۷﴾ تِلْكَ ﴿۳۸﴾ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ أَمْرِ الْيَتَامَى وَمَابَعْدَهُ ﴿۳۹﴾ حُدُودُ اللَّهِ ﴿۴۰﴾ شَرَائِعُ الَّتِي حُدَّهَا لِعِبَادِهِ لِيَعْمَلُوا بِهَا وَلَا يَعْتَدُوا بِهَا ﴿۴۱﴾ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿۴۲﴾ فِيمَا حَكَمَ بِهِ ﴿۴۳﴾ يُدْخِلْهُ ﴿۴۴﴾ بِالْيَأْمَنِ النَّوْنَ التَّفَاتَا ﴿۴۵﴾ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلْدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۴۶﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ﴿۴۷﴾ بِالْوَجْهِينِ ﴿۴۸﴾ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ ﴿۴۹﴾ فِيهَا ﴿۵۰﴾ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۵۱﴾ ذُو إِهَانَةٍ رَوْعِي فِي الضَّمَائِرِ فِي الْآيَاتِينَ لَفْظٌ مِنْ وَفَى خَلْدَيْنِ مَعْنَاهَا۔

ترجمہ

(اللہ تعالیٰ تمہیں، تمہاری اولاد کے حق میں وصیت فرماتے ہیں) یعنی حکم دیتے ہیں، جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے، ان میں سے (مرد کے لئے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے) جب ایک مرد کے ساتھ دو عورتیں ہوں، تو مرد کے لئے کل مال کا نصف ہے، اور دوسرے نصف میں دونوں برابر کی شریک ہوں گی، اور اگر ایک مرد اور ایک ہی عورت ہو، تو عورت کے لئے ایک تہائی اور مرد کے لئے دو تہائی، اور اگر تہا مرد ہو، تو سارا مال اس کا ہے (پس اگر) اولاد صرف (عورتیں ہوں دو سے زائد، تو ان کے لئے) میت کے (ترکہ کا دو تہائی ہے) اور اگر دو ہوں تب بھی یہی حکم ہے، کیونکہ اگر صرف دو بہنیں ہوتی ہیں، تو انھیں دو تہائی ملتا ہے، فرمایا فلہما الثلثان مما ترک، تو اگر دو بیٹیاں ہوں تو بدرجہ اولیٰ دو تہائی پائیں گی، اور اس لئے بھی کہ ایک بیٹی، جب ایک بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے

تو ایک تہائی پاتی ہے، تو اگر وہی ایک بیٹی، دوسری ایک بیٹی کے ساتھ ہو تو بدرجہ اولیٰ وہ ایک تہائی پائے گی، اور لفظ فوق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ صلہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ دو سے زائد ہونے کی صورت میں حصے کے بڑھ جانے کے وہم کو دور کرنے کے لئے ہے، کیونکہ جب یہ بتا دیا گیا کہ ایک بیٹی کے ساتھ ایک بیٹی ہو تو وہ ایک ثلث پاتی ہے، تو اس سے خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ صرف دو بیٹیاں ہوں گی، تو دو ثلث پائیں گی (اور اگر ایک بیٹی ہو) اور ایک قرأت میں ”واحدة“ مرفوع ہے، تب یہ کان تامہ ہے (تو اس کے لئے نصف ہے، اور اس کے) یعنی میت کے (ماں باپ کے لئے) اور اگر فقیرہ یعنی لکھل واحد منہما، لأبویہ سے بدل ہے، یعنی (ان دونوں میں سے ہر ایک کے لئے اس کے ترکے میں سے چھٹا حصہ ہے، اگر اس کے اولاد ہے) خواہ اولاد مرد ہو یا عورت، اور بدل اس لئے لائے ہیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ چھٹے حصے میں دونوں مشترک نہ ہوں گے، اور ولد ہی کے حکم میں پوتے بھی ہیں، اور باپ کے حکم میں دادا بھی شامل ہے۔

(پس اگر اس کے اولاد نہ ہو، اور اس کے وارث) صرف (ماں باپ ہوں) یا ان کے ساتھ بیوی بھی ہو (تو اس کی ماں کے لئے) فلائمہ میں ہمزہ پر ضمہ بھی ہے اور کسرہ بھی، اور کسرہ اس لئے کہ ضمہ سے کسرہ کی طرف منتقل ہونا نہ پایا جائے، کیونکہ یہ ثقیل ہے، اور یہ دونوں قرأت دونوں جگہ ہے (تہائی ہے) یعنی کل مال کا تہائی ہے، یا زوج کا حصہ دینے کے بعد جو باقی رہا اس کا تہائی، اور باقی باپ کا ہے (پس اگر اس کے متعدد بھائی ہوں) دو یا دو سے زائد، مرد یا عورت (تو اسکی ماں کے لئے چھٹا حصہ ہے) اور باقی باپ کا ہوگا، اور بھائیوں بہنوں کے لئے کچھ نہ ہوگا، اور جن کا ذکر کیا گیا ان کی وراثت (اس وصیت کے) نافذ کرنے کے (کے بعد ہوگی، جس کی وہ وصیت کرتا ہے) یوصی فعل معروف بھی ہے اور فعل مجہول ہے (یا اس کے دین کے) ادا کرنے کے (بعد ہوگی) جو اس کے ذمے ہے، دین پر وصیت کو مقدم کیا، اگرچہ تعمیل و ادائیگی میں دین مقدم ہے، اور وصیت اس کے بعد ہے، یہ اس لئے تاکہ اس کا اہتمام شان ظاہر ہو (تمہارے باپ اور تمہاری اولاد) یہ مبتداء ہے، اس کی خبر یہ ہے (تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے لئے) دنیا اور آخرت میں (نفع کے لحاظ سے کون قریب تر ہے) کوئی سمجھتا کہ اولاد نافع تر ہے، اور اسے میراث دے دیتا، لیکن اس کے بجائے باپ نافع تر ثابت ہوتا، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا، اسے جاننے والا تو اللہ ہی ہے، اس لئے اس نے خود ہی میراث کی تعیین کر دی (فریضہ ہے اللہ کی جانب سے، بیشک اللہ تعالیٰ) اپنی مخلوق کو (جاننے والے) اور ان کے لئے تدبیر کرنے میں (حکمت والے تھے) یعنی اس صفت کے ساتھ ان کا اتصاف لازوال ہے۔

(اور تمہارے لئے اس ترکہ کا نصف ہے، جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے، اگر ان کے اولاد نہ ہوں) خواہ تم سے یا تمہارے علاوہ سے (پس اگر ان کے اولاد ہوں، تو تمہارے لئے ان کے ترکہ کا چوتھائی ہے، اس

وصیت کے بعد جو انھوں نے کی ہے، یا دین کے بعد) اور اولاد کے ساتھ بیٹے کی اولاد بھی ملحق ہے بالا جماع (اور بیویوں کے لئے) خواہ وہ متعدد ہوں یا ایک (اس ترکے کا چوتھائی ہے، جو تم نے چھوڑا ہے اگر تمہارے لئے اولاد نہ ہوں، پس اگر تمہارے لئے اولاد ہوں) خواہ انھیں بیویوں سے یا دوسروں سے (تو ان کے لئے تمہارے ترکے کا آٹھواں حصہ ہے، اس وصیت کے بعد جو تم کرتے ہو یا دین کے بعد) اور بیٹے کی اولاد بھی اس مسئلہ میں بالا جماع اولاد ہی کے حکم میں ہے (اور اگر وہ آدمی جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، کلالہ ہے) یعنی نہ اس کا باپ موجود ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے (یا ایسی ہی کوئی عورت ہے) یعنی کلالہ ہے (اور اس) مورث کلالہ (کے ایک بھائی یا ایک بہن) ماں شریک (ہو) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں من أم موجود ہے (تو ان میں سے ہر ایک کے لئے) اس کے ترکے کا (چھٹا حصہ ہے اور) یہ ماں شریک بھائی بہن (اگر اس سے) یعنی ایک سے (زیادہ ہوں تو تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے) اس میں مرد و عورت سب برابر ہوں گے (اس وصیت کے بعد جو کی جاتی ہے یا دین کے بعد، اس طور پر کہ وہ ضرر پہونچانے والا نہ ہو) غیر مضار، یوصی کی ضمیر سے حال ہے، یعنی ایسی وصیت نہ ہو، جس سے ورثہ کو ضرر ہو، مثلاً یہ کہ ثلث سے زائد کی وصیت کر دے کہ اس سے ورثہ کو ضرر ہے (اللہ کی جانب سے وصیت ہے) وصیۃ مفعول مطلق ہے، یوصیکم کی تاکید کے لئے ہے (اور اللہ) اس تدبیر کو (جاننے والے ہیں) جو انھوں نے اپنی مخلوق کے لئے کر رکھی ہے (حلم والے ہیں) خلاف کرنے والے سے عقوبت کو موخر کرتے ہیں، وراثت کے اس حکم کو سنت نے ان لوگوں کے لئے خاص کر دیا ہے، جن میں وراثت سے مانع کوئی چیز نہیں ہے، یعنی قتل یا اختلاف دین یا غلامی (یہ) مذکورہ احکام جو یتیموں سے متعلق ہیں اور اس کے مابعد والے (اللہ کے حدود ہیں) یعنی شرعی احکام ہیں، جنہیں اپنے بندوں کے لئے اللہ نے متعین کر دیا ہے تاکہ ان پر عمل کریں اور ان سے تجاوز نہ کریں (اور جو کوئی) اللہ کے احکام میں (اللہ کی اور ان کے رسول کی اطاعت کرے گا) اللہ تعالیٰ (اسے ایسے باغوں میں داخل کریں گے) یدخلہ میں ایک قرأت ندخلہ بھی ہے بالنون، اور یہ التفات ہے (جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس کے حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے اس کو جہنم میں داخل کریں گے) یہاں بھی یدخلہ میں دونوں قرأتیں ہیں (اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا، اور) اس میں (اس کے لئے رسوا کن عذاب ہے) بڑی اہانت والا، دونوں آیتوں کے اندر ضمیروں میں لفظ من کی رعایت ہے، اور خالدین میں اس کے معنی کی۔

﴿ تشریحات ﴾

﴿ یُوصِیْکُمْ ﴾ یا مَرکُم ﴿ اللہ ﴾ : وصیت کے اصل معنی یہ ہیں کہ مرنے والا اپنے مرنے کے بعد کیلئے اپنے

وارثین کو کوئی حکم دے، اس لفظ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے، تو اس کے معنی تاکید کی حکم کے ہیں، کیونکہ وصیت میں تاکید کا مفہوم دلالت عقلیہ سے ثابت ہے۔

إذا اجتمعنا معہ : باپ کے مرنے کے بعد اگر ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہوں۔ تو نصف ترکہ بیٹے کا ہوگا۔ اور باقی نصف میں دونوں بیٹیاں برابر ہونگی، یعنی چار حصوں پر ترکہ تقسیم ہوگا، دو حصہ بیٹے کا اور ایک ایک حصہ بیٹیوں کا۔ اور اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو تو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ دو حصہ بیٹے کا اور ایک بیٹی کا، اور صرف ایک بیٹا ہو تو سارا مال اس کا ہے

و کذا لاثنتان الخ : قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اگر بیٹیاں دو سے زائد ہوں اور کوئی بیٹا نہ ہو، تو انکے لئے دو تہائی ترکہ برابر تقسیم ہوگا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر دو ہی بیٹیاں ہوں، تو وہ کتنا حصہ پائیں گی؟ حضرت مفسر نے جواب دیا کہ اگر صرف دو بیٹیاں ہو تو، وہ بھی دو تہائی ہی پائیں گی، نصف نصف تقسیم کر لیں گی۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر مورث کی صرف دو بہنیں ہیں، تو وہ دوثلث پاتی ہیں، چنانچہ سورہ نساء کے آخر میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فان کانتا اثنتین فلہما الثلثان مما ترک، اگر صرف دو بہنیں ہو تو انھیں دوثلث ملے گا، تو جب دو بہنوں کا حصہ دوثلث ہے، تو دو بیٹیوں کا بدرجہ اولیٰ یہ حصہ ہوگا

دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ایک بیٹی ایک بیٹے کے ساتھ ہو تو وہ ثلث پاتی ہے، تو اگر بجائے بیٹے کے ایک بیٹی کے ساتھ ہو تو بدرجہ اولیٰ ایک ثلث پائے گی، تو بیٹیاں ایک ایک ثلث کی مستحق ہوں گی، پس دوثلث کا تحقق ہو گیا۔

فوق قبل صلة : جب یہ بات ہے کہ دو بیٹیوں سے زائد ہوں، تب بھی دوثلث کی مستحق ہیں، اور اگر صرف دو ہوں، تب بھی دوثلث کی مستحق ہیں، تو بیان میراث میں فوق لانے میں کیا نکتہ ہے؟ اس کا ایک جواب مفسر نے یہ دیا ہے کہ بعض لوگوں نے فوق کو صلہ کہا ہے، یعنی یہ زائد ہے، عبارت اس طرح ہوگی، فان کن نساء اثنتین، اور مراد یہ ہے اثنتین فما فوق، اور اس مراد کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جزاء میں فلہما نہیں فرمایا، بلکہ فلہن فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم دو سے زیادہ پر بھی مشتمل ہے۔

دوسرا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی کا حصہ ثلث متعین فرمایا، تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر بیٹے کے بجائے ایک بیٹی کے ساتھ ہو، تو دونوں کے لئے دوثلث ہوگا، اس دلالت عقلیہ سے یہ وہم ہو سکتا ہے کہ اگر دو سے زائد بیٹیاں ہوں تو شاید حصہ بھی بڑھ جائے، اس وہم کو زائل کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ فوق اثنتین ارشاد فرمایا، کہ دو سے زائد بیٹیاں ہوں گی تب بھی وہی دوثلث ہوگا۔

وألحق بالولد ولد الابن : یعنی اگر میت کے بیٹا یا بیٹی تو نہ ہو، مگر پوتا یا پوتی ہو، تو اس صورت میں ماں اور

باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر باپ نہ ہو، مگر دادا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔

﴿وورثه أبواہ﴾ فقط أو زوج: یعنی اگر میت کے کوئی اولاد نہیں، صرف ماں باپ ہیں، یا ان کے ساتھ زوج بھی ہے، اس لفظ میں شوہر اور بیوی دونوں شامل ہیں، یعنی مرنے والا مرد ہے، تو بیوی، اور عورت ہے تو شوہر مراد ہے، تو ماں کو پہلی صورت میں کل مال کا ثلث ملے گا اور دوسری صورت میں شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد باقی ترکہ کا ثلث ملے گا اور باقی سب باپ کا ہوگا۔

بضم الهمزة وکسرھا: فلأمة الثلث میں دو قرأت ہے، ایک بضم ہمزۃ الام فلأمة الثلث، دوسرے بکسرۃ الهمزة یعنی فلأمة الثلث، یہ قرأت حمزہ اور کسائی کی ہے، چونکہ ضمہ کے بعد کسرہ متصلاً دشوار ہے، اور میم پر کسرہ متعین ہے، اس لئے ہمزہ کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا دیا، تاکہ دشواری کا ازالہ ہو جائے۔

امے لم یزل متصفاً بذلک: إن الله کان علیماً حکیماً سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم تھے، یعنی زمانہ ماضی میں اور اب؟ یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، اس کا جواب مفسر نے دیا کہ یہ کان انقطاع کے لئے نہیں ہے بلکہ دوام کی خبر کے لئے ہے، پس فرمایا کہ امے لم یزل متصفاً بذلک، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے منزہ ہیں۔

قرآن کریم میں کان متعدد معانی کے لئے آیا ہے، چنانچہ (۱) دوام کے معنی کیلئے ہے جیسے کان اللہ غفوراً رحیماً۔ (۲) انقطاع فی الماضی کے معنی میں ہے، اور یہی اس کا اصل معنی ہے جیسے وکان فی المدینة تسعة رهط۔ (۳) حال کے معنی میں ہے جیسے کنتم خیر امة۔ (۴) استقبال کے معنی میں ہے جیسے یخافون یوماً کان شرہ مستطیراً۔ (۵) صار کے معنی میں ہے جیسے وکان من الکافرین۔ (۶) ینبغی کے معنی میں ہے جیسے ماکان لکم أن تنبتوا شجرھا۔ (۷) حضر کے معنی میں ہے جیسے وإن کان ذو عسرة۔ (۸) اور تاکید کے معنی میں ہے جیسے کیف نکلم من کان فی المهد صبیاً۔

﴿ولهن﴾ امے الزوجات تعددن اولا: شوہروں کے ترکہ میں بیویوں کو جو حصہ ملے گا وہی ملے گا، خواہ ایک بیوی ہو، یا متعدد، ایک ہو تو وہ سب لے لے گی اور اگر متعدد ہوں گی تو برابر تقسیم کر لیں گی۔

﴿وإن کان رجل یورث﴾ صفة والخبر کلالۃ: یورث رجل کی صفت ہے، اور کلالۃ، کان کی خبر ہے، ترجمہ اس طرح ہوگا کہ ”اگر وہ مرد جس کا مال وراثت بن رہا ہے کلالہ ہے۔ کلالہ کا مطلب ہے ایسا آدمی جس کے نہ اولاد موجود ہو اور نہ ماں باپ۔“

﴿ولہ أخ أو أخت﴾ امے من أم: کلالہ مرد ہو یا عورت، اس کے ماں باپ یا اولاد نہیں ہے لیکن ایک بھائی یا ایک بہن ہے، مراد اس بھائی بہن سے اخیانی بھائی بہن ہیں، یعنی ماں شریک، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن

مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں من ام کا لفظ شامل تلاوت ہے۔

وخصت السنة: جن وارثوں کے استحقاق وراثت کا یہاں ذکر کیا گیا، سنت نبوی نے اسے ان لوگوں کے ساتھ خاص کیا ہے، جن میں وراثت سے کوئی مانع موجود نہ ہو، وراثت سے تین چیزیں مانع ہیں۔ اول یہ کہ وراثت نے مورث کو قتل کر دیا ہو، دوسرے یہ کہ وراثت اور مورث کے دین میں اتحاد نہ ہو، تیسرے یہ کہ دونوں میں سے کوئی ایک غلام ہو، ان تینوں صورتوں میں وراثت کا استحقاق نہ ہوگا۔

روعی فی الضمائر فی الآيتين الخ: دونوں آیتوں میں یعنی ومن يطع الله رسوله الخ میں اور ومن يعص الله ورسوله میں ضمیریں واحد لائی گئی ہیں، اس میں لفظ من کی رعایت ہے کہ وہ لفظاً واحد ہے، اور خالدین حال میں من کے معنی کی رعایت ہے، کیونکہ معنأ وہ جمع ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں حق تعالیٰ نے تقسیم و تعیین وراثت کا بقدر ضرورت بیان فرمایا ہے، چنانچہ اصولی طور پر فرمایا کہ مورث کی اولاد میں مرد اور عورت دونوں ہوں، تو مرد کو دو عورتوں کے بقدر حصہ ملے گا، مثلاً ایک بیٹا اور اگر ایک بیٹی ہو، تو ترکہ تین حصوں پر تقسیم ہوگا، دو حصہ بیٹے کا اور ایک حصہ بیٹی کا، اور اگر ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہوں تو نصف بیٹے کا ہوگا اور دوسرے نصف میں وہ دونوں شریک ہوں گی، اور اگر صرف بیٹا ہی ہو، تو سارا ترکہ اس کا ہے۔

اور اگر اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں، دو ہوں یا دو سے زائد، تو وہ ترکہ کا دو ٹکٹ پائیں گی، اور اگر ایک ہی بیٹی ہو اور لڑکانہ ہو، تو وہ ترکہ کا نصف پائے گی، اور اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہے، اور والدین بھی ہیں، تو ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر اس کے اولاد نہ ہوں اور وارث محض ماں باپ ہوں، یا ان کے ساتھ شوہر یا بیوی بھی ہو، تو ماں کو کل کا یا زوج کو دینے کے بعد جو بچے اس کا تہائی ملے گا، اور باقی باپ کا ہوگا، اور اگر میت کے بھائی یا بہن بھی موجود ہوں، تو ماں کا حصہ گھٹ کر چھٹا ہو جائے گا، اور باقی باپ کا، لیکن بھائی کچھ نہ پائیں گے۔

یہ سارا ترکہ اس وقت تقسیم ہوگا، جب میت کی وصیت پوری کر دی جائے، اور اس پر جو دین رہا ہے، اسے ادا کر دیا جائے۔ تم کو پتہ نہیں کہ باپ بیٹوں میں کون میت کے لئے مفید تر ہوگا، اس لئے تقسیم ترکہ کو مرنے والے کے اختیار پر محمول نہیں کیا، بلکہ براہ راست حق تعالیٰ نے جو کہ علیم و حکیم ہیں، ہر ایک کا مناسب حصہ مقرر فرما دیا۔

یہاں تک تو والدین اور اولاد کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو، اور اگر اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کے ترکے میں شوہر کا حق نصف ہوگا، اور اگر اس کے اولاد ہے، خواہ اس شوہر سے یا دوسرے کسی شوہر سے، تو موجودہ شوہر کو اس کے ترکہ کا چوتھائی ملے گا۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہوا، اور اس کے وارثوں میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو کل ترکہ کا چوتھائی ملے گا، اور اگر اس کی اولاد بھی موجود ہے، تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ ان دونوں مسئلوں میں بھی تعمیل وصیت اور قضاء دین کا مسئلہ مقدم ہوگا، اولاد میں پوتی پوتے اولاد ہی کے حکم میں ہیں۔

اور اگر میت خواہ وہ مرد ہو یا عورت کلالہ ہے، یعنی اس کے نہ باپ ہے اور نہ اولاد، ہاں اس کے اخیانی یعنی ماں شریک بھائی یا بہن موجود ہے، تو دونوں میں ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر یہ اخیانی بھائی بہن ایک سے زائد ہوں، تو ثلث میں سب برابر کے شریک ہوں گے، خواہ بھائی ہوں یا بہن، اس میں بھی تعمیل وصیت کا لحاظ رکھا جائے گا، بشرطیکہ وہ وصیت ضرر رساں نہ ہو، یعنی ورثہ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کیا گیا ہو، مثلاً تہائی سے زیادہ کی وصیت نہ ہو۔

یہ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، پس جو کوئی اللہ و رسول کی اطاعت کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں شرف داخلہ عنایت فرمائیں گے، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اور رسوائی کے عذاب میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔



﴿وَالَّتِي يَاتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ﴾ الزنا ﴿مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ امے من رجال المسلمين ﴿فَإِنْ شَهِدُوا﴾ عليهن بها ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ احبسوهن ﴿فِي الْبُيُوتِ﴾ وامنعهن من مخالطة الناس ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ﴾ امے ملا نكته ﴿أَوْ﴾ إلى أن ﴿يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ طريقاً الى الخروج منها، أمروا بذلك اول الاسلام ثم جعل لهن سبيلاً بجلد البكر مائة وتغريبها عاماً ورجم المحصنة وفي الحديث لما بين الحد قال صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً

﴿وَالَّذَانِ﴾ بتخفيف النون وتشديد هاء ﴿يَاتِيَانَهَا﴾ اي الفاحشة الزنا أو اللواطه ﴿مِنْكُمْ﴾ اي من الرجال ﴿فَأَذُوهُمَا﴾ بالسب والضرب بالنعال ﴿فَإِنْ تَابَا﴾ منهما ﴿وَأَصْلَحَا﴾ العمل ﴿فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ ولا تؤذوهما ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا﴾ على من تاب ﴿رَحِيمًا﴾ به وهذا منسوخ بالحد إن أريد به الزنا وكذا إن أريد بها اللواطه عند الشافعي لكن المفعول به لا يرجم

عنده وإن كان محصناً بل يُجْلَدُ وَيُغْرَبُ وإرادة الواطة أظهر بدليل تشية الضمير والاول قال أراد الزانى والزانية ويرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال وإشتراكهما فى الاذى والتوبة والاعراض وهو مخصوص بالرجال لما تقدم فى النساء من الحبس

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ﴾ اى التى كتب على نفسه قبولها بفضله ﴿لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ﴾ المعصية ﴿بِجَهَالَةٍ﴾ حال اى جاهلين إذا عصوا ربهم ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ﴾ زمن ﴿قَرِيبٍ﴾ قبل أن يغرغروا ﴿فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ يقبل توبتهم ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ بخلقه ﴿حَكِيمًا﴾ فى صنعه بهم ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ الذنوب ﴿حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ وأخذ فى النزاع ﴿قَالَ﴾ عند مشاهدة مافيه ﴿إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه ﴿وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ إذا تابوا فى الآخرة عند معاينة العذاب لا تقبل منهم ﴿أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا﴾ أعددنا ﴿لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ مولماً ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ ذاتهن ﴿كَرْهًا﴾ بالفتح والضم لغتان اى مكرهين، على ذلك كانوا فى الجاهلية يرثون نساء أقربائهم فان شاءوا تزوجواها بلا صداق أو زوجوها وأخذوا صداقها وعضلوا حتى تفتدى بما ورثته أو تموت فيرثونها فنهوا عن ذلك ﴿وَلَا أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ﴾ اى تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم بامساكهن ولا رغبة لكم فيهن ضراراً ﴿لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ من المهر ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ﴾ بفتح الياء وكسرها اى بينت أو هى بينة اى زنا أو نشوزاً فلکم أن تضاروهن حتى يفتدين منكم ويختلعن ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ بالاجمال فى القول والنفقة والمبيت ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ﴾ فاصبروا ﴿فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ ولعله يجعل فيهن ذلك بان يرزقكم منهن ولداً صالحاً ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ اى اخذها بدلها بأن طلقتموها ﴿وَقَدْ آتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ﴾ اى الزوجات ﴿فِنْطَارًا﴾ مالا كثيراً صداقاً ﴿فَلَا تَأْخُذُونَهُ مِنْهُ شَيْئًا تَأْخُذُونَهُ بِهْتَانًا﴾ ظلماً ﴿وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ بيناً نصبهما على الحال والاستفهام للتوبيخ وللانكار فى ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ﴾ اى بأى وجه ﴿وَقَدْ أَفْضَىٰ﴾ وصل ﴿بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ بالجماع المقرّر للمهر ﴿وَإِذَا أَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا﴾ عهداً ﴿غَلِيظًا﴾ شديداً وهو ما أمر الله به من إمساكهن بمعروف أو تسريح باحسان ﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾ ما بمعنى من ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا﴾ لكن ﴿مَا قَدْ سَلَفَ﴾ من فعلكم فانه مغفور

عنه ﴿إِنَّهُ﴾ ای نکاحهن ﴿كَانَ فَاحِشَةً﴾ قبیحاً ﴿وَمَقْتًا﴾ سبباً للمقت من الله وهو أشد البغض ﴿وَسَاءَ﴾ بس ﴿سَبِيلًا﴾ طریقاً ذلك۔

ترجمہ

(اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو فاحشہ) یعنی زنا (کا ارتکاب کریں، ان پر اپنے لوگوں) یعنی مسلمان مردوں (میں سے چار کو گواہ بناؤ، پس اگر وہ) ان پر اس کی (گواہی دیں، تو انہیں گھروں میں بند رکھو) اور لوگوں سے ملنے جلنے سے روک دو (یہاں تک کہ موت) یعنی موت کا فرشتہ (ان کی روح قبض کر لے، یا) اس وقت تک کہ (اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دیں) یعنی اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ کھول دیں، ابتداء اسلام میں مسلمانوں کو یہی حکم تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک راستہ متعین فرمایا، وہ یہ کہ کنواروں کو سو کوڑا لگایا جائے، اور سال بھر کے لئے انہیں جلاوطن کر دیا جائے، اور جو شادی شدہ ہیں، انہیں رجم کر دیا جائے، اور حدیث میں ہے کہ جب حد زنا والی آیت اتری تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خذوا عنی خذوا عنی قد جعل الله لهن سبيلاً، رواه مسلم، ترجمہ: مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک راہ متعین کر دی۔

(اور تم میں سے وہ دو شخص) اللذان نون کی تخفیف کے ساتھ بھی ہے، اور تشدید کے ساتھ بھی (اس کا) یعنی فاحشہ کا، زنا ہو یا لواطت کا (ارتکاب کریں پس انہیں) برا بھلا کہہ کر اور جو توتوں وغیرہ سے مار مار کر (تکلیف پہنچاؤ، پھر اگر وہ) اس سے (توبہ کر لیں اور) اپنے عمل کی (اصلاح کر لیں، تو ان سے درگزر کرو) یعنی انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ (بے شک اللہ تعالیٰ) توبہ کرنے والوں پر (نظر عنایت اور مہربانی فرماتے ہیں) اس آیت میں فاحشہ سے مراد اگر زنا ہے، تو حد زنا والی آیت سے منسوخ ہے، اور اگر اس سے لواطت مراد ہے، تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک وہ بھی منسوخ ہے، لیکن ان کے نزدیک وہ شخص جس سے لواطت کی گئی ہے، اسے رجم نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ محسن ہو، بلکہ اسے کوڑوں اور جلا وطنی کی سزا دی جائے گی، اور یہاں لواطت کا معنی مراد لینا زیادہ ظاہر اور قرین قیاس ہے، کیونکہ تشنیہ کی ضمیر لائی گئی ہے، اور اول نے زانی اور زانیہ مراد لیا ہے، لیکن تشنیہ کے بعد من بیانہ کا ضمیر رجال یعنی کُھم پر آنا، زانیہ اور زانی مراد لینے سے مانع ہے، اسی طرح دونوں کا ایذا ہی میں اور توبہ میں اور اعراض کے حکم میں شریک ہونا بھی اس مراد سے مانع ہے، کیونکہ اوپر گزر چکا ہے کہ عورتوں کو گھروں میں بند رکھا جائے گا۔

(اللہ کے ذمے توبہ) جس کی قبولیت اللہ نے اپنے اوپر اپنے فضل و کرم سے لکھ دی ہے (ان لوگوں کے لئے ہے، جو جہالت کی وجہ سے برائی کرتے ہیں) یعنی جب خدا کی نافرمانی کرتے، تو وہ جاہل ہی ہوتے ہیں

(پھر جلد ہی) یعنی نزع کی حالت سے پہلے (وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر عنایت فرماتے ہیں) یعنی ان کی توبہ قبول کرتے ہیں (اور اللہ تعالیٰ) اپنی مخلوق سے (باخبر اور) اور ان کے اندر تصرف کرنے میں (حکیم ہیں) اور توبہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے (کسی پر موت آتی ہے) یعنی نزع کی حالت شروع ہوتی ہے (تو) اپنی اس حالت کو دیکھ کر جس میں وہ گرفتار ہے (کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں) اس وقت اس کو وہ توبہ نفع نہیں دیتی اور نہ قبول ہوتی ہے (اور نہ ان لوگوں کے لئے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں) جب وہ آخرت میں عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کریں گے، تو وہ قبول نہ ہوگی (یہی لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لئے عذاب دردناک تیار کیا ہے) اَلِیْمٌ بِمَعْنٰی مَوْلَمٌ ہُوَ (اے ایمان والو! تمہارے لئے درست نہیں ہے کہ تم عورتوں) کی ذات (کے زبردستی وارث بن جاؤ) کراہاً کاف کے فتح اور ضمہ دونوں کے ساتھ ہے، یہ دو لغتیں ہیں، یعنی جبراً ان کے وارث مت بنو، جاہلیت میں دستور تھا کہ وارثین اپنے اقرباء کی بیویوں کو مال وراثت قرار دے کر ان کے مالک بن جاتے تھے، پھر اگر چاہتے تو بغیر مہر کے نکاح کر لیتے، یا کسی سے نکاح کر دیتے اور مہر خود لے لیتے، یا اسے اتنا مجبور کرتے کہ وراثت میں پایا ہوا مال وہ بطور فدیہ کے دے کر چھٹکارا حاصل کرتی، یا وہ بیونہی مر جاتی اور یہ لوگ اس کے وارث بن جاتے، اس سے منع کیا گیا (اور نہ یہ کہ عورتوں کو تم) اپنے علاوہ دوسروں سے نکاح کرنے سے (روکو) اس طرح کہ انھیں اپنے پاس جبراً روکے رکھو، حالانکہ تمہیں ان کے اندر رغبت نہیں (تا کہ جو مہر تم نے انھیں دے رکھی ہے، اس کا کوئی حصہ تم لے لو، مگر یہ کہ وہ کسی فاحشہ کا ارتکاب کریں) مُبِیِّنَةٌ یاء کے فتح کے ساتھ یعنی بَیِّنَةٌ اور یاء کے کسرہ کے ساتھ یعنی یَیِّنَةٌ زنا یا نشوز، تب تمہیں حق ہے کہ ان پر جبر کرو، تا کہ وہ فدیہ دے کر خلع کرا لیں (اور ان کے ساتھ حق دستور کے مطابق زندگی بسر کرو) یعنی بات چیت میں، نفقہ میں اور شب باشی میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو (پس اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو) صبر کرو (ہوسکتا ہے کہ تم کو ایک چیز ناپسند ہو، اور اللہ تعالیٰ اس میں بڑا خیر رکھ دیں) اور شاید اسی ناپسندیدہ بیوی سے کوئی خیر عطا فرمادیں، مثلاً کوئی اچھی اولاد عطا فرمادیں (اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی سے بدلنا چاہو) یعنی اسے طلاق دے کر دوسری بیوی لانا چاہو، اس حال میں کہ ان (بیویوں) میں سے کسی کو ڈھیر سا رامال) مہر میں (دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لو، کیا تم اس کو بہتان) یعنی ظلم (اور کھلے گناہ کے طور پر لوگے؟) بہتانا اور اِثْمًا مَبِیِّنًا کا نصب بر بنائے حال ہے اور استفہام تو بیخ کے لئے ہے اور وکیف تأخذونہ میں انکار کے لئے ہے (اور تم کیونکر) یعنی کس وجہ سے (اسے لوگے، حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے کے پاس) اس جماع کے ساتھ جو مہر کو مومؤ کد کرنے والا ہے (پہونچ چکا ہے، اور انھوں نے تم سے مضبوط عہد لے لیا ہے) یہ عہد وہی حکم خداوندی ہے کہ اللہ نے حق دستور کے مطابق ان کو اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا ہے، یا

پھر اچھے طریقے پر آزاد کر دینے کا حکم دیا ہے (اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو) ما بمعنی من ہے (مگر جو کچھ گزر چکا) یعنی جو کام اس قسم کا ہو چکا، وہ درگزر ہے (پیشک یہ) یعنی باپ کی بیویوں سے نکاح (برائے، اور) اللہ کی (ناراضگی) کا سبب (ہے) مقت بمعنی شدید ناراضگی کے ہے (اور برا راستہ ہے)

﴿تشریحات﴾

اے رجالکم المسلمین : منکم کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ زنا کے باب میں نہ عورت کی گواہی معتبر ہے، نہ کافر کی۔

اے ملائکتہ : حتیٰ یتوفاھن الموت میں الموت سے پہلے مضاف ملائکہ محذوف ہے، کیونکہ توفیٰ کے معنی موت ہی ہے، تو اس صورت میں تقدیر عبارت یوں ہوگی کہ حتیٰ یمیتھن الموت، اور یہ درست نہیں، کیونکہ اس میں اسناد الشیء الیٰ نفسہ ہے، پس ملائکہ کو محذوف مان لیا گیا۔

﴿أو﴾ الیٰ أن : أو يجعل اللہ میں يجعل منصوب ہے، کیونکہ یہ أو، الیٰ أن کے معنی میں ہے۔

وهذا منسوخ بالحد الخ : واللذان یاتیانہا منکم فأذوہما الخ، اس آیت میں مفسر نے فاحشہ کی تفسیر ایک قول کے مطابق زنا سے کی ہے، اور دوسرے قول کے مطابق لواطت سے کی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر فاحشہ سے مراد زنا ہو تو یہ آیت حد زنا کی آیت کی وجہ سے منسوخ ہے، اور اگر اس سے مراد لواطت ہو، تو وہ بھی امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق حد زنا سے منسوخ ہے، چنانچہ فعل فتیح کے مرتکب کو وہی سزا دی جائے گی، جو زانی کو دی جاتی ہے، لیکن اس میں اتنا فرق ہے کہ جس سے لواطت کی گئی وہ اگر چہ شادی شدہ (محصن) ہو، لیکن اسے سنگسار نہیں کیا جائے گا، بلکہ سوکوڑے لگا کر جلا وطن کر دیا جائے گا۔

وإرادة اللواطۃ أظهر : اس عبارت سے مفسر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ واللذان یاتیانہا منکم میں فاحشہ سے لواطت مراد لینا قرین قیاس ہے، کیونکہ ضمیر تشنیہ لائی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمی باہم فاحشہ کا ارتکاب کریں، اور یہ بات لواطت میں ہی متصور ہے، لیکن جن لوگوں نے زنا مراد لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ضمیر تشنیہ سے مراد زانی اور زانیہ ہیں، مگر ان کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ضمیر تشنیہ کا بیان منکم سے آیا ہے، جو مذکر کی ضمیر ہے، دوسرے یہ کہ یہ دونوں ایذا دہی، توبہ اور اعراض میں شریک ہیں، اور یہ تینوں باتیں مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں، کیونکہ زانیہ عورت کا حکم پہلی آیت میں آچکا ہے کہ اسے گھر میں بند رکھا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اسے مارا جائے گا، نہ اس کی توبہ اس کو اس قید سے نجات دلائے گی، اور نہ اس سے اعراض کیا جائے گا۔

اے التی کتب علیٰ نفسہ قبولہا : مفسر کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ علی اللہ کا لفظ خبر نہیں، بلکہ التوبۃ

کی صفت ہے جس کی توضیح التی کتب سے کی ہے، یعنی إِنَّمَا التَّوْبَةُ التِّي كَتَبَ اللَّهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ قَبُولَهَا بفضله، اس کی خبر للذین يعملون السوء ہے، پھر اس کی تفسیر سے ایک اعتراض کا جواب بھی مقصود ہے، اعتراض یہ ہے، اللہ کے ذمے بندوں کا کوئی حق لازم اور واجب نہیں ہے، اور إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ سِيسَا مفہوم ہوتا ہے کہ خدا کے ذمے اس توبہ کا قبول کرنا لازم ہے، یہ عقیدہ لزوم و وجوب کا معتزلہ کے نزدیک ہے، مفسر نے جواب دیا کہ خدا کے ذمے کوئی حق بندوں کا لازم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اس توبہ کا قبول کرنا لازم کر لیا ہے۔

حال امے جاہلین: بجهالة ترکیب میں حال ہے، آدمی جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ جہالت ہی سے کرتا ہے، اس کو اس وقت انجام کی خبر نہیں ہوتی۔

قبل أن يغرغروا: غرغرة کے معنی یہ ہیں کہ منہ میں پانی لے کر آدمی حلق کے اندر نہ جانے دے، نہ وہ باہر آئے اور نہ اندر جائے، اسی کیفیت کا نام غرغره ہے، نزع کی حالت میں حلق تک روح پہنچتی ہے، ابھی نکلی نہیں ہوتی، اسے بھی غرغره کہتے ہیں، اس کیفیت میں آخرت اور برزخ کے احوال مشاہد ہو جاتے ہیں، موت کی گھڑی تک کا وقت ”قریب“ ہے، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں، اس معنی کا قرینہ دوسری آیت ہے، فرمایا ہے: حتیٰ إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن۔

ولیست التوبة للذین: یہ آیت گنہگار اور کافروں کو شامل ہے، گناہ میں ملوث ہونے کی حالت میں اسے موت آجاتی ہے تو عین موت کے وقت پر نہ کافر کا ایمان قبول ہوتا ہے، نہ گنہگار کی توبہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا باسنا۔ فرعون بھی عین ڈوبنے کی حالت میں ایمان لایا تھا، مگر اس کا اعتبار نہ ہوا۔ حتیٰ إذا أدرکه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذی آمنت به بنو اسرائیل وأنا من المسلمین، آآن وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین (سورہ یونس)

فلا ینفعه ذلک: تحقیق یہ ہے کہ موت کا قرب قبول توبہ سے مانع نہیں ہے، بلکہ آخرت اور برزخ کے احوال جب جانکنی میں دکھائی دینے لگیں تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

ذاتهن: لایحل لکم أن ترثوا النساء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد، عورت کے مرنے کے بعد اس کا وارث نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی ذات مال وراثت نہیں بنے گی، کہ کوئی وارث اسے اپنے قبضے میں لے لے۔

جاہلیت میں دستور تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی مال موروث بن جاتی تھی، شوہر کا بیٹا جو کسی اور بیوی سے ہوتا، یا اس کا کوئی قریبی وارث عورت پر چادر ڈال دیتا، تو وہ اس کی وراثت میں آجاتی، وہ چاہتا تو

اس سے خود نکاح کر لیتا اور مہر نہ دیتا کہ اس کا مورث مہر دے چکا ہے، یا اس کی مرضی کے بغیر دوسرے سے نکاح کرتا اور مہر وصول کر لیتا، یا یونہی روکے رہتا، حتیٰ کہ اس عورت نے اپنے شوہر سے جو مہر اور وراثت پائی ہوتی، اسے لوٹا کر اپنی جان چھڑاتی، یا وہ خود مر جاتی اور یہ اس کی وراثت لے لیتا، اس رسم بد کو اس آیت کریمہ میں ختم کیا گیا۔
 کرھا بالفتح والضم لغتان : یہ دو قرأتیں ہیں، یہ لفظ مصدر ہے بمعنی اسم فاعل اور ترکیب میں حال ہے، اسی لئے حضرت مفسر نے اس کی تفسیر مکرہین سے کی ہے۔

ای تمنعوا أزواجکم عن نکاح غیر کم الخ : یہ لاتعضلوہن کی تفسیر ہے، عضل کے معنی تنگ کرنے اور روکنے کے ہیں، تو لاتعضلوہن کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی بیویوں کو ناپسند کرتے ہو، اور انھیں آزاد بھی نہیں کرتے، بلکہ پھنسا کر رکھتے ہو، نہ وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتیں، اور نہ تمہارے یہاں اطمینان سے رہتیں، تو ایسا مت کرو، انھیں نہ روکو، نہ تنگ کرو۔

إلا أن یاتین فاحشة مبینة : مبینة میں دو قرأت ہے، ایک بفتح الباء، تب یہ اسم مفعول ہے، یعنی کھلا ہوا فاحشہ، دوسری بکسر الباء بمعنی بینة اس کے معنی بھی وہی ہیں، اس سے مراد زنا ہے، یا نشوز ہے، یعنی عورت شوہر سے سرتابی کرے اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے۔ اس صورت میں عورت کو مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ فدیہ دے کر خلع کرا لے۔

بالاجمال فی القول والنفقة والمبیت : یہ عاشروہن بالمعروف کی تفسیر ہے، یعنی بات چیت میں، خرچ دینے میں، اور اس کے ساتھ رات گزارنے میں حسن سلوک کا خیال رہے۔

والاستفہام للتوبیخ وللانکار فی کیف الخ : أتأخذونہ بہتانا وإثماً مبیناً میں استفہام توبیخ کے لئے ہے، اور و کیف تأخذونہ میں انکار کے لئے ہے۔

بالجماع المقرّر للمہر : جماع کی وجہ سے مہر موکد ہو جاتی ہے، اب اس کے ساقط ہونے کا احتمال نہیں رہتا۔
 وهو ما أمر الله به : میثاق غلیظ سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جو عورتوں کے باب میں مردوں کو اللہ کی جانب سے ہے، یعنی قاعدے اور حسن سلوک کے ساتھ ان کو روکنا، یا اچھے طریقے پر طلاق دے کر رخصت کر دینا۔

﴿إلا﴾ لکن ﴿ما قد سلف﴾ : إلا کی تفسیر مفسر لکن سے اسی وقت کرتے ہیں جب استثناء منقطع ہوتا ہے، اور یہاں بھی یہی بات ہے، کیونکہ یہ استثناء ولا تنکحوا مانکح آباء کم من النساء سے ہے، اور مستقبل کا صیغہ ہے اور إلا ما قد سلف ماضی کا صیغہ ہے، اور ظاہر ہے کہ مستقبل سے ماضی کا استثناء متصل ممکن نہیں، اس لئے یہ استثناء منقطع متعین ہے۔

سبباً للمقت : مقتاً مصدر ہے، اور یہاں مجاز ہے، مراد سبب مقت ہے، مقت کے معنی شدید بغض کے ہے۔

﴿ مضامین آیات و تفسیر ﴾

اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق چند احکام ذکر فرمائے ہیں۔ اس کے ضمن میں دو مردوں میں ہم جنسی کے گناہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، وہ احکام بالترتیب ذکر کئے جاتے ہیں۔

(۱) جو عورت زنا کا ارتکاب کرے، اس کے لئے ابتداءً یہ حکم دیا گیا کہ اس کو گھر میں بند رکھیں، گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دیں، البتہ یہ ہے کہ اس جرم کے ثبوت اور یہ سزا دینے کے لئے چار مسلمان مردوں کی گواہی شرط ہے، جب چار مردوں کی گواہی سے یہ جرم ثابت ہو جائے گا تو اسے گھر میں روک رکھا جائے گا۔ یہ سزا اس وقت تک ہے جب تک اس کی موت نہ آجائے، یا جب تک اس کے لئے کوئی دوسری راہ نہ کھولی جائے، چنانچہ جب حد زنا کی آیت الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحدٍ منهما مائة جلدة الخ نازل ہوئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے راستہ کھول دیا۔ اب گھروں میں بند رکھنے کی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اب یہ حکم ہے کہ اگر زانیہ شادی شدہ ہے، تو جرم ثابت ہونے پر سنگسار کر دی جائے گی، ورنہ سو کوڑے لگائے جائیں گے۔

(۲) دو مرد اگر آپس میں بدکاری کریں، تو انھیں ستایا جائے، خواہ مار کر یا برا بھلا کہہ کر، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنا حال درست کر لیں تو ان سے درگزر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں، توبہ تو انھیں لوگوں کی قبول ہوتی ہے، جو جہالت سے برائی کر بیٹھتے ہیں، پھر موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، اور جو برائیوں میں ملوث رہتے ہیں، اور اسی حالت میں جانکی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، اور موت کے آثار مشاہدہ میں آجاتے ہیں، تو اس وقت توبہ کی قبولیت بند ہو جاتی ہے، اسی طرح جو لوگ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، اور آخرت میں ایمان لاتے ہیں، ان کا بھی ایمان معتبر نہیں ہوتا، ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

(۳) زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ عورت کا شوہر مر جاتا، تو خود وہ عورت مال وراثت بن جاتی، شوہر کا بیٹا جو دوسری بیوی سے ہوتا، اسے اپنے قبضے میں لے لیتا، یا دوسری قریبی اعزہ اس پر قابض ہو جاتے، پھر چاہتے تو بغیر مہر کے نکاح کر لیتے، یا دوسرے سے نکاح کر دیتے اور مہر وصول کر لیتے، یا یونہی قید میں رکھتے اور وہ مجبور ہو کر اپنی مہر بطور فدیہ کے دے کر آزاد ہوتی، یا پڑی پڑی مر جاتی، اس رسم بد کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو مال وراثت بنانا جائز نہیں ہے، اور نہ انھیں بزور بردستی روکے رہنا درست ہے، یہاں تک کہ اگر بیوی کو شوہر ناپسند کرتا ہے لیکن اس سے نہ صحیح تعلق رکھتا اور نہ چھوڑتا، کہ وہ مہر لے کر چلی جائے گی، تو اس لئے اسے روکے ہوئے ہے کہ دی ہوئی مہر اس سے واپس لے لے، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، یہ کتنی بری بات ہے کہ جو مہر

تم انھیں دے چکے ہو، جبر و قہر کے ذریعے تم ان سے چھیننا چاہتے ہو، ہاں اگر وہ بالکل ہی نافرمانی پر تل جائیں یا زنا کا کلنک اپنے ماتھے پر لگالیں تو البتہ تمہارے لئے گنجائش ہے کہ انھیں اس حد تک مجبور کرو کہ وہ مال مہر واپس کر کے خلع کرائیں۔

(۴) عورتوں کے ساتھ تمہاری معاشرت حسن و خوبی کے ساتھ ہونی چاہئے۔ بات چیت میں بھی، نان نفقہ میں بھی اور ان کے ساتھ رات گزارنے میں بھی، اور اگر کسی وجہ سے بیویاں تمہیں ناپسند بھی ہوں، تب بھی مفارقت میں جلد بازی نہ کرو، صبر کئے رہو، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بڑا خیر رکھا ہو، مثلاً کوئی بہترین اولاد حاصل ہو جائے۔

(۵) اور اگر تم نے یہ قطعی ارادہ بنا لیا ہے کہ اس کو طلاق دے کر دوسری بیوی لانی ہے، اور تم نے اسے مہر میں بہت سا مال دے دیا ہے تو اس میں سے کچھ واپس لینے کی تدبیر نہ کرو، ظاہر ہے کہ عورت کا مال لینا ظلم و بہتان سے ہوگا، کہ اس پر کوئی تہمت لگاؤ گے، اور مہر کی واپسی کا جواز پیدا کرو گے، حالانکہ جب تم دونوں باہم صحبت و مباشرت کا تعلق قائم کر چکے، اور مہر پکی ہو چکی اور اللہ کی طرف سے حسن معاشرت کا تاکید حکم نافذ ہو چکا، گویا کہ وہ تم سے اس کا قول و قرار لے چکی، تو اب کیونکر اس کا مال چھیننے کی فکر کرتے ہو۔

(۶) اور یہ بھی خیال رہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو، وہ تمہارے لئے حرام ہیں، ان سے نکاح مت کرو، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا، وہ ہو چکا، مگر آئندہ یہ قطعی حکم ہے، یہ بڑی بے حیائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور بری راہ ہے۔



﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ﴿أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ ﴿وَشَمِلَتِ الْجَدَاتُ مِنْ قَبْلِ الْآبِ أَوْ الْأُمَّهَاتُ﴾ ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ ﴿وَشَمِلَتِ بَنَاتُ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلْنَ﴾ ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ ﴿مِنْ جِهَةِ الْآبِ أَوْ الْأُمَّهَاتُ﴾ ﴿أَيَّ أَخَوَاتِ آبَائِكُمْ وَأَجْدَادِكُمْ﴾ ﴿خَالَاتُكُمْ﴾ ﴿أَخَوَاتِ أُمَّهَاتِكُمْ وَجَدَاتِكُمْ﴾ ﴿وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ﴾ ﴿وَتَدْخُلُ فِيهِنَّ بَنَاتُ أَوْلَادِهِنَّ﴾ ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعُنَّكُمْ﴾ ﴿قَبْلَ اسْتِكْمَالِ الْحَوْلَيْنِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ كَمَا بَيَّنَّهُ الْحَدِيثُ﴾ ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ﴾ ﴿وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ بِالسَّنَةِ الْبَنَاتُ مِنْهَا وَهِنَّ مَنْ أَرْضَعْتَهُنَّ مَوْطُوءَةً وَالْعَمَاتُ وَالْخَالَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ مِنْهَا لِحَدِيثٍ يَحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرِمُ مِنَ النَّسَبِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ﴾ ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ﴾ ﴿جَمْعُ رَبِيَّةٍ وَهِيَ بِنْتُ الزَّوْجَةِ مِنْ غَيْرِهِ﴾ ﴿الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ ﴿تَرْبُونَهَا صِفَةٌ مُوَافِقَةٌ لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهَا﴾ ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾

ای جامعتموهن ﴿ فَإِنَّ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجِنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ فی نکاح بناتهن إذا فارقتموهن ﴿ وَحَلَائِلُ ﴾ ازواج ﴿ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾ بخلاف من تبینتموهن فلکم نکاح حلائلهم ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ من نسبٍ أو رضاعٍ بالنکاح ویلحق بهن بالسنة الجمع بينها وبين عمتها وخالتها ویجوز نکاح کل واحدة علی الانفراد وملكهما معاً ویطأ واحدة ﴿ إِلَّا ﴾ لکن ﴿ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ فی الجاهلیة من نکاحکم بعض ما ذکر فلا جناح علیکم فيه ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا ﴾ لما سلف منکم قبل النهی ﴿ رَحِيمًا ﴾ بکم فی ذلك ﴿ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ **الْمُحْصَنَاتُ** ﴿ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ ﴾ مِنَ النِّسَاءِ ﴿ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَبْلَ مَفَارِقَتِهِنَّ إِذَا كُنَّ مَسْلُومَاتٍ كُنَّ أَوْلَىٰ ﴾ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴿ مِنَ الْأَمْوَالِ ﴾ بالسیبی فلکم وطؤون وإن کان لهن ازواج فی دار الحرب بعد الإستبراء ﴿ كَتَبَ اللَّهُ ﴾ نصب علی المصدر ای کتب ذلك ﴿ عَلَيْكُمْ وَأَحْلًا ﴾ بالبناء للفاعل والمفعول ﴿ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾ ای سوی ما حرم علیکم من النساء ﴿ أَنْ تَبْتَغُوا ﴾ تطلبوا النساء ﴿ بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ بصدقات أو ثمن ﴿ مُحْصِنِينَ ﴾ متزوجین ﴿ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ زانین ﴿ فَمَا ﴾ فمن ﴿ اسْتَمْتَعْتُمْ ﴾ تمعتم ﴿ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ ممن تزوجتم بالوطی ﴿ فَاتَوْهِنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ مهورهن التي فرضتم لهن ﴿ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ ﴾ أنتم وهن به ﴿ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ من حطها أو بعضها أو زیادة علیها ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ﴾ بخلقه ﴿ حَكِيمًا ﴾ فيما دبره لهم ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ﴾ غنًا ﴿ أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ الحرائر ﴿ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ هو جرى علی الغالب فلا مفهوم له ﴿ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ ینکح ﴿ مِنْ فَتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ ﴾ فاكتفوا بظاهره وکلوا السرائر الیه فانه العالم بتفاصيلها ورب أمة تفضل الحررة فيه وهذا تانیس بنکاح الاماء ﴿ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ ای أنتم وهن سواء فی الدین فلا تستنکفوا من نکاحهن ﴿ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ مواليهن ﴿ فَاتَوْهِنَّ ﴾ اعطوهن ﴿ أَجُورَهُنَّ ﴾ مهورهن ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ من غیر مطلق ونقص ﴿ مُحْصَنَاتٍ ﴾ عفافٍ ﴿ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ ﴾ زانیاتٍ جهراً ﴿ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾ أخلاء یزنون بهن سراً ﴿ فَإِذَا أَحْصِنَّ ﴾ زوجن وفی قرأة بالبناء للفاعل تزوجن ﴿ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ﴾ زناً ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ﴾ الحرائر الابکار إذا زنین ﴿ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ الحد فَيُجْلَدَنَّ خَمْسِينَ وَيُغْرَبْنَ نِصْفَ سَنَةٍ وَيُقَاسَ عَلَيْهِنَّ الْعَبِيدُ وَلَمْ يَجْعَلِ الْإِحْصَانَ شَرْطًا

لوجوب الحد بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلاً ﴿ذَلِكَ﴾ ای نکاح الملوکات عند عدم الطول ﴿لِمَنْ خَشِيَ﴾ خاف ﴿الْعَنَتِ﴾ الزنا واصله المشقة سُمِّيَ به الزنا لانه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة ﴿مِنْكُمْ﴾ بخلاف من لا يخافه من الاحرار فلا يحل نكاحها وكذا من استطاع طول حرة وعليه الشافعي وخرج بقوله (مِنْ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) الكافرات فلا يحل له نكاحها ولو عدم وخاف ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾ عن نكاح المملوكات ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ لئلا يصير الولد رقيقاً ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ بالتوسعة في ذلك۔

ترجمہ

(تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں) یعنی ان سے نکاح حرام کیا گیا، اور یہ لفظ دادی اور نانی کو بھی شامل ہے (اور تمہاری بیٹیاں) یہ لفظ اولاد کی بیٹیوں کو بھی شامل ہے، خواہ کتنے ہی نیچے ہو (اور تمہاری بہنیں) خواہ باپ شریک ہوں یا ماں شریک (اور تمہاری پھوپھیاں) یعنی باپ یا دادا کی بہن (اور تمہاری خالائیں) یعنی ماں یا دادی یا نانی کی بہن (اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں) اور اس میں ان کی اولادیں بھی داخل ہیں (اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو) دو سال پورا ہونے سے پہلے پانچ گھونٹ (دودھ پلایا ہو) جیسا کہ حدیث میں ہے (اور تمہاری رضاعی بہنیں) اور حدیث سے ثابت ہے کہ اسی حکم میں رضاعی بیٹی بھی داخل ہے، رضاعی بیٹی وہ ہے جس کو اس مرد کی موطوءہ نے دودھ پلایا ہو، اور اسی حکم میں رضاعی پھوپھی، رضاعی خالہ، رضاعی بھائی کی بیٹی اور رضاعی بہن کی بیٹی بھی شامل ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ رضاعت کی بنیاد پر بھی وہ رشتہ حرام ہوتا ہے جو نسب کی بنیاد پر حرام ہوتا ہے، رواہ البضاری و مسلم (اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری ربیبہ) ربیبہ کی جمع ہے، یعنی تمہاری بیوی کی لڑکی، جو دوسرے کسی شوہر سے ہے (جو تمہاری پرورش میں ہو) یہ صفت اتفاقی ہے، جو عام حالات میں ہوتی ہے، اس لئے اس کا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے (تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم نے صحبت کی ہے، لیکن اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی ہے تو) ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں (تم پر کوئی حرج نہیں) بشرطیکہ وہ تمہارے نکاح سے جدا ہو چکی ہوں (اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہیں) بخلاف ان بیٹیوں کے جن کو تم نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے، ان کی بیویوں سے نکاح کر سکتے ہو (اور یہ کہ دو بہنوں کو) نکاح میں (جمع کرو) خواہ وہ دو بہنیں نسبی ہوں یا رضاعی، اور سنت سے اس حکم میں، عورت اور اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ کو بھی جمع کرنا ہے، البتہ الگ الگ دونوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اور دونوں کا ایک ساتھ مالک بھی ہو سکتا ہے، مگر وطی ایک ہی سے جائز ہوگی (مگر جو گزر چکا) یعنی زمانہ جاہلیت میں اس قسم کے حرام نکاح جو ہو چکے، ان پر مواخذہ نہیں ہے (بے شک اللہ تعالیٰ) اس نہی سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس کو (معاف کرنے

والے) تم پر اس بارے میں (مہربانی فرمانے والے ہیں، اور) تم پر (شوہروالی عورتیں) حرام کی گئیں یعنی ان کے شوہروں کی مفارقت سے پہلے ان سے نکاح نہ کرو، خواہ وہ آزاد مسلمان ہوں، یا کوئی اور (مگر وہ عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آگئی ہوں) یعنی باندیاں جو جہاد میں گرفتار ہو کر مسلمان کی ملکیت میں داخل ہو گئی ہوں، ان سے وطی کرنا جائز ہے گو کہ ان کے شوہر دار الحرب میں موجود ہوں اور یہ وطی استبراء کے بعد ہوگی (اللہ کا نوشتہ ہے) کتاب اللہ کا نصب مفعول مطلق ہونے کی بنا پر ہے، یعنی کتب ذلک کتاباً (تمہارے اوپر اور تمہارے لئے ان کے ماسوا) جن کو حرام کیا گیا (باقی عورتیں حلال ہیں یہ کہ تم چاہو) یعنی عورتوں سے نکاح چاہو (اپنے مال کے واسطے سے) خواہ وہ مہر ہو یا شمن (اس حال میں کہ تم نکاح کرنے والے ہو، زنا کرنے والے نہ ہو، پس وہ عورتیں) ما بمعنی من ہے (جن سے تم نے) نکاح کر کے وطی کا (فائدہ حاصل کیا، انہیں ان کی مقررہ مہر ادا کر دو) جو تم نے ان کے واسطے مقرر کی ہے (اور مہر کی تعیین کے بعد اس مقدار میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جس پر تم باہم رضا مند ہو جاؤ) خواہ پوری مہر ختم کر دو یا اس کا کچھ حصہ کم کر دو، یا مہر سے زیادہ متعین کر لو (بلاشبہ اللہ تعالیٰ) اپنی مخلوق کو (جاننے والے) اور جو کچھ ان کے حق میں تدبیر کی ہے، اس میں (حکمت والے ہیں، اور جو کوئی تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے) مومنات کی قید عمومی حالت کا بیان ہے، اس کا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے (تو ان مومن باندیوں سے) نکاح کرے (جو تمہاری ملکیت میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو جانتے ہیں) اس لئے ظاہر پر اکتفا کرو، اور باطن کو اللہ کے حوالے کرو، کیونکہ کیا بہتر ہے؟ وہی اس کو جانتے ہیں، بعض اوقات ایمان میں باندی آزاد سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اس سے مقصود باندیوں کے نکاح کو مانوس بنانا ہے (تمہارا بعض، بعض سے وابستہ ہے) یعنی تم اور وہ دین میں برابر ہیں، اس لئے ان سے نکاح کرنے میں عار نہ محسوس کرو (پس ان کے اہل) یعنی مولیٰ (کی اجازت سے ان سے نکاح کرو، اور انہیں ان کی مہر ادا کرو، جیسا کہ دستور ہے) یعنی نہ تاخیر کرو اور نہ کم کرو (اس حال میں کہ وہ پاکدامن ہوں، مبتلاء زنا نہ ہوں) نہ کھلم کھلا (اور نہ) پوشیدہ طور پر زنا کے لئے (آشنا بنانے والی ہوں، پھر جب ان کا نکاح ہو جائے) ایک قرأت میں فعل مجہول کے بجائے اُحْصَنَ فعل معروف ہے، یعنی جب وہ نکاح کر لیں (تو اگر کسی فاحشہ کا) یعنی زنا کا ارتکاب کریں، تو ان پر اس حد کا نصف ہے، جو آزاد) باکرہ (عورتوں پر ہے) جب کہ وہ زنا کریں، یعنی نصف حد ہے، انہیں پچاس کوڑے کی سزا ہے، اور چھ ماہ کی جلا وطنی، اسی قیاس پر غلاموں کا بھی مسئلہ ہے، اور احسان کو وجوب حد کے لئے شرط نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اس بات کا افادہ مقصود ہے کہ باندیوں پر رجم نہیں ہے (یہ) یعنی وسعت نہ ہونے کی صورت میں باندیوں سے نکاح کرنا (تم میں سے اس شخص کیلئے ہے، جسے زنا کا اندیشہ ہو) عنت کے اصل معنی مشقت کے ہیں، زنا کو عنت اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں حد زنا کی تکلیف کا سبب ہے،

اور آخرت میں عذاب کی مشقت کا باعث ہے، بخلاف اس شخص کے جس کو اس کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ آزاد ہو، تو اس کے لئے باندیوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی وہ شخص جو آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو، باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہی امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد من فتياتکم المومنات سے کافر باندی نکل گئی، اس سے نکاح جائز نہیں ہے، اگرچہ آزاد کی قدرت نہ ہو، اور اگرچہ اسے بتلائے زنا ہونے کا اندیشہ ہو (اور) باندیوں کے نکاح سے (صبر ہی کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے) تاکہ اولاد غلام نہ پیدا ہو (اور اللہ تعالیٰ مغفرت والے اور رحمت والے ہیں) کہ اس میں گنجائش پیدا کر دی۔

﴿ تشریحات ﴾

أن تنكحوهن : یہ لفظ امہاتکم الخ سے بدل ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی چیز کی ذات محل حرمت نہیں ہوتی بلکہ اس کے متعلق کوئی فعل مورد حرمت ہوتا ہے، چنانچہ اس جگہ جن جن عورتوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسے شراب کی حرمت سے مراد اس کے پینے کی حرمت ہے، خنزیر کے گوشت کی حرمت سے مراد کھانے کی حرمت ہے۔

وشملت الجدات من قبل الاب أو الام : باپ کی طرف سے جدہ دادی ہے، اور ماں کی طرف سے نانی۔
﴿أخواتکم﴾ من جهة الاب أو الام : بہنیں تین طرح کی ہیں، اور تینوں حرام ہیں۔ حقیقی بہن۔ علاقہ بہن یعنی باپ شریک بہن، اور اخیافی بہن یعنی ماں شریک بہن۔

أخوات آبائکم : پھوپھی باپ کی بہن بھی ہے، اور دادا اور نانا کی بہن بھی۔
أخوات امہاتکم : خالہ ماں کی بہن بھی ہے اور نانی کی بہن بھی، اور دادی کی بہن بھی۔

قبل استكمال الحولين : رضاعت کی حرمت وہی معتبر ہے جب دودھ مدت رضاعت میں پلایا گیا ہو، عام طور سے مدت رضاعت دو سال کی عمر تک تسلیم کی گئی ہے، امام ابوحنیفہ کے نزدیک ڈھائی سال ہے، دلائل کتب فقہ میں مذکور ہیں۔

خمس رضعات : ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم پانچ مرتبہ بچہ ماں کے پستان کو منہ میں لے کر دودھ کھینچے تو حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، امام شافعی اور امام احمد علیہما الرحمہ اسی کے قائل ہیں، اور امام ابوحنیفہ اور امام مالک علیہما الرحمہ قرآن کریم کی آیت کے اطلاق کو دیکھتے ہوئے مطلق رضاعت سے حرمت کے اثبات کے قائل ہیں۔

ويلحق بذلك بالسنة البنات منها : رضاعی ماں اور رضاعی بہن کے حکم میں رضاعی بیٹی بھی ہے، رضاعی بیٹی وہ لڑکی ہے جس کو اس شخص کی موطوءہ نے دودھ پلایا ہو، خواہ وہ منکوحہ ہو یا موطوءہ باندی، بیوی یا باندی

کے دودھ پلانے کی وجہ سے یہ لڑکی رضاعی بیٹی بن گئی، اس سے نکاح حرام ہے۔

اس حکم میں رضاعی پھوپھی، رضاعی خالہ، رضاعی بھتیجی اور رضاعی بھانجی بھی داخل ہے، کیونکہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا ہے: **یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب**، رواہ البخاری والمسلم، جو حرمت نسب سے پیدا ہوتی ہے، وہ حرمت رضاعت سے بھی ثابت ہوتی ہے۔

جمع ربیبة: ربائب جمع ہے ربیبة کی، بیوی کی بیٹی جو کسی اور شوہر سے ہو۔

تربونها صفة موافقة للغالب فلا مفہوم لها: امام شافعی علیہ الرحمہ کا اصول ہے کہ قرآن وحدیث میں جس قید یا صفت کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کا ماسوا اس حکم سے خارج ہو جاتا ہے، یہاں ربائب کی صفت ذکر کی گئی ہے کہ **التی فی حجورکم** یعنی وہ ربائب جو تمہاری پرورش میں ہوں، حرام ہیں، مذکورہ بالا اصول کے مطابق اس ربیبة سے نکاح جائز ہونا چاہئے جو اس شوہر کی پرورش میں نہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

اس کا جواب مفسر نے دیا کہ یہ صفت قید احترازی نہیں ہے، عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ بیوی کی سابقہ اولاد بعد والے شوہر کی پرورش میں آجاتی ہے، اس لئے اس کا تذکرہ کر دیا، ورنہ اس سے احتراز مقصود نہیں ہے، پس اس کا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔

إذا فارقتموهن: ربیبة کی ماں، جو شوہر ثانی کی بیوی ہے، اگر اس سے جماع نہیں ہوا ہے، اور وہ شوہر ثانی کے نکاح سے اسی حال میں الگ ہو جائے، خواہ اس کی موت ہو جائے یا وہ طلاق پا کر عدت پوری کر لے، اس صورت میں اس ربیبة سے نکاح درست ہے، ماں کے نکاح میں یا عدت طلاق میں ہوتے ہوئے ربیبة سے نکاح درست نہیں، کیونکہ جمع بین الام والبنات لازم آئے گا۔

بخلاف من تبیتموہم فلکم نکاح حلائلہم: اپنے صلیبی بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں، لیکن منہ بولے بیٹے کی بیوی حلال ہے۔

من نسب أو رضاع بالنکاح: بہنیں خواہ نسبی ہوں، خواہ رضاعی ہوں، ان کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، اور اسی حکم میں کسی عورت کو اس کی پھوپھی، اس کی خالہ کے ساتھ جمع کرنا بھی ہے۔ ہاں الگ الگ دونوں سے نکاح درست ہے، ایسے ہی دونوں کو ملکیت یمن میں جمع کرنا جائز ہے، لیکن وطی ایک ہی سے جائز ہوگی۔

﴿المحصنات﴾ ذوات الازواج: جن عورتوں کے شوہر موجود ہوں، ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔

﴿إلا ما ملکت أیمانہم﴾ من الاماء بالسبی الخ: ہاں اگر دار الحرب سے باندی قید کر کے لائی

جائے، اگر چہ دار الحرب میں اس کا شوہر موجود ہو، مگر اس سے استبراء کے بعد وطی جائز ہے، کیونکہ بتابین دار اور گرفتاری کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا ہے۔

﴿المومنات﴾ ہو جری علی الغالب فلا مفہوم له : اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ومن لم یستطع منکم طولاً أن ینکح المحصنات المومنات ، جو کوئی آزاد مومن عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، وہ باندی سے نکاح کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدم طول کا تعلق صرف حرائر سے نہیں بلکہ مومنات سے بھی ہے، اس پر مفسر فرماتے ہیں کہ مومنات کی قید احترازی نہیں ہے کہ غیر مومن مثلاً اہل کتاب عورت اس سے خارج ہو جائے، بلکہ یہ قید اتفاقی ہے، عام طور سے نکاح چونکہ مومن عورت ہی سے کیا جاتا ہے، اس لئے مومنات کا ذکر کر دیا ہے، اس کا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔

نوٹ حضرات شوافع چونکہ نصوص قرآن و حدیث میں مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں، اور اس کو منطوق سمجھتے ہیں، اس لئے کہیں کہیں ان کو تاویل کرنی پڑتی ہے، حضرات حنفیہ کے نزدیک قرآن و حدیث میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں، مفہوم مخالف سے جو مسئلہ نکلتا ہے، اس پر الگ سے صراحت کوئی دلیل چاہئے، اس لئے انہیں کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔

﴿أخذان﴾ أخلاء یزنون بہن سراً : أخذان، خدن بالکسر کی جمع ہے، اس کے معنی ساتھی کے ہیں، اس کا استعمال اس آشنا کے لئے ہوتا ہے، جس سے چوری چھپے فاحشہ کا ارتکاب ہوتا ہے۔
تفسیر خازن میں ہے کہ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں کھلم کھلا زنا کو تو ناجائز کہتے تھے، مگر چوری چھپے آشنائی کرنے اور ارتکاب زنا کو معیوب نہیں سمجھتے تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں پر صراحت حرمت کا اطلاق کیا۔

﴿فعلیہن نصف ما علی المحصنات﴾ الحرائر الابکار : باندیاں منکوحہ ہو جانے کے بعد اگر بتلائے زنا ہو جائیں، تو ان کو سزا دی جائے گی، مگر عام عورتوں کی جو سزا ہے اس کی آدھی سزا ہوگی، اور آدھی سزا ہونے کا تصور صرف حرہ باکرہ میں ہے، اگر وہ زنا کرتی ہے تو اس کی حد سو کوڑے ہے، پس باندی کی سزا پچاس کوڑے ہوگی، شادی شدہ حرہ کی حد زنا تو رجم کرنا ہے، رجم کے نصف کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لئے مفسر نے ما علی المحصنات، کی تفسیر ”الحرائر الابکار“ سے کی ہے، کیونکہ نصف حد کا تصور اسی میں ہے، اور غلام کو بھی یہی سزا دی جائے گی۔

ولم یجعل الاحصان شرطاً لوجوب الحد : قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے: فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ، اس آیت میں احصان کی شرط لگی ہے، بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باندی کا جب نکاح ہو چکا ہو جی وہ زنا کے ارتکاب سے سزا کی مستحق ہوگی، اور اگر اس کا نکاح نہ ہوا ہو اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ مستحق حد نہ ہوگی، بالخصوص ان لوگوں کے

نزدیک جو نصوص میں مفہوم مخالف کو معتبر قرار دیتے ہیں۔۔

مفسر نے فرمایا احسان و جوہ حد کے لئے شرط نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ باندی کے حق میں رجم نہیں ہے، کیونکہ رجم میں نصف حد کا کوئی تصور نہیں ہے، تو جب احسان کی حالت میں رجم نہیں ہے، تو بغیر احسان کے رجم کی سزا کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔

بخلاف من لا يخافه من الاحرار فلا يحل نكاحها : اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ باندیوں سے نکاح کرنا اس شخص کے لئے ہے، جس کو بتلائے زنا ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس سے بطور مفہوم مخالف کے یہ مسئلہ نکلا کہ اگر اس کا اندیشہ نہ ہو، تو باندی سے نکاح کرنا جائز نہ ہوگا، چنانچہ امام شافعی علیہ الرحمہ اسی کے قائل ہیں، لیکن امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ چونکہ نصوص قرآن و حدیث میں مفہوم مخالف سے مسئلہ مستنبط کرنے کے قائل نہیں ہیں، اس لئے ان کے نزدیک مذکورہ اندیشہ نہ ہو تب بھی باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔

افادہ اس آیت کریمہ میں متعدد جگہوں پر شرط یا صفت کے ذریعے قید لگی ہے۔ پہلی قید یہ ہے کہ جو آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو، وہ باندی سے نکاح کرے۔ دوسری قید آزاد عورت کے ساتھ مومن کی بھی قید ہے، یعنی آزاد مومن عورت کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ تیسری قید باندی میں ہے، صاحب ایمان باندی سے نکاح کرے۔ چوتھی قید یہ ہے کہ بتلائے زنا ہونے کا اندیشہ ہو، تب باندی سے نکاح کرے گا۔ شوافع ان چاروں قیدوں میں تین کے اندر تو اپنے اصول پر چلے ہیں، لیکن دوسری قید کے مفہوم کو معتبر نہیں قرار دیتے۔

امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے ماننے والوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے نصوص میں شرطوں، قیدوں اور صفات کا ذکر اس طریقے پر نہیں آتا، جو اصحاب متون کا طریقہ ہوتا ہے، کہ ایک ایک لفظ سے مختلف احترازاں مقصود ہوتے ہیں، یہ نصوص عام گفتگو اور محاورات کے طرز پر وارد ہوئے ہیں۔ اس لئے صفات اور شرطوں کے مفہوم مخالف سے مسائل نکالنے کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ یہی ہوگا کہ کہیں اس کا اعتبار کریں گے، تو کہیں اسے بیان اور قید اتفاقی قرار دینا پڑے گا، جیسا کہ حضرات شوافع کو بکثرت ایسی تنگیوں سے سابقہ پڑتا ہے پس مفہوم مخالف سے مسئلہ نکالنا درست نہیں ہے، ہاں اس کے لئے مستقل دلیل مل جائے، تو اس دلیل کی بنا پر اس کا قائل ہو جائے گا۔

اس اصول کے لحاظ سے حنفیہ کے نزدیک مذکورہ قیدوں میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہ ہوگا، اگر کوئی ایسی دلیل ملے جس سے یہ ثابت ہو کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہو تو باندی سے نکاح جائز نہیں ہے، اور باندی کا بھی صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، اہل کتاب باندی سے نکاح درست نہیں ہے، یا بتلائے زنا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو بھی باندی سے نکاح درست نہیں ہے، ان میں سے ہر مسئلے کے لئے مستقل دلیل کی ضرورت ہے،

اور واقعہ یہ ہے کہ ان مسائل کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ کتاب اللہ کے عموماً میں ان کے خلاف دلیل موجود ہے، اور وہ ہے: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، اور أحل لكم ما وراء ذلكم وغيره۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، جن سے نکاح مردوں کے لئے حرام ہے، اور ان عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے جن سے نکاح جائز ہے، پھر یہ بھی کہ نکاح کرنا کن عورتوں سے مناسب ہے، اور کن عورتوں سے عام حالات میں بہتر نہیں ہے گو کہ جائز ہے، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، ان کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) ماں، دادی، نانی۔ (۲) بیٹی اور اولاد کی بیٹیاں۔ (۳) بہنیں۔ (۴) پھوپھیاں (باپ کی بہن اور دادا کی بھی بہن)۔ (۵) خالائیں (ماں کی بہنیں اور دادی کی بہنیں)۔ (۶) بھتیجیاں اور ان کی اولادیں۔ (۷) بھانجیاں اور ان کی اولادیں۔ (۸) رضاعی مائیں۔ (۹) رضاعی بہنیں اور رضاعی بیٹیاں، اسی حکم میں رضاعی پھوپھی، رضاعی خالہ، رضاعی بھتیجی اور رضاعی بھانجی بھی شامل ہے۔ (۱۰) بیوی کی ماں (ساس)۔ (۱۱) رپیہ جس کی ماں سے وطی ہو چکی ہو۔ (۱۲) صلبی اولاد کی بیویاں۔ (۱۳) دو بہنوں کو نکاح میں جمع، اسی حکم پر ہر ایسی دو عورتوں کا جمع کرنا بھی ہے جن میں سے ایک کو اگر مرد فرض کیا جائے، تو دوسرے سے نکاح جائز نہ ہو، مثلاً عورت اور اس کی خالہ یا پھوپھی وغیرہ، ایسی دو عورتیں بیک وقت کسی ایک شخص کی باندی تو ہو سکتی ہیں، مگر وطی ایک ہی سے کرنا جائز ہوگا، اس حکم کے نزول سے پہلے اس قسم کی حرکتیں جو پہلے ہو چکی ہیں وہ درگزر ہیں، آئندہ حدود کی پابندی ضروری ہے۔ (۱۳) نکاح والی عورتیں جن کے شوہر موجود ہیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔

ہاں باندیاں جو دارالاسلام میں لائی جا چکی ہیں، ان کے شوہر گو کہ موجود ہوں، ان سے استبراء کے بعد وطی کرنا جائز ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے حدود کی تعیین ہے، ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کرنا درست ہے، یا اگر باندی ہو تو اس کے مالک کو اس سے وطی کرنا جائز ہے، اگر نکاح کرنا ہو تو مہر دینا ضروری ہے، باندی ہے تو مہر دینا ضروری نہیں ہے، ہاں خریدنے میں مال کی ضرورت ہو سکتی ہے، مہر کا تعلق صرف نکاح سے ہے، بدکاری کے لئے اگر اجرت مقرر کی گئی، تو وہ قطعاً حرام ہے، بدکاری بھی اور اجرت بھی!

عورتوں کیلئے نکاح میں جو مہر مقرر کی گئی ہے، انھیں ادا کر دو، البتہ اگر تعیین مہر کے بعد باہمی رضامندی سے اس میں کچھ کمی بیشی کر لی جائے، یا سرے سے ساقط کر دے، تو کوئی حرج نہیں ہے، خدا تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔

اور اگر کسی آزاد خاندانی عورت نکاح کی استطاعت نہ، تو وہ ان باندیوں سے نکاح کر لے، جو صاحب ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو جانتے ہیں، تم ظاہری احوال پر اکتفا کرو، باطن خدا کے سپرد کرو، ہو سکتا ہے

کہ ایمان میں باندی بڑھی ہوئی ہو، ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو، اور دستور کے مطابق ان کی مہرا نہیں ادا کرو اور یہ کام نکاح ہی سے ہونا چاہئے، وہ ایسی نہ ہوں کہ بدکاری یا چوری چھپے آشنائی کرنے والی ہوں پھر اگر نکاح ہو جانے کے بعد وہ بتلائے زنا ہوں، تو ان کی سزا عام عورتوں کی نصف ہے۔ پچاس کوڑے، باندیوں کا نکاح انھیں لوگوں کے لئے مناسب ہے، جنھیں بتلائے گناہ ہونے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم سے ہو سکے تو صبر کر لو، یہ بہتر ہے کیونکہ باندیوں کے نکاح سے جو بچہ پیدا ہوگا۔ وہ بھی غلام ہوگا، یہ تو خدا کی رحمت ہے کہ اس باب میں درگزر سے کام لیا اور وسعت پیدا کر دی، تاکہ آدمی گناہ سے بچ جائے



﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ شعائر دينكم ومصالح أمركم ﴿وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ﴾ طرائق
 ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ من الانبياء في التحليل والتحرير فتتبعوهم ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ يرجع
 بكم عن معصية التي كنتم عليها الى طاعته ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بكم ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما دبره لكم
 ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ كرهه لنبى عليه ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ﴾ اليهود
 والنصارى والمجوس أو الزناة ﴿أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم
 عليكم فتكونوا مثلهم ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ فيسهل عليكم احكام الشرع ﴿وَخَلَقَ
 الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ لا يصبر عن النساء والشهوات ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
 بِالْبَاطِلِ﴾ بالحرام في الشرع كالربوا أو الغصب ﴿إِلَّا﴾ لكن ﴿أَنْ تَكُونَ﴾ تقع ﴿تِجَارَةً﴾
 وفي قرأة بالنصب أن تكون الاموال اموال تجارة، صادرة ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ وطيب نفس
 فلکم أن تاكلوها ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ بارتكاب ما يودي إلى هلاكها أيًا كان في الدنيا
 والآخرة بقريئة ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ في منعه لكم من ذلك ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ ای
 ما نهى عنه ﴿عُدْوَانًا﴾ تجاوزاً للحلال حال ﴿وَوُظْلَمًا﴾ تأكيد ﴿فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ﴾ ندخله
 ﴿نَارًا﴾ يحترق فيها ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ هيئاً ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ
 عَنْهُ﴾ وهي ماورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقه وعن ابن عباس هي الى سبعمائة
 اقرب ﴿نُكْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ الصغائر بالطاعات ﴿وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا﴾ بضم الميم
 وفتحها ای إدخالاً أو موضعها ﴿كَرِيمًا﴾ هو الجنة ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ
 عَلَى بَعْضٍ﴾ من جهة الدنيا والدين لئلا يؤدي الى التحاسد والتباغض ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾
 ثواب ﴿مِمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ بسبب ما عملوا من الجهاد وغيره ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾

من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن نزلت لما قالت ام سلمة^{رض} ليتنا كنا رجالاً فجاهدنا وكان لنا مثل اجر الرجال ﴿وَأَسْأَلُوا﴾ بهمزة ودونها ﴿اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ما احتجتم إليه يعطيكم ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ منه محل الفضل وسوالكم ﴿وَلِكُلِّ﴾ من الرجال والنساء ﴿جَعَلْنَا مَوَالِيَّ﴾ ای عصبه يعطون ﴿مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ لهم من المال ﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتَ﴾ بالف ودونها ﴿أَيْمَانَكُمْ﴾ جمع يمين بمعنى القسم أو اليد ای الحلفاء الذين عاهدتموهم فى الجاهلية على النصره والارث ﴿فَأْتَوْهُمْ﴾ الآن ﴿نَصِيْبَهُمْ﴾ حظهم من الميراث وهو السدس ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ مطلعاً ومنه حالكم وهذا منسوخ بقوله ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾-

ترجمہ

(اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہارے لئے) تمہارے دین کے احکام، اور تمہارے کام کی مصلحتیں (بیان کر دیں اور تم کو) تحلیل و تحریم کے سلسلے میں (ان لوگوں) یعنی انبیاء (کے طریقے بھی بتادیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں) تاکہ تم ان کی پیروی کرو، (اور) چاہتے ہیں کہ (تم پر مہربانی فرمائیں) یعنی اس معصیت سے جس پر تم لوگ تھے، اپنی طاعت کی جانب لوٹالیں (اور اللہ تعالیٰ) تم کو (جاننے والے) اور تمہارے لئے جو تدبیر کرتے ہیں اس میں (حکمت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر مہربانی فرمائیں) اس لفظ کو مکرر اس لئے ذکر کیا کہ اگلی آیت کی بنا اسی پر ہے (اور وہ لوگ جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں) یعنی یہود و نصاریٰ یا مجوس یا زنا کار (چاہتے ہیں کہ تم لوگ) اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر کے راہ حق سے (بہت زیادہ منحرف ہو جاؤ) پس تم بھی انھیں جیسے ہو جاؤ (اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے کچھ ہلکا کر دیں) یعنی تم پر احکام شرع کو سہل کر دیں (اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے) وہ عورتوں اور شہوات سے صبر نہیں کر سکتا (اے ایمان والو! تم اپنے مال آپس میں غلط طریقے سے نہ کھاؤ) جو شریعت میں حرام ہے، مثلاً ربو اور غضب وغیرہ (مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو) إلا بمعنی لکن ہے، تکون فعل ناقص نہیں تام ہے، اور تجارۃ بالرفع اس کا فاعل ہے، اور ایک قرأت میں تجارۃ بالصب ہے، اس صورت میں تکون فعل ناقص ہے یعنی تکون الاموال اموال تجارۃ، عن تراض کا تعلق صادرہ سے ہے، باہمی رضامندی اور طیب نفس والی تجارت ہو تو تم اسے کھاؤ (اور اپنے آپ کو) اس کام کا ارتکاب کر کے جو تمہاری جان کے لئے مہلک ہے (قتل نہ کرو) خواہ یہ ہلاکت دنیا میں ہو یا آخرت میں، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحیم ہیں) کہ تم کو اس سے منع کیا (اور جو کوئی یہ کام) جس سے منع کیا گیا ہے (کرے گا، سرکشی سے) یہ حال ہے (اور ظلم سے) یہ اسی کی تاکید ہے (تو ہم اسے آگ

میں داخل کریں گے) جس میں وہ جلے گا (اور اللہ پر یہ بات آسان ہے، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو، جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے) اور یہ وہ گناہ ہیں جن پر وعید وارد ہے، جیسے قتل، زنا اور چوری، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ایسے گناہ سات سو کے قریب ہیں (تو ہم تمہاری سینات) یعنی چھوٹے گناہوں (کو) طاعات کے ذریعے (مٹادیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخلہ نصیب فرمائیں گے) مُدْخَل، میم کے ضمہ کے ساتھ ہے، تب یہ مصدر بمعنی ادخال ہے، اور میم کے فتح کے ساتھ ہے، تب یہ اسم ظرف ہے، مدخل کریم جنت ہے (اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ذریعے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے) خواہ دنیا کی جہت سے، خواہ دین کی جہت سے، تاکہ باہم حسد اور بغض نہ پیدا ہو (مردوں کے لئے ان کے کاموں کا حصہ) یعنی ثواب (ہے) جو کچھ انہوں نے جہاد وغیرہ کیا (اور عورتوں کے لئے ان کے کاموں کا حصہ ہے) جو انہوں نے اپنے شوہروں کی اطاعت کی اور اپنے ناموس کو محفوظ رکھا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ کاش ہم مرد ہوتے، تو ہم بھی جہاد کرتے، اور ہمارے لئے بھی مردوں جیسا اجر ہوتا (اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو) واسئلوا ہمزہ کے ساتھ بھی ہے اور بغیر ہمزہ کے بھی (بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں) اور اسی میں محل فضل بھی اور تمہارا سوال بھی داخل ہے (اور) مردوں اور عورتوں میں سے (ہر ایک کے لئے ہم نے وارث) یعنی عصبہ (متعین کئے ہیں، اس) مال (کے جو والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے) کہ اس میں سے انہیں دیا جائے (اور وہ لوگ جن سے تمہارا معاہدہ ہوا) عاقدت الف کے ساتھ بھی ہے، اور بغیر الف کے بھی، ایمان، یمین کی جمع ہے، قسم کے معنی میں، یا ہاتھ کے معنی میں، یعنی وہ حلیف، جن سے زمانہ جاہلیت میں نصرت اور وراثت کا معاہدہ رہا ہے (تو ان کو) اس وقت (ان کا حصہ) جو میراث میں ہے (دو) اور وہ چھٹا حصہ ہے (بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے) اور اسی میں تمہارا حال بھی ہے، یہ حکم و اولوا الارحام بعضهم اولیٰ ببعض سے منسوخ ہے۔

﴿ تشریحات ﴾

کر رہ لنبی علیہ: واللہ یرید أن یتوب علیکم کا مضمون پہلے بھی آچکا ہے، چنانچہ ارشاد ہوا ہے: یتوب علیکم، تو اس مضمون کو مکرر اس لئے لائے ہیں کہ اس کے ساتھ ویرید الذین یتبعون الشہوات الّٰیۃ کو مربوط کرنا ہے، اتباع شہوات والے یا تو یہود و نصاریٰ ہیں، کہ وہ ہر حال میں مسلمانوں کو راہ ہدایت سے ہٹانے پر تلے رہتے ہیں، یا مجوسی ہیں جو بہن بیٹی سے نکاح کرنا جائز سمجھتے تھے، یا بدکار لوگ ہیں کہ وہ اپنی بدکاری کی راہ پر اہل ایمان کو بھی لانا چاہتے ہیں۔

﴿ أن تکون ﴾ تفع ﴿ تجارة ﴾: تجارة میں دو قرأت ہے، بالرفع، تب یہ تکون کا فاعل ہے، اور تکون

اس جگہ افعال ناقصہ میں نہیں ہے، اس لئے اس کی تفسیر مفسر نے ان تقع سے کی ہے، اور ایک قرأت میں تجارۃً بالنصب ہے، تب یہ تکون فعل ناقص کی خبر ہے، اور اس کا اسم ضمیر غائب ہے جو اموال کی طرف راجع ہے، چنانچہ مفسر نے اس کی وضاحت کی ہے کہ تکون الاموال اموال تجارۃً،
صادرة عن تراض: تجارت کا صلہ عن نہیں آتا، یہاں صادرة کے معنی کی تضمین ہے، اور اسی سے عن متعلق ہے۔

بارتکاب ما یودی الی ہلاکھا: اپنے آپ کو قتل کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی خودکشی کر لے، یہ صورت تو صراحۃً حرام ہے، اس میں دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد! دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کر لے جس سے دنیا و آخرت میں بربادی لازم آئے، اس کا اطلاق ہر گناہ کبیرہ پر ہو سکتا ہے۔

أياً كان في الدنيا والآخرة بقريئة إن الله كان بكم رحيماً: مفسر نے ہلاکت میں دنیا و آخرت کے اعتبار سے تعیم کر دی ہے، اور اس کا قرینہ إن الله كان بكم رحيماً، اصل یہ ہے قرآن میں جہاں جہاں اللہ کی صفت رحیم بیان کی گئی ہے، اس کا تعلق حضرت مفسر نے آخرت سے رکھا ہے، یعنی اللہ کی صفت رحیمی کا ظہور آخرت میں ہوگا، یہاں لا تقتلوا أنفسکم میں دنیا کی ہلاکت تو ظاہر ہے، لیکن اس کی علت میں جب اللہ تعالیٰ کو رحیم کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے، یعنی اس کام سے بھی منع فرمایا ہے، جو آخرت کی ہلاکت کا باعث ہو، کیونکہ وہ رحیم فی الآخرة بھی ہے۔

﴿عدواناً﴾ تجاوزاً للحلال، حال: عدواناً حال ہے، اس کے معنی ہیں، حلال سے تجاوز کر کے حرام میں جا پڑنا۔

﴿ظلماً﴾ تاکید: عدوان خاص ہے، و ظلم عام ہے، ظلم عدوان کے اندر موجود ہے، تو جب عدوان کہا گیا تو گویا ظلم بھی اس میں آ گیا، اس لئے مفسر نے کہا کہ ظلماً اس کی تاکید ہے۔

وہی ماورد علیہا وعید الخ: گناہ کبیرہ وہ ہیں، جن پر وعیدیں وارد ہیں، مثلاً قتل اور زنا اور چوری وغیرہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ کبار رسات سو کے قریب ہیں، ان سے جو شخص بچنے کا اہتمام کرتا رہے گا، تو اس کے صغیرہ گناہوں کی معافی طاعات و عبادات سے ہوتی رہے گی، مفسر نے ”طاعات“ کی قید لگا کر یہ واضح کیا ہے، کہ صرف کبار سے اجتناب کی وجہ سے صغائر کی معافی نہیں ہو جائے گی، بلکہ کبار سے اجتناب کے بعد طاعات کے ذریعے صغائر کی معافی ہوتی رہے گی، جیسا کہ حدیثوں میں ذکر ہے کہ وضو سے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان وغیرہ کے صغائر جھڑ جاتے ہیں، نماز سے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ إن الحسنات يذهبن السيئات (سورہ ہود: ۱۱۴) بے شک نیکیاں

برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، پس طاعات کی قید گویا اسی آیت کریمہ سے ماخوذ ہے، حاصل یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے آدمی بچنے کا اہتمام کرتا رہے، تو اول صغائر یونہی کم ہو جائیں گے، کیونکہ صغائر عموماً کبائر کے وسائل و ذرائع ہوتے ہیں، مثلاً ایک آدمی چوری کرنا چاہتا ہے، تو ارادہ کرتا ہے، موقع کی گھات لگاتا ہے، چل کر جاتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، تب کہیں جا کر چوری کی نوبت آتی ہے، تو اصل چوری تو گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے پہلے کی سب تدبیریں صغائر ہیں، تو آدمی جب چوری ہی نہیں کرے گا، تو ان تدبیروں کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس طرح اس کے صغائر خود بخود کم ہو جائیں گے، اور جو ہو بھی جائیں گے، تو ظاہر ہے کبائر سے اجتناب کرنے والا طاعات میں سرگرم ہوگا، تو ان طاعتوں سے صغائر خود بخود مٹتے رہیں گے، ہاں اگر کبیرہ کا ارتکاب ہوگا، تو اس کے لئے کبھی کفارہ، کبھی توبہ، کبھی دونوں کی ضرورت پیش آئے گی۔

بضم المیم وفتحها أى إدخالاً أو موصفاً : مدخلاً میں دو قرأت ہے ایک بضم المیم، دوسرے بفتح المیم، پہلی صورت میں یہ اسم مفعول کا وزن ہے، اور اس وزن پر مصدر آتا ہے، جیسے بسم اللہ مجریھا و مرساھا، میں مرسی مصدر ہے، اور میم کے فتح کے ساتھ اسم ظرف ہے یعنی داخل ہونے کی جگہ، جو کہ باعزت ہے اور وہ جنت ہے۔

من جهة الدنيا : اللہ نے کسی کو کوئی دنیاوی یا دینی فضیلت بخشی ہو، جو اختیار ہی نہ ہو، تو دوسرے کو اس کی تمنا میں وقت نہیں برباد کرنا چاہئے، یہ تمنا بالآخر حسد اور بغض پر منتہی ہوگی۔ مردوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا، عورتوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا، اس لئے عورت، مرد ہونے کی تمنا نہ کرے۔

﴿ والذین عاقدت ﴾ بالف و دونها ﴿ ایمانکم ﴾ : عقدت میں دو قرأت ہے، باب مفاعلت سے عاقدت اور مجرد سے عقدت، مراد یہ ہے کہ جن سے نصرت اور وراثت پر تمہارا معاہدہ ہوا ہو کہ تم لوگوں پر کوئی مصیبت آئے، تو ہر ایک دوسرے کی مدد کرے گا، اور ایک کے مرنے کے بعد دوسرا وراثت میں حصہ دار ہوگا۔ ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا، اور ان حلیفوں کے لئے کل مال کا چھٹا حصہ متعین کیا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: واولوا الارحام بعضهم اولیٰ ببعض، رشتہ داروں ہی کو وراثت کا حقدار قرار دیا، البتہ ان حلیفوں سے زندگی میں حسن سلوک کیا جائے، مرتے وقت کچھ وصیت کر دی جائے۔

اولیٰ بعض : یعنی رشتہ دار، حلیفوں کے مقابلے میں وراثت کے زیادہ مستحق ہیں، خود قرابت دار، اپنے قرابت دار کی وراثت کا استحقاق رکھتے ہیں، حلیف نہیں۔

﴿ مضامین آیات و تفسیر ﴾

نکاح میں حلال و حرام کی تفصیل جو حق تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اور اس میں جو قید و بند لگائی ہے، فرماتے

ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تم پر تمہارے دین کے احکام کو واضح کر دیں، اور اگلے انبیاء کے طریقوں کو بھی بیان کر دیں، تاکہ تم ان کی پیروی بھی کرو، اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہ احکام پچھلے انبیاء کے یہاں بھی رہے ہیں، اور یہ کہ تم پچھلی سیاہ کاریوں سے پلٹ کر دین حق کی آغوش میں آ جاؤ۔ اللہ کی مہربانی تو یہ چاہتی ہے، مگر جو لوگ شہوات و خواہش نفس میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ تمہیں اپنے ساتھ انھیں گناہوں میں بہالے جانا چاہتے ہیں، جن میں وہ بہہ رہے ہیں، اس طرح وہ تم کو دین حق سے بہت دور پھینک دینا چاہتے ہیں، اور انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے تمام احکام میں سہولت و رعایت رکھی ہے، ایسا نہیں کیا کہ عورتوں سے مطلقاً منع کر دیا ہو، بہت مناسب اور سہل حدیں باندھ دی ہیں، اسی میں تمہاری عبدیت کی تکمیل بھی ہے اور کمزوری کی رعایت بھی ہے۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے نکاح میں حلال و حرام کی پابندی لگائی ہے، اسی طرح مال اور جان کے استعمال میں بھی حلال و حرام کی تحدیدات ہیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو! اپنے مالوں کو آپس میں غلط طریقے سے نہ کھاؤ، نہ چوری سے، نہ سود خوری سے، اور نہ غصب اور سینہ زوری سے، ہاں باہمی رضامندی سے لین دین ہو تو کچھ حرج نہیں، اور اپنی جان کو بھی ہلاک نہ کرو، خودکشی سے اور نہ ان کاموں سے جن سے آخرت برباد ہوتی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، کہ تمہیں ان احکام کا پابند کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ازراہ سرکشی و طغیان اور بطور ظلم کے یہ سب کام کرے گا، تو اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اور خدا کے لئے یہ کام بہت آسان ہے۔

تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم تمہاری طاعتوں اور عبادتوں کی وجہ سے خود بخود مٹا کر دیتے رہیں گے، بڑے بڑے گناہ وہ ہیں جن پر قرآن وحدیث میں سزا کی وعیدیں وارد ہیں، پھر تمہارے اس اجتناب کبار اور ہمارے محوسینات کا ثمرہ یہ ہوگا کہ ہم تم کو نہایت عزت و اکرام کی جنت میں داخل کریں گے۔

اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے، اور کسی کسی معاملے میں تفوق بخشا ہے، مثلاً کسی کو مرد بنایا، اور ان سے زیادہ کام لئے، اور کسی کو عورت بنایا اور ان سے دوسرے کام لئے، اور اسی قیاس پر لوگوں میں بہت سا تفاوت قائم کیا، اور یہ تفاوت ایسا ہے جس میں تمہارے کسب و اختیار کو دخل نہیں ہے، تو تم دوسرے جیسا ہونے کی ان معاملات میں تمنا نہ کرو، ورنہ دلوں میں حسد اور کینہ پیدا ہوگا، جو تمہارے لئے باعث ہلاکت ہے، مرد جو کچھ کرتے ہیں، انھیں اس کا ثواب ہے، اور عورتیں اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جو کچھ کرتی ہیں، انھیں اس کا ثواب ہے، اور اللہ کو سب کی صلاحیت، سب کے اعمال اور سب کے ثواب معلوم ہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک دوسرے کا وارث بنایا ہے، کہ ایک کے مرنے کے بعد دوسرا اس کے مال کا مالک ہوتا ہے، اور یہ اس کے لئے حلال ہے، یہ وراثت والدین اور قرابت داروں کے حق میں نافذ ہے،

اور رہے وہ لوگ جن سے رشتہ داری نہیں ہے، لیکن ان سے نصرت و وراثت کا معاہدہ ہوا، یعنی وہ منہ بولے بھائی یا خاندانی بنائے گئے، انھیں بھی ان کا حصہ دے دو، ان کا حصہ چھٹا مقرر کیا گیا تھا، بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب ان کا حصہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ خصوصی سلوک کیا جائے، اور وراثت تو نہیں، البتہ ان کے حق میں کچھ مال کی وصیت کا اختیار ہے، بشرطیکہ یہ وصیت تہائی مال سے زائد نہ ہو، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہیں۔



﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ﴾ مسلطون ﴿عَلَى النِّسَاءِ﴾ یؤدبونہن ویاخذون علیٰ ایدیہن ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ای بتفضیلہ لہم علیہن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا﴾ علیہن ﴿مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ﴾ منہن ﴿قَنْتَتْ﴾ مطيعات ﴿لِأَزْوَاجِهِنَّ﴾ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ ﴿ای لفروجنہن وغيرہا فی غیبة ازواجہن﴾ ﴿بِمَا حَفِظَ﴾ ہن ﴿اللَّهُ﴾ ﴿حَيْثُ أَوْصَىٰ عَلَيْهِمُ الْاَزْوَاجُ﴾ ﴿وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ عصیانہن لکم بأن ظہرت أماراتہ ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ فحوفوہن من اللہ ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ اعتزلوا إلی فراشٍ آخر إن أظهرن النشوز ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ ضرباً غیر مبرح إن لم يرجعن بالہجران ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ﴾ فیما یراد منہن ﴿فَلَا تَبْغُوا﴾ تطلبوا ﴿عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ طریقاً إلی ضربہن ظلماً ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً﴾ فاحذروه أن يعاقبکم إن ظلمتوهن ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ علمتم ﴿شِقَاقَ﴾ خلاف ﴿بَيْنَهُمَا﴾ بین الزوجین والاضافة للاتساع ای شقاقاً بینہما ﴿فَابْعَثُوا﴾ إلیہما برضاہما ﴿حَكَمًا﴾ رجلاً عدلاً ﴿مِنْ أَهْلِهِ﴾ أقاربه ﴿وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ ویؤکل الزوج حکمہ فی طلاق وقبول عوض علیہ وتؤکل ہی حکمہا فی الاختلاع فیجتہدان ویامر ان الظالم بالرجوع أو یفرقان إن رایاہ، قال تعالیٰ ﴿إِنْ یُرِيدَا﴾ ای الحکمان ﴿إِصْلَاحًا﴾ یُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴿بین الزوجین ای یقدرہما علی ما هو الطاعة من اصلاح أو فراق﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً﴾ بکل شیء ﴿خَبِيراً﴾ بالبواطن كالظواهر ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ﴾ وحدوه ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ واحسنوا ﴿بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ براً ولین جانب ﴿وَبِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ القرابة ﴿وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ القرب منک فی الجوار أو النسب ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ البعید عنک فی الجوار أو النسب ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ الرفیق فی السفر أو صناعة وقیل الزوجة ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ المنقطع فی سفره ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ من الأرقاء ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا﴾ متکبراً ﴿فَخُورًا﴾ علی الناس بما أوتی

﴿النَّالِذِينَ﴾ مبتدأ ﴿يَخْلُونَ﴾ بما وجب عليهم ﴿وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ به ﴿وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ من العلم والمال وهم اليهود وخبر المبتدأ لهم وعيد شديد ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ﴾ بذلك وبغيره ﴿عَذَابًا مُهِينًا﴾ ذا إهانة ﴿وَالَّذِينَ﴾ عطف على الذين قبله ﴿يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ﴾ مرآئین لهم ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ كالمنافقين واهل مكة ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا﴾ صاحباً يعمل بامرہ كهؤلاء ﴿فَسَاءَ﴾ بس ﴿قَرِينًا﴾ هو ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾ أى ضرر عليهم فى ذلك والاستفهام للانكار ولو مصدرية اى لا ضرر فيه وإنما الضرر فيما هم عليه ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا﴾ فيجازيهم بما عملوا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ﴾ أحداً ﴿مِثْقَالَ﴾ وزن ﴿ذَرَّةٍ﴾ اصغر نملة بأن ينقصها من حسناته ويزيدها فى سيئاته ﴿وَإِنْ تَكُ﴾ الذرة ﴿حَسَنَةً﴾ من مومن وفى قرأه بالرفع فكان تامة ﴿يُضَعِّفَهَا﴾ من عشر الى أكثر من سبعمائه وفى قرأه يُضَعِّفَهَا بالتشديد ﴿وَيُوتِ مِنْ لَدُنْهُ﴾ من عنده مع المضاعفة ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ لا يقدر أحد ﴿فَكَيْفَ﴾ حال الكفار ﴿إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ يشهد عليها وهو نبياها ﴿وَجِئْنَا بِكَ﴾ يا محمد ﴿عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ يوم المجدى ﴿يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ﴾ اى أن ﴿تُسَوَّى﴾ بالبناء للمفعول والفاعل مع حذف احدى التائين فى الاصل ومع ادغامها فى السين اى تتسوى ﴿بِهِمُ الْأَرْضُ﴾ بأن يكونوا تراباً مثلها لعظم هوله كما فى آية اخرى (وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلِيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا) ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ عما عملوه وفى وقت آخر يكتُمونه (وَ اللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ)۔

ترجمہ

(مرد عورتوں پر حاکم ہیں) ان کو عورتوں پر غلبہ دیا گیا ہے ان کو ادب سکھاتے ہیں۔ اور ان کا ہاتھ تھامتے ہیں (اس واسطے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے) یعنی اس لئے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر علم، عقل اور ولایت وغیرہ کی فوقیت بخشی ہے (اس واسطے کہ انھوں نے اپنے مالوں میں سے کچھ) ان عورتوں پر (خرچ کیا ہے، بس) ان میں سے (جو عورتیں نیک ہیں، وہ) اپنے شوہروں کی (تابع دار ہیں، پیٹھ پیچھے) یعنی شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے ناموس وغیرہ کی (حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے) ان کا (تحفظ کیا ہے) کہ شوہروں کو اس پر وصیت کی ہے (اور وہ عورتیں جن کی بد خوئی کا ڈر ہو) اس طرح کہ اس کی علامتیں ظاہر ہوں (انھیں نصیحت کرو) اللہ سے انھیں ڈراؤ (اور خواہاں ہوں میں انھیں چھوڑ دو) یعنی اگر ان کی نافرمانی ظاہر ہو، تو اپنا

بستر جدا کر لو اور اگر اس پر بھی باز نہ آئیں، تو (انہیں مارو) یہ مارنا ایسا ہو کہ اس سے زخم نہ پیدا ہو جائے (پھر اگر) جو کچھ ان سے چاہا جاتا ہے، اس میں (وہ تمہاری اطاعت پر آجائیں، تو ان پر) ظلماً مارنے کا (کوئی راستہ نہ تلاش کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہیں بڑے ہیں) اس لئے ان سے ڈرو کہ اگر تم ظلم کرو گے، تو سزا دیں گے (اور اگر تم باہمی ضد کا اندیشہ ہو) یعنی زوجین کے درمیان ضد و خلاف کا تم کو علم ہو اور بینہما میں اضافت وسعت کی وجہ سے ہے، یعنی شقاقاً بینہما (پس) ان دونوں کی طرف سے ان کی رضامندی سے (ایک حکم) یعنی ایک منصف مرد (شوہر کے اہل) یعنی رشتہ داروں (میں سے، اور ایک حکم عورت کے اہل میں سے بھیجو) اور شوہر اسے طلاق یا قبول عوض کا وکیل بنا دے، اور عورت اسے خلع کا وکیل بنا دے، پھر دونوں خوب جد جہد کریں اور جو ظلم کرنے والا ہو، اسے اس سے باز رہنے کی ہدایت کریں اور اگر وہ اس پر بھی انکار کرے، تو دونوں کے درمیان تفریق کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (اگر دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دونوں) یعنی زوجین (کے درمیان توافق پیدا کر دیں گے) یعنی ان دونوں کو اس چیز کی توفیق دے دیں گے جو اس جگہ طاعت الہی ہوگی، خواہ اصلاح خواہ جدائی (بے شک اللہ تعالیٰ) ہر چیز کو (جانتے ہیں) ظاہر کی طرح باطن کی بھی (خبر رکھتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرو) یعنی اس کی توحید اختیار کرو (اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو) یعنی نیکی اور نرمی (اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں اور قریبی پڑوسی کے ساتھ) یعنی جو پڑوسی تم سے قریب ہے، پڑوسی ہونے میں یا نسب میں (اور دور کے پڑوسی کے ساتھ) جو تم سے پڑوس میں یا نسب میں دور ہے (اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ) جو سفر میں رفیق ہے، یا پیشے میں ساتھی ہے، اور کہا گیا کہ وہ بیوی ہے (اور مسافر کے ساتھ) جو سفر میں بے سہارا ہو گیا ہو (اور ان کے ساتھ جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں) یعنی غلاموں کے ساتھ (بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے اس کو جو متکبر ہے) اور جو کچھ اسے دیا گیا ہے، اس پر لوگوں کے اوپر (فخر کرنے والا ہے، وہ لوگ) مبتدا ہے (جو) اپنے واجبات میں (بخل کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی) اس میں (بخل کا حکم دیتے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل میں سے) یعنی علم اور مال میں سے (انہیں دیا ہے، اس کو چھپاتے ہیں) اور وہ یہود ہیں، اور مبتدا کی خبر لہم و عید شدید ہے (اور ہم نے) اس نعمت اور دوسری نعمتوں کے (منکروں کے لئے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ لوگ) یہ ما قبل کے الذین پر عطف ہے (جو اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے اور نہ یوم آخرت پر) جیسے منافقین اور اہل مکہ (اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا) وہ اس کے امر پر عمل کرتا ہے، جیسے یہ لوگ ہیں (تو وہ برا ساتھی ہے، اور ان کا کیا نقصان ہے، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، اور جو اللہ نے انہیں روزی دی ہے، اس میں سے خرچ کریں) یہ استفہام انکار کے لئے ہے اور لوم صدر یہ ہے یعنی ان کوئی ضرر

نہیں ہے، ضرر تو اس حالت میں ہے جس پر وہ ہیں، (اور اللہ انہیں جاننے والے ہیں) انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے (بے شک اللہ تعالیٰ) کسی پر (چیونٹی کے بقدر بھی ظلم نہیں کرتے) ذرہ چھوٹی چیونٹی ہے، یعنی اس کی نیکی میں کچھ کمی یا برائی میں اضافہ نہیں کرتے (اور اگر) مومن کی جانب سے ایک ذرہ (نیکی ہو) اور ایک قرآن میں حسنہٴ رفع کے ساتھ ہے، تو کان تامہ ہے (تو اسے) دس گنے سے سات سو گنے سے زیادہ تک (بڑھاتے ہیں) اور ایک قرآنہٴ یضعفہا بالتشدید ہے (اور) مضاعف یعنی اتنا بڑا بنانے کے ساتھ ساتھ خاص (اپنے پاس سے) اتنا (اجر عظیم دیتے ہیں) جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا (پس کیا حال ہوگا) کفار کا (جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ لائیں گے) جو اس پر اس کے عمل کی گواہی دے گا، اور وہ ان کا نبی ہوگا (اور) اے محمد! (تم کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے، اس دن) یعنی گواہوں کے آنے کے دن (وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور رسولوں کی نافرمانی کی، تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی جاتی) تسویٰ میں تین قرأتیں ہے، فعل مجہول تَسْوَىٰ بضم التاء اور تَسْوَىٰ فعل معروف، بفتح التاء علامت مضارع کے حذف کے ساتھ، اور سین میں تاء کے ادغام کے ساتھ یعنی تَسْوَىٰ، یعنی تمنا کریں گے کہ زمین ہی کی طرح مٹی اور دھول بن جاتے، کیونکہ وہ دن بہت ہولناک ہوگا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے و یقول الکافر یا لیتنی کنت تراباً (اور کوئی بات اللہ سے نہیں چھپا سکیں گے) جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور دوسرے وقت میں چھپانے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے و اللہ ربنا ما کنا مشرکین۔

تشریحات

مسلطون: قوٰم کے معنی منتظم کے ہیں، یعنی مردوں کو مصلحتوں، تدابیر اور ادب و تعلیم کا منتظم بنایا گیا ہے، مفسر نے اس کی تفسیر میں مسلطون کا لفظ لا کر اشارہ کیا ہے، کہ یہ مرد نرے منتظم نہیں ہیں، بلکہ ان میں ایک طرح حکومت کی شان ہے، جس طرح حاکم اپنی رعایا پر مقرر ہوتا ہے، اسی طرح مرد عورتوں پر ایک گونہ حکومت کی شان رکھتے ہیں، انہیں ادب سکھاتے ہیں اور کسی بھی غلطی میں ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور ان کا مواخذہ کرتے ہیں، اور ضرورت کے وقت ان کا ہاتھ تھامتے ہیں یعنی ان کی مدد کرتے ہیں۔

أی بتفضیلہ لہم علیہن: اللہ تعالیٰ نے مردوں کو متعدد جہتوں سے عورتوں پر فوقیت دی ہے، علم کی جہت سے، عقل کی جہت سے، ولایت کی جہت سے۔ ان کے علاوہ دینداری، جہاد، شہادت، جمعہ و جماعت، امامت و امارت میں مرد کو امتیاز ہے، مزید یہ کہ مرد بیک وقت چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، میراث میں اس کا حصہ زائد ہے، طلاق کا اختیار مرد کو ہے، رجعت کا مالک وہی ہے، اولاد باپ ہی کی طرف منسوب ہوتی ہے، عورت کے اخراجات ضروریہ کا ذمہ دار مرد ہی ہوتا ہے۔

حيث اوصى عليهم الازواج: اللہ تعالیٰ نے مردوں کے واسطے سے عورتوں کی عزت و ناموس اور ان کے بقاء و تحفظ کا انتظام فرمایا ہے، چنانچہ اس سلسلے میں مردوں کو عدل کی خاص وصیت اور تاکید فرمائی ہے، چنانچہ امساک بالمعروف کی تاکید ہے، اگر وہ نہ ہو سکے تو بجائے ستانے اور مشکل میں ڈالنے کے تسریح بالاحسان کی اجازت ہے، کئی عورتیں ہوں تو عدل کا حکم ہے: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء (رواہ الشیخان)

عصیانہن: نشوز کے معنی ہیں شر کی جانب اٹھنا، عورت کا نشوز یہ کہ شوہر سے بغض رکھے، اس کی نافرمانی کرے، اس پر تکبر کرے وغیرہ فخور فوہن: عورتوں کو نصیحت کریں تو حوالے میں اللہ کی گرفت کا خوف دلائیں، نصیحت کی پائیدار بنیاد یہی ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کیا جائے۔ نصیحت کا یہ حکم اس وقت ہے، جبکہ ابھی نافرمانی کا اندیشہ ہو، اس کی علامتیں ظاہر ہوئی ہوں، لیکن اگر وہ کھلم کھلا نافرمانی کرنے لگ جائیں تو حکم ہے کہ ان کے ساتھ رات گزارنا چھوڑ دو، اگر اس پر بھی نہ مانیں تو ہلکی مار مارنے کی اجازت ہے کہ جسم کا کوئی حصہ ٹوٹ پھٹ نہ جائے والاضافة للاتساع: شقاق کی اضافت بینہما کی طرف کی گئی ہے، ظرف میں چونکہ وسعت زیادہ ہوتی ہے، کہ اس کو کسی طریقے سے بھی کلام میں لایا جاسکتا ہے، خواہ اضافت کے ساتھ یا بغیر اضافت کے۔ اسی گنجائش کی بنا پر یہ اضافت ہے۔ ورنہ اصل عبارت یہ ہوگی وان خفتم شقاقاً بینہما۔

رجلاً عدلاً: یعنی ایسا جو احکام کا جاننے والا، معاملات کی نزاکتوں کا سمجھنے والا ہو، اس لئے اس کو حکم کہا گیا۔ ای یقدرہما علی ما ہو الطاعة: یوفق اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا ہو ہی جائے گی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں حکم کو اپنی توفیق سے ایسے نتیجے اور فیصلے پر پہنچادیں گے جو خیر ہوگا، اور منشاء الہی کی تکمیل اسی میں ہوگی، خواہ باہم اتفاق ہو جائے یا دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے۔

القرب منک فی الجوار أو النسب: قریبی پڑوسی دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو پڑوس میں قریب ہو۔ دوسرے وہ جو نسب میں قریب ہو۔ ایک تیسرا بھی ہے، وہ یہ کہ دین میں قریب ہو (فقہد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجیران ثلثة، فجارٌ له ثلثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الاسلام وجار له حقان حق الجوار وحق الاسلام وجار له حق واحد حق الجوار وهو المشرك من اهل الكتاب) (رواہ البزار) سے روایت ہے کہ پڑوسی تین ہیں۔ (۱) ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تین حقوق ہیں، پڑوس کا حق، قرابت کا حق اور اسلام کا حق۔ (۲) ایک پڑوسی وہ ہے جس کے دو حق ہیں، پڑوس کا حق اور اسلام کا حق۔ (۳) اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کا صرف ایک حق ہے یعنی پڑوس کا حق، اور یہ مشرک ہے، اہل کتاب میں سے۔

البعید عنک فی الجوار أو النسب: الجنب کے معنی بعید کے ہیں، یہ لفظ مفرد، تشنیہ، جمع اور مذکر و مؤنث

سب کے لئے ہے۔

الرفیق فی السفر : الصاحب بالجنب کے معنی پہلو کا ساتھی، یہ سفر کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے، کسی کام اور پیشے میں رفاقت ہوگئی ہو، اس کو بھی صاحب بالجنب کہا جائے گا، بعض لوگوں نے اس کا اطلاق بیوی پر کیا ہے۔

المنقطع فی سفره : ابن السبیل کی تفسیر مفسر نے المنقطع فی سفره سے کی ہے، کیونکہ حسن سلوک کا زیادہ محتاج وہی ہوتا ہے، ویسے اگر مطلقاً مسافر مراد لیا جائے تو بہتر ہے۔

﴿مختالاً﴾ متکبراً : اختال یختال سے ہے، اس کے معنی تکبر کرنا ہے، گھوڑے کو خیل اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی چال میں بڑائی کا احساس رکھتا ہے۔

﴿للكافرين﴾ بذلک وبغیره : باء حرف جر کافرین سے متعلق ہے، اور ذلک کا اشارہ ما آتاهم اللہ من فضله کی جانب ہے، اور کافرین بمعنی جاہدین ہے، یعنی اللہ کے فضل کا وہ گویا انکار کرتے ہیں، کیونکہ چھپانا انکار ہی کرنا ہے۔

مرائین لهم : ریاء الناس ہے تو مصدر مگر حال کے موقع پر ہے، اس لئے اس کی تفسیر مرائین سے کی ہے۔
کھؤلاء : یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے، جن کے مذکورہ بالا پانچ اوصاف بیان کئے گئے، یعنی ۱: بخل۔ ۲: امر بالبخل۔ ۳: کتمان فضل۔ ۴: انفاق ریاء۔ ۵: عدم الایمان باللہ والیوم الآخر۔ اور ان کا مصداق منافقین اور اہل مکہ کو قرار دیا ہے۔

﴿فساء﴾ بئس ﴿قریناً﴾ ہو : قریناً تمیز ہے، ساء میں ضمیر مستتر ممیز ہے، اور مخصوص بالذم محذوف ہے، وہ ہو ہے۔

أی ضرر علیہم : یہ تفسیر ماذا علیہم کی ہے، ما اور ذائل کر کلمہ استفہام ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ انھیں کون سا ضرر اور نقصان ہے، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ان پر کوئی ضرر نہیں ہے، اور لو مصدر یہ ہے، اور حرف جر فی مقدر ہے، یعنی ای ضرر علیہم فی ایمانہم وانفاقہم، مفسر نے لا ضرر فیہ کہہ کر اسی فی مقدرہ کا اظہار کیا ہے۔

بأن ینقصها من حسناتہ ویزیدھا فی سیئاتہ : یہ ظلم کا بیان ہے جس کی نفی کی گئی ہے، نیکیاں گھٹا دینا اور برائیوں کو بڑھا دینا، چاہے ذرے کے برابر ہو ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظلم نہیں کرتے۔

﴿وإن تک﴾ الذرة ﴿حسنة﴾ : حسنة منصوب ہے فعل ناقص کی خبر ہے، اور اس کا اسم ضمیر مستتر ہے، جو ذرۃ کی جانب راجع ہے، اور ایک قرآۃ میں حسنة رفع کے ساتھ ہے، تب یہ کان تامہ کا فاعل ہے۔

﴿وجئنا بک﴾ یا محمد ﴿علیٰ ہؤلاء شہیدا﴾ : ہؤلاء سے اشارہ پچھلے انبیاء کی جانب ہے،

جن کو گواہ بنا کر قیامت کے دن لایا جائے گا، یا اس سے تمام اگلی امتیں مراد ہیں، یا اس امت کے منافقین و مشرکین مراد ہیں۔

تسویٰ: اس میں تین قراتیں ہیں، ترجمے میں تشریح گزر چکی ہے۔

وفی وقت آخر یکتمونہ: اس جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ولا یکتمون اللہ حدیثاً، وہ لوگ اللہ سے بات نہیں چھپائیں گے، اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ: ثم لم تکن فتنتم إلا أن قالوا و اللہ ربنا ما کنا مشرکین۔ (سورہ انعام: ۲۳) یہ جھوٹ بولنا بات کو چھپانا ہے۔ مفسر نے اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ میدان قیامت میں مختلف مواقع ہوں گے، کہیں جھوٹ بول کر بات چھپانا چاہیں گے، مگر وہ چھپ نہ سکے گی، اور کہیں کہیں صاف صاف اظہار و اقرار کریں گے قالوا ضلوا عنا و شهدوا علیٰ أنفسہم أنهم کانوا کافرین۔ (سورہ اعراف: ۳۷)

مضامین آیات و تفسیر

اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی حیثیت اور ان کا مقام متعین فرمایا ہے، کہ مرد، عورتوں کے حق میں حاکم اور منتظم ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عورتوں کے اوپر فوقیت بخشی ہے، علم میں بھی، عقل میں بھی اور ولایت و اختیار میں بھی، اور اس واسطے بھی کہ عورتوں کے اخراجات ضروریہ کی ذمہ داری مرد پر ہی ہوتی ہے، تو نیک و صالح عورتیں اپنے شوہروں کی فرمانبردار ہوتی ہیں اور شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے ناموس کی اور ان کے مالوں وغیرہ کی حفاظت کرتی ہیں، کیونکہ ان کا تحفظ اللہ نے انہیں شوہروں سے وابستہ کر رکھا ہے

پھر شوہروں کو ہدایت دی کہ اگر تمہیں بیویوں کی جانب سے نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو، تو انہیں اللہ کا واسطہ دیکر سمجھاؤ اگر اس سے بات بن جائے، تو خیر، ورنہ اپنا بستران سے علیحدہ کر لو، اگر اس سے ان کی سرکشی دور ہو جائے و بہتر، ورنہ پھر اتنی اجازت ہے کہ انہیں ہلکی مار مارو، جس سے بدن پر زخم نہ ہو جائے، نہ ہڈی ٹوٹے، اگر اس سے وہ درست ہو جائیں، اور تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں تو پھر مارنے کا بہانہ مت ڈھونڈھو، اور خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اور سب سے بڑے ہیں

اس کے بعد صاحب اختیار لوگوں خطاب ہے کہ اگر تمہیں احساس ہو کہ میاں بیوی میں موافقت نہیں ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف عناد و ضد میں گرفتار ہیں، تو دونوں طرف سے ایک ایک معتبر آدمی کا انتخاب کرو، ایک عورت کی جانب سے کہ وہ اسے خلع وغیرہ کرانے میں اپنا وکیل بنائے، اور ایک شوہر کی طرف سے، جو طلاق کے سلسلے میں یا عورت کی طرف سے جو عوض ملتا ہے، اس کے قبول کرنے میں اس کا وکیل ہو یہ دونوں معاملہ کو بنانے کی کوشش کریں، اگر دونوں اس کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل

سے اس نتیجہ اور فیصلہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، جس میں خیر اور اصلاح ہوگی۔ خواہ دونوں میں مصالحت ہو جائے، یا مفارقت، جو بھی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس کی توفیق ارزانی ہوگی، اس کی اور سب کی خبر تو اللہ ہی کو ہے۔ وہی سب کچھ جانتے ہیں

اور عبادت تو صرف اللہ کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیز رشتہ مندوں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور پرڑوسیوں کے ساتھ، خواہ وہ قریب کا پرڑوسی ہو یا دور کا، اور اس ساتھی کے ساتھ جو تمہارے برابر میں ہو، خواہ وہ سفر میں ہو یا تمہارے پیشہ میں تمہارا شریک ہو، یا بیوی ہو، اور مسافر کے ساتھ اور اپنے غلاموں اور باندیوں کے ساتھ ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ کسی مغرور اور فخر و ناز کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔

جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے انہیں جو کچھ علم یا مال اپنے فضل و کرم سے عطا فرما رکھا ہے، اسے چھپاتے ہیں، ان کے لئے سخت وعید ہے، اور ہم نے کافروں کے لئے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے اور نہ یوم آخرت پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے، تو وہ برا ساتھی ہے، اور اگر یہ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں روزی دے رکھی ہے اس میں سے خرچ کرتے، تو ان کا کیا نقصان ہو جاتا، یہ تو فائدے کی چیز ہے، نقصان تو اس حال میں ہے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں، اور اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔

یہ بات تو شبہ بالا تر ہے کہ حق تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ کے برابر ظلم نہیں کرتے، نہ کسی کی نیکی گھٹاتے، اور نہ کسی کی برائی بڑھاتے، بلکہ اگر ایک ذرہ کے برابر نیکی ہوتی ہے، تو اسے البتہ بڑھاتے ہیں، کم از کم دس گنا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ، اور اس پر مزید اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔

اس صورت حال میں بتاؤ کہ ان کفار کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جبکہ ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور یہ گواہ ان کا نبی ہوگا، جو ان کے اعمال کا گواہ ہوگا، اور اے محمد! تمہیں ان سب لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ ان کفار کی اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کی بڑی تمنا یہ ہوگی کہ یہ لوگ زمین کے ساتھ برابر کر دئے جاتے، کہ کسی عذاب و ثواب کا مسئلہ ہی نہ اٹھتا، و یقول الکافر یا لیتنی کنت تراباً، اور اس دن یہ لوگ کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ ﴿لَا تَصْلُوا﴾ ﴿وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ ﴿مِنَ الشَّرَابِ﴾

لان سبب نزولها صلاة جماعة في حال السكر ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ ﴿بأن تصحوا﴾ ﴿وَلَا

جُنُبًا ﴿١﴾ بِأَيِّلَاجٍ أَوْ إِنْزَالٍ وَنُصِبَهُ عَلَى الْحَالِ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمَفْرُودِ وَغَيْرِهِ ﴿٢﴾ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴿٣﴾ مَجْتَازِي سَبِيلٍ ﴿٤﴾ طَرِيقِ أَيْ مَسَافِرِينَ ﴿٥﴾ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴿٦﴾ فَلَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا وَاسْتَشْنَى الْمَسَافِرُ لِأَنَّ لَهُ حِكْمًا آخَرَ سِيَّاتِي وَقِيلَ الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنِ قُرْبَانِ مَوَاضِعِ الصَّلَاةِ أَيْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا عُبُورَهَا مِنْ غَيْرِ مَكْتٍ ﴿٧﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى ﴿٨﴾ مَرْضَا يَضُرُّهُ الْمَاءُ ﴿٩﴾ أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴿١٠﴾ أَيْ مَسَافِرِينَ وَأَنْتُمْ جَنْبٌ أَوْ مُحَدَّثُونَ ﴿١١﴾ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴿١٢﴾ هُوَ الْمَكَانُ الْمَعْدُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَيْ أَحَدٌ ﴿١٣﴾ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴿١٤﴾ وَفِي قِرَاءَةِ بِلَا لِفٍ وَكِلَاهُمَا بِمَعْنَى اللَّمَسِ وَهُوَ الْجَسُّ بِالْيَدِ قَالَهُ ابْنُ عَمْرٍ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَلْحَقَ بِهِ الْجَسُّ بِبَاقِي الْبَشْرَةِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ الْجَمَاعُ ﴿١٥﴾ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴿١٦﴾ تَتَطَهَّرُونَ بِهِ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَالتَّفْتِيْشِ وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى مَا عَدَا الْمَرْضَى ﴿١٧﴾ فَتَيَمَّمُوا ﴿١٨﴾ اقْصِدُوا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ ﴿١٩﴾ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴿٢٠﴾ تَرَابًا طَاهِرًا فَاضْرِبُوا بِهِ ضَرْبَتَيْنِ ﴿٢١﴾ فَاْمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴿٢٢﴾ مَعَ الْمَرْفَقَيْنِ مِنْهُ وَمَسْحٌ يَتَعَدَى بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرْفِ ﴿٢٣﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٢٤﴾

﴿٢٥﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيْبًا ﴿٢٦﴾ حِظًّا ﴿٢٧﴾ مِنَ الْكِتَابِ ﴿٢٨﴾ وَهُمْ الْيَهُودُ ﴿٢٩﴾ يَشْتَرُونَ الضَّلَاةَ ﴿٣٠﴾ بِالْهَدَى ﴿٣١﴾ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٣٢﴾ تَخْطُوا طَرِيقَ الْحَقِّ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ ﴿٣٣﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ﴿٣٤﴾ مِنْكُمْ فَيَخْبِرُكُمْ بِهِمْ لِتَجْتَنِبُوهُمْ ﴿٣٥﴾ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ﴿٣٦﴾ حَافِظًا لَكُمْ ﴿٣٧﴾ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٣٨﴾ مَانِعًا لَكُمْ مِنْ كَيْدِهِمْ ﴿٣٩﴾ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴿٤٠﴾ قَوْمٌ ﴿٤١﴾ يُحَرِّفُونَ ﴿٤٢﴾ يَغَيِّرُونَ الْكَلِمَ ﴿٤٣﴾ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ ﴿٤٤﴾ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴿٤٥﴾ الَّتِي وَضَعَ عَلَيْهَا ﴿٤٦﴾ وَيَقُولُونَ ﴿٤٧﴾ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ بِشَيْءٍ ﴿٤٨﴾ سَمِعْنَا ﴿٤٩﴾ قَوْلَكَ ﴿٥٠﴾ وَعَصَيْنَا ﴿٥١﴾ أَمْرَكَ ﴿٥٢﴾ وَاسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴿٥٣﴾ حَالٌ بِمَعْنَى الدَّعَاءِ أَيْ لَا سَمِعْتُ ﴿٥٤﴾ وَيَقُولُونَ لَهُ ﴿٥٥﴾ رَاعِنَا ﴿٥٦﴾ وَنَهَى عَنْ خُطَابِهِ بِهَا وَهِيَ كَلِمَةٌ سَبَّ بَلَّغْتَهُمْ ﴿٥٧﴾ لِيَّا ﴿٥٨﴾ تَحْرِيفًا ﴿٥٩﴾ بِالْأَسْتِثْمِ وَطَعْنَا ﴿٦٠﴾ قَدْحًا ﴿٦١﴾ فِي الدِّينِ ﴿٦٢﴾ الْإِسْلَامِ ﴿٦٣﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴿٦٤﴾ بَدَلٌ وَعَصَيْنَا ﴿٦٥﴾ وَاسْمَعُ ﴿٦٦﴾ فَقَطْ ﴿٦٧﴾ وَانظُرْنَا ﴿٦٨﴾ انظُرْنَا بَدَلٌ رَاعِنَا ﴿٦٩﴾ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿٧٠﴾ مِمَّا قَالُوهُ ﴿٧١﴾ وَأَقْوَمَ ﴿٧٢﴾ أَعْدَلُ مِنْهُ ﴿٧٣﴾ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ﴿٧٤﴾ أَبْعَدَهُمْ عَنْ رَحْمَتِهِ ﴿٧٥﴾ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾ مِنْهُمْ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ ﴿٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا ﴿٧٨﴾ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿٧٩﴾ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴿٨٠﴾ مِنَ التَّوْرَةِ ﴿٨١﴾ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا ﴿٨٢﴾ نَمْحُو مَا فِيهَا مِنَ الْعَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْحَاجِبِ ﴿٨٣﴾ فَتَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا ﴿٨٤﴾ فَجَعَلَهَا كَالَأَقْفَاءِ لَوْحًا وَاحِدًا ﴿٨٥﴾ أَوْ نَلْعَنَهُمْ ﴿٨٦﴾ نَمَسَخَهُمْ قَرْدَةً ﴿٨٧﴾ كَمَا لَعْنَا ﴿٨٨﴾

﴿مَسَخْنَا﴾ ﴿أَصْحَبَ السَّبْتِ﴾ ﴿مِنْهُمْ﴾ ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ ﴿قَضَاؤُهُ﴾ ﴿مَفْعُولًا﴾ ﴿وَلَمَّا نَزَلَتْ﴾ ﴿اسْلَمْ﴾ ﴿عَبْدَ اللَّهِ﴾ ﴿بَنَ سَلَامٍ﴾ ﴿فَقِيلَ﴾ ﴿كَانَ وَعِيدًا﴾ ﴿بَشْرًا﴾ ﴿فَلَمَّا﴾ ﴿أَسْلَمَ﴾ ﴿بَعْضُهُمْ﴾ ﴿رَفَعَ﴾ ﴿وَقِيلَ﴾ ﴿يَكُونُ﴾ ﴿طَمَسٌ﴾ ﴿وَمَسَخٌ﴾ ﴿قَبْلَ﴾ ﴿قِيَامِ السَّاعَةِ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ﴾ ﴿أَنْ يُشْرَكَ﴾ ﴿أَيِ الْإِشْرَاكِ﴾ ﴿بِهِ﴾ ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ﴾ ﴿سِوَى ذَلِكَ﴾ ﴿مِنَ الذَّنُوبِ﴾ ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿الْمَغْفِرَةَ﴾ ﴿لَهُ﴾ ﴿بِأَنْ يَدْخُلَهُ﴾ ﴿الْجَنَّةَ﴾ ﴿بِالْعَذَابِ﴾ ﴿وَمَنْ شَاءَ﴾ ﴿عَذَبَهُ﴾ ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿بِذُنُوبِهِ﴾ ﴿ثُمَّ يَدْخُلُهُ﴾ ﴿الْجَنَّةَ﴾ ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ﴾ ﴿بِاللَّهِ﴾ ﴿فَقَدْ﴾ ﴿اِفْتَرَى﴾ ﴿إِثْمًا﴾ ﴿ذَنْبًا﴾ ﴿عَظِيمًا﴾ ﴿كَبِيرًا﴾ ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ﴿إِلَى الَّذِينَ يَزُكُّونَ﴾ ﴿أَنْفُسَهُمْ﴾ ﴿وَهُمْ﴾ ﴿يَهُودٌ﴾ ﴿حَيْثُ﴾ ﴿قَالُوا﴾ ﴿نَحْنُ﴾ ﴿أَبْنَاؤُ اللَّهِ﴾ ﴿وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ ﴿أَيِ لَيْسَ﴾ ﴿الْأَمْرُ﴾ ﴿بِتَزْكِيَتِهِمْ﴾ ﴿أَنْفُسَهُمْ﴾ ﴿بَلِ﴾ ﴿اللَّهُ يَزَكِّي﴾ ﴿يُطَهِّرُ﴾ ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿بِالْإِيمَانِ﴾ ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿يَنْقُصُونَ﴾ ﴿مِنَ أَعْمَالِهِمْ﴾ ﴿فَتِيلًا﴾ ﴿قَدْرَ﴾ ﴿قَشْرِ النَّوَاةِ﴾ ﴿أَنْظُرُ﴾ ﴿مَتَّعِجًا﴾ ﴿كَيْفَ يَفْتَرُونَ﴾ ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ ﴿الْكَذِبَ﴾ ﴿بِذَلِكَ﴾ ﴿وَكَفَى﴾ ﴿بِهِ﴾ ﴿إِثْمًا مُبِينًا﴾ ﴿بَيِّنًا﴾

ترجمہ

(اے ایمان والو! نماز کے قریب نہ جاؤ) یعنی نماز نہ پڑھو (جب کہ تم) شراب کے (نشے میں ہو) اس لئے کہ اس کے نزول کا سبب نشے کی حالت میں ایک جماعت کا نماز پڑھنا ہے (جب تک کہ جو کچھ تم بولتے ہو، اسے جان نہ لو) یعنی جب تک نشے سے آفاقہ نہ ہو لے (اور جنابت کی حالت میں) خواہ جماع سے ہو یا انزال سے، جنبا کا نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے، اور اس کا اطلاق مفرد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے (مگر اس حال میں کہ تم راستہ چلنے والے ہو) یعنی مسافر ہو (جب تک غسل نہ کر لو) تب تمہارے لئے درست ہے کہ نماز پڑھو، اور مسافر کا استثنا اس لئے ہے کہ اس کے واسطے دوسرا حکم ہے، جو عنقریب آ رہا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد نماز کی جگہ کے قریب جانے سے نہیں ہے، یعنی حالت جنابت میں مسجد میں جانے کی ممانعت ہے، مگر یہ کہ بغیر کے ہوئے اور بغیر وقفہ کے مسجد سے گزرنا ہو تو اس کی اجازت ہے۔

(اور اگر تم کو) ایسی (بیماری ہو) جس کے لئے پانی مضر ہو (یا تم سفر پر ہو) یعنی مسافر ہو اور تمہیں جنابت یا حدث ہو (یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا) غائط قضائے حاجت کی جگہ کو کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ حدث لاحق ہو (یا تم نے عورتوں سے باہم مساس کیا) اور ایک قرآۃ میں بغیر الف کے ہے، اور یہ دونوں لمس یعنی ہاتھ سے چھونے کے معنی میں ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے، اور اسی پر امام شافعی علیہ الرحمہ ہیں، اور اسی حکم میں بدن کے باقی حصے کی کھال سے چھونا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد جماع ہے (پھر تم پانی نہ پاؤ) طلب اور تلاش کے باوجود تا کہ اس سے نماز کے لئے طہارت حاصل کرو، اس کا تعلق مریض کے ماسوا کے ساتھ ہے (پس) وقت کے داخل ہونے کے بعد (پاک مٹی) کا قصد

کرو) اس پر دو مرتبہ ہاتھ مارو (پھر اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر) کہنی سمیت (مسح کر لو) مسح متعدی بنفسہ بھی ہوتا ہے اور متعدی بالحر ف بھی ہوتا ہے (بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مغفرت کرنے والے ہیں ۰ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا) اور یہ یہود ہیں (خریدتے ہیں) ہدایت کے عوض (گمراہی کو، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ) حق (سے بھٹک جاؤ) کہ تم بھی انھیں جیسے ہو جاؤ (اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں) تم سے زیادہ جانتے ہیں، اور تمہیں بتا رہے ہیں، تاکہ تم ان سے دور رہو (اور اللہ تعالیٰ) تمہاری ان سے حفاظت کے لئے (کافی ہیں ۰ مددگار یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو) ان (باتوں کو) جنھیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کے سلسلے میں توریت میں اتارا ہے (ان کی جگہوں سے) جہاں انھیں رکھا گیا ہے (ہٹاتے ہیں، اور) جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے ہیں، تو (کہتے ہیں ہم نے) آپ کی بات کو (سن لیا، اور) آپ کے حکم کی (نافرمانی کی، اور سنئے! آپ کی بات نہ سنی جائے) غیر مسمع حال ہے بددعا کے معنی میں، یعنی آپ کی نہ سنی جائے (اور) آپ سے کہتے ہیں (راعنا) جبکہ اس لفظ سے آپ کو خطاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ ان کی زبان میں گالی ہے (اپنی زبانیں اینٹھ کر اور دین) اسلام (میں طعنہ دیتے ہوئے، اور اگر یہ لوگ) بجائے سمعنا و عصینا کے (یعنی سمعنا و اطعنا یعنی ہم نے سنا اور مانا کہتے اور) بجائے راعنا کے (واسمع وانظرنا کہتے تو) جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے (بہتر ہوتا اور) اس سے زیادہ (انصاف کی بات ہوتی، لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی) یعنی اپنی رحمت سے دور کیا (پس یہ لوگ بجز تھوڑے سے کے ایمان نہیں لائیں گے ۰) جیسے عبد اللہ بن سلام اور ان کے رفقاء۔

(اے وہ لوگو! جن کو کتاب دی گئی، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے) یعنی قرآن پر (جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے) یعنی توریت کی (جو تمہارے پاس ہے، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو مٹادیں) یعنی چہروں میں جو اعضاء آنکھ، کان اور بھونیں وغیرہ ہیں انھیں مٹادیں (پھر الٹ دیں انھیں پیٹھ کی جانب) یعنی پیچھے کے حصے کی طرح ایک سپاٹ بنادیں (یا ہم ان پر لعنت کریں) انھیں بندر بنادیں (جیسا کہ ہم نے ”اصحاب سبت“ کو) ان میں سے (لعنت کی) یعنی انھیں بندر بنادیا (اور اللہ کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے) جب یہ آیت نازل ہوئی، تو حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لائے، چنانچہ کہا گیا ہے کہ یہ وعید شرط کے ساتھ تھی، تو جب بعض لوگ ایمان لے آئے، تو یہ وعید اٹھالی گئی، اور کہا گیا ہے کہ یہ ”طمس و مسخ“ قیامت آنے سے کچھ پہلے ہوگا (بے شک، اللہ تعالیٰ اس بات کی مغفرت تو نہیں فرمائیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور جس کے لئے) مغفرت (چاہیں گے، اس کے ماسوا) گناہوں کی (مغفرت فرمادیں گے) بغیر عذاب کے جنت میں داخل کریں گے، اور اہل ایمان میں جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے اس کے گناہوں کے باعث، پھر اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے

(اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اس نے بڑے گناہ کا جھوٹ باندھا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک بنتے ہیں) اور یہ یہودی ہیں، انھوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، یعنی ان کے اپنے پاک بننے سے کچھ نہیں ہوتا (بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں) ایمان کے ذریعہ (پاک کرتے ہیں، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا) یعنی ان کے اعمال میں (فتیل) یعنی گٹھلی کے چھلکے (کے بقدر بھی کمی نہ کی جائے گی) تعجب ہے (دیکھو) یہ کہہ کر (اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، اور کھلا ہوا گناہ ہونے کے لئے یہی کافی ہے)

﴿تشریحات﴾

لان سبب نزولها : یا ایہا الذین آمنوا لاتقربوا الصلوٰۃ وانتم سکاریٰ کا سبب نزول بتا رہے ہیں، جب تک شراب حلال تھی اس دوران بعض صحابہ نے شراب پی کر نماز باجماعت ادا کرنی شروع کی تھی، تفسیر خازن میں ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کچھ صحابہ کی دعوت کی، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ کھاپی کر ہم نے شراب پی، اور ہم پر نشہ طاری ہوا، پھر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، ان لوگوں نے مجھے امام بنا دیا، میں نے قرأت کی اور پڑھا قل یا ایہا الکفرون اعبدا ماتعبدون ونحن نعبد ماتعبدون، تب یہ آیت نازل ہوئی، لاتقربوا الصلوٰۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ماتقولون، أخرجه الترمذی۔

بأن تصحوا : یہ صحیح مضاعف نہیں ہے، بلکہ صحاحیصحو معتل لام ہے، یعنی نشہ سے افاقہ ہو، اتنا کہ جو کچھ بولو وہ سمجھنے لگو۔

ونصبہ علی الحال : جنباً حال ہے، اسی لئے منصوب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عطف وانتم سکاریٰ جملہ حالیہ پر ہے، اور ولا تقربوا کے فاعل سے حال ہے، تقدیر عبارت اس طرح ہے: ولا تقربوا الصلوٰۃ وانتم سکاریٰ ولا جنباً، جنب کا اطلاق واحد اور جمع دونوں پر ہے۔

مجتازی : عبور کے معنی ایک خاص حد میں ادھر سے ادھر گزرنے کے ہیں، جس کی تعبیر اردو زبان میں پار ہونے اور پار کرنے سے کی جاتی ہے، مجازاً اسے سفر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا عبور ہی ہے، ہاں طویل ہے۔ مفسر نے اپنی تفسیر کی بنا سفر پر ہی رکھی ہے۔

فلکم أن تصلوا : جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، جب تک غسل نہ کر لو، غسل کرنے کے بعد اور نشہ سے افاقہ کے بعد نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن اس میں إلا عابری سبیل یعنی مسافر کا استثنا کیا ہے، کیونکہ اس کے لئے دوسرا حکم ہے، جو ان شاء اللہ آ رہا ہے۔

وقیل المراد النهی عن قربان مواضع الصلوٰۃ : ایک قول یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں نماز سے

نہیں بلکہ ”جائے نماز“ یعنی مسجد کے قریب آنے سے نہیں کی گئی ہے، یعنی لا تقربوا مواضع الصلوٰۃ جنباً اے المساجد إلا عابری سبیل، یعنی جنابت کی حالت میں مسجد کے قریب نہ جاؤ۔ بجز اس کے کہ اسے بغیر ٹھہرے ہوئے پار کر رہے ہو، چنانچہ بعض ائمہ کے نزدیک حالت جنابت میں مسجد میں رہنا اور ٹھہرنا تو جائز نہیں، البتہ مسجد سے ہو کر گزرنا جائز ہے، امام صاحب کے نزدیک حدیث انسی لا احل المسجد لحائض ولا جنب (ابوداؤد) میں مسجد کو حائضہ اور جنبی کے لئے حلال نہیں قرار دیتا) کی وجہ سے نہ ٹھہرنا درست ہے اور نہ گزرنا، اور آیت کا محل ان کے نزدیک مسافر ہے۔

ای أحدث: غائط اس جگہ کو کہتے ہیں جو قضائے حاجت کے لئے بنائی گئی ہو، غائط یعنی استنجے کی جگہ سے آنا ”حدث“ سے کنایہ ہے۔

وفی قرأۃ بلا الف وکلاهما بمعنی اللمس: اَوْلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ میں دو قرأت ہے، ایک باب مفاعلت سے لَمَسْتُمُ اور دوسرے مجرد سے لَمَسْتُمُ، مفسر نے فرمایا کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے، یعنی ہاتھ سے چھونا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اور یہی امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک ہے، یعنی اگر کسی نے عورت کو ہاتھ سے چھولیا، تو اس کا وضو جاتا رہا، اسے وضو کرنا واجب ہے، اور اسی حکم میں جسم کے اور حصے سے چھونے کا مسئلہ بھی ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔

لیکن یہ تفسیر طاہر کے بھی خلاف ہے اور صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے، طاہر کے خلاف اس لئے کہ محاورہ عرب میں عموماً ملامسۃ جماع سے کنایہ ہے، محض چھونے کا معنی اس میں نہیں ہے، لغت کے اعتبار سے اس کی وجہ یہ ہے کہ باب مفاعلت میں جانبین یعنی فاعل و مفعول بہ کی کسی ایک کام میں شرکت ہوتی ہے، جماع میں مرد و عورت دونوں کی مشارکت ہوتی ہے، صرف چھونے میں شرکت کا تصور نہیں ہے، اس لئے طاہر یہی ہے کہ اس کے معنی جماع کے ہوں گے، اور صحیح حدیث کے خلاف اس لئے ہے کہ اس تفسیر کی رو سے عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جانا چاہئے، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ ثم یقبل ثم یصلی ولا یتوضأ اور عن ام سلمة أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبلها وهو صائم ثم لا یفطر ولا یحدث وضوءاً (تفسیر ابن کثیر، ج: ۲، ص: ۶۲) تفصیلی بحث کے لئے تفسیر ابن کثیر: الْمَسْتُمُ النِّسَاءَ، میں کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر جماع ہی سے کرتے ہیں۔

تتطهرون به للصلوة: وہ پانی نہ ملے جس سے حسب ضرورت وضو یا غسل کر سکو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پانی پینے کے لئے موجود ہے، اس سے وضو کر لیں گے تو آئندہ سفر میں پانی ملنے کا امکان نہیں ہے، تو اس پانی کے

موجود ہونے کا اعتبار نہ ہوگا۔

بعد الطلب : فلم تجدوا کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد تلازش کے بعد نہ ملے، مطلقاً نہ پانا مراد نہیں۔

وهو راجع الى ما عدا المريض : پانی نہ پانے کا تعلق مریضوں کے علاوہ دوسرے معذورین سے ہے، مریض کے پاس اگر پانی ہو، لیکن اس کے لئے پانی مضر ہو تو وہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی آنے والے حکم تیمم سے خارج نہ ہوگا۔

اس استثنا کی ضرورت اس وقت ہوگی جبکہ پانی پانے سے مراد حساً پانا ہو، اور اگر پانے سے مراد قدرت ہو، تو مریض کے استثنا کی ضرورت نہ ہوگی۔

اقصدوا بعد دخول الوقت : تیمم کے لفظی معنی قصد کرنے کے ہیں، بعد دخول الوقت کی قید حضرت مفسر نے اپنے مسلک شافعی کے لحاظ سے لگائی ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک تیمم ایک طہارت ضروریہ ہے، جس کا جواز صرف وقت ضرورت میں ہوتا ہے، اور ضرورت نماز کے وقت ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اس لئے نماز کا وقت جب تک نہ ہو، اس نماز کے لئے تیمم درست نہ ہوگا۔ امام صاحب کے نزدیک تیمم طہارت مطلقہ ہے، جب تک پانی نہ ملے اس کا جواز عام ہے۔

یغیرون ﴿الکلم﴾ : تحریف کا ترجمہ مفسر نے تغیر سے کیا ہے، اس تحریف کی دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ جو لفظ حق تعالیٰ کی جناب سے صادر ہوا ہے اسے ختم کر کے اس کی جگہ پر دوسرا لفظ رکھ دیتے ہیں، مثلاً توریت میں رسول اللہ ﷺ کا وصف ”اسمر ربعة“ کے بجائے ”آدم طوال“ لکھ دیا، اسی طرح آیت رجم کو ختم کر کے کوڑے کی سزا لکھ دی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ تو وہی رہنے دیں مگر اس کا من مانا مطلب بیان کریں۔

حال بمعنى الدعاء ای لا سمعت : غَيْرَ مُسْمَعٍ حال ہے، یہ ایک طرح کی بددعا ہے کہ آپ سنئے، خدا کرے کہ آپ کی نہ سنی جائے۔ یہ کلمہ ذوو جہین ہے، یہود حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں آتے تھے، تو استہزاء ایسی باتیں بولتے تھے جو دو معنی کی محتمل ہوتی تھیں، ایک برا معنی ہوتا، دوسرا اچھا معنی ہوتا۔ ظاہر یہ کرتے کہ ہم اچھا معنی مراد لیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں برا معنی ہوتا۔ غَيْرَ مُسْمَعٍ میں بھی دونوں طرح کا احتمال ہے، برا معنی تو وہ ہے جو اوپر ذکر ہوا۔ خیر کا معنی اس طرح ہوگا کہ اسمع منا غیر مسموع مکر وہاً ہماری بات سنیں خدا کرے کوئی ناگوار بات آپ کو سنی نہ پڑے۔ ان کے دل میں پہلا والا معنی ہوتا تھا لیکن ظاہر دوسرے معنی کو کرتے تھے۔

﴿راعنا﴾ : اس کی تفصیل سورہ بقرہ کی تفسیر میں لکھی جا چکی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

﴿لِأَنَّ﴾ : یہ اصل میں لَوْی ہے، سَيِّدٌ وَاللَّيْلُ قَاعِدُهُ سے تعلیل کے بعد لئی بن گیا ہے، اس کے معنی موڑنے کے

ہیں، یہودیوں کا ایک شیوہ یہ بھی تھا کہ توریت پڑھتے وقت زبان کو اس طرح موڑتے تھے کہ الفاظ کچھ کے کچھ ہو جائیں۔

فلما نزلت اسلم عبد اللہ بن سلام الخ : آیت بالا میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب اگر قرآن پر ایمان نہ لائیں گے تو ان کے چہرے مسخ ہو کر پیچھے کے حصے کی طرح سپاٹ ہو جائیں گے، یا ان پر وہ لعنت بر سے گی جو اصحاب سبت پر برسی تھی، یعنی انھیں بندر بنا دیا جائے گا۔ اس وعید کا وقوع ہوا یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے، جواب یہ ہے کہ ہم رسول اکرم ﷺ کے زمانے میں نہیں دیکھتے کہ کسی کا چہرہ مسخ ہوا ہو یا اسے بندر بنا دیا گیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعید واقع نہیں ہوئی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟

اس کا جواب مفسر نے دیا کہ یہ وعید مشروط تھی کہ اگر کوئی بھی ایمان نہ لایا تو یہ عذاب ان پر مسلط ہوگا، لیکن حضرت عبد اللہ بن سلام اور ان کے بعض رفقاء چونکہ مسلمان ہو گئے، اس لئے شرط نہیں پائی گئی اور عذاب اٹھا لیا گیا، اور بعض لوگوں کہا ہے کہ نہیں اس وعید کا ابھی انتظار ہے، قبل قیامت یہ عذاب ان پر مسلط ہوگا۔

﴿فتیلا﴾ قدر قشر النواة : کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سی ایک جھلی ہوتی ہے، وہی ”قشر النواة“ ہے، مفسر نے اسی کو فتیل کہا ہے، لیکن یہ سبقت قلم ہے، فتیل درحقیقت دھاگہ جیسی وہ چیز ہوتی ہے، جو گٹھلی کے شق میں ہوتی ہے، اس کے باریک سے چھلکے کو قطمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کی پشت پر ایک چھوٹا سا گڈھا جیسا ہوتا ہے، اسے نقیر کہتے ہیں، کسی چیز کی چھوٹائی اور قلت بیان کرنے کے لئے یہ الفاظ بطور مثال کے لائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ تینوں لفظ مذکور ہیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہ ہوئی تھی، اور بعض لوگ شراب کے نشے میں نماز پڑھنے لگتے تھے، اور قرأت میں غلطی کرتے تھے، اس پر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو، جب تک کہ تم اپنی کہی ہوئی بات کو سمجھنے نہ لگو، یعنی جب نشہ کا اثر ختم ہو جائے تب نماز پڑھو، اور جب جنابت کی حالت میں ہو، تب بھی نماز نہ پڑھو، الا یہ کہ تم مسافر ہو، مسافر کا حکم آگے آرہا ہے، ہاں جب غسل کر لو تو اب نماز پڑھ سکتے ہو۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حالت جنابت میں مسجد کے اندر جانے کی اس آیت میں ممانعت ہے، ہاں صرف راستہ سے گزرنا ہو تو حالت جنابت میں مسجد سے گزر سکتے ہو۔

اور اگر تمہیں کوئی مرض لاحق ہو، جس میں پانی مضر ہو، یا تم سفر میں ہو اور تمہیں حدث یا جنابت لاحق ہو جائے، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے قضائے حاجت کر کے آیا، یا تم نے عورتوں سے ملاست کی یعنی جماع کیا، اور اب تمہیں وضو یا غسل کرنا ہے، لیکن تلاش و جستجو کے باوجود تمہیں پانی نہیں ملا، یا پانی کے استعمال پر مرض کی

وجہ سے قدرت نہیں، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی مٹی پر دو مرتبہ ہاتھ مارو، ایک بار چہرے پر اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت مسح کر لو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں اور مغفرت فرماتے ہیں۔

یہ احکام برحق نازل ہو رہے ہیں، اور ذرا ان یہودیوں کو دیکھو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، وہ اس ہدایت کے عوض گمراہی کو مول لیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی انہیں کی طرح راہ حق سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بدخواہوں کو تم سے زیادہ جانتے ہیں، اس لئے وہ تمہیں بتا رہے ہیں تاکہ تم ان سے بچتے رہو، اور اللہ کی حفاظت و نصرت تم لوگوں کے لئے کافی ہے۔

ان یہودیوں میں کچھ پڑھے لکھے ایسے ہیں جو کلماتِ الہی کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، کبھی تو لفظ ہی کو ہٹا دیتے ہیں اور کبھی لفظ تو باقی رہتا ہے مگر اس کی مراد بدل دیتے ہیں، اور جب نبی ﷺ انہیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو زبان سے تو اطعنا کہتے ہیں کہ ہم فرمانبردار ہیں، لیکن دل سے اور عمل سے عصینا کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، اور کہتے ہیں اسمع سنئے، غیر مسمع آپ کی نہ سنی جائے، اور خطاب میں آپ سے راعنا کہتے ہیں، جو کہ ان کی زبان میں گالی ہے اور عربی میں اس کا معنی ہماری رعایت فرمائیے، یہ کہہ کر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی زبان میں انہیں بیوقوف بنا دیا، اسی لئے اس لفظ کے استعمال سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ اور ساری گفتگو میں وہ اپنی زبان اینٹھتے ہیں اور دین اسلام کے سلسلے میں طعنہ دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کے بجائے سمعنا و اطعنا کہتے، اور اسی طرح اسمع و انظرنا (ہماری سنئے اور ہمیں دیکھئے) کہتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا اور مناسب بات ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت برسائی ہے، یعنی انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، اس لئے بجز قدرے قلیل کے کسی کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی۔

اے وہ لوگو! جن کو کتاب دی گئی ہے، جو کچھ ہم نے اتارا ہے، وہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی موافقت کرتا ہے، یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے کہ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، اس کو مان لو، اس وقت سے پہلے مان لو جبکہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں اور کان ناک اور منہ اور آنکھ کو مٹا کر پیچھے کی طرح سپاٹ بنا دیں، یا جیسے ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی تھی اور انہیں بندر بنا دیا تھا، ایسے ہی تم پر بھی لعنت برسا دیں، اور اللہ کا امر یقیناً ہو کر رہنے والا ہے، اس آیت کے نزول کے بعد بعض علماء یہود مثلاً عبد اللہ بن سلام وغیرہ ایمان لائے، اور یہ عذاب اس کی برکت سے اٹھالیا گیا، اس وقت طمس و مسخ نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب اس کا وقوع بڑے پیمانے پر ہو۔

اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات قابل درگزر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لئے چاہیں گے معاف کر دیں گے، اور جنت میں بغیر عذاب کے داخلہ نصیب فرمائیں گے،

اور جس کو چاہیں گے عذاب دے کر بشرط ایمان جنت میں جگہ عنایت فرمائیں گے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اس نے بھاری گناہ کا طوفان باندھا ہے۔

ذرا ان لوگوں کو دیکھو، جو خود کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں، اس سے مراد یہود ہیں، چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے فرزند اور اس کے محبوب ہیں، حالانکہ ان کے پاک بننے سے کیا ہوتا، پاک تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پاک کہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہیں، ان پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، ذرا دیکھو کہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، ان کے کھلے گناہ کے لئے تو یہی بات کافی ہے۔



ونزل فی کعب بن اشرف ونحوہ من علماء الیہود لما قدموا مکة وشاهدوا قتلیٰ
بدر وحرّضوا المشرکین علی الاخذ بثارہم ومحاربة النبی ﷺ ﴿۱۰۰﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ اُوتُوا
نَصِیْبًا مِّنَ الْکِتَابِ یُؤْمِنُوْنَ بِالْحَبِیْتِ وَالطَّاغُوْتِ ﴿۱۰۱﴾ صنمان لقریش ﴿۱۰۲﴾ وَیَقُوْلُوْنَ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْا
اَبٰی سَفِیَانَ وَاَصْحَابِهٖ حِیْنَ قَالُوْا لِهٰمْ اَنْحٰنُ اَهْدٰی سَبِیْلًا وَاَنْحٰنُ اَوْلٰی الْبَیْتِ وَنَسَقِی الْحَاجَّ
وَنَقْرِی الضِّیْفِ وَنَفَکَ الْعَٰنِی وَنَفَعَلْ اُمُّ مُحَمَّدٍ وَوَقَدْ خَالَفَ دِیْنَ اَبَائِهٖ وَقَطَعَ الرَّحْمَ وَفَارَقَ
الْحَرَمَ ﴿۱۰۳﴾ هُوَ لَآءِ ﴿۱۰۴﴾ اٰی اَنْتُمْ ﴿۱۰۵﴾ اَهْدٰی مِّنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سَبِیْلًا ﴿۱۰۶﴾ اَقُوْمَ طَرِیْقًا ﴿۱۰۷﴾ اَوْلٰیكَ الَّذِیْنَ
لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ یَّلَعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِیْرًا ﴿۱۰۸﴾ مَانَعًا مِّنْ عَذَابِهٖ ﴿۱۰۹﴾ اَمْ ﴿۱۱۰﴾ لَهْمُ نَصِیْبٌ مِّنَ
الْمُلْکِ ﴿۱۱۱﴾ اٰی لَیْسَ لِهٰمْ شَیْءٌ مِّنْهُ وَ لَوْ کَانَ ﴿۱۱۲﴾ فَاِذَا لَا یُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِیْرًا ﴿۱۱۳﴾ اٰی شَیْئًا تَافَهَا قَدَرَ
النَّقْرَةَ فِی ظَهْرِ النَّوَاةِ لَفَرَطٌ بِخَلْهَمٍ ﴿۱۱۴﴾ اَمْ ﴿۱۱۵﴾ لَیْسَ لِهٰمْ شَیْءٌ مِّنْهُ وَ لَوْ کَانَ ﴿۱۱۶﴾ اٰی النَّبِیِّ ﷺ ﴿۱۱۷﴾ عَلٰی مَا
اَتٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ﴿۱۱۸﴾ مِّنَ النَّبُوَّةِ وَ کَثْرَةِ النَّسَاةِ اٰی یَتَمَنُوْنَ زَوَالَهٖ عَنْهٖ وَ یَقُوْلُوْنَ لَوْ کَانَ نَبِیًّا
لَا شْتَغَلُّ عَنِ النَّسَاةِ ﴿۱۱۹﴾ فَقَدْ اَتٰنَا اِلَ اِبْرٰهِیْمَ ﴿۱۲۰﴾ جَدَهٗ کَمُوْسٰی وَ دَاوُدَ وَ سَلِیْمَانَ ﴿۱۲۱﴾ الْکِتَابِ
وَ الْحِکْمَةِ ﴿۱۲۲﴾ النَّبُوَّةِ ﴿۱۲۳﴾ وَ اَتٰنَهُمْ مَّلَکًا عَظِیْمًا ﴿۱۲۴﴾ فَ کَانَ لِدَاوُدَ تِسْعَ وَ تِسْعُوْنَ اِمْرَاةً وَ لِسَلِیْمَانَ
اَلْفَ مَآبِیْنِ حَرَّةً وَ سَرِیَّةً ﴿۱۲۵﴾ فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ ﴿۱۲۶﴾ بِمُحَمَّدٍ ﴿۱۲۷﴾ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ ﴿۱۲۸﴾ اَعْرَضَ ﴿۱۲۹﴾ عَنْهُ ﴿۱۳۰﴾
فَلَمْ یُوْمِنْ ﴿۱۳۱﴾ وَ کَفٰی بِجَهَنَّمَ سَعِیْرًا ﴿۱۳۲﴾ عَذَابًا لِّمَنْ لَا یُوْمِنُ ﴿۱۳۳﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِآیَاتِنَا سَوْفَ
نُصَلِّیْهِمْ ﴿۱۳۴﴾ نَادِحًا ﴿۱۳۵﴾ یَحْتَرِقُوْنَ فِیْهَا ﴿۱۳۶﴾ کُلَّمَا نَضِجَتْ ﴿۱۳۷﴾ اَحْتَرَقَتْ ﴿۱۳۸﴾ جُلُوْدُهُمْ بِدَلٰلَتِهِمْ
جُلُوْدًا غَیْرَهَا ﴿۱۳۹﴾ بَانَ تَعَادَ اِلٰی حَالِهَا الْاَوَّلِ غَیْرِ مَحْتَرَقَةٍ ﴿۱۴۰﴾ لَیْدُوْقُوْا الْعَذَابَ ﴿۱۴۱﴾ لَیْقَاسُوْا شِدَّتَهٗ
﴿۱۴۲﴾ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَزِیْزًا ﴿۱۴۳﴾ لَا یَعْجِزُهٗ ﴿۱۴۴﴾ حَکِیْمًا ﴿۱۴۵﴾ فِی خَلْقِهٖ ﴿۱۴۶﴾ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا اَبَدًا لَّهُمْ فِیْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ﴿۱۴۷﴾ مِّنْ

الحیض وکل قدر ﴿ وَنَدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ ﴾ ما ائتمن
 علیہ من الحقوق ﴿ اِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ نزلت لما اخذ علیؑ أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة
 الحجبی سادنها قهراً لما قدم النبی ﷺ مكة عام الفتح ومنعه وقال لو علمت أنه رسول الله
 لم أمنعه فأمره رسول الله ﷺ برده إليه وقال هاك خالدة تالدة فعجب من ذلك فقرا له
 علیؑ الآية فاسلم وأعطاه عند موته لأخيه شيبة فبقى فی ولده والآية وإن وردت علی سبب
 خاص فعمومها معتبر بقريظة الجمع ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ يامرکم ﴿ أَنْ تَحْكُمُوا
 بِالْعَدْلِ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا ﴾ فيه ادغام ميم نعم فی ما النكرة الموصوفة ای نعم شيئاً ﴿ يَعِظُكُمْ
 بِهِ ﴾ تادية الامانة والحكم بالعدل ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ﴾ لما يقال ﴿ بَصِيرًا ﴾ بما
 يفعل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ ﴾ ای
 الولاية ﴿ مِنْكُمْ ﴾ إذا أمر وكم بطاعة الله ورسوله ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ ﴾ اختلفتم ﴿ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
 إِلَى اللَّهِ ﴾ ای كتابه ﴿ وَالرَّسُولِ ﴾ مدة حياته وبعده ای سنته ای اكشفوا علیه منهما ﴿ إِنَّ
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ ﴾ ای الرُدُّ إِلَيْهِمَا ﴿ خَيْرٌ ﴾ لكم من التنازع والقول
 بالرای ﴿ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ مالا۔

ترجمہ

یہودیوں میں سے ایک بااثر عالم اور رئیس کعب بن اشرف نامی تھا، وہ اوراس کا حلقہ غزوہ بدر کے بعد
 مکہ مکرمہ پہنچا، وہاں بدر کے مقتولین کے سلسلہ میں معلومات حاصل کئے، پھر مشرکین کو انتقام لینے پر ابھارا، اور
 یہ کہ محمد ﷺ سے پھر جنگ کرو، اسی سلسلے میں آیت نازل ہوئی (کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب
 کا کچھ حصہ ملا ہے، وہ جنت اور طاغوت) یہ دونوں کفار مکہ کے بت تھے (پرایمان لاتے ہیں اور کافروں سے)
 یعنی ابوسفیان اور اس کے لوگوں سے، جبکہ انہوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم لوگ بیت اللہ کے
 متولی ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، اور بھی دوسرے
 اچھے کام کرتے ہیں، تو ہم ہدایت پر ہیں یا یہ محمد ہدایت پر ہیں، جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی،
 رشتہ ناتوں کو توڑا، اور حرم کو بھی چھوڑ دیا، بتائیے کون سیدھی راہ پر ہے، تو اس کے جواب میں وہ (کہتے ہیں کہ یہی
 لوگ) یعنی تم اور تمہارے حلقے والے (ایمان والوں سے زیادہ سیدھی راہ پر ہیں) یعنی ان کا راستہ زیادہ درست
 ہے (یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت برسائی، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت برساویں اس کے لئے کوئی مددگار
 نہ پاؤ گے) جو عذاب سے اسے بچاؤے (بلکہ کیا ان کے لئے ملک کا کوئی حصہ ہے) یعنی ان کے لئے کوئی حصہ

نہیں ہے، اور اگر کوئی حصہ ہوتا (تب تو وہ لوگوں کو کچھ نہ دیتے) یعنی اتنی معمولی چیز بھی نہ دیتے جو کھٹلی کی پشت پر چھوٹا سا گڈھا ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہ دیتے، کیونکہ وہ سخت بخیل ہیں (بلکہ کیا یہ لوگوں سے) یعنی نبی ﷺ سے محض (اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انھیں اپنا فضل عطا کر رکھا ہے) یعنی نبوت اور ازواج کی کثرت، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس فضل کے زوال کی تمنا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہوتے تو عورتوں سے اعراض کرتے (تو بلاشبہ ہم نے آل ابراہیم کو) جیسے موسیٰ اور داؤد اور سلیمان علیہم السلام کو (کتاب اور حکمت) یعنی نبوت (دی، اور انھیں ملک عظیم دیا) داؤد علیہ السلام کے پاس ننانوے بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آزاد اور باندی کل ملا کر ایک ہزار عورتیں تھیں (پس ان میں سے بعض ان پر) یعنی محمد ﷺ پر (ایمان لائے، اور ان میں سے بعض نے اعراض کیا) پس ایمان نہیں لائے (اور ان کے لئے) یعنی جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے عذاب کے لئے (جہنم کافی ہے، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، انھیں ہم آگ میں ڈالیں گے) جس میں وہ جلیں گے (جب بھی ان کی کھالیں جل چکیں گی، ہم ان کے بدلے میں دوسری کھال دیدیں گے) یعنی کھال کو پہلی حالت پر لوٹادیں گے جو بن جلی ہوگی (تا کہ عذاب) کی شدت (کو چکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ صاحب عزت) یعنی غلبہ والے ہیں، ان کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اپنی مخلوق میں (صاحب حکمت ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور جنھوں نے عمل صالح کئے، ہم انھیں ایسی جنتوں میں داخلہ عطا فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ان میں ان کے لئے) حیض و نجاست سے (پاک بیویاں ہیں، اور ہم انھیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے) جو دائم ہوگی، اسے سورج کی شعاعیں ختم نہ کریں گی، یہ سایہ جنت کا ہے (بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچادو) یعنی وہ حقوق جو تم پر امانت ہیں، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کعبہ شریف کی کنجی عثمان بن طلحہ حجاجی خادم کعبہ سے جبراً لے لی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے موقع پر مکہ تشریف لائے تھے، اور عثمان نے کنجی دینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے اگر یہ یقین ہوتا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو میں انکار نہ کرتا، پھر رسول اللہ ﷺ نے انھیں واپس دینے کا حکم فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ لو ہمیشہ ہمیش کے لئے، تو عثمان کو اس پر حیرت ہوئی، آپ نے مذکورہ بالا آیت کی تلاوت کی، پھر وہ مسلمان ہو گئے اور انھوں نے مرتے وقت اپنے بھائی شیبہ کے حوالے یہ کنجی کی، اب تک انھیں کی اولاد میں یہ کنجی ہے، آیت اگرچہ ایک خاص سبب پر نازل ہوئی ہے، مگر جمع کے قرینے سے اس کا عموم معتبر ہے (اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو) تمہیں حکم دیتے ہیں کہ (انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت کرتے ہیں) یعنی امانت کے ادا کرنے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی، نِعَمًا اصل میں نعم ما ہے، نعم کے میم کا ما کے میم میں ادغام کر دیا گیا ہے، یہ مانکرہ

موصوفہ ہے، یعنی نعم شیناً (بے شک اللہ تعالیٰ) جو کچھ کہا جاتا ہے اس کے (سننے والے) اور جو کیا جاتا ہے اس کے (دیکھنے والے) ہیں، اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی، جو تم میں صاحب امر) یعنی حکام و والی (ہیں) جب کہ وہ تم کو اللہ و رسول کی فرمانبرداری کا حکم دیں (پس اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو، تو اس کو اللہ کے پاس) یعنی اللہ کی کتاب کے پاس (اور) رسول کی مدت حیات میں (رسول کے پاس) اور ان کے بعد ان کی سنتوں کے پاس (لے جاؤ) یعنی ان دو جگہوں سے اس کی تحقیق کرو (اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ) یعنی معاملہ کو ان دونوں کے پاس لے جانا (تمہارے لئے) تنازع اور قول بالرائے سے (بہتر ہے اور انجام کار کے لحاظ سے عمدہ ہے)

﴿تشریحات﴾

نزل فی کعب بن اشرف : مدینہ کے یہودیوں میں کعب بن اشرف بڑا رئیس اور عالم تھا، مگر حضور اکرم ﷺ سے سخت عناد رکھتا تھا، غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی، تو اس کے سینے پر سانپ لوٹ گیا، وہ اپنے جرگے کو لے کر مکہ پہنچا اور کفار مکہ کو لاکارا، غیرت دلائی، کہ تم لوگ اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے شکست کھا گئے، اپنے ستر آدمی کھودئے، چلو پھر سے تیاری کرو اور ان لوگوں سے انتقام لو، اس وقت کفار نے اس سے پوچھا کہ آپ تو صاحب علم ہیں، یہ بتائیے کہ ہم لوگ بیت اللہ کے متولی اور ذمہ دار ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، قیدیوں اور مجبوروں کو چھڑاتے ہیں اور فلاں فلاں کام کرتے ہیں، اور محمد (ﷺ) کا حال یہ ہے کہ انھوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی، رشتہ داریوں میں پھوٹ ڈال دی، حرم کو چھوڑ کر دور چلے گئے، تو ہم ہدایت پر ہیں یا وہ؟ اس سوال کا جواب ان عالموں نے جو حق کو خوب جانتے پہچانتے تھے، صرف چا پلوسی میں، اور دلی بغض و عناد کی وجہ سے یہ دیا کہ نہیں آپ ہی لوگوں کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، اس واقعہ کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔

صنمان لقریش : مفسر نے فرمایا کہ جبت اور طاغوت قریش کے دو بتوں کے نام تھے، کعب وغیرہ نے کفار مکہ کی خوشامد میں ان دونوں بتوں کا سجدہ کیا تھا۔ ان دونوں کے معانی مفسرین نے اور دوسرے بھی بیان کئے ہیں، صحاح میں ہے کہ جبت ایسا کلمہ ہے جس کا اطلاق بت پر بھی ہوتا ہے، کاہن اور ساحر پر بھی ہوتا ہے، چنانچہ مفسرین کے اقوال میں ان سب کا تذکرہ ہے، اور طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، بعض لوگوں نے کاہنوں کو بھی طاغوت کہا ہے، انسانوں کی صورت میں وہ شخص بھی طاغوت ہے جو شیطانی فیصلے کرتا ہے۔

﴿ام﴾ بل أ ﴿لہم﴾ : ام حروف عطف میں ہے، یہ دو امر میں سے کسی ایک کی تعیین کے سوال کے لئے آتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ام متصلہ اور ام منقطعہ، ام متصلہ کے لئے ہمزہ استفہام لازم ہے، دو امر میں سے ایک

ہمزہ استفہام سے متصل ہوتا ہے، اور دوسرا ام سے، اور یہ دونوں امر ابہام میں مساوی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کی تعیین کا سوال ہوتا ہے، جیسے اُزید فی الدار أم محمود، سائل کو یہ معلوم ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک گھر میں ہے، لیکن اسے تعیین کا پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ پوچھتا ہے، اس کا جواب تعیین سے ہوگا، مثلاً جواب ہوگا، زید۔

اور ام منقطعہ اضراب کے لئے ہے، بل کے معنی میں، اور شک کے لئے ہے، ہمزہ استفہام کے معنی میں، مثلاً انہا لابل أم شاء، اس میں پہلے تو بالیقین کہا کہ یہ اونٹ ہیں، مگر پھر احساس ہوا کہ یہ غلط ہے تو اس سے اضراب کیا ہے، لیکن پھر کیا ہے، اس کا یقین نہیں ہے بلکہ شک ہے تو کہا ام شاء یعنی بل اھی شاء بلکہ کیا یہ بکریاں ہیں۔

ام لہم نصیب من الملک میں ام منقطعہ ہے، یہود بہت پاکباز بنتے تھے، اس سے اضراب کر کے سوال اٹھایا گیا ہے، کیا انھیں ملک اور حکومت کا کوئی حصہ مل گیا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ اس درجہ بخیل ہیں لوگوں کو ذرا سی بھی کوئی چیز نہ دیتے، یہ استفہام درحقیقت انکار کے لئے یعنی انھیں ملک اور حکومت کا کوئی حصہ نصیب نہیں ہے۔

﴿ام﴾ بل ﴿یحسدون الناس﴾: یہ بھی ام منقطعہ ہے، یہ دوسرا اضراب ہے، بلکہ کیا یہ لوگ حسد میں مبتلا ہیں، اور یہ استفہام تقریری ہے یعنی واقعی حسد میں مبتلا ہیں، انھیں نبی ﷺ سے حسد ہے، ان کو جلن ہے کہ انھیں کیوں نبوت ملی، کیوں مختلف خصوصیات ملیں، یہ دل سے چاہتے ہیں کہ یہ انعامات ان سے چھین لئے جاتے، حق تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان کا حسد بہت برا ہے، آخر ان کے آباء واجداد مثلاً حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام کو ہم نے کتاب دی، نبوت عطا فرمائی، اور بڑی بڑی حکومتیں دیں۔

کفیٰ بجہنم سعیراً: کفیٰ فعل ہے، بجہنم حرف باء کے اضافہ کے ساتھ فاعل ہے، سعیر اتمیز ہے یا حال ہے۔

بان تعاد الیٰ حالها الاول غیر محترقة: اہل جہنم جب آتش جہنم میں جل چکیں گے، تو فوراً ان کی کھالیں اور ان کے جسم تازہ ہو جائیں گے، تاکہ بار بار عذاب کی شدت کا احساس ہوتا رہے۔

ما ائتمن علیہ من الحقوق: امانات سے مراد وہ حقوق ہیں، جو بطور امانت کے کسی کے ذمے ہیں، اس عبارت میں علیہ، ائتمن فعل مجہول کا نائب فاعل ہے، اور من الحقوق ما کا بیان ہے، یہ حقوق خواہ اللہ کے ہوں یا آدمیوں کے ہوں، ان کا تعلق عمل سے ہو یا قول سے ہو یا اعتقاد سے ہو، پھر حقوق اللہ عام ہیں، خواہ واجب ہوں، خواہ مستحب، اور حقوق العباد بھی عام ہیں، خواہ وہ مضمون ہوں یعنی ایسے ہوں کہ ان کے ضائع ہونے

سے ضمان لازم ہوتا ہے، یا غیر مضمون ہوں، یعنی ان کے ضائع ہونے سے ضمان لازم نہ ہوتا ہو۔
تفسیر خازن میں امانتوں کی تفصیل بہت عمدہ انداز سے بیان کی گئی ہے، مستحضر رکھنے کے لائق ہے،
فرماتے ہیں کہ:

”امانت کی تین قسمیں ہیں۔ اول اللہ کی عبادت اور حقوقِ بندگی میں امانت کی رعایت، مثلاً واجبات کا بجالانا، ممنوعات سے باز رہنا، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ امانت ہر چیز میں لازم ہے، یہاں تک کہ وضو، غسل جنابت میں، نماز، روزے، زکوٰۃ اور تمام عبادتوں میں۔
دوسری قسم امانت کی رعایت خود اپنے نفس اور اپنی ذات کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ان کی ذات کے اندر بہت سے احسانات کئے، بہتری قوتیں اس کے سپرد کی ہیں، ان میں سے ہر ایک امانت ہے، اور اس کا صحیح استعمال امانت داری ہے، مثلاً زبان کی امانت یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ وغیرہ سے اسے محفوظ رکھا جائے، آنکھ کی امانت یہ ہے کہ اسے حرام پر پڑنے سے بچایا جائے، کان کی امانت یہ ہے کہ اس کی غلط چیزوں کے سننے سے حفاظت کی جائے وغیرہ وغیرہ۔

تیسری قسم حقوق العباد میں امانت کی رعایت، ودیعت، عاریت وغیرہ کو وعدے کے مطابق ادا کرنا، ان میں خیانت نہ کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں اذ الامانة الی من ائتمنک ولا تخن من خانک (اخرجه ابو داؤد و الترمذی) جس نے تمہارے پاس امانت رکھی اس کی امانت ادا کر دو، اور اگر کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کی تو تم مت خیانت کرو۔

اس تیسری قسم میں ناپ، تول کو پورا کرنا، ڈنڈی نہ مارنا بھی داخل ہے، اسی میں امراء و حکام کا عدل و انصاف بھی شامل ہے، اسی میں عوام کے حق میں علماء کا خیر خواہ ہونا بھی داخل ہے، یہ تمام چیزیں امانت ہیں، جن کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا ہے، امام بغوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے، تو اس میں یہ ضرور فرماتے لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عهد له، جس کے پاس امانت داری نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، اور جسے عہد کی پاسداری نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ (جمل)

نزلت لما اخذ علی: اس آیت کا ایک خاص سبب نزول ہے، جس کو اختصار کے ساتھ مفسر نے بیان کیا ہے، تفسیر خازن کے حوالے سے صاحب فتوحات الہیہ المعروف بالجمل نے اس کی تفصیل لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ امام بغوی نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ الجحفی جن کا تعلق بنی عبدالدار سے تھا وہ کعبہ مکرمہ کے خادم تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر حرم میں تشریف فرما ہوئے، تو عثمان خانہ کعبہ میں قفل بند کر کے چھت پر چڑھ گئے، آپ نے کنجی طلب کی، معلوم ہوا کہ وہ عثمان کے پاس ہے، ان سے کنجی مانگی گئی تو وہ کہنے لگے کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ یہ

اللہ کے رسول ہیں تو میں انکار نہ کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ اینٹھ کر کنجی چھین لی اور دروازہ کھول دیا، آپ کعبہ مشرفہ میں داخل ہوئے اور اندر نمازیں پڑھیں، جب آپ باہر آئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ نے درخواست کی کہ کنجی انھیں دے دی جائے، اس طرح سقیاء اور سدانہ دونوں ان کے حق میں آجائیں، اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کنجی عثمان کو واپس کر دو اور ان سے معذرت بھی کرو، انھوں نے تعمیل ارشاد کی، عثمان نے کہا کہ پہلے تو تم زبردستی کی اور تکلیف پہونچادی اور اب آئے ہو نرمی کرنے، حضرت علی نے فرمایا تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، اس لئے یہ بات ہو رہی ہے، پھر انھوں نے اس آیت کی تلاوت کی، عثمان نے بے ساختہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، انتقال کے وقت انھوں نے کنجی اپنے بھائی شیبہ کو دیا، اور آج تک انھیں کی اولاد میں کنجی رہتی ہے۔

الحجیبی: یہ حجابت کی طرف نسبت ہے، خانہ کعبہ کی خدمت کو سدانہ بھی کہتے ہیں اور حجابت بھی، سادن بمعنی خادم، اس کی جمع سدانہ ہے، کسی بھی مقدس اور مذہبی مقام کے خادم کو عربی میں سادن کہا جاتا ہے۔
لما قدم الخ: فتح مکہ رمضان ۸ھ میں ہوا۔

هاك خالدة تالدة: یعنی خذ هذه الخدمة خالدة یہ حال ہے، یعنی مستمرة الى آخر الزمان، تالدة امے قديمة متصلة فيكم۔

تالدة: بمعنی قدیم اور پرانا مال، اسی معنی میں تلید اور تلاد بافتح بھی ہے، اس کے مقابلے میں طارف اور طریف ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آپ نے انھیں ہمیشہ کے لئے کنجی دی، تو اب تک انھیں کے خاندان میں کنجی ہے اور قیامت تک رہے گی، اس میں یہ بھی بشارت ہے کہ اس خاندان کا تسلسل قیامت تک رہے گا۔

والآية وإن وردت على سبب خاص: یہ آیت اگرچہ ایک خاص سبب پر نازل ہوئی ہے، لیکن الفاظ چونکہ عام ہیں اس لئے حکم بھی عام ہوگا۔

﴿نعما﴾ فيه ادغام ميم نعم في ما النكرة الموصوفة : نعم فعل مدح ہے، مانکرہ موصوفہ ہے، صفت مابعد کا جملہ ہے، تقدیر عبارت یوں ہے: نعم شیئاً يعظكم به، اور وہ بہتر شے کیا ہے؟ امانت کا ادا کرنا اور انصاف کا فیصلہ کرنا۔

﴿واولى﴾ اصحاب ﴿الامر﴾ امے الولاية : اولوالامر سے مراد وہ لوگ ہیں جو صاحب امر ہیں، جن کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ڈور ہے، وہ حکام ہیں، اور ان کے نائبین یعنی قضاة و عاملین، بعض لوگوں نے کہا

ہے کہ اس میں علماء شرع بھی داخل ہیں، چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے: **وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ** (سورۃ النساء: ۸۳) اس آیت میں اولوالامر سے مراد علماء ہی ہیں، چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حسن بصری اور عطاء بن ابی رباح سے یہی منقول ہے۔

إِذَا أَمَرُوكُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ: اس کا تعلق اولوالامر سے ہے، ان کی فرمانبرداری اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہوگی، اگر وہ کسی صریح نافرمانی کا حکم دیں تو اس میں اطاعت ضروری نہیں۔

السی کتابہ: تنازع کی صورت میں اللہ کے پاس لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کا حکم تلاش کیا جائے۔ قرآن کے محکمات میں اگر حکم مل جائے، پھر کافی ہے۔

والرسول مدة حياته: رسول کی جانب اس معاملہ کو لے جانے کی صورت یہ ہے کہ اگر یہ اختلاف آپ کی حیات میں ہو، تو آپ سے براہ راست پوچھ لیں، جیسا کہ حضرات صحابہ کیا کرتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد ہو، تو آپ کی سنت میں اس کا حکم تلاش کیا جائے۔

خير لكم من التنازع والقول بالراي: اللہ ورسول کے حضور کسی معاملہ مختلف فیہ کو پیش کرنا، تنازع سے اور اپنی رائے سے فیصلہ کرنے سے بہتر ہے۔ مفسر کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ خیر اسم تفضیل ہے، اپنے اصل معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ تنازع میں اور قول بالرائے میں بھی کچھ خیر ہو، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ ورسول کے حضور پیش کرنے میں زیادہ خیر ہے، جبکہ یہ بات نہیں ہے، تنازع وغیرہ میں سرے سے خیر نہیں ہے، اس لئے تفضیل والا معنی مناسب نہیں ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

یہود بھی عجیب قوم ہے، اپنی مطلب برآری کے لئے یہ کسی کے ساتھ بھی مل کر ساز باز کر سکتی ہے۔ کعب بن اشرف یہودیوں میں بڑا عالم اور رئیس تھا، اس نے دیکھا کہ بدر میں کفار شکست کھا گئے ہیں تو اسے بڑا رنج ہوا، وہ تعزیت کے لئے ایک قافلہ لے کر مکہ پہنچ گیا اور کفار مکہ سے ہمدردی ظاہر کی، انہیں انتقام لینے کے واسطے بھڑکایا اور کافروں کو خوش کرنے کی باتیں کیں، اس مسئلہ میں وہ اتنی دور نکل گیا کہ صریح کفر و شرک کو اسلام و توحید سے اور کافروں اور مشرکوں کو مسلمانوں سے افضل بتایا، اور حدیہ کردی کہ جبت و طانغوت یعنی بتوں کے سامنے سجدہ بھی کیا، اللہ نے ان ناکردنیوں کی وجہ سے ان پر لعنت کی، اور خدا کی لعنت کے بعد کون ان کا حامی و ناصر ہو سکتا ہے۔

جہالت کا تو یہ حال ہے اور بخل کا یہ عالم ہے کہ اگر انھیں حکومت و سلطنت کا کوئی حصہ مل جائے، کسی کو اس

کا ذرا سا حصہ بھی دینا گوارا نہ کریں گے، اس کے باوجود جو کفار مکہ کو جنگ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور کامیابی پر حکومت و شوکت کا لالچ دلاتے ہیں درحقیقت یہ حسد کی کرشمہ سازی ہے، ان کا دل نبی ﷺ کے اور مسلمانوں کے حق میں حسد سے بھرا ہوا ہے، کہ اللہ نے انھیں نبوت و غیرہ کی نعمتوں سے کیوں نوازا، تو ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ اس سے پہلے بھی آل ابراہیم کو نوازا جا چکا ہے، آخر یہ لوگ بھی ان نعمتوں سے مدتوں بہرہ ور رہے ہیں، تو آج اگر آل ابراہیم کی ایک دوسری شاخ میں وہ نعمت آگئی ہے، تو اس میں حسد کی کیا بات ہے۔

تو ان میں سے کچھ تو نبی ایمان لائے، اور بہتوں نے ان سے اعراض کیا، ان اعراض کرنے والوں کے لئے جہنم کی سزا کافی ہے، اور کفار جن کا ہماری آیات پر ایمان نہیں ہے یہ جہنم کی مخلوق ہیں، وہاں ان پر مسلسل عذاب ہوگا، ایک مرتبہ بدن جل جائے گا تو دوبارہ اسی بدن اور چمڑے کا اعادہ کیا جائے گا تا کہ عذاب کی سنگینی مسلسل باقی رہے، حق تعالیٰ سب پر غلبہ بھی رکھتے ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان و عمل صالح سے متصف ہیں، انھیں حق تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخلہ نصیب فرمائیں گے جن میں عالی شان محل بھی ہوں گے، ان کے نیچے جا بجا نہریں بہ رہی ہوں گے، ان میں ان کا قیام ابدی ہوگا، نہایت پاکیزہ اور ستھری بیویاں ہوں گی اور لازوال سایہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو ادا کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان کسی معاملہ میں فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کا فیصلہ کرو، یہودیوں کی طرح نہیں کہ حسد اور کینہ کے جذبہ سے ناحق غلط باتیں کرنے لگ جاؤ، یہ ایک بہترین حکم ہے، جو اللہ کی طرف سے تم کو عطا ہو رہا ہے، اس کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، تو کوئی خیانت ان سے چھپی رہ سکتی ہے نہ بے انصافی کی بات ان سے اوجھل ہو سکتی ہے۔

اے ایمان والو! تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور جو تم لوگ تم میں صاحب امر ہیں، جب وہ اللہ و رسول کی اطاعت پر تمہیں لے چلیں تو ان کی اطاعت کرو، اور اگر کسی مسئلہ میں تمہارے درمیان نزاع ہو جائے کہ وہ حکم خدا و رسول کے مطابق ہے یا نہیں؟ تو اللہ سے پوچھو، یعنی قرآن کریم میں اسے تلاش کرو، رسول سے پوچھو، جب تک تم ان کے سامنے ہو تو ان سے براہ راست دریافت کر لو، اور اگر وہ تمہارے درمیان نہ ہوں، تو ان کی سنت اور طریقے کو حکم بناؤ۔ ان کی حدیثوں سے فیصلہ حاصل کر لو، یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اس کا انجام بہت بھلا ہے۔



نزل لَمَّا اِخْتَصَم يَهُودِي وَمَنَا فِق فِدْعَا الْمَنَا فِق اِلَى كَعْب بنِ الْاَشْرَف لِيَحْكَم

بينهما ودعا اليهودي الى النبي ﷺ فأتياه ففضي لليهودي فلم يرض المنافق وأتياه عمر

فذكر له اليهودى ذلك فقال كذلك قال نعم فقتله ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ كثير الطغيان وهو كعب بن الاشرف ﴿ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ﴾ ولا يوالوه ﴿ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ عن الحق ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا نُزِّلَ اللَّهُ ﴾ فى القرآن من الحكم ﴿ وَالْإِلَى الرَّسُولِ ﴾ ليحكم بينهم ﴿ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ ﴾ يعرضون ﴿ عَنكَ ﴾ إلى غيرك ﴿ صُدُّوهُمْ فَكَيْفَ ﴾ يصنعون ﴿ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ ﴾ عقوبة ﴿ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ من الكفر والمعاصى اى أيقدرن على الاعراض والفرار منها؟ لا ﴿ ثُمَّ جَاءَ وَكَ ﴾ معطوف على يصدون ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ ﴾ ما ﴿ أَرَدْنَا ﴾ بالمحاكمة إلى غيرك ﴿ إِلَّا إِحْسَانًا ﴾ صلحا ﴿ وَتَوْفِيقًا ﴾ تاليفا بين الخصمين بالتقريب فى الحكم دون الحمل على مَرِّ الحق ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ من النفاق وكذبهم فى عذرهم ﴿ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ ﴾ بالصفح ﴿ وَعَظَّمَهُمْ ﴾ خوفهم الله ﴿ وَقُلْ لَهُمْ فِي ﴾ شان ﴿ أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ مؤثرا فىهم اى ازجرهم ليرجعوا عن كفرهم ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ ﴾ فيما يامر به ويحكم ﴿ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ بأمره لا يعصى ويخالف ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ بتحاكمتهم الى الطاغوت ﴿ جَاءَ وَكَ ﴾ تائبين ﴿ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ﴾ فيه التفتات عن الخطاب تفخيما لشانه ﴿ لَوْ جَدُّوا اللَّهَ تَوَابًا ﴾ عليهم ﴿ رَحِيمًا ﴾ بهم ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ ﴾ لا زائدة ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ ﴾ اختلط ﴿ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ﴾ ضيقا أو شكاً ﴿ مِمَّا قُضِيَتْ ﴾ به ﴿ وَيَسْلَمُوا ﴾ ينقادوا لحكمك ﴿ تَسْلِيمًا ﴾ من غير معارضة ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ ﴾ مفسرة ﴿ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ ﴾ كما كتبنا على بنى إسرائيل ﴿ مَا فَعَلُوهُ ﴾ اى المكتوب عليهم ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ بالرفع على البدل والنصب على الاستثناء ﴿ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ ﴾ من طاعة الرسول ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ تحقيقا لايمانهم ﴿ إِذَا ﴾ اى لو ثبتوا ﴿ لَا تَيْنَهُمْ مِنْ لَدُنَّا ﴾ من عندنا ﴿ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ هو الجنة ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ قال بعض الصحابة للنبي ﷺ كيف نراك فى الجنة وأنت فى الدرجات العلى ونحن اسفل منك فنزل ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ فيما أمرا به ﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ ﴾ افاضل اصحاب الانبياء لمبالغتهم فى الصدق والتصديق ﴿ وَالشُّهَدَاءِ ﴾ القتلى فى سبيل

اللہ ﴿ وَالصَّالِحِينَ ﴾ غیر ماذکر ﴿ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ رفقاء فی الجنة بان یستمع فیہا برویتہم و زیارتہم والحضور معہم و ان کان مقرہم فی درجات عالیہ بالنسبۃ الی غیرہم ﴿ ذَلِكْ ﴾ ای کونہم مع من ذکر مبتداً خبرہ ﴿ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ﴾ تفضل بہ علیہم لا أنہم نالوہ بطاعتہم ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴾ بثواب الآخرة فثقوا بما أخبرکم بہ ولا ینبئک مثل خبیر۔

ترجمہ

ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہوا، منافق نے کعب بن اشرف کے پاس چلنے کی دعوت دی کہ وہ فیصلہ کرے، یہودی نے نبی کریم ﷺ کے پاس حاضری کی دعوت دی، پھر دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرمایا، منافق اس پر راضی نہیں ہوا، پھر دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے، یہودی نے ساری صورت حال بتائی، حضرت عمر نے منافق سے دریافت فرمایا کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں! اس پر حضرت عمر نے اس منافق کو قتل کر دیا، تب یہ آیت نازل ہوئی (کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا خیال یہ ہے کہ ان کا ایمان اس پر بھی ہے جو تم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی ہے جو تم سے پہلے اتارا گیا، وہ چاہتے ہیں کہ نزاع کو طاعوت کے پاس لے جائیں) جو بڑا سرکش ہے، اور وہ کعب بن اشرف ہے (حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں) اور اس سے محبت و دوستی کا تعلق نہ رکھیں (اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں) حق سے (بہت دور بھٹکا کر لے جائے) اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے (یعنی وہ فیصلہ جو قرآن میں اللہ نے اتارا ہے) اس کی طرف آؤ اور رسول کے پاس آؤ) تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں (تو تم دیکھتے ہو کہ منافقین تم سے اعراض کرتے ہیں) اور دوسرے کے پاس جانا چاہتے ہیں (تو کیا حال ہوگا) یعنی کیا کریں گے (اگر ان کے ہاتھوں کے کر توت کی وجہ سے) یعنی کفر و معاصی کی وجہ سے (کوئی مصیبت ان پر آن پڑی) یعنی کیا اس سے بھی اعراض اور فرار اختیار کر سکتے ہیں؟ نہیں) پھر وہ تمہارے پاس آتے ہیں) یہ جملہ یصدون پر معطوف ہے (اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے) آپ کے علاوہ کے پاس فیصلہ لے جا کر فریقین کے درمیان (بجز احسان) یعنی صلح (اور موافقت کے کسی اور بات کا ارادہ نہیں کیا ہے) تاکہ فریقین کو کچھ قریب کر دیا جائے، انہیں حق کے کڑوے گھونٹ پینے پر مجبور نہ کیا جائے (یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ) اس معذرت میں نفاق اور جھوٹ (ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں پس ان سے اعراض) یعنی درگزر (کرو، اور انہیں نصیحت کرو) اللہ سے ڈراؤ (اور ان سے ان کے بارے میں بلوغت بات کہو) جو ان میں موثر ہو، یعنی انہیں زجر کرو تا کہ وہ اپنے کفر سے رجوع کریں (اور ہم نے جو کوئی رسول بھیجا وہ اسی لئے کہ) جو کچھ وہ حکم دے اور جس بات کا فیصلہ کرے اس میں (اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے) نہ کہ اس کی

نافرمانی اور مخالفت کی جائے (اور اگر ایسا ہوتا کہ جب انہوں نے) طاغوت کے پاس مقدمہ لے جا کر (اپنی جان پر ظلم کیا تو) توبہ کرتے ہوئے (تمہارے پاس آئے ہوتے، پس اللہ سے مغفرت چاہتے اور رسول ان کے لئے استغفار کرتے) اس میں رسول کی عظمت شان ظاہر کرنے کے لئے خطاب سے غائب کی جانب التفات ہے (تو اللہ کو) اپنے اوپر (مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے) پس نہیں! قسم ہے تمہارے رب کی (لا زائد ہے) وہ مومن نہ ہوں گے جب تک وہ اپنے مشاجرات میں تم کو فیصلہ نہ بنائیں، پھر جو فیصلہ تم کرو اس کے متعلق وہ اپنے دلوں میں کوئی حرج (یعنی کوئی تنگی یا شک (محسوس نہ کریں، اور کامل طور سے) تمہارے فیصلے کو بغیر معارضہ کے) تسلیم نہ کر لیں اور اگر ہم ان کے اوپر فرض کر دیتے کہ) ان مفسرہ ہے (کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ) جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کیا تھا (تو یہ کام نہ کرتے) جو ان پر فرض کیا گیا ہے (بجز ان میں سے تھوڑے لوگوں کے) قلیل بدلیت کے باعث مرفوع ہے اور استثنا کی بنا پر منصوب بھی ہے (اور اگر وہ اس کام کو کر لیتے جس کی نصیحت انہیں کی جاتی ہے) یعنی رسول کی فرمانبرداری کرتے (تو ان کے لئے بہتر ہوتا، اور) ان کے ایمان کو (زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا اور تب) یعنی اگر وہ پختگی ثابت کر دیں تو (ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم دیں گے) وہ جنت ہے (اور ہم ان کو سیدھی راہ کی ہدایت دیں گے)

بعض صحابہ نے عرض کیا کہ جنت میں ہم لوگ آپ کو کس طرح دیکھ پائیں گے، جبکہ آپ اونچے مقام پر ہوں گے اور ہم لوگ آپ سے نیچے ہوں گے تو یہ آیت نازل ہوئی (اور جو اللہ و رسول کی) ان احکام میں (اطاعت کرتا ہے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء، صدیقین) انبیاء علیہم السلام کے بہت خاص برگزیدہ اصحاب، بہت زیادہ سچے ہونے اور تصدیق کرنے کی وجہ سے انہیں صدیق کہا جاتا ہے (اور شہداء) جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں، اور ان مذکورہ لوگوں کے علاوہ (صالحین) کے ساتھ ہوں گے (اور یہ لوگ بہترین رفیق ہیں) جنت میں، کہ ان کی دید و زیارت اور ان کی خدمت میں حاضری کا فائدہ حاصل ہوتا رہے گا، اگرچہ ان کے درجات دوسروں کے مقابلے میں بلند ہوں گے (یہ) یعنی ان کا مذکورہ اصحاب کے ساتھ ہوتا۔ یہ مبتدا ہے اس کی خبر یہ ہے (اللہ کی جانب سے فضل ہے) جو ان پر حق تعالیٰ نے کیا ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی طاعات کے ذریعے اسے حاصل کیا ہو (اور اللہ تعالیٰ) ثواب آخرت کے (جاننے والے کافی ہیں) یعنی جو کچھ خبر دی ہے اس پر اطمینان رکھو، جو باخبر ہے اس کے مثل کون اطلاع دے سکتا ہے۔

﴿ تشریحات ﴾

يعرضون: صد یصد کے معنی روکنے اور باز رکھنے کے ہیں، لیکن یہاں اس کے معنی اعراض کرنے کے ہیں۔
معطوف علیٰ یصدون: ثم جاؤک کا عطف یصدون پر ہے، یعنی اول تو رسول کے پاس معاملہ لے

جانے سے اعراض کرتے ہیں، اس کے بعد آ کر اس اعراض کی حکمت اور مصلحت بیان کرتے ہیں، اور قسمیں کھاتے ہیں کہ اصل وجہ رسول کے پاس نہ آنے کی یہ ہے کہ رسول کھرا کھرا حق کا فیصلہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ غیر مذہب والا ہے، اسے گراں گزرے اور اسلام ہی سے وحشت کرے، اور فلاں کے پاس جائیں گے تو کچھ لے اور کچھ دے کے اصول پر موافقت اور مصلحت پیدا کر دے گا۔

من النفاق و کذبہم فی عذرہم : ان کی یہ معذرت اور اعراض کی حکمت درحقیقت نفاق اور جھوٹ پر مبنی ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اس جھوٹ کے کھلنے کے بعد بھی پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ شریفانہ برتاؤ رکھا جائے اور ان کی شرارتوں سے قطع نظر درگزر کا ہی معاملہ کیا جائے، اور انہیں سمجھایا جائے شاید انہیں نصیحت ہو۔

التفات عن الخطاب : واستغفر لهم الرسول غیبت کا صیغہ ہے، جبکہ ولو أنهم إذ جاؤک میں خطاب کا صیغہ ہے، یہ صنعت التفات ہے، اور اس پیرایہ بیان میں نبی کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔

﴿ فلا وربک ﴾ لا زائداً : مفسر نے فرمایا کہ لا زائد ہے، صاحب جمل نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں چار اقوال ہیں۔ (۱) پہلا قول یہ ہے کہ فلا وربک لا یومنون میں پہلا لا کلام مقدم کی تردید کے لئے ہے، اس کی تقدیر یوں ہوگی فلا یفعلون وربک لا یومنون الخ یا یہ کہ لیس الامر کما یزعمون من انہم آمنوا بما انزل الیک، پھر اس کے بعد وربک لا یومنون جملہ مستانفہ ہے اور لا پر وقف تام ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ پہلا لا اہتمام نفی کے لئے قسم پر مقدم کیا گیا ہے، پھر تاکید کے لئے اسے مکرر لایا گیا ہے، اس صورت میں پہلے لا کو ساقط کر سکتے تھے اور نفی کا معنی باقی رہتا لیکن اہتمام مذکور پر دلالت نہ ہوتی، اور دوسرے لا کو بھی ساقط کرنا صحیح ہوتا اور اہتمام کا معنی بھی باقی رہتا لیکن نفی پر دلالت نہ ہوتی، اس لئے دونوں کو اکٹھا کیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دوسرا لا زائد ہے اور صرف نفی اور منفی کے درمیان قسم لائی گئی ہے، تقدیر عبارت یہ ہے: فلا یومنون وربک ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ پہلا لا زائد ہے اور دوسرا زائد نہیں ہے، اور یہ زنجشیری کا قول ہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا ہے کہ لا معنی قسم کی تاکید کے لئے زائد ہے جیسا کہ لا یعلم میں لا زائد ہے، وجوب علم کی تاکید کرتا ہے اور جواب قسم لا یومنون ہے (جمل)

إختلط: یہ تفسیر شجر کی ہے، جس طرح شجر میں شاخیں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اسی طرح اشکال اور التباس کی حالت میں معانی اور مرادات مخلوط ہو جاتے ہیں، اس لئے اس کی تعبیر شجر سے کی گئی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے اختلافات کے بیان کا ادب سکھایا کہ انہیں نزاع یا تفرق نہ قرار دے کر مشاجرت سے تعبیر کیا جائے کہ جیسے ایک درخت کی چند شاخیں باہم الجھنے کے باوجود ایک ہی درخت کی رہتی ہیں،

ان کے اس الجھاؤ کو مذموم نہیں قرار دیا جاتا، اسی طرح حضرات صحابہ کے اختلافات کو بھی اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہئے جو متحارب و متضاد گروپوں کے درمیان ہوتا ہے۔

من غیر معارضة : تسلیماً کی شرح میں اس لفظ کو بڑھا کر مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ نبی کے حکم پر کسی طرح کا معارضہ ایمان کامل کے خلاف ہے۔

ای المكتوب علیہم : یہ لفظ ما فعلوہ کی ضمیر مفعولی کا مرجع ہے جو 'ولو انا كتبنا علیہم ان اقتلو انفسکم او اخرجو من دیارکم' سے سمجھا جاتا ہے، اور یہ دو چیزیں قتل نفس اور خروج من الدیار، بنی اسرائیل پر مقرر کی گئی تھیں، اگر یہ چیزیں منافقین پر مسلط کی جاتیں تو اس کی تعمیل میں انہیں سرگرائی ہوتی۔

بالرفع علی البدل والنصب علی الاستثناء : قلیل میں دو قرأت ہے، اول یہ کہ مرفوع ہو، اسی صورت میں فعلو کی ضمیر فاعلی سے بدل ہے، دوسرے یہ کہ نصب ہو تب یہ مستثنیٰ ہے۔

افاضل اصحاب الانبیاء لمبالغتہم فی الصدق والتصدیق : یہ صدیقین کی شرح ہے، یہ انبیاء کے مخصوص اصحاب ہیں اور ان کا سینہ مشکوٰۃ نبوت کا آئینہ ہوتا ہے جو بات انبیاء کے قلب صافی پر آتی ہے اس کا ٹھیک عکس ان کے سینوں میں آتا ہے، یہ حضرات قوت علمیہ اور قوت یقینیہ میں عین انبیاء کے زیر قدم ہوتے ہیں، ان کو صدیق اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ صدق اور تصدیق میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔

﴿والشهداء﴾ القتلی فی سبیل اللہ : انبیاء کے مخصوص حضرات میں انبیاء کے بعد شہداء ہیں، شہید وہ ہوتا ہے جو قوت عملیہ میں نبی کے زیر قدم ہوتا ہے، اور اس کی آخری انتہا یہ ہے کہ اپنی متاع زندگی نبی کے قدموں پر نثار کر دے، گویا اس نے اپنی جان کے ذریعے نبی کی صداقت کی شہادت دے دی۔

﴿والصالحین﴾ غیر ما ذکر : صالحین کا لفظ پچھلے تینوں گروہوں کو شامل ہے، چنانچہ قرآن میں انبیاء کو بھی صالحین میں شمار کیا گیا ہے، لیکن خاص اس مقام میں صالحین سے مراد انبیاء و صدیقین و شہداء کے علاوہ دوسرے اہل ایمان مراد ہیں جو ایمان کے اور تقاضوں میں درجہ کمال رکھتے ہیں۔

تفضل بہ علیہم : یہ ذلک الفضل من اللہ کی تفسیر ہے یعنی جو لوگ اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کا ان اکابر و افاضل کی معیت میں ہونا ان کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ ہی کو یہ خوب معلوم ہے کہ ثواب آخرت کس کے حق میں کیا ہے، اس لئے علمی یا عملی کسی طاعت پر آدمی کو اعتماد کرنے کے بجائے اللہ کے فضل کا امیدوار رہنا چاہئے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اللہ کا حکم ہے کہ اپنے تمام معاملات دینی یا دنیوی میں اللہ اور اس کے رسول کو فیصل بنا لیں۔ رسول اللہ

ﷺ کے زمانے میں ایک یہودی کے درمیان اور ایک نام نہاد مسلمان کے درمیان کسی مسئلے پر نزاع ہو۔ یہودی جانتا تھا کہ حق میرے ساتھ ہے اور انصاف رسول اللہ ﷺ کے پاس ملے گا، اور یہ بات منافق کو بھی معلوم تھی، وہ بھی سمجھتا تھا کہ انصاف بارگاہِ نبوت میں ملے گا، منافق نے یہ چاہا کہ معاملہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے جایا جائے تاکہ کھرے انصاف کے بجائے لپیا پوتی سے کام چلے۔ یہودی نے مجبور کیا کہ حضور ﷺ کے پاس مقدمہ پیش کیا جائے، منافق نے شرما حضور میں قبول تو کر لیا مگر بارگاہِ نبوت کے فیصلے کے بعد اس نے ایک پیچ یہ لگایا کہ عمر فاروق کے پاس چلا جائے، اس کو شاید یہ خیال ہو کہ عمر فاروق پارٹی کا پاس رکھیں گے۔ یہودی نے یہ بات حضرت عمر سے کہہ سنائی، انھوں نے اس منافق سے اس کی تصدیق چاہی اس نے ہاں کہہ دی، حضرت عمر گھر میں گئے اور تلوار لا کر اس کی گردن قلم کر دی اور فرمایا جو حضور کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کا فیصلہ میں یہی کرتا ہوں، اس پر منافقین نے بہت واویلا مچایا تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی تائید نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ذرا ان لوگوں کو دیکھو جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں مگر دل کا حال یہ ہے کہ طاعوت کے پاس مقدمہ لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انھیں حکم ہے کہ اس سے بچتے رہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان کو لمبی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس پر آؤ اور رسول کے پاس چلو تو تم دیکھتے ہو کہ منافقین کو بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، اچھا تو اس وقت کیا کریں گے جب ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی عذاب اور مصیبت آن پڑے گی، کیا تب بھی بھاگیں گے؟ پھر یہ تمہارے پاس آتے ہیں اور قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں ہم جو فلاں کے پاس گئے تو اس لئے گئے کہ آپس میں مصالحت ہو جائے اور نرے حق کی تلخی پر مجبور نہ ہونا پڑے، ان کی یہ بات محض فریب ہے ان کے دلوں میں جو نفاق اور جھوٹ چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ ان سے چشم پوشی کرو اور انھیں نصیحت کرو، اور انھیں ایسی باتیں سناؤ جن سے متاثر ہوں، اور ہم نے جو کوئی رسول بھیجا تو اسی لئے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کے اوامر و احکام کی اطاعت کی جائے، اس لئے نہیں بھیجا ہے کہ اس کی مخالفت اور نافرمانی کی جائے، اور اگر کبھی کسی سے ایسی غلطی ہو جائے پھر وہ تائب ہو کر تمہارے پاس آئیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کے لئے معافی مانگیں تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے، لہذا وہ بات نہیں جو یہ سمجھتے ہیں، تمہارے پروردگار کی قسم ان کا ایمان اس وقت تک کامل نہ ہوگا جب تک ایسا نہ ہو کہ اپنے مشاجرات میں تم کو یہ حکم بنائیں اور تمہارے فیصلے پر دل و جان سے راضی ہوں اور کسی طرح کی کوئی تنگی اور بے اطمینانی نہ پائیں، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ اگر ہم ان پر یہ بات فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ جیسا کہ بنی اسرائیل پر ایک وقت میں فرض کیا تھا تو اکثر لوگ اس کی بجا آوری نہ کرتے، ہاں تھوڑے سے لوگ اس کی تعمیل کرتے، اور جس بات کی

انہیں نصیحت کی جاتی ہے یعنی رسولِ خدا کی اطاعت کرتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا اور ان کا ایمان پختہ ہوتا اور تب ہم اپنے پاس سے انہیں اجرِ عظیم عطا فرماتے یعنی جنت، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔

بعض صحابہ نے دربارِ نبوت میں عرض کیا کہ یہاں تو ہم آپ سے جب چاہتے ہیں مل لیتے ہیں اور آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، جنت میں آپ درجاتِ عالیہ پر فائز ہوں گے اور ہم نیچے درجات میں ہوں گے وہاں آپ سے ملاقات کیونکر ہوگی۔ اس پر حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ان بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ، اور یہ لوگ جنت کے بہترین رفیق ہیں، یہ اللہ کا ایک فضل ہے جو خدا نے اپنے بندوں پر کیا ہے اور اللہ ہی خوب جاننے والا ہے۔



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ من عدوكم ای احترزوا منه و تيقظوا له ﴿فَانْفِرُوا﴾ انهضوا الى قتاله ﴿ثَبَاتٍ﴾ متفرقین سریة بعد اخری ﴿أَوْانْفِرُوا جَمِيعًا﴾ مجتمعین ﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبِطَنَّ﴾ ليتاخرن عن القتال كعبد الله بن أبي المنافق وأصحابه وجعله منهم من حيث الظاهر واللام في الفعل للقسم ﴿فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ﴾ كقتل وهزيمة ﴿قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا﴾ حاضرًا فأصاب ﴿وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ﴾ كفتح وغنيمة ﴿لَيَقُولَنَّ﴾ نادماً ﴿كَأَنَّ﴾ مخففة واسمها محذوف ای كأنه ﴿لَمْ تَكُنْ﴾ بالياء والتاء ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾ معرفة و صداقة وهذا راجع الى قوله قد انعم الله على اعتراض به بين القول ومقوله وهو ﴿يَا﴾ للتنبية ﴿لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ آخذ حظاً وافراً من الغنيمة ﴿قَالَ﴾ تعالى ﴿فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ لإعلاء دينه ﴿الَّذِينَ يَشْرُونَ﴾ يبيعون ﴿الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ﴾ يستشهد ﴿أَوْ يَغْلِبْ﴾ يظفر بعدوه ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ثواباً جزيلاً ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ﴾ استفهام توبيخ ای لا مانع لكم من القتال ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ﴾ في تخلص ﴿الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ الذين حبسهم الكفار عن الهجرة و آذوهم قال ابن عباس كنت أنا وأمي منهم ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ﴾ داعين ﴿يَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ مكة ﴿الظَّالِمِ أَهْلِهَا﴾ بالكفر ﴿وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ﴾ من عندك ﴿وَلِيًّا﴾ يتولى أمورنا ﴿وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ يمنعنا منهم وقد استجاب الله دعاءهم فیسر لبعضهم الخروج وبقی

بعضہم الیٰ أن فتحت مکة وولّیٰ علیہم عتاب بن أسید فانصف مظلومہم من ظالمہم ﴿الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت﴾ الشیطان ﴿فقاتلوا أولیاء الشیطان﴾ انصار دینہ تغلبوہم لقوتکم باللہ ﴿إن کید الشیطن﴾ بالمومنین ﴿کان ضعیفا﴾ واهیا لا یقاوم کید اللہ بالکافرین۔

ترجمہ

(اے ایمان والو!) اپنے دشمن سے (اپنی احتیاط کا سامان لے لو) یعنی ان سے بچاؤ رکھو اور ان کے لئے ہوشیار رہو (پس نکلو) یعنی ان سے لڑنے کے لئے تیار ہو کر اٹھو (ٹکڑے ہو کر) یعنی متفرق ہو کر یکے بعد دیگرے سریہ کی شکل میں (یا سب مل کر نکلو، اور بے شک تم میں سے بعض وہ ہیں جو) جنگ سے (سستی کرتے ہیں) جیسے عبد اللہ بن ابی منافق اور اس کے اصحاب، اور ان کو اہل ایمان میں سے قرار دینا ظاہر کے اعتبار سے ہے، اور لیطئن میں لام قسم کے لئے ہے (پس اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے) جیسے قتل و ہزیمت (تو کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر انعام فرمایا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا) ورنہ میں بھی مصیبت میں پڑتا (اور اگر تم کو اللہ کا کوئی فضل پہنچتا ہے) جیسے فتح اور غنیمت، اور لئن میں لام قسم کا ہے (تو یہ شخص) شرمندہ ہو کر (کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی اور تعلق نہیں ہے) کأن مخففہ ہے اس کا اسم محذوف ہے یعنی کانہ، لم یکن میں دو قرأت ہے تاء اور یاء کے ساتھ، اور کان لم یکن بینکم و بینہ کا تعلق قد انعم اللہ علی سے ہے، جس کو قول اور اس مقولے کے درمیان لائے ہیں، اور وہ مقولہ یہ ہے: یا لیتنی، یا تبتیہ کے لئے ہے (اے کاش! میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا) یعنی مال غنیمت کا بڑا حصہ حاصل کرتا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا (پس چاہئے کہ اللہ کے راستے میں) اس کے دین کو بلند کرنے کیلئے (وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض میں بیچتے ہیں اور جو کوئی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے پس شہید ہوتا ہے یا غالب آتا ہے) یعنی دشمن پر قابو پاتا ہے (تو ہم عنقریب اسے اجر عظیم عطا کریں گے، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے) نجات دلانے کے سلسلے میں (نہیں لڑتے) یہ استفہام تو بیخ کے لئے ہے یعنی تمہارے لئے لڑنے سے کوئی رُکاوٹ نہیں ہونی چاہئے، جن کو کفار نے ہجرت سے روک رکھا ہے اور ان کو ایذا دیتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں اور میری ماں انھیں مستضعفین میں سے تھے (جو) دعا کرتے ہوئے (کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! ہم کو اس آبادی سے) یعنی مکہ سے (نجات دیجئے جس کے رہنے والے ظالم ہیں) یعنی کفر کے ارتکاب کی وجہ سے (اور ہمارے لئے اپنے پاس سے ایک کارساز مقرر کر دیجئے) جو ہمارے کاموں کا ذمہ دار ہو (اور ہمارے لئے اپنے پاس سے ایک مددگار متعین کر دیجئے) جو ہم کو ان سے بچائے،

اور اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، چنانچہ بعض کے لئے نکلنا آسان فرمایا اور بعض فتح مکہ تک وہیں رہے اور رسول اللہ ﷺ نے عتاب بن اسید کو مکہ کا والی مقرر کیا انھوں نے ظالموں اور مظلوموں کے درمیان انصاف قائم کیا (وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا وہ طاغوت) یعنی شیطان (کی راہ میں لڑتے ہیں تو تم شیطان کے حامیوں سے) یعنی اس کے دین کے مددگاروں سے (لڑو، تم ان پر غالب ہو گے) کیونکہ اللہ کی طاقت تم کو حاصل ہے (بے شک) اہل ایمان کے ساتھ (شیطان کی سازش کمزور ہے) جو کافروں کے حق میں اللہ کی خفیہ تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

﴿تشریحات﴾

خذوا حذرکم : حذر اور حذر ایک معنی میں ہے، یہ مصدر ہے اور کلام میں مبالغہ کیلئے ہے، گویا مصدر ہی کو سامانِ حفاظت قرار دیا اور بعض لوگوں نے کہا کہ حذر سامانِ حفاظت کو کہتے ہیں۔
انہضوا الی قتالہ : یہ انفروا کی تفسیر ہے، نفر کے معنی گھبرا کر نکلنے کے ہیں، اس سے مراد جنگ کے لئے تیار ہو کر نکلنا ہے۔

متفرقین سریۃ بعد اخری : یہ ثبات کی تفسیر ہے۔ ثبات، ثبت کی جمع ہے جس کے معنی جماعت کے ہیں جو دس آدمی سے زائد ہوں، اور سر یہ وہ جماعت ہے جو کم سے کم سو ہوں اور زیادہ سے زیادہ چار سو۔ یہاں ثبات کی تفسیر میں سر یہ کا لفظ لا کر مفسر نے اشارہ کیا کہ اس سے مطلق جماعت مراد ہے بلا لحاظ تعداد کے۔

لیتأخرن عن القتال : لمن لیبطئن کی تفسیر میں اس لفظ کا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل لازم ہے۔
وهذا راجع الی قوله قد انعم الله علی الخ : اس سے مراد کأن لم یکن بینکم و بینہ مودۃ ہے، اس کا تعلق جیسا کہ مفسر نے فرمایا قد انعم الله علی سے ہے، گویا عبارت یوں ہے: فان اصابکم مصیبة قال کأن لم یکن بینکم و بینہ مودۃ قد انعم الله علی إذ لم أکن معہم شہیداً، لیکن اس کو اس جگہ سے ہٹا کر بعد والے قول اور مقولہ کے درمیان میں جملہ معترضہ بنایا گیا ہے اور یوں کہا گیا: ولئن اصابکم فضل من الله ليقولن کأن لم یکن بینکم و بینہ مودۃ یالیتنی کنت معہم فافوز فوراً عظیماً، اس ہٹانے کا غالباً منشا یہ ہے کہ اس جملہ معترضہ کا معنوی تعلق دونوں قول سے رہے یعنی جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تب بھی یہ اپنے آپ کو بے تعلق ثابت کرنا چاہتے ہیں اور جب ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تب بھی یہ اپنے آپ کو بے تعلق محسوس کرتے ہیں، گویا ان کو خوشی اور رنج کسی حال میں مسلمانوں سے قلبی تعلق نہیں ہوتا اور یہ ان کے کمال شقاوت کی دلیل ہے۔

الذین یشرون ﴿بیعون﴾ : مفسر نے شرا کو بیع کے معنی میں مراد لیا ہے، یعنی وہ لوگ جو آخرت کی قیمت پر

دنیا کی زندگی فروخت کر دیتے ہیں اس سے مراد اہل ایمان ہیں۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دی ہے اور احتیاط کی تدابیر بتائی ہیں، نیز کمزور مسلمانوں کی خبر گیری اور نصرت کا حکم دیا ہے، چنانچہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! اپنی حفاظت کا سامان ہمیشہ کئے رہو اور جیسی ضرورت ہو خواہ متفرق طور سے خواہ اجتماعی طور سے دشمنان دین سے جنگ کرنے کیلئے نکلتے رہو، اور تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس باب میں سستی کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے یا تم پر اللہ کا کوئی فضل ہوتا ہے تو دونوں حالتوں میں وہ اپنی بے تعلقی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا انعام ہوا کہ ہم ساتھ نہ تھے ورنہ ہم بھی مصیبت میں گرفتار ہوتے، اور جب کوئی فضل ہوتا ہے تو کہتے ہیں کاش ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہم کو بھی اس فضل میں حصہ ملتا، گویا مسلمانوں کے رنج سے انھیں کوئی رنج نہیں بلکہ خوشی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے خوشی سے انھیں کوئی خوشی نہیں بلکہ اپنی محرومی پر افسوس ہونے لگتا ہے، پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے ان لوگوں کو جہاد کرنا چاہئے جو آخرت کے عوض میں دنیاوی زندگی کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، پھر جو کوئی اللہ کے راہ میں لڑتا ہے پھر خواہ شہید ہو جائے یا غالب آجائے اسے ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور تمہیں اس میں کیا رکاوٹ ہے کہ اللہ کے راستے میں اور کمزور مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کے نجات دلانے میں جنگ کرو، جو کمزور لوگ مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں اے ہمارے رب! ہم کو اس ظلم و ستم کی بستی سے نجات عطا فرمائیے اور ہمارا کوئی حامی و ناصر کھڑا کر دیجئے جو ہم کو ان کے ظلم و ستم سے بچائے، پھر اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور مکہ فتح ہو گیا، خوب سمجھ لینا چاہئے کہ یہ دو جماعتیں ہیں، ایک ایمان والے وہ اللہ کے لئے لڑتے ہیں، دوسرے کفار ہیں جو شیطان کے لئے لڑتے ہیں تو حکم ہے کہ شیطان کے حامیوں سے تم لڑو، شیطان کی تدبیر اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے پس غلبہ تمہیں کو ہوگا۔



﴿لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ عن قتال الكفار لما طلبوه بمكة لأذى الكفار لهم وهم جماعة من الصحابة ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ﴾ فرض عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ ﴿يَخَافُونَ﴾ النَّاسَ ﴿الْكَفَّارَ أَي عَذَابَهُمْ بِالْقِتْلِ﴾ كَخَشِيَةِ ﴿لَهُمْ عَذَابٌ﴾ اللَّهُ أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً ﴿مِنْ خَشِيَتِهِمْ لَهُ وَنَصَبَ أَشَدَّ عَلَى الْحَالِ وَجَوَابَ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ إِذَا وَمَا بَعْدَهَا أَي فَاجَأَتْهُمْ الْخَشْيَةُ﴾ وَقَالُوا ﴿جَزَاءً مِنَ الْمَوْتِ﴾ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا ﴿هَلَا﴾ أَخْرَتْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ ﴿لَهُمْ﴾ مَتَاعُ الدُّنْيَا ﴿

مايتمتع به فيها او الاستمتاع بها ﴿ قَلِيلٌ ﴾ آئل الى الفناء ﴿ وَالْآخِرَةُ ﴾ اى الجنة ﴿ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى ﴾ عذاب الله بترك معصيته ﴿ وَلَا تَطْلُمُونَ ﴾ بالياء والتاء تنقصون من اعمالهم ﴿ فِتْيَلًا ﴾ قدر قشرة النواة ﴿ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ ﴾ حصون ﴿ مُشِيدَةً ﴾ مرتفعة فلا تخشوا القتال خوف الموت ﴿ وَإِنْ تَصِبْهُمْ ﴾ اى اليهود ﴿ حَسَنَةً ﴾ خصب وسعة ﴿ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تَصِبْهُمْ سَيِّئَةً ﴾ جذب وبلاء كما حصل عند قدوم النبي ﷺ المدينة ﴿ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ﴾ يا محمد اى بشومك ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ كُلُّ ﴾ من الحسنه والسيئة ﴿ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ من قبله ﴿ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ﴾ اى لا يقاربون أن يفهموا ﴿ حَدِيثًا ﴾ يُلْقَى إِلَيْهِمْ وما استفهام تعجب من فرط جهلهم ﴿ مَا أَصَابَكَ ﴾ ايها الانسان ﴿ مِنْ حَسَنَةٍ ﴾ خير ﴿ فَمِنْ اللَّهِ ﴾ أتتك فضلاً منه ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ ﴾ بلية ﴿ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ أتتك حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب ﴿ وَأَرْسَلْنَاكَ ﴾ يا محمد ﴿ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ حال مؤكدة ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ على رسالتك ﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى ﴾ أعرض عن طاعته فلا يهمنك ﴿ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ حافظاً لاعمالهم بل نذيراً وإلينا أمرهم فنجازيهم وهذا قبل الامر بالقتال ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ اى المنافقون إذا جاء وك أمرنا ﴿ طَاعَةٌ ﴾ لك ﴿ فَإِذَا بَرَزُوا ﴾ خرجوا ﴿ مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ﴾ بادغام التاء فى الطاء وتركه اى أضمرت ﴿ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ﴾ لك فى حضورك من الطاعة اى عصيانك ﴿ وَاللَّهُ يَكْتُبُ ﴾ يامر بكتب ﴿ مَا يُبَيِّنُونَ ﴾ فى صحائفهم ليجازوا عليه ﴿ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ ﴾ بالصفح ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ ثق به فانه كافيك ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ مفوضا اليه ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ﴾ يتاملون ﴿ الْقُرْآنَ ﴾ وما فيه من المعانى البديعة ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ تناقضا فى معانيه وتباينا فى نظمه ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ ﴾ عن سرايا النبي ﷺ بما حصل لهم ﴿ مِنَ الْأَمْنِ ﴾ بالنصر ﴿ أَوْ الْخَوْفِ ﴾ بالهزيمة ﴿ أَدَاعُوا بِهِ ﴾ أفشوه نزل فى جماعة من المنافقين أو ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلون ذلك فتضعف قلوب المؤمنين ويتاذى النبي ﷺ ﴿ وَلَوْ رُدُّوهُ ﴾ اى الخبر ﴿ إِلَى الرَّسُولِ وَالِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ اى ذوى الراى من اكابر الصحابة اى لو سكتوا عنه حتى يخبروا به ﴿ لَعَلِمَهُ ﴾ هل هو مما ينبغى أن يذاع أو لا ﴿ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ﴾ يتبعونه ويطلبون علمه وهم المذيعون ﴿ مِنْهُمْ ﴾ من

الرسول واولی الامر ﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ ﴾ بالاسلام ﴿ وَرَحْمَتُهُ ﴾ لكم بالقرآن ﴿ لَا تَبْعْتُمُ الشَّيْطَانَ ﴾ فیما یامرکم به الفواحش ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ۝ فَقَاتِلُوا ﴾ یامحمد ﴿ فِی سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْفُفُ إِلَّا نَفْسُكَ ﴾ فلا تہتم بتخلفہم عنک المعنی قاتل ولو وحدک فإنک موعود بالنصر ﴿ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ حثہم علی القتال ورغبتہم فیہ ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ یُكْفِفَ بَأْسَ ﴾ حرب ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا ﴿ مِنْهُمْ ﴾ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿ تعذیبا منهم فقال النبی ﷺ والذی نفسی بیده الاخرجن ولو وحدی فخرج بسعین راکباً الی بدر الصغری فكف الله باس الکفار بالقاء الرعب فی قلوبہم ومنع ابی سفیان عن الخروج کما تقدم فی آل عمران ﴿ مَنْ یُشْفَعُ ﴾ بین الناس ﴿ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾ موافقة للشرع ﴿ یکنُ لَهُ نَصِيبٌ ﴾ من الاجر ﴿ مِنْهَا ﴾ بسببها ﴿ وَمَنْ یُشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً ﴾ مخالفة له ﴿ یکنُ لَهُ کُفْلٌ ﴾ نَصِيبٌ مِنَ الْوِزْرِ ﴿ مِنْهَا ﴾ بسببها ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ مُّقِیْتًا ﴾ مقتدرًا فیجازی کل أحد بما عمل ﴿ وَإِذَا حِیَّتُمْ بِتَحِیَّةٍ ﴾ کان قیل لکم سلام علیکم ﴿ فَحِیُّوْا ﴾ المحیی ﴿ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ بان تقولوا له وعلیک السلام ورحمة الله وبرکاته ﴿ أوردُوْهَا ﴾ بان تقولوا کما قال ای الواجب أحدهما والاول أفضل ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ حَسِیبًا ﴾ محاسبًا فیجازی علیه ومنه رد السلام وخصت السنة الکافر والمبتدعة و الفاسق والمسلم علی قاضی الحاجة ومن فی الحمام والاکل فلا یجب الرد علیہم بل یکره فی غیر الاخیر ویقال للکافر وعلیک ﷻ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿ وَاللَّهُ لَیَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ من قبورکم ﴿ اِلَیْ ﴾ فی ﴿ یَوْمِ الْقِیَمَةِ لَا رَیْبَ ﴾ شک ﴿ فِیْهِ وَمَنْ ﴾ ای لا أحد ﴿ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِیثًا ﴾ قولاً۔

ترجمہ

(کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا) کہ کفار کی جنگ سے (اپنے ہاتھوں کو روکو) یہ اس وقت ہوا تھا جب انھوں نے مکہ میں اس کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ کفار انھیں تکلیف پہنچاتے تھے اور یہ حضرات صحابہ کی ایک جماعت تھی (اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر لڑائی لکھ دی گئی) یعنی فرض کر دی گئی (تو ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک فریق لوگوں سے) یعنی کفار سے یعنی ان کے قتل کے عذاب سے (اس طرح ڈرنے لگا جیسے کہ اللہ) کے عذاب سے (ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا) اشد کا نصب حال کی بنا پر ہے، اور لَمَّا کے جواب پر اِذَا اور اس کا ما بعد دلالت کرتا ہے یعنی اچانک ان پر خوف طاری ہو گیا (اور انھوں نے) موت سے گھبرا کر (کہا اے ہمارے پروردگار! آپ نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کر دی، آپ نے ہم کو ایک قریبی

مدت تک مہلت کیوں نہ دی تم) ان سے (کہو کہ دنیا کی متاع) یعنی وہ سامان جس سے دنیا میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے یا یہ کہ دنیا سے فائدہ اٹھانا (قلیل ہے) یعنی فنا ہونے والا ہے (اور آخرت) یعنی جنت (ان لوگوں کے لئے جو) اللہ کے عذاب سے (ڈرتے ہیں) اور معصیت ترک کر دیتے ہیں (بہتر ہے، اور تم پر کٹھلی کے چھلکے کے بقدر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا) یعنی تمہارے اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی، لا تُظلمون میں دو قرأت ہے تاء کے ساتھ بھی اور یاء کے ساتھ بھی، پس تم جہاد کرو (جہاں بھی تم ہو گے موت تم کو آ لے گی اگرچہ تم اونچے قلعوں میں ہو) اس لئے موت کے خوف کی وجہ سے جنگ کرنے سے نہ ڈرو (اور اگر ان کو) یعنی یہود کو (کوئی بھلائی) یعنی شادابی اور وسعت مال (ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر ان کو کوئی برائی) یعنی قحط سالی اور مصیبت (پہنچتی ہے) جیسا کہ نبی کریم ﷺ کے مدینہ تشریف لانے کے وقت ہوا تھا (تو کہتے ہیں کہ) اے محمد! (یہ تمہاری طرف سے ہے) تمہاری نحوست سے ہے (تم) ان سے (کہہ دو کہ) بھلائی اور برائی میں سے (ہر ایک اللہ ہی کی طرف سے ہے، پس ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے قریب تک نہیں آتے ہیں) جو ان سے کہی جاتی ہے، اور ما ان کے فرطِ جہل کی وجہ سے استفہام تعجیب ہے اور مقاربت فعل کی نفی فعل کی نفی سے بلغ تر ہے، اے انسان! (جو بھی بھلائی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے) اس کے فضل سے آتی (ہے) اور جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے وہ تمہاری ذات کی طرف سے) آتی (ہے) کیونکہ تم نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا ہے جو تکلیف کا موجب ہیں، اور اے محمد! (ہم نے تم کو لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے) رسولاً حال موکدہ ہے (اور) تمہاری رسالت پر (اللہ کافی گواہ ہے، جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے بلاشبہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو کوئی) اس کی طاعت سے (روگردانی کرتا ہے) تو تم اس کی فکر میں نہ پڑو (ہم نے تم کو ان کے اوپر) ان کے اعمال کا نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے) بلکہ نذیر بنا کر بھیجا ہے، ان کا معاملہ ہمارے ذمہ ہے، ہم انہیں بدلہ دیں گے، اور یہ امر بالقتال سے پہلے ہے (اور) منافقین جب تمہارے پاس آتے ہیں، تو (کہتے ہیں کہ) ہمارا کام آپ کی اطاعت ہے پھر جب تمہارے سے باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس کے علاوہ اپنے دل میں بات چھپائے ہوتا ہے جو) تم سے تمہارے سامنے (کہی ہوتی ہے) یعنی طاعت کے خلاف نافرمانی، بَيْتَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ میں دو قرأت ہے، اول تاء کا ادغام طاء میں یعنی بَيْتَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ، اور دوسرے بغیر ادغام کے یعنی بَيْتَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ (اور اللہ لکھتا ہے) یعنی لکھنے کا حکم دیتا ہے (اس چیز کو جو وہ چھپاتے ہیں) ان کے نامہ اعمال میں تاکہ اس پر بدلہ دیا جائے (پس ان سے اعراض کرو) درگزر کرو (اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو) وہ تم کو کافی ہے (اور اللہ کافی ہے وکیل ہونے کے لحاظ سے) یعنی اس لحاظ سے کہ سب کام اسی کے سپرد کر دئے جائیں (کیا یہ لوگ قرآن پر) اور ان معانی بدیعہ پر جو قرآن میں ہیں (غور نہیں کرتے، اور اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں

بڑا اختلاف پاتے) یعنی معافی میں تناقض اور عبارتوں میں بتائیں ہوتا (اور جب ان کے پاس) نبی کریم ﷺ کے سر یوں کے سلسلہ میں کوئی خبر آتی ہے جس سے وہ دوچار ہوئے (امن کی ہو) یعنی فتح کی (یا خوف کی ہو) یعنی شکست کی (تو اس کو پھیلاتے ہیں) یہ آیت منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا بعض ضعفاء مسلمین کے بارے میں جو ایسا کیا کرتے تھے، اس سے اہل ایمان کے قلوب میں کمزوری آتی تھی اور نبی ﷺ کو ایذا پہنچتی تھی (اور اگر یہ لوگ اس) خبر (کو رسول کی جانب یا ان میں سے اولوالامر کی جانب) یعنی اکابر صحابہ میں اصحاب الرائے کی جانب (پہنچا دیتے) اور خود اس سے خاموش رہتے یہاں تک کہ وہ اس کی خبر دیتے (تو وہ لوگ جو اس کا علم چاہتے ہیں) اور اس کے پیچھے پڑتے ہیں (جان لیتے) کہ اس کا پھیلا نا مناسب ہے یا نہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو انہیں اڑاتے ہیں (ان کے واسطے سے) یعنی رسول اور اولوالامر کے واسطے سے (اور اگر تم پر) اسلام کے ذریعے سے (اللہ کا فضل اور) قرآن کے ذریعے سے (اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم) ان فواحش میں (شیطان کی ضرور پیروی کر لیتے) جن کا وہ تم کو حکم دیتے ہیں (بجز چند لوگوں کے، پس) اے محمد! (اللہ کے راستے میں لڑو، تم کو تمہاری ذات کے علاوہ کسی کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے) لہذا اپنے سے ان کے ہٹ جانے کی کوئی فکر نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ تم لڑو اگرچہ تنہا ہو، اس لئے کہ تم سے فتح و نصرت کا وعدہ ہے (اور مومنین کو بھی لڑائی پر آمادہ کرو) اور انہیں ترغیب دو (قریب ہے کہ اللہ ان لوگوں کی جنگ کو روک دے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ) ان سے (زیادہ پکڑ کرنے والا اور سزا دینے والا ہے) پھر نبی ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں ضرور نکلوں گا اگرچہ تنہا نکلوں، پھر آپ کے ساتھ ستر سوار بدر صغریٰ کی جانب نکلے اور اللہ نے کفار کے قلوب میں رعب ڈال کر اور ابوسفیان کو نکلنے سے روک کر جنگ نہیں ہونے دی) جیسا کہ آل عمران میں گزر چکا (جو کوئی) لوگوں کے درمیان (اچھی سفارش کرے) یعنی شریعت کے مطابق (اس کیلئے) اس کی وجہ سے اجر کا (حصہ ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرے) شریعت کے خلاف (اس کے لئے) اس کی وجہ سے گناہ کا (ایک حصہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے) پس ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا (اور جب تم سے کسی لفظ سے سلام کیا جائے) مثلاً تم سے کہا جائے سلامٌ علیکم (تو تم) اس سلام کرنے والے کو (اس سے بہتر لفظ سے سلام کرو) مثلاً اس سے کہو علیک السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ (یا اسی کو لوٹا دو) یعنی جو کچھ اس نے کہا ہے وہی کہہ دو، دونوں باتوں میں سے ایک واجب ہے اور اول افضل ہے (بے شک اللہ ہر چیز پر محاسب ہیں) یعنی اس پر بدلہ دیں گے، اور اسی میں سلام کا جواب بھی ہے، اور سنت نے کافر کو، بدعتی کو، فاسق کو اور قضائے حاجت کرنے والے کے سلام کرنے والے کو اور اس شخص کو جو جام میں ہے اور جو کھانا کھا رہا ہے خاص کیا ہے، ان کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے بلکہ اخیر کے علاوہ کو جواب دینا مکروہ ہے، اور کافر سے

کہا جائے گا وعلیک (اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں) اور اللہ کی قسم (وہ تم کو) تمہاری قبروں سے (قیامت کے دن ضرور جمع کریں گے اس میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟) یعنی کوئی نہیں ہے۔

﴿ تشریحات ﴾

وہم جماعة من الصحابة : مکہ مکرمہ میں جب کفار کی ایذا رسانی حد برداشت سے باہر ہو گئی تو بعض حضرات صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے ان کے خلاف لڑنے اور مرنے کی اجازت چاہی، اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو روک رکھو، مکہ زندگی کے تیرہ سال میں حضرات صحابہ کو صبر و برداشت کا حکم تھا اور یہ کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے رہیں، جنگ کی اجازت نہ تھی، کفار ہر طرح کی ظالمانہ کارروائیاں کرتے تھے مگر مسلمانوں کو جواب اور دفاع کی اجازت نہ تھی، ان کے ظلم و ستم سے اپنا بچاؤ کرنے کی اجازت تھی، خواہ وہ ہجرت کی صورت میں ہو یا خاموش رہنے کی صورت میں، مدینے کی ہجرت کے بعد ان کو جہاد کی اجازت ملی اور لڑنے کا حکم دیا گیا، اس وقت جن لوگوں کے قلوب میں کمزوری یا ایمان میں نفاق تھا وہ گھبرانے اور تھرانے لگے، یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی، پھر کمزور دلوں کو اللہ نے قوت بخشی اور وہ تائب ہوئے اور منافقین میں سے کم ہی تائب ہوئے۔

كخشية الله : اس میں اللہ جو کہ مضاف الیہ ہے وہ خشية کا مفعول ہے اور مفسر نے اس سے پہلے عذاب کو مقدر مانا ہے جو کہ مضاف ہے اور خشية کا فاعل ضمیر جمع غائب ہے، چنانچہ مفسر نے اس کی تقدیر اس طرح ظاہر کی ہے: كخشيتهم عذاب الله یعنی جیسا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہئے اسی طرح یہ کفار کے مقابلے سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، اور أشد خشية میں أشد حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے، اور ذوالحال خشية ہے جو کہ موخر ہے، مشہور قاعدہ ہے کہ جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کر دیا جاتا ہے تاکہ صفت سے التباس نہ ہو۔

وجواب لما دل عليه إذا وما بعدها الخ: فرماتے ہیں لفظوں میں فلما كتب عليهم القتال کا جواب جو کہ بصورت فعل ماضی ہونا چاہئے موجود نہیں ہے، اس کے بجائے إذا فریق منہم ہے، مفسر فرماتے ہیں کہ اس کے جواب پر إذا اور اس کا ما بعد دلالت کرتا ہے، اور إذا مفا جاتیہ ہے تو جواب یہ ہوگا کہ فاجأتهم الخشية یعنی جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو فوری طور پر انھیں خوف و گھبراہٹ نے آگھیرا، اور وہ موت سے گھبرا کر یہ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ اور مہلت ملی ہوتی تو اچھا ہوتا، اگر یہ قول بعض صحابہ کی طرف سے صادر ہوا تو اس کا منشاء ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ بشری طبیعت کی کمزوری ہے، اور فوری طور پر اس کا ظہور ہوا، پھر اس تنبیہ کے بعد وہ ختم ہو گیا۔

مايتمتع به فيها او الاستمتاع بها : یہ لفظ متاع کی تفسیر ہے، متاع اس سامان کو بھی کہتے ہیں جس کو برتا جاتا

ہے، اور متاع مصدر بھی ہے جس کے معنی برتنا اور فائدہ اٹھانا ہے، یہاں دونوں بات درست ہو سکتی ہے، سامان قلیل ہے، کیونکہ دونوں فنا ہو جانے والے ہیں، نہ سامان رہے گا اور نہ اس سے فائدہ اٹھانا باقی رہے گا، اور فنا ہونے والی چیز بہر حال قلیل ہے خواہ بظاہر نظر وہ کثیر دکھائی دے، اسی لئے مفسر نے قلیل کی تفسیر آئل الی الفنا سے کی ہے۔

﴿فتیلاً﴾ قدر قشرة النواة: قلیل کی اس تفسیر میں تسامح ہے، کیونکہ گٹھلی کے چھلکے کو فتیل نہیں قطمیر کہتے ہیں، فتیل اس دھاگے کو کہتے ہیں جو گٹھلی کے درمیان ہوتا ہے۔

وما استفہام تعجیب من فرط جہلہم: یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود کا ایک قول نقل کیا ہے جو وہ ازراہ شرارت رسول اللہ ﷺ کے حق میں کہتے تھے، انھیں جب کوئی نعمت ملتی تو اس کے بارے میں کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور جب کوئی پریشانی ہوتی تو اسے حضور کی طرف منسوب کرتے، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمت ہو یا پریشانی سب اللہ کی جانب سے ہے، ان کی حماقت و جہالت دیکھو کہ یہ اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھ پارہے ہیں، فمال هؤلاء القوم لایکادون یفقہون حدیثاً، مفسر فرماتے ہیں یہ ما استفہامیہ ہے لیکن مقصود استفہام نہیں ہے بلکہ جہالت پر اظہار تعجب ہے، اور لایکادون یفقہون میں جو مقاربت فعل کی نفی ہے وہ نفی فعل سے زیادہ بلغ ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ وہ سمجھتے نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ سمجھنے کے قریب نہیں ہیں، اور یہ زیادہ بلغ ہے۔

ماأصابک من حسنة الخ: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدے کے تحت راحت اور مصیبت کے حصول کی علت بیان کی ہے، وہ یہ کہ انسان کو جو نعمت نصیب ہوتی ہے اس کی علت خود انسان کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ محض اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے، اور اسے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کی علت انسان کا اپنا گناہ ہے، اس تقریر سے وہ تعارض دور ہو جاتا ہے جو بظاہر کل من عند اللہ اور ماأصابک من سئئة فمن نفسک کے درمیان معلوم ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ پہلی آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ راحت یا مصیبت سب کا تعلق ارادۃ الہی اور خلق سے ہے، اور دوسری آیت میں من نفسک کا تعلق سبیت سے ہے یعنی انسان کے گناہوں اور کمزوریوں کے سبب سے اس پر مصائب آتے ہیں۔

﴿ومن تولی﴾ ای عن طاعته فلا یہمنک: اس جملے میں ومن تولی شرط ہے اور جواب شرط محذوف ہے، جس کو مفسر نے فلا یہمنک کے لفظ سے ظاہر کیا ہے، یعنی جو شخص تمہاری اطاعت سے روگردانی کرے اس کی فکر مت کرو، اور فما أرسلنک علیہم حفیظاً اس جواب شرط کی تعلیل ہے۔

أمرنا ﴿طاعة﴾ لک: اللہ نے فرمایا یقولون طاعة یہ منافقین کا قول ہے، طاعة کا لفظ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، اور وہ ہے أمرنا۔

﴿فَإِذَا بَرِزُوا﴾ ای خرجوا ﴿مِنْ عِنْدِكَ بَيْتِ طَائِفَةِ مِنْهُمْ﴾ ای اضمرت ﴿غَيْرِ الَّذِي تَقُولُ﴾: مفسر نے اس عبارت میں بیت کی تفسیر اضمرت سے کی ہے، یعنی منافقین نبی کے سامنے طاعت کا اقرار کرتے ہیں لیکن جب ان کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو جو کچھ نبی کے سامنے کہے ہوتے ہیں اس کے خلاف یعنی نافرمانی کی بات دل میں چھپاتے ہیں۔ صاحب جمل نے لکھا ہے کہ یہ تفسیر اس جگہ مناسب نہیں ہے کیونکہ دل میں نافرمانی کا چھپانا کچھ باہر نکلنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ خود آپ ﷺ کے سامنے بھی ان کے دلوں میں نافرمانی کا جذبہ چھپا ہوتا تھا، بیت کا تعلق چونکہ فیذا برزوا سے ہے اس لئے اس کا وہ معنی چاہئے جو بروز اور خروج پر موقوف ہو، اور تبییت کا وہ معنی رات میں سازش کرنے کا ہے، مطلب یہ ہے کہ دن میں نبی کے پاس آ کر اظہار طاعت کرتے ہیں اور رات میں یہاں سے نکل کر آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو ان کی سازشیں اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں فرشتوں کے ذریعہ درج کروادیتے ہیں تاکہ اس کی سزا دی جاسکے۔

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ﴾ عَنْ سَرَايَا النَّبِيِّ ﷺ بِمَا حَصَلَ لَهُمْ ﴿مِنَ الْإِمْنِ أَوْ الْخَوْفِ﴾ : اس آیت میں منافقین کی شرانگیزی پر تنبیہ ہے، اور زمانہ جنگ کے سلسلے میں تمام مسلمانوں کے لئے ایک قانونی ہدایت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے مدنی دور میں مختلف علاقوں میں سریوں کے بھیجنے کا سلسلہ جاری رہتا تھا، تو جب کوئی سریہ بھیجا جاتا تو فطری بات ہے کہ تجسس اور تحقیق کی نگاہیں ادھر لگی رہتی تھیں، ایسے حالات میں مختلف قسم کی خبریں مختلف لوگوں کے ذریعے سے ملتی رہتی تھیں، کبھی اچھی کبھی بری، تو منافقین بغیر کسی تحقیق کے ان خبروں کو ادھر ادھر بیان کرتے اور پھیلاتے، ان افواہوں سے مسلمانوں میں بسا اوقات ہجانی کیفیت پیدا ہوتی، اس حرکت میں کمزور دل کے بعض مسلمان بھی شامل ہو جاتے جس سے حضور ﷺ کو تکلیف پہنچتی۔ اس سلسلے میں اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ لوگ افواہیں نہ پھیلائیں بلکہ جو بھی خبر آئے اس کو رسول کے اور اکابر صحابہ میں جو اصحاب رائے ہیں ان کے حوالے کر کے خود خاموشی اختیار کریں، یہاں تک کہ یہ حضرات انہیں تحقیقی بات کی خبر دیں، ان کے ذریعے سے ان افواہ پھیلانے والوں کو سچی بات معلوم ہو جائے گی اور یہ بھی سمجھ میں آجائے گا کہ اس خبر کو پھیلانا چاہئے یا نہیں! پھر جیسا انہیں بتایا جائے ویسا کریں۔

وہم المذيعون: یعنی افواہیں پھیلانے والے، یہ الذین يستنبطونہ منہم کا بیان ہے، منہم سے مراد رسول اور اولوالامر ہیں، اور يستنبطونہ کا ترجمہ مفسر نے يتبعونہ ويطلبون علمہ سے کیا ہے، اور اسی بنیاد پر اس کا مصداق افواہیں پھیلانے والوں کو قرار دیا ہے کہ یہ لوگ بغیر علم و تحقیق کے ہر آنے والی خبر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اگر یہ لوگ ایسا نہ کرتے بلکہ اس خبر کو رسول کے اور اولوالامر کے حوالے کر کے ان سے تحقیق چاہتے تو اچھا ہوتا، اور انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ خبر کیسی ہے؟ اس کو پھیلانا چاہئے یا نہیں؟

تنبیہ | صاحب جلالین نے یہی تشریح کی ہے لیکن دوسرے مفسرین دوسرا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں، وہ حضرات الذین یستنبطونہ کا مصداق افواہ پھیلانے والوں کو نہیں بلکہ رسول اور اولوالامر میں سے اہل تحقیق کو قرار دیتے ہیں، اس بنیاد پر اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا، ”کہ اگر اس کو یہ لوگ رسول اور اولوالامر کے حوالے کرتے تو جو لوگ ان میں حقیقت حال کی تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس کو جان لیتے کہ خبر کیسی ہے، قابل اشاعت ہے یا نہیں؟ حضرت مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

”اور اگر بجائے خود مشہور کرنے کے یہ لوگ اس خبر کو رسول اللہ ﷺ کے اور جو حضرات اکابر صحابہ ان میں سے امور کو سمجھتے ہیں ان کی رائے کے اوپر حوالہ رکھتے اور خود کچھ دخل نہ دیتے تو اس خبر کی صحت و غلط اور قابل تشہیر ہونے، نہ ہونے کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں جیسا کہ ہمیشہ ہی پہچان لیتے ہیں، پھر جیسا یہ حضرات عمل درآمد کرتے ویسا ہی ان خبر اڑانے والوں کو کرنا چاہئے تھا۔“

یہ صاحب جلالین کی تفسیر کے مقابلے میں زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے بیان کیا ہے اور جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار یہ خبر مشہور ہوئی کہ رسول اکرم ﷺ نے ازواج مطہرات کو طلاق دیدی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اجازت لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا، اور حضرت سے اس کے متعلق تحقیق کی تو آپ نے طلاق دینے کی نفی فرمائی، میں نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی ہے اور یہ آیت نازل ہوئی: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَالْيَاقِينِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ - ”تو میں وہ شخص ہوں جس نے اس امر کا استنباط اور تحقیق کی“ (مسلم شریف: کتاب الطلاق)

اس سے معلوم ہوا کہ استنباط کرنے والے وہ نہیں ہیں جو بے تحقیق خبریں پھیلاتے ہیں بلکہ اولوالامر

حضرات ہیں۔

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ﴿بِالْإِسْلَامِ﴾ ﴿وَرَحْمَتُهُ﴾ ﴿لَكُم بِالْقُرْآنِ﴾ ﴿لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ﴾

فیما یامرکم بہ الفواحش ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ : اس آیت پر بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سبھی لوگ شیطان کی پیروی کر لیتے، پھر اس میں قلیلاً کے استثناء کے کیا معنی؟ کیا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تب بھی کچھ لوگ شیطان کی پیروی سے بچ جاتے، مفسر نے تفسیری الفاظ کا اضافہ کر کے اس ظاہری اشکال کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ فضل اللہ کی تفسیر میں لفظ اسلام سے اس کی مراد متعین کی، اور رحمة سے مراد قرآن کو لیا، یعنی اگر اللہ نے تم لوگوں پر اسلام کے واسطے سے فضل نہ فرمایا ہوتا اور

قرآن کے واسطے سے اپنی رحمت نہ عطا فرمائی ہوتی تو کم لوگ اپنی عقل سے کام لے کر امن یا خوف کی خبر کے سلسلے میں شیطان کی پیروی سے بچ کر سیدھی راہ پر قائم رہتے، لیکن اولاً تو اللہ نے اسلام کی توفیق بخشی جو اتباع شیطان سے کلی طور پر بذات خود مانع ہے کہ موقع موقع پر قرآن کے نزول سے جزئیات کی رہنمائی رہتی ہے، اس کی وجہ سے اتباع شیطان سے مزید بچاؤ ہوتا ہے، اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتیں تو عقل صحیح کا استعمال نادر ہی ہوتا ہے، اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ فضل اور رحمت سے مطلق فضل و رحمت مراد نہیں ہے بلکہ اسلام اور قرآن ہے، اور نہ اتباع شیطان سے مطلق اتباع مراد ہے بلکہ مذکورہ بالا حالات میں اتباع مراد ہے، اس صورت میں کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔

فخرج بسعين راكباً الى بدر الصغرى الخ: حق تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو جب حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں آپ قتال کیجئے، اس کے آپ تن تنہا مکلف ہیں البتہ مومنین کو اس کی ترغیب دیجئے، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: والذى نفسى بيده لا أخرجنّ ولو وحدى، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں ضرور نکلوں گا اگرچہ تنہا نکلنا پڑے۔ مفسر فرماتے ہیں کہ تب آپ ستر سواروں کے ساتھ میدان بدر میں تشریف لے گئے، اور یہ تشریف لے جانا غزوہ احد کے ایک سال بعد ہوا تھا، غزوہ احد میں ابوسفیان نے وقت متعین کیا تھا کہ اگلے سال میدان بدر میں چھلی جنگ کا بدلہ چکانے کیلئے ہم حملہ آور ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے کفار کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور وہ مَرَّ ظَهْرَانِ سے آگے نہیں بڑھے، اللہ تعالیٰ نے عسى الله أن يكف باس الذين كفروا کا وعدہ پورا کیا۔

متنبیہ علامہ جلال الدین کا یہاں خلط ہو گیا ہے، ستر سواروں کو لے کر نکلنے کا واقعہ غزوہ بدر صغریٰ کا نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ غزوہ احد کے فوراً بعد کا ہے، غزوہ احد میں کفار نے بظاہر فتح پائی تھی، اس فتح یابی کے بعد وہ مکہ لوٹ رہے تھے تو انھیں خیال آیا کہ کیوں نہ اسی حالت میں جبکہ اہل سلام شکست خوردہ اور زخموں سے چور ہیں ان کا استیصال کامل کر دیا جائے، اس خیال سے انھوں نے پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے فوری طور پر جوابی کارروائی کی اور انھیں زخم خوردہ صحابہ میں سے ستر اصحاب کو لے کر آگے بڑھے، کفار کو معلوم ہوا کہ آپ آرہے ہیں تو انھوں نے اپنی عافیت واپسی کا سفر جاری رکھنے ہی میں سمجھی، اس مختصر سرگزشت کو اصحاب سیر غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

غزوہ بدر صغریٰ کا واقعہ ۲ھ میں پیش آیا، اس میں رسول اللہ ﷺ ۱۵۰۰ اصحابہ کو لے کر نکلے تھے جیسا کہ مواہب لدنیہ اور سیرت ابن ہشام میں ہے۔

اور حقیقت تو یہ ہے کہ آیت زیر تفسیر کا تعلق نہ غزوہ حمراء الاسد سے ہے اور نہ غزوہ بدر صغریٰ سے، ان

دونوں غزوں کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت اَلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ میں گذر چکا ہے، اور حضرت مفسر سے وہاں بھی کچھ تسامح ہوا ہے۔

﴿وَإِذَا حِيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ﴾ کان قیل لکم سلام علیکم الخ : تحیة کے بمعنی سلام کرنے کے ہیں جیسا کہ مفسر نے اپنی تفسیر سے ظاہر کیا ہے، امام راغب نے فرمایا ہے کہ تحیة کا اصل معنی دعاء حیات ہے پھر اسے مطلق دعا کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا، اور اب شریعت کے عرف میں سلام کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر السلام علیک کہا تو آپ نے جواب میں وعلیک السلام ورحمة اللہ فرمایا، ایک اور شخص نے السلام علیک ورحمة اللہ کہا تو آپ نے جواب میں وعلیک السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ فرمایا، ایک اور شخص نے السلام علیک ورحمة اللہ وبرکاتہ کہا تو آپ نے واجب میں وعلیک السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ فرمایا، اس کو اشکال ہوا کہ میرے سلام پر تو آپ نے اضافہ نہیں فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ اضافے کی مقدار پوری ہو چکی، اس لئے میں نے اتنا ہی دہرایا، اس سے معلوم ہوا کہ سلام کے جواب میں اضافے کی حد و برکاتہ تک ہے، اس پر اضافہ نہیں کرنا چاہئے۔

وخصت السنة الکافر والمبتدعة : سلام کا جواب دینا واجب ہے، سوائے چند اشخاص کے کہ ان کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، کافر، مبتدع، فاسق اور وہ جو قضائے حاجت کرنے والے کو سلام کرے یا اس کو سلام کرے جو حجام میں ہے، یا کھانا کھانے والے کو سلام کرے، اخیر کے تینوں کو سلام کرنے والے کا جواب ان پر واجب نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص قضائے حاجت کرنے والے کو یا حجام کے اندر کسی کو سلام کرے تو اس شخص کو جواب دینا مکروہ ہے، اور کھانے والے شخص کے منہ میں اگر لقمہ ہو تو اس کے ذمے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، اور منہ میں لقمہ نہیں ہو تو واجب ہے، اور اگر کوئی کافر سلام کرے تو جواب میں صرف وعلیک علیکم کہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق ہے، یا ان کے قلوب کمزور ہیں اور اس کی وجہ سے بزدلی کے آثار ان پر ظاہر ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے اور بزدلی اور نفاق کے انسداد کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کا طریقہ یہ بتایا ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ کفار سے جنگ کی اجازت کے آرزو مند تھے تو ان سے کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک رکھو اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرو، اس وقت وہ چاہتے تھے کہ جنگ کی اجازت مل جائے، لیکن جب ان پر لڑائی فرض کر دی گئی تو ان کے دلوں میں خوف بھر گیا، وہ

کفار سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہئے، اور گھبراہٹ میں وہ یہ کہنے لگے کہ اے پروردگار! آپ نے ابھی لڑائی کیوں فرض کر دی کچھ اور دنوں مہلت دئے ہوتے، انھیں معلوم ہونا چاہئے کہ متاع دنیا قلیل ہے، فنا ہو جانے والی ہے اور اہل تقویٰ کے لئے آخرت ہی بہتر ہے، اور ان پر آخرت میں کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا، نہ ان کے اعمال میں کمی کی جائے گی اور نہ انھیں بغیر گناہ کے سزا دی جائے گی۔ اس لئے جہاد کرنا ہی مناسب ہے، اور موت تو ایسی ناگزیر حقیقت ہے کہ آدمی کتنے ہی محفوظ قلعے میں ہو موت سے بچ نہیں سکتا، اس لئے موت کے خوف سے جان چرانا بے معنی ہے۔

ان یہود و نصاریٰ کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے انھیں نعمت اور وسعت ملتی ہے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انھیں کی نحوست سے یہ مصیبت آتی ہے، تم انھیں بتا دو کہ نعمت ہو یا مصیبت سب اللہ کی طرف سے ہے، مگر یہ ان لوگوں کی بے وقوفی ہے کہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، یہ خود جان لینا چاہئے کہ انسان کو جو کچھ بھلائی پہنچتی ہے وہ محض اللہ کا فضل ہے اور جو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خود آدمی کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے، وہ اس کی اپنی نحوست سے ہے، اور محمد ﷺ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ نحوست رسول کی نہیں ہو سکتی، بلکہ جو کوئی رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنی نحوست میں گرفتار ہوتا ہے۔ آپ کی رسالت پر اللہ گواہ ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ درحقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو رسول سے روگردانی کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار رسول نہیں ہیں، وہ خدا کے حوالے ہے، لیکن منافقین کا حال یہ ہے کہ سامنے تو رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو ان کی ان بد اعمالیوں کو اللہ تعالیٰ لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں، وہی انھیں سزا دیں گے، آپ تو ان کی طرف التفات مت کیجئے بس اللہ کے بھروسہ پر رہئے، خدا ہی کارساز ہے، اگر یہ قرآن پر غور کرتے تو انھیں صاف معلوم ہو جاتا کہ اللہ کی کتاب ہے اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں الفاظ و معانی کے اندر انھیں بڑا تضاد اور اختلاف ملتا، لیکن جب کہیں تضاد اور تناقض نہیں ہے تو انھیں مان لینا چاہئے کہ اللہ کی کتاب ہے، مگر یہ تو انہیں اڑانے والے اور انہوں کے پیچھے دوڑنے والے ہیں انھیں غور و فکر کی دولت کہاں نصیب! ان کا حال تو یہ ہے کہ کسی معاملے میں کیسی ہی کوئی بات ان کے کان میں پڑتی ہے خواہ وہ امن و اطمینان کی ہو یا خوف و ہراس کی، بے سوچے سمجھے اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اس سلسلے میں رسول یا اولی الامر کی ہدایت کا انتظار کرتے اور اس کے مطابق عمل درآمد کرتے تو خبروں کی حقیقتیں انھیں اچھی طرح معلوم ہو جاتیں، اور اہل ایمان پر اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے کہ انھیں صحیح صحیح توفیق ملی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بھی شیطان کی پیروی میں جا پڑتے، پس اے رسول! اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تم اپنی ذات کے مکلف ہو اور اہل ایمان کو بھی جنگ پر

آمادہ کرو، کفار کی شوکت و قوت کو توڑنا تو اللہ کا کام ہے پس اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت قوت والے، سخت سزا دینے والے ہیں، جو کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی خلاف شرع بری سفارش کرتا ہے اسے گناہ ہوتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب تم کو سلام کیا جائے تو تم بھی اس سے اچھی دعا دو یا اسی کو جواب میں دہرا دو، اور اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بلاشبہ وہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کریں گے، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟



ولما رجع الناس من أحوالهم ففرق فریق أقتلهم وقال فریق لا، فنزل ﴿فَمَا لَكُمْ﴾ ای ماشانکم صرتم ﴿فِي الْمُنَافِقِينَ فَتَيْنِ﴾ فرقتین ﴿وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ﴾ ردہم ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ من الكفر والمعاصی ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ ای تعدوہم من جملة المهتدين والاستفهام في الموضوعين للانكار ﴿وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ طریقاً الى الهدى ﴿وَدُّوا﴾ تمنوا ﴿لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ﴾ انتم وہم ﴿سَوَاءٌ﴾ في الكفر ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ توالونہم وإن أظہروا الايمان ﴿حَتَّىٰ يَهَابُوا﴾ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿هَجْرَةً صَحِيحَةً تَحَقُّقَ اِيْمَانِهِمْ﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا ﴿وَأَقَامُوا عَلَىٰ مَا هُمْ فِيهِ﴾ فَخَذُوهُمْ ﴿بِالْأَسْرِ﴾ وَأَقْتَلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُلِيًّا ﴿تَوَالُونَهُ﴾ وَلَا نَصِيرًا ﴿تَنْتَصِرُونَ﴾ به علىٰ عدوكم ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ﴾ يُلْجَأُونَ ﴿إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ عهد بالامان لهم ولمن وصل اليهم كما عاهد النبي ﷺ هلال ابن عويمر الاسلامي ﴿أَوْ﴾ الَّذِينَ ﴿جَاءَ وَكُمُ﴾ وَقَدْ ﴿حَصِرَتْ﴾ ضَاقَتْ ﴿صُدُّوهُمْ﴾ عَنْ ﴿أَنْ يُقَاتِلَوْكُمْ﴾ مع قومهم ﴿أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ﴾ معلم ای ممسكين عن قتالكم وقتالهم فلا تتعرضوا إليهم بأخذ ولاقتل هذا وما بعده منسوخ بآية السيف ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ تسليطهم عليكم ﴿لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ﴾ بأن يقوى قلوبهم ﴿فَلَقَاتِلُوا كُمُ﴾ ولكنه لم يشأه فالقى في قلوبهم الرعب ﴿فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلْ كُمُ فَلَمْ يُقَاتِلُوا كُمُ وَالْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامُ﴾ ای الصلح ای انقادوا ﴿فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ طريقاً بالاخذ والقتل ﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوا كُمُ﴾ باظهار الايمان عندكم ﴿وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ﴾ بالكفر إذا رجعوا وهم اسد وغطفان ﴿كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ﴾ دُعُوا إِلَى الشَّرِكِ ﴿أُرْكَسُوا فِيهَا﴾ وقعوا أشد وقوع ﴿فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلْ كُمُ﴾ بترك قتالكم ﴿وَلَمْ﴾ يُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ ﴿وَلَمْ﴾ يَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ ﴿عَنْكُمْ﴾ فَخَذُوهُمْ ﴿

﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُمُوهُمْ﴾ و جدتموہم ﴿وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ برہانا بیناً ظاہراً علیٰ قتلہم و سببہم لغدرہم -

ترجمہ

جب بعض لوگ غزوہ احد سے واپس چلے آئے، تو ان کے بارے میں حضرات صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، بعض لوگوں نے کہا کہ انھیں قتل کر دیجئے، دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس پر یہ آیت اتری (تمہیں کیا ہوا) یعنی یہ تمہاری کیا حالت ہے (کہ تم منافقین کے باب میں دو گروہ) ہو گئے (ہو، اور اللہ نے ان کے کرتوت) یعنی کفر و معاصی (کی وجہ سے انھیں لوٹا دیا ہے، کیا تم یہ چاہتے کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اسے ہدایت دیدو) یعنی اسے ہدایت یافتہ شمار کرو، اور استفہام دونوں جگہوں میں انکار کے لئے ہے (اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کیلئے تم کوئی راستہ) ہدایت کے لئے (نہیں پاؤ گے، انھوں نے چاہا کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسا کہ وہ کافر ہوئے پس تم) اور وہ کفر میں (برابر ہو جائیں اس لئے ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ) کہ ان سے تمہیں قلبی محبت ہو اگرچہ وہ ایمان ظاہر کریں (جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں) صحیح (ہجرت نہ کر لیں) جس سے ان کا ایمان ثابت ہو جائے (پس اگر وہ روگردانی کریں) اور اسی حالت پر جمعے رہیں جس پر وہ ہیں (تو انھیں) گرفتار کر کے (پکڑو اور انھیں قتل کرو جہاں پاؤ، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ) کہ ان سے دشمن کے خلاف مدد حاصل کرو (سوائے ان لوگوں کے جو کسی ایسی قوم کے پاس پہنچتے ہیں) یعنی پناہ لیتے ہیں (جس کے اور تمہارے درمیان) امن و امان کا (معاہدہ ہے) خود ان کے لئے بھی اور جو ان کے پاس پناہ لیتے ہیں ان کے لئے بھی جیسا کہ نبی ﷺ نے ہلال بن عویمیر اسلمی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا (یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے تنگ ہیں اس بات سے کہ) اپنی قوم میں شامل ہو کر (تم لوگوں سے لڑیں یا) تمہارے ساتھ شامل ہو کر (اپنی قوم سے لڑیں) یعنی وہ تم سے بھی اور ان سے بھی لڑنے سے ہاتھ روکے ہوئے ہیں تو تم ان کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرو، یعنی نہ گرفتار کرو اور نہ قتل کرو، اور یہ حکم اور اس کے مابعد کا حکم آیت سیف سے منسوخ ہے (اور اگر اللہ) انھیں تم پر مسلط کرنا چاہتے تو ان کو تم پر مسلط کر دیتے) کہ ان کے قلوب کو تم پر جبری بنا دیتے (پس وہ تم سے ضرور لڑتے) لیکن اللہ نے اس کو نہیں چاہا پس ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا (تو اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری جانب صلح و سلامتی کی پیشکش کریں) یعنی فرمانبرداری کریں (تو تمہارے لئے اللہ نے ان پر اخذ و قتل کا) کوئی راستہ نہیں بنایا ہے ۵ عنقریب تم کچھ دوسرے لوگوں کو پاؤ گے جن کا ارادہ یہ ہوگا کہ تمہارے پاس ایمان کو ظاہر کر کے (اپنی قوم سے مطمئن رہیں) اور جب اپنی قوم کے پاس پہنچیں تو کفر کو ظاہر کر کے (اپنی قوم سے مطمئن رہیں) یہ بنی اسد و غطفان دو قبیلے ہیں (جب بھی انھیں

فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے) یعنی شرک کی جانب دعوت دی جاتی ہے (تو اس میں بری طرح گرتے ہیں، پس اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں) یعنی تم سے لڑنے کو نہ چھوڑیں (اور تمہارے سامنے صلح کی پیشکش نہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو) تم سے (نہ روکیں تو تم انھیں پکڑو) یعنی گرفتار کرو (اور قتل کرو جہاں بھی انھیں پاؤ، اور یہی لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہارے لئے مکمل کھلی دلیل بنا دی ہے) کہ ان کی غداری کی وجہ سے انھیں قتل و قید کرنے پر واضح ثبوت موجود ہے۔

﴿تشریحات﴾

ولما رجع الناس من أحد: مفسر نے فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَتَنِينَ کا سبب نزول بتایا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ غزوہ احد کے لئے ایک ہزار آدمیوں کی فوج لے کر چلے تھے، اثنائے راہ میں رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی نے دھوکا دیا اور تین سو آدمیوں کو لے کر لشکر سے علیحدہ ہو گیا، ان لوگوں کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رایوں میں اختلاف ہوا، بعض حضرات کی رائے تھی کہ انھیں سزا ملنی چاہئے اور بعض لوگ درگزر کی رائے رکھتے تھے، اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں ان منافقین کے بارے میں اختلاف نہیں کرنا چاہئے، ان کا کفر اور ان کی معصیت ثابت ہے اور اسی کفر و معصیت کی وجہ سے اللہ نے انھیں جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق سے محروم کر دیا۔

أى تعدوهم من جملة المتهدين: یہ ان تہدوا من أضل اللہ کی تفسیر ہے، اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ جس کو اللہ نے گمراہ کیا، کیا تم اس کو ہدایت پر لانا چاہتے ہو؟ مگر یہ ظاہری معنی مراد نہیں، درحقیقت اختلاف رائے کرنے والوں میں بعض حضرات نے کہا تھا کہ یہ لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں لہذا مومن ہیں، اس لئے انھیں قتل نہیں کرنا چاہئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا جواب دیا ہے کہ یہ لوگ کفر و معصیت میں مبتلا ہیں، تو کیا تم انھیں ہدایت یافتہ سمجھتے ہو، اور انھیں اہل ایمان میں شمار کرتے ہو۔

الاستفهام فى الموضوع لانكار: پہلا موقع فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ ہے، اور دوسرا موقع اَتُرِيدُونَ ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہیں نہ ان کے قتل کئے جانے کے معاملے میں اختلاف نہیں کرنا چاہئے تھا اور نہ انھیں ہدایت یافتہ سمجھنا چاہئے۔

هجرة صحيحة تحقق ايمانهم: ان منافقین کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ جب تک یہ ہجرت نہ کریں انھیں اپنا دوست نہ سمجھو، اس پر سوال یہ ہے کہ منافقین تو مدینے میں رہتے تھے یہ ہجرت کر کے کہاں جائیں گے؟ مفسر نے فرمایا کہ ہجرت صحیحہ ہونی چاہئے جس سے ان کا مومن ہونا متحقق ہو، تو سوال یہ ہے کہ وہ ہجرت صحیحہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہجرت کی تین قسمیں ہیں۔ اول وہ جو معروف ہے یعنی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا جانا، اس

کا تذکرہ للفقراء المهاجرین میں ہے۔ دوسرے یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لئے محض اللہ کے واسطے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلنا، یہاں یہی ہجرت مراد ہے۔ تیسرے معاصی کا ترک کرنا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، حاصل یہ ہے کہ اس آیت میں ہجرت صحیحہ سے مراد صبر و استقلال اور محض اللہ کے واسطے جہاد میں نکلنا ہے، اس سے ان کے ایمان کی صداقت ظاہر ہوگی۔

﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ﴾ ﴿يَلْجَأُونَ﴾ ﴿إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾: یہ اخذ اور قتل سے استثناء ہے یعنی جو لوگ ہجرت صحیحہ سے روگردانی کریں ان کو حالت جنگ میں گرفتار کرنے اور قتل کرنے کا حکم ہے، مگر ان میں سے وہ لوگ جو کسی ایسی قوم کے پاس پہنچ جائیں جن سے تمہارا امن و امان کا معاہدہ ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہیں یعنی انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ پہنچنے کا مطلب ان کی پناہ لینا ہے اور ان پناہ لینے والوں کو امان اسی وقت ملے گی جبکہ معاہدے میں یہ بات شامل ہو کہ اس قوم کی پناہ لینے والے بھی عہد امان کے اندر داخل ہیں، ایسا معاہدہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے وقت ہلال بن عویمر سلمی کے ساتھ کیا تھا۔

﴿أَوْ﴾ ﴿الَّذِينَ﴾ ﴿جَاءُكُمْ﴾: مفسر نے الذین کا اضافہ کر کے اشارہ کیا کہ جاءکم کا عطف یصلون پر ہے، یعنی ایک گروہ اخذ اور قتل سے مستثنیٰ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قوم کے طرفدار ہو کر نہ حضور سے لڑنا چاہتے اور نہ حضور کے طرفدار ہو کر اپنی قوم سے لڑنا چاہتے، ان سے بھی قتل و قید کے ساتھ تعرض نہیں کیا جائے گا۔

هذا وما بعده منسوخ بآية السيف : هذا سے مراد إلا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق ہے اور أو جاءکم ہے، اور ما بعد سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ فی ان لم یعتزلوکم میں ہے ان سب گروہوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قتل و قید سے استثناء کا حکم آیت سیف کی وجہ سے منسوخ ہو گیا اور آیت سیف سے مراد وقاتلوا المشرکین كافة کما تقاتلونکم كافة ہے، مطلب یہ ہے کہ حالت جنگ میں یہ سارے لوگ جو کفار کی طرفداری میں شامل ہیں اخذ و قتل کے مستحق ہیں۔

سوال: یہاں قرآن نے تین گروہ ایسے ذکر کئے جو قتل اور قید سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک وہ جو کسی ایسی قوم کی پناہ لے جس کا مسلمانوں سے عہد امان ہو۔ دوسرے وہ نا طرفدار لوگ جو دونوں فریق سے الگ ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو براہ راست صلح کی پیشکش کرتے ہیں اور مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے، مفسر نے فرمایا کہ تینوں فریق کا یہ استثناء منسوخ ہے تو سوال یہ ہے کہ امن یا صلح کے معاہدہ ہو جانے کے بعد ان کو قتل یا قید کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟

جواب: یہ قتل و قید کا حکم اور پھر اس سے چند گروہوں کا استثناء اور استثناء کے بعد اس کا منسوخ ہونا یہ سارے احکام عام نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق خاص حجاز کے ساتھ ہے اور رسول اللہ ﷺ کے دور کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی ان تینوں

گروہوں کا استثناء سرزمین حجاز میں اس وقت تھا جبکہ ابھی اسلام کو غلبہ نصیب نہیں ہوا تھا اور کفار و مشرکین بھی اس پاک سرزمین پر مقیم تھے، پھر جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اور اہل شرک سے اس سرزمین کو پاک کرنے کا ارادہ کر لیا گیا تو یہ استثنائی حکم خود بخود کا لعدم ہو گیا، اب کسی مشرک کو اس پاک سرزمین میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، یا تو وہ مسلمان ہو جائے یا اس خطے سے راہ فرار اختیار کرے یا قتل کر دیا جائے، اب مصالحت ہو یا نا طرفداری ہو یا پناہ جوئی ہو کفر و شرک کے ساتھ ان میں سے کسی بات کی اجازت نہیں ہے، یہی مطلب ہے ان آیات کے منسوخ ہونے کا، چنانچہ فتح مکہ کے بعد اسی پر عمل درآمد ہوا۔

وہم اسد و غطفان : ستجدون آخرین الخ میں منافقین کی ایک اور قوم کا تذکرہ ہے، یہ لوگ مدینے کے قریبی باشندے تھے، یہ دو قبیلے تھے، بنو اسد اور بنو غطفان، تفسیر خازن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد نقل کیا ہے، کہ ان لوگوں نے صرف دکھاوے کے لئے کلمہ اسلام کا اقرار کیا تھا، حقیقتاً وہ مسلمان نہ تھے، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہم بندر اور بچھو وغیرہ پر ایمان لائے ہیں، اور جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے دین و ملت پر ہیں۔ اس دور نے پن سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دونوں کے نزدیک اچھے بنے رہیں اور محفوظ و مطمئن رہیں، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ کفر و شرک کی طرف ان کا سارا رجحان رہتا تھا اور تمام تر لپک اسی کی طرف ہوتی تھی۔

﴿ فان لم يعتزلوكم ﴾ بترک قتالکم ﴿ و ﴾ لم ﴿ یلقوا الیکم السلم ﴾ : اگر تم سے وہ کنارہ کش نہ ہو، یعنی تم سے لڑنے کو ترک نہ کریں اور نہ صلح کی پیشکش کریں، تو یہ مستحق قتل و قید ہیں۔ آیت کریمہ میں یلقوا کا عطف یعتزلو کم پر ہے، اور وہ بھی لم جازمہ کے تحت ہے۔

﴿ مضامین آیات و تفسیر ﴾

منافقین کا شیوہ تھا کہ وہ عین موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے، غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار کا لشکر لے کر نکلے تو اس میں سے تین سو منافقین علیحدہ ہو گئے، ان ہنگامی حالات میں دھوکہ دینا شدید جرم ہے، اس کی سزا جتنی سخت دی جائے مناسب ہے، لیکن اس سلسلے میں حضرات صحابہ مختلف ہو گئے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے متنسب فرمایا کہ منافقین کے سلسلے میں دورائے نہیں ہونی چاہئے، ان کے باب میں سخت رویہ ہی مناسب ہے، ان کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ جنگ سے فرار ہوئے، تو درحقیقت ان کے کفر و شرک ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہٹا دیا، یہ گمراہ ہیں، انہیں ہدایت یافتہ نہ سمجھو، یہ تو دل سے چاہتے ہیں کہ تم بھی انہیں کی طرح کفر کی وادی میں جا گرو، تاکہ تم اور وہ برابر ہو جائیں، پس یہ کسی طرح دوستی اور محبت کے لائق نہیں ہیں، جب تک کہ ان کی جانب سے ہجرت صحیحہ کا تحقق نہ ہو جائے۔ یہ بھی جب خلوص کے ساتھ جہاد میں شریک

ہونے لگیں تب کہیں یہ مسلمانوں میں شمار ہونے کے قابل ہوں گے، اور اگر یہ اس سے روگردانی کریں، تو پھر یہ ہر جگہ مستحق قتل و ضرب ہیں، اور یہ ہرگز اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے جنگوں میں کوئی مدد ملی جائے۔

ہاں اگر ان میں سے کوئی کسی ایسی قوم کی پناہ لے لے، جس سے تمہارا معاہدہ امن، یا کوئی ایسا ہو کہ وہ نہ تم سے لڑنا چاہتا ہو اور نہ اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتا ہو، بلکہ وہ ناظرِ فرزند بن کر رہنا چاہتا ہو، تو انہیں ان کے حال پر رہنے دو، انہیں نہ گرفتار کرو اور نہ قتل کرو۔ اللہ کا یہی بڑا انعام ہے کہ ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا ہے کہ وہ لڑنے کی ہمت نہیں کرتے اور یکسو ہو کر رہنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ اس بات پر قائم رہیں اور تم سے صلح کی پیشکش کریں تو ان سے لڑنے کا جواز نہیں ہے۔

اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہیں تو کافر، مگر اہل ایمان سے خوفزدہ ہو کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، تو اگر یہ لوگ تم سے لڑنے سے ہاتھ نہ روکیں اور نہ صلح کی پیشکش کریں، تو ان سے البتہ لڑنے اور انہیں قتل کرنے اور گرفتار کرنے کا جواز بلکہ امر ہے۔



﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتَلَ مُؤْمِنًا﴾ ای ماینبغی له أن یصدر منه قتل له ﴿إِلَّا﴾
 ﴿خَطَاً﴾ ﴿مَخْطِئًا فِي قِتْلِهِ مِنْ غَيْرِ قِصْدٍ﴾ ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً﴾ ﴿بِأَنْ قِصْدٌ إِلَىٰ غَيْرِهِ كَصِدِّ أَوْ شَجَرٍ فَأَصَابَهُ أَوْ ضَرْبِهِ بِمَا لَا يَقتُلُ غَالِبًا﴾ ﴿فَتَحْرِيرُ﴾ ﴿عَتَقَ﴾ ﴿رَقَبَةً﴾ ﴿نَسَمَةً﴾ ﴿مُؤْمِنَةٍ﴾ ﴿عَلَيْهِ﴾
 ﴿وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ ﴿مُؤَدَاةٌ﴾ ﴿إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ ﴿أَيُّ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ﴾ ﴿إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾ ﴿يَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ﴾
 ﴿بِهَا بَانَ يَعْفُو عَنْهَا وَبَيْنَتِ السَّنَةُ أَنَّهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، عَشْرُونَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَكَذَا بِنَاتُ لَبُونٍ وَبَنُو لَبُونٍ وَحِقَاقٌ وَجَذَاعٌ وَأَنَّهَا عَلَىٰ عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ وَهُمْ عَصْبَتُهُ إِلَّا الْإِصْلَ وَالْفِرْعَ مَوْزَعَةٌ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ ثَلَاثِ سَنِينَ عَلَىٰ الْغَنِيِّ مِنْهُمْ نِصْفُ دِينَارٍ وَالْمَتَوَسُّطِ رُبْعُ كُلِّ سَنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَفُوا فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى الْجَانِي﴾ ﴿فَإِنْ كَانَ﴾ ﴿الْمَقْتُولُ﴾ ﴿مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ﴾ ﴿حَرْبٍ﴾ ﴿لَكُمْ﴾
 ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ﴿عَلَى قَاتِلِهِ كَفَّارَةٌ وَلا دِيَّةَ تَسْلَمُ إِلَىٰ أَهْلِهِ لِحَرَابَتِهِمْ﴾ ﴿وَإِنْ كَانَ﴾ ﴿الْمَقْتُولُ﴾ ﴿مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ ﴿عَهْدٌ كَاهِلِ الذِّمَّةِ﴾ ﴿فَدِيَّةٌ﴾ ﴿لَهُ﴾ ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾
 ﴿إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ ﴿وَهِيَ ثَلَاثُ دِيَّةِ الْمُؤْمِنِ إِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَثَلَاثَ عَشْرًا إِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا﴾
 ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ﴿عَلَى قَاتِلِهِ﴾ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ ﴿الرَّقَبَةَ بَانَ فَقَدَهَا وَمَا يَحْصِلُهَا بِهِ﴾
 ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ ﴿عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ تَعَالَى الْإِنْتِقَالَ إِلَى الطَّعَامِ كَالظَّهَارَةِ وَبِهِ﴾
 ﴿أَخَذَ الشَّافِعِيُّ فِي أَصْحَابِ قَوْلِهِ﴾ ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ ﴿مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ بِفَعْلِهِ الْمَقْدَرِ﴾ ﴿كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾

بخلقه ﴿حَكِيمًا﴾ فيما دبره لهم ﴿وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مَّتَعِدًا﴾ بأن يقصد قتله بما يقتل غالباً عالماً بايمانه ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾ أبعدته من رحمته ﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ في النار وهذا مؤول بمن يستحله أو بأن هذا جزاؤه إن جوزى ولا بدع في خلف الوعيد لقوله تعالى (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) وعن ابن عباس أنها على ظاهرها وأنها ناسخة لغيرها من آيات المغفرة وبينت آية البقرة أن قاتل العمد يقتل به وأن عليه الدية إن عفى عنه وسبق قدرها وبينت السنة أن بين العمد والخطاء قتلاً يسمى شبه العمد وهو أن يقتله بما لا يقتل غالباً فلا قصاص فيه بل دية كالعمد في الصفة والخطأ في التاجيل والحمل على العاقلة وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأ

ونزل لما مر نفر من الصحابة برجلٍ من بنى سليم وهو يسوق غنماً فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا تقية فقتلوه واستاقو غنمه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ﴾ سافرتم للجهاد ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا﴾ وفي قرأة بالمثلثة في الموضعين ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ﴾ بالف ودونها أي التحية أو الانقياد بقول كلمة الشهادة التي هي أمانة على إسلامه ﴿لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ وإنما قلت هذا تقية لنفسك ومالك فقتلوه ﴿تَبْتَغُونَ﴾ تطلبون بذلك ﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ متاعها من الغنيمة ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ﴾ تغنيكم عن قتل مثله لماله ﴿كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ تعصم دماءكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة ﴿فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ بالاشتهار بالايان والاستقامة ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ أن تقتلوا مؤمناً، وافعلوا بالداخل في الاسلام كما فعل بكم ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ فيجازيكم به ﴿لَا يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عن الجهاد ﴿غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ﴾ بالرفع صفة والنصب استثناء من زمانة أو عمى أو نحوه ﴿وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعْدِينَ﴾ لضرر ﴿دَرَجَةً﴾ فضيلة لاستوائهما في النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة ﴿وَكُلًّا﴾ من الفريقين ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَى﴾ الجنة ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقُعْدِينَ﴾ لغير ضرر ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ويبدل منه ﴿دَرَجَاتٍ مِنْهُ﴾ منازل بعضها فوق بعض من الكرامة ﴿وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾ منصوبان بفعلهما المقدر ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ لا وليائه ﴿رَحِيمًا﴾ باهل طاعته۔

ترجمہ

(اور کسی مومن کے لئے درست نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے) یعنی مناسب نہیں ہے کہ کسی مومن سے کسی مومن کا قتل صادر ہو (مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے) یعنی قتل کا ارادہ نہ ہو، بے ارادہ خطا ہوگئی (اور جس نے کسی صاحب ایمان کو غلطی سے قتل کر دیا) یعنی ارادہ کیا کسی اور چیز کو مارنے کا، مثلاً شکار یا کسی درخت کو نشانہ بنایا لیکن لگ گیا کسی مومن کو، یا کسی ایسی چیز سے مارا جس سے عموماً قتل نہیں کیا جاتا (تو) اس کے ذمے (ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے، اور دیت ہے جو اس کے اہل کو) یعنی مقتول کے ورثہ کو (دی جائے گی، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں یعنی اسے معاف کر دیں) اور سنت نے بیان کیا ہے کہ دیت ۱۰۰ اراونٹ ہیں، جن میں ۲۰ بنت مخاض اور اتنے ہی بنت لبون اور اتنے ہی بنولبون اور اتنے ہی چٹے اور اتنے ہی جذعے، اور یہ کہ وہ قاتل کے عاقلہ پر ہے، اور وہ اس کے عصبہ ہیں اصل و فرع کے علاوہ، ان پر تین سال کی مدت پر تقسیم کر دی جائے گی، ان میں جو مالدار ہیں ان پر سالانہ نصف دینار اور جو متوسط ہیں ان پر چوتھائی دینار، پس اگر اس مدت میں پورا نہ ہو سکے تو بیت المال سے، اور اگر اس سے بھی نہ ہو سکے تو جنایت کرنے والے کے ذمے ہے (پس اگر وہ) مقتول (تمہاری دشمن قوم کا ہو) یعنی تم سے لڑنے والی قوم کا آدمی ہو (اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو) اس کے قاتل پر بطور کفارہ کے (ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے) اور اس پر کوئی دیت نہیں ہے جو اس کے اہل کے حوالے کی جائے کیونکہ وہ حربی ہیں (اور اگر وہ) مقتول (ایسی قوم کا ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہے) جیسے کہ اہل ذمہ (تو) اس کے لئے (دیت ہے جو اس کے اہل کے حوالے کی جائے گی) اور وہ مومن کی دیت کا تہائی حصہ ہے، اگر مقتول یہودی یا عیسائی ہو، اور اس کا پندرہواں حصہ ہے اگر مقتول مجوسی ہے (اور ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے) جو اس کے قاتل پر ضروری ہے (پس جو کوئی غلام نہ پائے) خواہ وہ ملتا ہی نہ ہو یا اس کے پاس غلام خریدنے کی سکت نہ ہو (تو) اس کے ذمے بطور کفارہ کے (دو مہینے کا مسلسل روزہ ہے) اور اللہ تعالیٰ نے کھلانے کی طرف منتقل ہونے کا ذکر نہیں کیا ہے جیسا کہ ظہار میں ہے، اور اسی کو امام شافعیؒ نے اپنے صحیح قول میں اختیار کیا ہے (بطور توبہ کے اللہ کی طرف سے) توبۃ مصدر منصوب ہے اس کا فعل مقدر ہے (اور اللہ) اپنی مخلوق کا (علم رکھنے والے ہیں) اور جو کچھ ان کے لئے تدبیر کرتے ہیں اس میں (حکمت والے ہیں) اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے (یعنی کسی ایسی چیز سے جس سے عموماً قتل کیا جاتا ہے اس کے ایمان کو جانتے ہوئے بالارادہ قتل کرے) (تو اس کا بدلہ جہنم ہے اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب ہوا، اور اللہ نے اس پر لعنت کی) یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا (اور اس کیلئے جہنم میں بڑا عذاب تیار کیا) یہ سزا اس شخص کے حق میں ہے جو اس کو حلال سمجھتا ہے، یا اس کی تاویل یہ ہے کہ اگر اس کو سزا دی جائے تو یہی اس کی سزا ہے اور خلف و عید میں حرج نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ویغفر مادون ذلک لمن یشاء، اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ یہ آیت اپنے ظاہر پر

ہے اور اس کے علاوہ جو آیات مغفرت ہیں ان کے لئے نسخ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نے واضح کیا کہ قاتل عمد کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اور یہ کہ اگر اس کو معافی مل گئی تو اس کے ذمے دیت ہے، اور اس کی مقدار کا بیان گزر چکا ہے اور سنت نے بیان کیا کہ قتل عمد اور قتل خطا کے درمیان ایک اور قتل ہے جس کا نام ”شبه عمد“ ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی ایسے ہتھیار سے قتل کرے جس سے عموماً قتل نہیں کیا جاتا تو اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت ہے صفت میں قتل عمد جیسی اور تاجیل اور حمل علی العاقلۃ میں قتل خطا جیسی، اور وہ اور قتل عمد قتل خطا کے مقابلے میں کفارہ کے زیادہ مستحق ہیں۔

ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت بنی سلیم کے ایک آدمی کے پاس سے گذری، وہ اپنی بکریاں ہانکے جا رہا تھا، اس نے ان لوگوں کو سلام کیا، انھوں نے کہا کہ صرف جان بچانے کے لئے اس نے سلام کیا ہے اور اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریوں کو ہانک لے گئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی (اے ایمان والو! جب تم اللہ کے راستے میں) جہاد کے لئے (چلو تو تحقیق کر لیا کرو) اور ایک قرأت میں دونوں جگہوں میں ثنائے مثلثہ کے ساتھ ہے یعنی فتبتوا (اور جو تم کو سلام کرے) سلام الف کے ساتھ بھی ہے اور بغیر الف کے بھی یعنی سلم، اس کے معنی طاعت کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کلمہ شہادت بولے جو اسلام کی علامت ہے (تو تم اس سے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو) اور تم نے یہ صرف اپنی جان اور مال بچانے کیلئے کہا ہے کہ تم اسے قتل کر سکو (تم اس سے دُنیوی زندگی کا سامان چاہتے ہو) یعنی مالِ غنیمت (تو اللہ کے پاس بہت مال غنیمت ہے) جو تم کو اس جیسے آدمی کے اس مال سے بے نیاز کر دے گا (اس سے پہلے تم لوگ بھی ایسے ہی تھے) پھر تمہاری جان اور تمہارے مال کی حفاظت صرف تمہارے کلمہ شہادت بولنے کی وجہ سے کی گئی (پس اللہ نے) تمہارے ایمان کو اور استقامت کو مشہور کر کے (تم پر احسان فرمایا، پس تحقیق کر لو) کہ ہمیں مومن کو نہ قتل کر دو، اور جو کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جیسا تمہارے ساتھ کیا گیا (بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھتے ہیں) پس وہ تم کو اس کا بدلہ دیں گے (مومنین میں سے وہ لوگ جو جہاد سے بیٹھ رہنے والے ہیں اس حال میں کہ انھیں کوئی عذر نہیں ہے) لفظ غیر رفع کے ساتھ ہے تب صفت ہے، اور نصب کے ساتھ ہے تب استثناء ہے، یہ عذر پانچ ہونے کا ہو یا نابینائی کا ہو یا اس کے علاوہ ہو (اور وہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے والے ہیں دونوں برابر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے ہیں) کسی عذر کی وجہ سے (بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت بخشی ہے) کیونکہ نیت میں دونوں برابر ہیں اور عمل میں مجاہدین زائد ہیں (اور) فریقین میں سے (ہر ایک سے اللہ نے حسنیٰ) یعنی جنت (کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو) بغیر عذر کے (بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت بخشی ہے جو کہ اس کی طرف سے درجات ہیں) یعنی

ایک دوسرے کے اوپر عزت و اکرام کی منزلیں ہیں درجاتِ منہ، اجراً عظیماً سے بدل ہے (اور مغفرت اور رحمت بخشی ہے) یہ دونوں اپنے اپنے فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہیں (اور اللہ تعالیٰ) اپنے اولیاء کی (مغفرت کرنے والے) اور اہل طاعت پر (رحم فرمانے والے ہیں)

﴿تشریحات﴾

مخطئاً فی قتله: آیت کریمہ میں **إِلَّا خَطئاً** حال ہے، اور اسم فاعل کے معنی میں ہے، مفسر نے مخطئاً کہہ کر اسی بات کو ظاہر کیا ہے۔

بان قصد الیٰ غیرہ: قتلِ خطا کی دو صورتیں مفسر علام نے ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ مارنے کا ارادہ کسی اور کو تھا، مثلاً شکار کے جانور کو مارنا تھا، یا درخت وغیرہ کو نشانہ لگانا تھا، مگر وہ ہتھیار کسی آدمی کو لگ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مارا تو قصداً ہی، مگر کسی ایسے ہتھیار سے نہیں مارا جس سے آدمی مر جائے، مگر تقدیر کی بات کہ وہ مر گیا، یہ دوسری صورت تو قتلِ خطا کی ہے کہ مگر اصطلاح میں اسے ”قتلِ شبہِ عمد“ کہتے ہیں، آیت زیر بحث میں قتلِ خطا کی ان دونوں صورتوں کی جزا بیان ہو رہی ہے۔

نسمۃ ﴿مومنة﴾ علیہ: مفسر نے علیہ کا اضافہ کر کے واضح کیا ہے کہ فتح تحریر رقبۃ مومنة مبتدا ہے، اور علیہ اس کی خبر محذوف ہے۔

یتصدقوا علیہ بھا بان یعفو عنھا: یتصدقوا کی اصل یتصدقوا ہے، دیت کا صدقہ یہ ہے کہ مقتول کے ورثہ دیت کو معاف کر دیں۔

وبینت السنۃ الخ: حدیث میں دیت کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ دیت میں کل سواونٹ ہوتے ہیں۔ بیس بنت مخاض، بیس بنت لبون، بیس بنولبون، بیس حقہ، اور بیس جذعہ، یعنی ایک سال کی اونٹنی، دو سال کی اونٹنی، دو سال کے اونٹ، تین سال کی اونٹنی اور چار سال کی اونٹنی، ہر ایک بیس بیس، یہ دیت کی تفصیل ہے۔ یہ تفصیل امام شافعی علیہ الرحمہ کے مسلک کے مطابق ہے، امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک بنت مخاض کے ساتھ بیس ابن مخاض ہوں گے، ابن لبون نہیں ہوں گے۔

وأنھا علی عاقلۃ القتال: دوسری بات یہ ہے کہ دیت قاتل کے عاقلہ پر ہوگی قاتل پر نہ ہوگی جو تین سال میں بالاقساط ادا کی جائے گی، ان میں جو مال دار ہوں گے ان کے ذمہ سالانہ نصف دینار، اور جو متوسط ہوں گے ان کے ذمہ چوتھائی دینار۔ اگر تین سال میں تکمیل نہ ہو سکے تو بیت المال سے پورا کیا جائے گا، اگر وہاں سے بھی تکمیل نہ ہو سکے تو قاتل کے ذمہ باقی کا ادا کرنا ہے۔

وہم عصبتہ إلا الاصل والفرع: **عاقلہ کون ہیں**؟ امام شافعی علیہ الرحمہ کا جواب یہ ہے کہ عاقلہ خاندان

کے وہ لوگ ہیں جو وراثت میں عصبہ ہوتے ہیں، یعنی قاتل کے وہ رشتہ دار جن کی قرابت عورت کے واسطے سے نہ ہو، جیسے بھائی، بھتیجے، چچا وغیرہ، باپ اور بیٹے بھی عصبہ ہوتے ہیں مگر ان کا شمار عاقلہ میں نہیں ہے، اسی کو مفسر نے وہم عصبہ کہنے کے بعد اِلَّا الاصل والفرع کہہ کر مستثنیٰ کیا ہے۔

(تنبیہ) جلالین شریف کے ہندوستان مطبوعہ نسخوں میں عبارت اس طرح ہے: وہم عصبہ الاصل والفرع، اس میں اِلَّا چھوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے مطلب خبط ہو گیا ہے۔

فقہ شافعی کی معتبر کتاب ”الْمَجْمُوعُ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ“ میں ہے: وَالْعَاقِلَةُ هُمُ الْعَصَبَاتُ الَّذِينَ يَرْتُونَ بِالنَّسَبِ أَوْ الْوَلَاءِ غَيْرِ الْآبِ وَالْجَدِّ وَالْأَبْنِ وَالْأَبْنِ وَالْأَبْنِ (ج: ۱۹، ص: ۱۵۳) عاقلہ وہ عصبات ہیں جو نسب یا ولاء کے واسطے سے وارث ہوتے ہیں، بجز باپ اور دادا کے، اور بجز بیٹا اور پوتا کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل اور فرع عاقلہ میں داخل نہیں ہیں۔

امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک عاقلہ ”اہل دیوان“ ہیں، فی زمانہ اس کا ترجمہ ہم پیشہ یا محکمہ کے ملازمین سے کیا جاسکتا ہے، اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہدِ خلافت میں پہلی بار فوجیوں اور دیگر عہدیداروں کے رجسٹر تیار کرائے، (یہی لوگ اہل دیوان کہلائے) اہل دیوان میں سے کسی نے قابل دیت جرم کا ارتکاب کیا تو اہل دیوان کو عاقلہ قرار دے کر ان پر دیت عائد کی..... اگر کسی شخص کے اہل دیوان نہ ہوں تو اہل خاندان عاقلہ ہوں، ان میں قرابت معیار ہوگی۔ (قاموس الفقہ، ج: ۴، ص: ۳۶۷)

عاقلہ کے ذیل میں خود قاتل بھی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک داخل ہوگا، اس پر بھی دیت عائد ہوگی۔

وہی ثلث دية المومن الخ: امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اگر مقتول اہل ذمہ ہے، تو اگر وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، تو اس کی دیت مومن کی دیت کا ایک تہائی ہے، اور اگر مجوسی یا بت پرست ہے تو اس کی دیت، کل دیت کے دسویں حصہ کی دو تہائی ہوگی (پندرہواں حصہ ۱/۱۵) امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک کافر ذمی اور مسلم کی دیت برابر ہے۔

وبہ أخذ الشافعی فی اصح قولیہ: قتل کے کفارے میں روزے کے بعد کھانا کھلانے کا ذکر نہیں ہے، پس کفارے میں کھانا کھلانا نہیں ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے اس باب میں دو قول ہیں، اصح قول یہی ہے جو مذکور ہوا۔

مصدر منسوب بفعله المقدر: توبۃ من اللہ، مفعول مطلق ہے، اور اس کا فعل مقدر ہے، اور وہ تاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ قبول ہے، اگر کوئی شخص ان کفارات کی تعمیل اور دیت دے۔

بان یقصد قتله الخ: مفسر نے اس عبارت سے قتل عمد کی تعریف کی ہے، کہ قاتل کسی شخص کو مومن جانتا ہے، اس کے باوجود اس کو بالارادہ کسی ایسے ہتھیار سے قتل کرتا ہے جس سے عموماً قتل کیا جاتا ہے، تو یہ ”قتل عمد“ ہے۔

وہذا موول بمن یتحلہ: اس عبارت سے مفسر ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف کفر و شرک کی سزا یہ بیان کی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مرنے کے بعد کفر و شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر گناہ کے معاف ہونے کی گنجائش ہے، پھر قتل عمد کی سزا میں خالداً فیہا کیوں ارشاد فرمایا گیا؟

مفسر نے اس اشکال کے تین جواب دئے ہیں:

① پہلا جواب یہ ہے کہ یہ سزا مطلق قتل عمد کی نہیں ہے بلکہ اس قاتل عمد کی ہے، جو اس کو حلال سمجھتا ہو۔ خاکسار راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ قاتل عمد سے یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کے خیال میں یہ قتل جائز ہو، اس لئے قاتل جب کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ایمان ضرور روکتا ہے، پھر اس کا نفس اس قتل کے جواز بلکہ ضروری ہونے کے حیلے پیش کرتا ہے اور غالباً اچھی خاصی کشمکش کے بعد اس کے قتل پر وہ آمادہ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نفس کی بہانہ بازیوں اور اس حیلہ و تزویر کے باعث وہ اس قتل کے جواز کی حد تک پہنچ گیا ہو، اور اس غلط اعتقاد کی وجہ سے اس کا ایمان رخصت ہو گیا ہو، اور اس کے سبب جہنم میں دوام کا مستحق قرار دیا گیا ہو۔

② دوسرا جواب مفسر نے یہ دیا کہ قتل عمد ہے ہی اتنا شدید اور کفر کا ہم پلہ گناہ کہ اگر اس کی قرار واقعی سزا دی جائے تو یہی اس کی سزا ہوگی، لیکن وعید کے خلاف کرنا تو عین کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔

③ تیسرا جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے دیا ہے کہ یہ آیت اپنے ظاہر پر ہے، اور جن آیتوں میں کفر و شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کی مغفرت کا ذکر ہے، اس کے لئے یہ ناسخ ہے یعنی قتل عمد کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔

لیکن یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا آخری قول نہیں ہے، ان کا آخری قول جمہور امت کے مطابق ہے کہ قتل عمد کا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے، ان کا مذکورہ بالا قول تشدید و تغلیظ پر محمول ہے۔

وبینت السنة: قرآن کریم میں قتل کی دو قسموں کا ذکر ہے، قتل عمد اور قتل خطا، لیکن اگر غور کیا جائے تو قتل خطا کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہی جو اوپر گزری، یعنی مارنے کا ارادہ کسی اور کو تھا مگر نشانہ کسی اور پر لگ گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کو ایسے اوزار سے مارا جس سے قتل کا وقوع نہیں ہوتا، مگر ہوا یہ کہ اسی ضرب سے وہ مر گیا، مثلاً لاٹھی سے مارا، اور مضروب مر گیا تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے قتل کا ارادہ کیا تھا ورنہ وہ لاٹھی سے نہ مارتا، اور یہ بھی

نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے غلطی سے مار دیا، کیونکہ لاٹھی تو بقصد ضرب ہی چلائی تھی، اور اسی شخص پر چلائی تھی، یہ بھی قتلِ خطا ہی ہے، لیکن حدیث میں اسے ”شبہ عمد“ کا نام دیا گیا ہے، اس میں بھی قتلِ خطا کی طرح قصاص نہیں ہے بلکہ دیت ہے۔

کالعمد فی الصفة: قتلِ شبہ عمد کی دیت صفت میں وہی ہے جو قتلِ عمد کی دیت ہے، اور وہ یہ کہ دیت میں تو ساونٹ متعین ہیں، لیکن قتلِ شبہ عمد میں تین طرح کے اونٹ دئے جائیں گے۔ تیس حقے، تیس جذبے اور چالیس گابھن اونٹنیاں۔ یہ تفصیل امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے، اور احناف میں امام محمد علیہ الرحمہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک چار طرح کے اونٹ دیت میں متعین ہیں، ۲۵/۲۵ بنت مخاض، بنت لبون، حقہ اور جذبہ۔

والخطأ فی التاجیل والحمل: شبہ عمد کی دیت قتلِ خطا کی طرح ہی تین سال میں ادا کی جائے گی، اور یہ کہ اس کا تحمل بھی عاقلہ ہی کریں گے۔

وهو والعمد اولیٰ بالكفارة من الخطأ: فرماتے ہیں کہ قتلِ شبہ عمد اور قتلِ عمد میں کفارہ کا لزوم قتلِ خطا کے مقابلے میں اولیٰ ہے، کیونکہ کفارہ گناہ کو مٹانے کے لئے ہوتا ہے، تو قتلِ خطا میں جبکہ معمولی گناہ ہے، صرف بے احتیاطی کا گناہ! تو قتلِ عمد اور شبہ عمد میں تو قصد و ارادہ کا بھی گناہ ہے، اس کے ختم کرنے کا اہتمام اور زیادہ ہونا چاہئے، اس لئے بطور دلالت النص کے اس میں کفارہ کا وجوب بدرجہ اولیٰ ہونا چاہئے، یہ قیاس اولوی اور یہ دلالت النص کا ادعاء حضرات شوافع کا ہے، حنفیہ کی نگاہ اس مسئلے میں ذرا دقیق و عمیق ہے، وہ یہ کہ قتلِ شبہ عمد، عمد تو ہے نہیں، پس لامحالہ قتلِ خطا میں داخل ہے، کیونکہ قرآن کریم نے قتل کی دو ہی صورتیں بیان کی ہیں، قتلِ عمد اور قتلِ خطا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قتلِ شبہ عمد میں، قتلِ عمد کی طرح قصاص کا حکم نہیں ہے بلکہ قتلِ خطا کی طرح دیت کا حکم ہے، اس لئے اسے قتلِ خطا ہی کے ذیل میں شمار کرنا ہوگا، پس اس میں جس طرح دیت اور کفارہ ہے، شبہ عمد میں بھی دیت اور کفارہ ہوگا۔

رہا قتلِ عمد، تو وہ قتلِ خطا سے علیحدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیوی اور اخروی دونوں سزائیں بیان کی ہیں، دنیوی سزا قصاص اور اخروی سزا دخولِ جہنم، اگر اس کی سزا میں کفارہ بھی مطلوب ہوتا، تو بیان کرنے سے کوئی مانع نہ تھا، تو جس حکم سے موقع بیان میں سکوت ہوا ہو وہ حکم نہیں متعین کیا جاسکتا۔

ونزل لما مر نفر من الصحابة برجل من بنی سلیم الخ: حضرت مفسر علیہ الرحمہ نے یا ایہا الذین آمنوا إذا ضربتم فی سبیل اللہ الخ کی شانِ نزول بیان کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت جہاد کے لئے باہر نکلی تھی، قبیلہ بنی سلیم کا ایک آدمی ان کے پاس بکریوں کا

تبتغون: یہ ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام سے حال ہے، فعل نہی کے فاعل سے جب کوئی جملہ حال بنتا ہے تو عموماً نہی اس فعل سے مقصود نہیں ہوتی جس پر لائے نہی داخل ہے بلکہ اس کی قید سے نہی مقصود ہوتی ہے، مثلاً اگر کسی سے کہا جائے کہ لا تطلب العلم تبتغی بہ الجاہ، علم مت طلب کرو اس حال میں کہ تم طالب جاہ ہو، اس جملہ میں طلب علم سے نہی مراد نہیں ہے، صرف طلب جاہ سے نہی مقصود ہے، لیکن قرآن کریم کی اس آیت میں ایسا نہیں ہے بلکہ دونوں سے نہی مقصود ہے، یعنی تم یہ بھی مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اور دنیاوی سامان کی چاہت بھی نہ رکھو۔

کذلک کنتم من قبل تعصم دماء کم الخ: حق تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، اس کا مطلب مفسر نے یہ بتایا ہے کہ ابتداءً جب تم مسلمان ہوئے تھے، تو تمہارا بھی یہی حال تھا کہ محض کلمہ ایمان کے زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے تم کو مسلمان تسلیم کر لیا گیا تھا، پھر بعد میں اللہ نے احسان فرمایا کہ تمہارے ایمان اور تمہاری استقامت کو شہرت عطا فرمائی، اور تمہارا مسلم و مومن ہونا شک و شبہ سے بالاتر ہو گیا، لہذا کسی کو قتل کرنے سے پہلے اس کے ایمان کی تحقیق کر لو، اور جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو تمہارے ساتھ کیا گیا تھا۔

عن الجہاد: اس حرف جر کا تعلق القاعدون سے ہے، یعنی وہ لوگ جو جہاد میں شرکت نہیں کرتے۔

غیر اولی الضرر بالرفع صفة والنصب استثناء: لا یستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر میں مفسر نے فرمایا، غیر اولی الضرر میں دو قرأت ہے۔ ایک غیر کے رفع کے ساتھ، اس صورت میں غیر اولی الضرر، القاعدون کی صفت ہے، اس صورت میں صاحب جمل نے لکھا ہے کہ اس میں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ لفظ القاعدون معرفہ ہے، اور لفظ غیر باوجود اضافت کے بعد بھی معرفہ نہیں ہو پاتا۔ نکرہ ہی رہتا ہے، پس موصوف اور صفت میں مطابقت نہیں رہی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ القاعدون سے چونکہ کوئی متعین شخصیت مراد نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو جہاد سے غیر حاضر رہے، اس لئے وہ مثل اسم جنس کے ہے، جو معرفہ نہیں ہوا، بلکہ نکرہ ہی کے حکم میں ہے، یا یہ کہا جائے کہ لفظ غیر جب دو متضاد چیزوں کے درمیان آئے تو معرفہ ہو جاتا ہے، اور یہاں مجاہدین اور قاعدین دو متضاد جماعتوں کے درمیان آیا ہے، اور وہ معرفہ ہے، اس لئے کہ معرفہ کی صفت بن سکتا ہے۔

صاحب فتوحات الہیہ (جمل) نے اسے القاعدون سے بدل قرار دیا ہے۔

غیر کو اگر منصوب پڑھا جائے تو یہ القاعدون سے استثناء ہے۔

من زمانة أو عمی أو نحوہ الخ: یہ الضرر کا بیان ہے، یعنی لولا ہونا، اندھایا لنگڑا ہونا۔

لضرر: یہاں جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی فضیلت قاعدین پر بیان فرمائی ہے، اس سے مراد وہ قاعدین ہیں جن کو کوئی معذوری لاحق ہے، ان پر مجاہدین کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے کیونکہ نیت میں دونوں اگرچہ برابر ہیں کہ جہاد میں شرکت سے کسی کو گریز نہیں ہے، مگر مجاہد بالفعل شریک ہے اور معذور عملاً شریک نہیں، اس لئے مجاہد کو ایک درجہ فضیلت ضرور حاصل ہوگی۔

لغیر ضرر: دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اس جگہ قاعدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی عذر کے جہاد میں شرکت نہیں کرتے، ان پر مجاہدین کو اجر عظیم کی فضیلت حاصل ہے، اور اس اجر عظیم کا بدلہ درجات منہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے نیچے اوپر بہت سے مرتبے ہیں۔
ومغفرة ورحمة منصوبان بفعلهما المقدر: یہ دونوں اپنے اپنے فعل مقدر کے مفعول مطلق ہیں، یعنی غفر الله مغفرة ورحمة۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اہل ایمان کو اللہ کی جانب سے ایمان و عمل کی جو دولت ملتی ہے اور جیسی تربیت ہوتی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کے قتل کا گنہگار نہ ہو، الا یہ کہ غلطی سے یا نادانستہ اس سے یہ حرکت سرزد ہو جائے، غلطی کا مطلب یہ ہے کہ نہ قتل کرنے کا ارادہ تھا اور نہ قتل کر دینے والا کوئی ہتھیار تھا، کسی اور وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا مگر اسے ایسی چوٹ لگی کہ وہ مر گیا۔ اور نادانستہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے میدان جنگ میں کافر سمجھ کر مارا مگر وہ مسلمان تھا، یا شکار کا جانور سمجھ کر گولی چلا دی مگر وہ جانور نہ تھا، آدمی تھا، یہ عمل اصلاً گناہ نہیں ہے مگر انسانی جان اتنی قیمتی ہے کہ غلطی سے مارنے والا بھی گناہ سے بچ نہیں سکتا، کم از کم بے احتیاطی کا گناہ ہوا، تو اس گناہ کی بخشش کی صورت یہ ہے کہ ایک غلام جو مومن ہو آزاد کرے، اور اس کے ساتھ مقتول کے ورثہ کو دیت ادا کرے، الا یہ کہ ورثہ دیت کو معاف کر دیں، اور دیت ۱۰۰ ارونٹ یا اس کی قیمت ہے، دیت کی یہ بھاری رقم صرف قاتل پر نہ ہوگی بلکہ اس کے اہل دیوان اور خاندان پر ہوگی، خاندان سے کیا مراد ہے؟ کتب فقہ میں اس کی تفصیل دیکھی جاسکتی ہے، اگر اہل خاندان سے ان کی غربت کی وجہ سے نہ ہو سکے تو حکومت بیت المال سے پورا کرے، اگر بیت المال میں بھی گنجائش نہ ہو تو پھر جنایت کرنے والا تنہا ذمہ دار ہے۔

اور اگر مقتول بقتل خطا مومن تو ہے، مگر دار الحرب میں رہتا ہے اور حریوں کی قوم سے ہے، تو اس کا کفارہ محض مومن غلام کا آزاد کرنا ہے، دیت انھیں نہیں دی جائے گی، اور اگر وہ ان لوگوں کی قوم سے ہے جن سے مصالحت ہے، جیسے اہل ذمہ، تو اس کی دیت بھی لازم ہوگی، اور مومن غلام کا آزاد کرنا بھی، لیکن اگر غلام نہ میسر ہو تو قاتل دو ماہ مسلسل روزہ رکھے۔

اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غصہ ہو، اور خدا نے اپنی رحمت سے اسے دور کر دیا، اور اس کے لئے دردناک عذاب تیار کیا ہے، اگر قاتل عمد نے حلال اور جائز سمجھ کر قتل کیا ہے تب تو یہ سزا بالکل ظاہر ہے، کیونکہ حرام قطعی کو حلال سمجھنے والا کافر ہے، اور کفر کے ساتھ قتل کا گناہ جڑ گیا ہے، اس لئے دردناک ترین عذاب کا اس پر مسلط ہو جانا بالکل ظاہر ہے۔

اور اگر وہ حلال نہیں حرام سمجھتا ہے، اس کے باوجود اس گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی واقعی سزا جو ہونی چاہئے، وہ تو یہی ہے جسے حق تعالیٰ نے بیان کیا، مگر ایمان کی طاقت گناہ کی اور سزا کی سختی کو کم کر دیتی ہے، اس کی وجہ سے جہنم میں دوام و خلود سے بچ جائے گا، مگر سخت عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔

قتل خطا اور قتل عمد کے درمیان میں ایک قتل شبہ عمد ہے، وہ یہ کہ قتل کرنے کا ہتھیار تو اس نے استعمال نہیں کیا، مگر بالقصد مارا ہے گو کہ قتل کا ارادہ نہ تھا، اس میں قصاص تو نہیں ہے، البتہ کفارہ اور دیت ہے۔

قتل کی ان صورتوں اور ان کے احکام کے بیان کے بعد حق تعالیٰ نے اس مسئلے میں احتیاط کی تاکید فرمائی ہے کہ عام حالات تو خیر عام حالات ہیں، ایمان والے اگر جہاد کے لئے نکلیں تو بھی جو سامنے آئے اسے قتل نہ کر دیں، بالخصوص اگر کوئی مسلمانوں جیسا سلام کرتا ہو، یا اپنی اطاعت و انقیاد کا اظہار کرتا ہے تو کسی بدگمانی میں مبتلا ہو کر اسے قتل نہ کرو، اور نہ یہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اگر مال غنیمت حاصل کرنے کی نیت ہے تو اللہ کے پاس بہت کچھ مال غنیمت ہے، آخر تم لوگ بھی تو پہلے ایسے ہی تھے کہ کلمہ شہادت کے اعتراف و اقرار سے مسلمان مان لئے گئے تھے، یہ تو بعد میں اللہ کا احسان ہوا کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے شہرت عام حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو سب علم و خبر ہے۔

پھر فرمایا: جہاد کے باب میں تین طرح کے لوگ ہیں، بعض تو جہاد میں شریک ہیں، بعض شریک ہونا چاہتے ہیں مگر کسی مجبوری اور عذر کی بنا پر شریک نہیں ہو پاتے ہیں، اور اس کا انھیں افسوس ہوتا ہے، بعض لوگ بغیر کسی عذر کے جہاد سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، اور جو لوگ بلا عذر اس سے فرار اختیار کرتے ہیں، دونوں کے درجات میں بہت فرق ہے، ہاں جو لوگ کسی معذوری کی وجہ سے شریک نہیں ہوتے وہ اور مجاہدین گو کہ ایک درجہ میں نہیں ہیں، لیکن صرف ایک درجہ کا فرق ہے، معذور لوگ چونکہ بذات خود شریک جہاد نہیں ہیں، اس لئے ایک درجہ کا فرق ہو گیا، ورنہ نیت میں دونوں برابر ہیں، اللہ نے ہر ایک سے بہتری اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔



وَنَزَلَ فِي جَمَاعَةٍ أَسْلَمُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا فَمَقْتُلُوا يَوْمَ بَدْرٍ مَعَ الْكُفَّارِ ﴿۱۰۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمْ

الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴿۱۰﴾ بِالْمَقَامِ مَعَ الْكُفَّارِ وَتَرَكَ الْهَجْرَةَ ﴿۱۱﴾ قَالُوا ﴿۱۲﴾ لَهُمْ مَوْبِحِينَ ﴿۱۳﴾ فِيمَ كُنْتُمْ ﴿۱۴﴾ أَى فِى أَى شَى كُنْتُمْ فِى أَمْرِ دِينِكُمْ ﴿۱۵﴾ قَالُوا ﴿۱۶﴾ مُعْتَذِرِينَ ﴿۱۷﴾ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ ﴿۱۸﴾ عَاجِزِينَ عَنِ إِقَامَةِ الدِّينِ ﴿۱۹﴾ فِى الْأَرْضِ ﴿۲۰﴾ أَرْضِ مَكَّةَ ﴿۲۱﴾ قَالُوا ﴿۲۲﴾ لَهُمْ تَوْبِيحًا ﴿۲۳﴾ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً ﴿۲۴﴾ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ﴿۲۵﴾ مِنْ أَرْضِ الْكُفْرِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ كَمَا فَعَلَ غَيْرُكُمْ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿۲۶﴾ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿۲۷﴾ هِىَ ﴿۲۸﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ ﴿۲۹﴾ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ﴿۳۰﴾ لَا قُوَّةَ لَهُمْ عَلَى الْهَجْرَةِ وَلَا نَفْقَةَ ﴿۳۱﴾ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿۳۲﴾ طَرِيقًا إِلَى أَرْضِ الْهَجْرَةِ ﴿۳۳﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا ﴿۳۴﴾ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاجِمًا ﴿۳۵﴾ مُهَاجِرًا ﴿۳۶﴾ كَثِيرًا وَوَسْعَةً ﴿۳۷﴾ فِى الرِّزْقِ ﴿۳۸﴾ وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ ﴿۳۹﴾ فِى الطَّرِيقِ كَمَا وَقَعَ لَجْنَدِ بْنِ ضَمْرَةَ اللَّيْثِيِّ ﴿۴۰﴾ فَقَدْ وَقَعَ ﴿۴۱﴾ ثَبِتَ ﴿۴۲﴾ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿۴۳﴾

ترجمہ

کچھ لوگ مکہ میں اسلام لائے تھے، مگر انہوں نے ہجرت نہ کی تھی، اور جبراً اور باغزوہ بدر میں کفار کے ساتھ وہ شریک جنگ تھے اور اس میں قتل کر دئے گئے، ان کے سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں (بلاشبہ وہ لوگ جن کی روئیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کیں، کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے) کیونکہ وہ کفار کے ساتھ رہے اور ہجرت کا فریضہ ترک کیا (فرشتوں نے) ان سے بطور توبیح کے (کہا کہ تم لوگ) اپنے دین کے باب میں (کس حال پر تھے) انہوں نے معذرت کرتے ہوئے (کہا، ہم لوگ کمزور تھے) یعنی دین کو قائم کرنے سے عاجز اور بے بس تھے (اپنی سرزمین میں) یعنی مکہ میں (انہوں نے) ان سے بطور توبیح کے (کہا کیا اللہ کی زمین وسعت نہیں رکھتی تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے) یعنی زمین کفر سے دوسرے شہر میں چلے جاتے، جیسا کہ دوسروں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا (تو یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ پلٹ کر جانے کی بری جگہ ہے، مگر وہ لوگ جو کمزور بنا کر رکھے گئے، خواہ مرد ہوں یا عورت یا بچے، جو کسی حیلہ اور تدبیر کی استطاعت نہیں رکھتے) یعنی انہیں نہ ہجرت کی قوت ہے اور نہ ان کے پاس اس کے مصارف ہیں (اور نہ وہ) سرزمین ہجرت کے (راستے کی واقفیت رکھتے تو یہی لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے اور اللہ عفو و غفور ہیں اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں بہت سی ہجرت کی جگہیں پائے گا، اور) رزق میں (وسعت بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہجرت کے ارادے سے نکلتا ہے، پھر) راستے میں (اسے موت آجاتی ہے) جیسا کہ حضرت جندع بن ضمیر لیشی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا (تو اس کا اجر اللہ کے اوپر

ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں)

﴿ تشریحات ﴾

ونزل فی جماعۃ أسلموا الخ: فتح مکہ سے پہلے اسلام کے معتبر ہونے کے لئے بشرط استطاعت ہجرت لازم تھی، اس کے بغیر مسلمان ہونا قابل اعتبار نہ تھا، تو جو لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے باوجود قدرت و استطاعت کے ہجرت کے فریضے سے غفلت کی، پھر مزید یہ کہ کفار کے دباؤ میں آ کر مسلمانوں کے خلاف جنگ بدر میں شریک بھی ہو گئے اور مارے گئے، ان سے وہ پوچھ چگچھ ہو رہی ہے، جس کا تذکرہ زیر تفسیر آیت میں ہے۔

بالمقام مع الکفار وترک الهجرة: یہ ظالمی انفسہم کا بیان ہے، کہ ان کا اپنی جان پر ظلم کرنا یہ تھا کہ وہ کفار کے ساتھ رہتے رہے، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، چونکہ ہجرت شرط ایمان تھی اس لئے فرشتے انہیں زجر و توبیح کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں فیما کنتم یعنی

فی ای شیء کنتم فی امر دینکم: دینی معاملے میں تم کس حال میں تھے، کیا تمہیں طاقت نہ تھی، یا نکلنے کی گنجائش نہ تھی، انہوں نے جواب میں کہا: کنا مستضعفین، ہم دین کی اقامت سے عاجز اور بے بس تھے، فرشتوں نے ان کے جواب کی تکذیب کی اور فرمایا کہ ایک اور راستہ تھا، وہ یہ کہ تم اس سرزمین کفر سے نکل جاتے۔ إلا المستضعفین: یہ استثناء منقطع ہے، مستثنیٰ منہ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ ایمان کے ساتھ ساتھ ہجرت کی قدرت رکھتے تھے، لیکن ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے ان کا ایمان غیر معتبر رہا۔ یہ لوگ جن کا استثناء کیا گیا ہے، وہ واقعی کمزور تھے، نہ انہیں ہجرت کی طاقت تھی اور نہ یہاں اقامت دین کی گنجائش تھی، اس لئے یہ لوگ سابقہ گروہ میں شامل نہ تھے، ان میں کمزور مرد بھی تھے جیسے عباس بن ربیعہ اور سلمہ بن ہشام، اور بچے بھی تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس، اور عورتیں بھی جیسے ان کی ماں ام الفضل بنت الحارث، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی بہن۔

﴿ مراغماً ﴾ مهاجراً: مراغماً ظرف مکان کا اسم ہے، یعنی ہجرت کرنے کی جگہ، ہجرت گاہ کی تعبیر مراغماً سے کی گئی ہے، بات یہ ہے کہ یہ لفظ رغام سے مشتق ہے، کہا جاتا ہے رغام انفہ، معنی یہ ہے کہ لصق انفہ بالرغام، رغام کے معنی گرد و غبار اور مٹی کے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ اس کی ناک خاک آلود ہوئی، یہ ذلت اور بے عزتی سے کنایہ ہے، تو ہجرت کرنے والا چونکہ اپنی قوم کی ناک مٹی میں رگڑ کر اور اسے ذلیل کر کے دوسری طرف نکل جاتا ہے اس لئے ہجرت گاہ کو مراغماً کہا جاتا ہے۔

کما وقع لجندع بن ضمیرہ اللیثی: تفسیر خازن کے حوالے سے فتوحات الہیہ (جمل) میں نقل کیا ہے کہ جب آیت ان الذین توفہم الملائکہ الخ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکرمہ میں رہ جانے والے مسلمانوں کے پاس یہ آیت بھیجی، وہاں ان لوگوں کو پڑھ کر سنائی گئی، بنی لیث کے ایک بوڑھے ضعیف مریض

حضرت جندع بن ضمیرہ لیشی نے اس آیت کریمہ کو جب سنا تو فرمانے لگے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اس وعید سے مستثنیٰ قرار دیا ہے ان میں میں نہیں ہوں کہ میرے پاس کوئی حیلہ نہ ہو، کیونکہ میں اتنا مال رکھتا ہوں کہ مدینہ تو کیا اس سے آگے تک جاسکتا ہوں، اللہ کی قسم ہے جو یہ رات میں مکہ میں گزاروں؟ مجھے یہاں سے لے چلو، گھر والے انہیں چار پائی پر لاد کر مکہ کے باہر تنعمیم (مسجد عائشہ) تک لے گئے، وہاں ان پر نزع کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے، تب انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مارا اور کہا اے اللہ! یہ آپ کے لئے ہے اور آپ کے رسول کے لئے میں آپ سے اس بات پر بیعت کرتا ہوں جس پر آپ کے رسول نے آپ سے بیعت کی ہے، پھر ان کی روح پرواز کر گئی، یہ خبر جب حضرات صحابہ کو پہنچی تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر موت مدینے میں آئی ہوتی تو بات مکمل ہوتی اور اجر پورا ہوتا، اور مشرکین نے ہنسی اڑائی کہ جو کچھ چاہا تھا وہ نہیں پاسکے، تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔

فقد وقع ثبت الاجر الخ: یعنی ہجرت کا اجر اللہ پر واجب ہو گیا، یہ وجوب خود اللہ نے اپنے فضل سے ایفاء وعدہ کے لئے اپنے اوپر مقرر فرمایا ہے۔ یہ وجوب اس معنی میں نہیں جو بندوں پر بڑے کی طرف سے لازم کیا جاتا ہے، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس حکم میں وہ شخص بھی ہے جس نے کسی خیر و طاعت کا قصد کیا مگر کسی واقعی مجبوری کی وجہ سے اسے پورا نہ کر سکا، اسے بھی پورا ثواب ملے گا۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

مومن کے لئے خلوص اور یکسوئی ضروری ہے، ایمان کے ساتھ کفار و مشرکین کے ساتھ، ان کے طور طریقوں کے ساتھ، ان کی معاشرت کے ساتھ خلا ملا رکھنا، مخلوط رہنا درست نہیں، اس سے حق و باطل میں التباس و اشتباہ ہوتا ہے، اسی یکسوئی کے لئے ہجرت دور ابتداء میں فرض تھی، کہ کفار کے درمیان اہل ایمان نہ رہیں، کیونکہ اس صورت میں نہ تو آزادانہ اسلام پر عمل کر سکیں گے اور نہ اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھ سکیں گے، اور مد اہنت و منافقت سے تو چھٹکارا نہ ملے گا، پھر جو لوگ بغیر عذر کے ہجرت نہ کر سکے، انہیں مجبوراً مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں شریک ہونا پڑا، ان میں سے بعض مارے بھی گئے، تو ان کی موت پر فرشتے انہیں زجر و توبیخ کرتے ہیں کہ اگر تم کفار کے درمیان مجبور و مقہور تھے، تو اللہ کی زمین تو تنگ نہ تھی، جہاں رسول موجود تھے وہاں چلے گئے ہوتے، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں، ہاں جو لوگ واقعی مجبور تھے، نہ انہیں راستہ معلوم، نہ ان کے پاس ہجرت کے اسباب اور ترک وطن کی وسعت، وہ البتہ عند اللہ معذور ہیں، اور کسی تنگی اور پریشانی کے خوف سے ہجرت ترک کرنی روا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے لئے اپنے دین کو بچانے کی غرض سے گھر بار اور وطن چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہجرت کی اچھی جگہیں بھی عطا فرمائیں گے اور بہت کچھ وسعت بھی دیں گے، اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ آدمی

ہجرت کی نیت سے نکلا، تو اگرچہ اس کے اس عمل کی تکمیل نہ ہو سکی ہو اور وہ راستے ہی میں وطن کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چھوڑ دے تو بھی اس کا پورا ثواب اسے ملے گا، اور حق تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا کیا پوچھنا؟



﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ﴾ سافرتم ﴿فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ ﴿فِي﴾ ﴿أَنْ تَقْصُرُوا﴾
 مِنَ الصَّلَاةِ ﴿بِأَنْ تَرُدُّوهُمَا مِنْ أَرْبَعِ إِلَى اثْنَتَيْنِ﴾ ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ﴾ ای ینالکم بمکروه
 الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿بِإِنْ لِلْوَقْعِ إِذَا ذَاكَ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ، وَبَيْنَتِ السَّنَةَ أَنْ الْمَرَادَ بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ،
 وَهُوَ أَرْبَعَةُ بُرْدٍ، هِيَ مَرَحِلَتَانِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) أَنَّهُ رِخْصَةٌ لِأَوْجَابِ،
 وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ﴿إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ ﴿بَيْنَ الْعَدَاوَةِ﴾ ﴿وَإِذَا كُنْتُمْ﴾ يَا مُحَمَّدُ
 حَاضِرًا ﴿فِيهِمْ﴾ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ الْعَدُوَّ ﴿فَاقُمْتُمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ وَهَذَا جَرِيٌّ عَلَى عَادَةِ
 الْقُرْآنِ فِي الْخُطَابِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ تَتَاخَرُ طَائِفَةٌ ﴿وَلْيَأْخُذُوا﴾
 أَيِ الطَّائِفَةِ الَّتِي قَامَتْ مَعَكَ ﴿أَسْلِحْتَهُمْ﴾ مَعَهُمْ ﴿فَإِذَا سَجَدُوا﴾ اِرْصُوا ﴿فَلْيَكُونُوا﴾
 اِرْصُوا الطَّائِفَةَ الْآخَرَى ﴿مِنْ وَّرَائِكُمْ﴾ يَحْرُسُونَ إِلَى أَنْ تَقْضُوا الصَّلَاةَ وَتَذْهَبَ هَذِهِ الطَّائِفَةُ
 تَحْرُسُ ﴿وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحْتَهُمْ﴾
 مَعَهُمْ إِلَى أَنْ يَقْضُوا الصَّلَاةَ وَقَدْ فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَلِكَ بِبَطْنِ نَخْلٍ، رَوَاهُ الشَّيْخَانُ ﴿وَدَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ﴾ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴿عَنْ أَسْلِحْتِكُمْ وَأَمْتَعْتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ
 مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ بِأَنْ يَحْمِلُوا عَلَيْكُمْ فَيَأْخُذُواكُمْ، وَهَذَا عِلَّةُ الْأَمْرِ بِأَخْذِ السَّلَاحِ ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ فَلَا تَحْمِلُوهَا، هَذَا يَفِيدُ
 إِجَابَةَ حَمَلِهَا عِنْدَ عَدَمِ الْعَذْرِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ سَنَةٌ وَرُجِحَ ﴿وَخُذُوا
 حِذْرَكُمْ﴾ مِنَ الْعَدُوِّ، أَيِ: احْتَرِزُوا مِنْهُ مَا سَطَعْتُمْ ﴿إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾
 ذَا إِهَانَةٍ ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ﴾ فَرِغْتُمْ مِنْهَا ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ ﴿قِيَامًا
 وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ مَضْطَجِعِينَ، أَيِ فِي كُلِّ حَالٍ ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ﴾ أَمْنْتُمْ
 ﴿فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أَدُّوْهَا بِحَقْوَقِهَا ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا﴾ مَكْتُوبًا أَيِ
 مَفْرُوضًا ﴿مَوْقُوتًا﴾ أَيِ مَقْدَرًا وَقْتِهَا فَلَا تَأْخُرُ عَنْهُ. وَنَزَلَ لَمَّا بَعَثَ ﷺ طَائِفَةً فِي طَلَبِ أَبِي
 سَفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا رَجَعُوا مِنْ أَحَدِ فَشَكُوا الْجِرَاحَاتِ ﴿وَلَا تَهِنُوا﴾ تَضَعُوا ﴿فِي ابْتِغَاءِ﴾
 طَلَبِ ﴿الْقَوْمِ﴾ الْكُفَّارِ لِتَقَاتُلُوهُمْ ﴿إِنْ تَكُونُوا تَالِمُونَ﴾ تَجِدُونَ أَلْمَ الْجِرَاحِ ﴿فَإِنَّهُمْ

يَا لَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ﴿۱﴾ ای مثلکم ، ولا یجبنون عن قتالکم ﴿۲﴾ وَتَرْجُونَ ﴿۳﴾ أَنْتُمْ ﴿۴﴾ مِنَ اللَّهِ ﴿۵﴾ مِنَ النَّصْرِ وَالشَّوَابِ عَلَيْهِ ﴿۶﴾ مَا لَا يَرْجُونَ ﴿۷﴾ هُمْ ، فَأَنْتُمْ تَزِيدُونَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونُوا أَرْغَبَ مِنْهُمْ فِيهِ ﴿۸﴾ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴿۹﴾ بِكُلِّ شَيْءٍ ﴿۱۰﴾ حَكِيمًا ﴿۱۱﴾ فِي صَنْعِهِ .

﴿ترجمہ﴾

(اور جب تم زمین میں سفر کرو، تو تم پر) اس میں (کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز میں سے کچھ گھٹا دو) یعنی چار رکعت سے کم کر کے دو رکعت کر دو (اگر تم کو کافروں کی طرف سے اندیشہ ہو کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال دیں گے) یعنی تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، اُن یفتنکم الذین کفروا اُس وقت کے حال کے اعتبار سے بیان واقع ہے، کیونکہ اس دور میں کفار پریشان کیا ہی کرتے تھے، اس لئے اس کا مفہوم مخالف معتبر نہیں، سنت نے بیان کیا کہ سفر سے مراد سفر طویل ہے، اور وہ چار برید ہے جو کہ دو مرحلے ہیں، فلیس علیکم جناح سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ رخصت یعنی قصر کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک یہی ہے (بے شک کفار تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں ۵ اور) اے محمد! (جب تم ان کے درمیان موجود ہو) اور تمہیں دشمن سے اندیشہ ہو (پھر تم ان کے لئے نماز قائم کرو) حضور اکرم ﷺ کے ساتھ یہ مخاطب قرآن کریم کے عام دستور کے مطابق ہے، پس اس کا مفہوم مخالف معتبر نہیں (پس چاہئے کہ ان میں ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو) اور ایک گروہ پیچھے رہے (اور چاہئے کہ) وہ گروہ جو تمہارے ساتھ کھڑا ہے (اپنے ہتھیاروں کو) اپنے ساتھ (لئے رہے، پس جب وہ سجدہ کریں) یعنی نماز پڑھیں (تو وہ) یعنی دوسرے گروہ کے لوگ (تمہارے پیچھے رہیں) اور نماز کے ادا ہو جانے تک پہرہ دیتے رہیں، اور پھر یہ نماز پڑھنے والا گروہ جا کر پہرہ دے (اور دوسرے گروہ والے جنھوں نے ابھی نماز نہیں ادا کی ہے، آ کر تمہارے ساتھ نماز ادا کریں، اور چاہئے کہ وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار لئے رہیں) یہاں تک کہ نماز پوری ہو جائے، یہ عمل رسول اللہ ﷺ نے نطن نخل میں کیا تھا، رواہ الشیخ خان (کفار چاہتے ہیں کہ) جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو (اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامانوں سے غافل ہو جاؤ کہ وہ یکبارگی تم پر حملہ کر دیں) یعنی دفعۃً حملہ کر کے تمہیں اپنی گرفت میں لے لیں، ہتھیار ساتھ میں لینے کی علت یہی ہے (اور تم پر کوئی حرج نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ دقت ہو، یا تم مریض ہو، اس بات میں کہ تم ہتھیار تو اتار دو) یعنی اسے ساتھ نہ رکھو، اس سے معلوم ہوا کہ عذر نہ ہونے کی حالت میں ہتھیار رکالئے رہنا واجب ہے، یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا ایک قول ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ عدم عذر کی حالت میں ہتھیار رکالئے رہنا سنت ہے، اور یہی قول اخیر راجح قرار دیا گیا ہے (اور) دشمن سے (بچاؤ کا سامان کئے رہو) یعنی جتنا ہو سکے دشمن سے بچاؤ کا انتظام رکھو (بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے رُسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے ۵ پھر جب نماز ادا کر چکو)

یعنی اس سے فارغ ہو جاؤ (تو اللہ کو) تسبیح و تہلیل کے ذریعے (یاد کرو کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی اور لیٹنے کی حالت میں بھی) یعنی ہر حال میں (پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ) یعنی حالت امن میں ہو (تو نماز کو قائم کرو) یعنی اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرو (یقیناً نماز اہل ایمان کے اوپر اوقات کے لحاظ سے لکھی ہوئی) یعنی فرض (ہے) یعنی ان کے اوقات متعین ہیں، ان اوقات سے انھیں موخر نہیں کیا جاسکتا۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک گروہ کو ابوسفیان اور اس کے لشکر کی تلاش میں اس وقت بھیجا جب وہ غزوہ احد سے واپس ہو رہے تھے، تو ان حضرات نے زخموں کی شکایت آپ کے حضور پیش کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی (اور قوم) کفار (کی طلب میں) ان سے لڑنے کے لئے (کمزور نہ بنو، اگر تم تکلیف محسوس کرتے ہو) یعنی زخموں کی تکلیف پاتے ہو (تو وہ بھی ایسی تکلیف محسوس کرتے ہیں جیسی تم محسوس کرتے ہو) لیکن وہ تم سے لڑنے میں کمزوری نہیں دکھاتے (اور تم تو اللہ کی جانب سے) مدد اور اس کے ثواب کی (امید رکھتے ہو، جبکہ وہ لوگ ایسی کوئی امید نہیں رکھتے) تو تم لوگوں کو ان پر یہ مزید خصوصیت حاصل ہے، تو مناسب یہ ہے کہ تمہیں جہاد و قتال کی ان سے زیادہ رغبت حاصل ہو (اور اللہ تعالیٰ) ہر چیز کو (جانتے ہیں) اور جو کچھ کرتے ہیں اس میں (صاحب حکمت ہیں)

﴿تشریحات﴾

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ﴾ سفر تم: ضرب فی الارض کے معنی مطلقاً زمین پر چلنے پھرنے کے ہیں، لیکن یہ ایک محاورہ ہے، جس کے معنی دور دراز سفر کرنے کے ہیں، چند قدم اور تھوڑی دور چلنے کو ضرب فی الارض سے تعبیر نہیں کرتے، اسے مشی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یضربون مشارق الارض ومغاربها، زمین کے مشرق و مغرب میں وہ سفر کرتے ہیں، اور مطلقاً چلنے کو اس طرح فرمایا ہے: وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہوناً، اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع سے چلتے ہیں۔

بان تردوها من أربع الی اثنتین : من الصلوٰۃ میں من حرف جر کا تعلق ان تقصروہا سے ہے، یعنی پوری نماز میں سے کچھ کم کر دیا جائے، یہ حکم صرف چار رکعت والی نمازوں سے متعلق ہے، یعنی چار رکعت کے بجائے انھیں دو رکعت پڑھا جائے گا۔

بیان للواقع: حالت سفر میں نماز کے قصر کی جو شرط حق تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ: أن یفتنکم الذین کفروا، یعنی جب تمہیں کفار کی ایذا رسانی اور فتنہ پردازی کا اندیشہ ہو تب قصر کرنے میں حرج نہیں، اس شرط کے بارے میں مفسر فرماتے ہیں کہ یہ صورت شرط ہے حقیقہ نہیں، یہ واقعہ کا بیان ہے، جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت اہل ایمان کا کوئی سفر ایسا نہ ہوتا تھا جو کفار کی ایذا رسانی اور ان کی خلش سے خالی رہتا ہو، تاہم قصر کا یہ حکم اس وقت بھی باقی رہا جب کفار کا اندیشہ کیا، خود کفار سرزمین عرب سے ناپید ہو چکے تھے، چنانچہ بخاری

و مسلم میں ہے: **أنه عليه السلام** سافر بین مکة والمدینة لا ینحاف إلا الله عزوجل فکان یصلی رکعتین ، رسول اللہ ﷺ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس حال میں سفر کیا کہ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، لیکن نمازیں دو ہی رکعت پڑھتے تھے۔

وبینت السنة : گزر چکا ہے کہ ضرب فی الارض سے سفر مراد ہے، لیکن سفر میں کیا مقدار مسافت ہوگی؟ اس باب میں یہ آیت مجمل ہے، حدیث و سنت میں اس کا بیان وارد ہوا ہے، وہ یہ کہ سفر سے مراد سفر طویل ہے جس کی مقدار قدیم اصطلاح میں ۴۰ برید ہے، جس کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک برید چار فرسخ کا ہوتا ہے، اور ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے، گویا ۱۶ فرسخ مسافت سفر ہے، جس کی مقدار ۴۸ میل ہوگی۔ آج کل کی اصطلاح کے مطابق ۸۷ کلومیٹر مسافت سفر ہے۔

ویسوخذ من قوله فلیس علیکم جناح الخ : فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ سفر میں قصر کرنے میں کوئی تنگی اور گناہ نہیں ہے، اس طرز خطاب کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قصر کرنا رخصت ہے، واجب نہیں ہے، اگر کوئی قصر نہ کرے بلکہ پوری نماز پڑھے تو درست ہے بلکہ بہتر ہے، یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا مذہب ہے۔

امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک قصر اس معنی کر کے رخصت ضرور ہے، کہ چار رکعت کے بجائے دو رکعت میں ظاہر ہے کہ آسانی ہے، لیکن اس رخصت پر عمل ضروری ہے، اس لحاظ سے یہ عزیمت ہے، اور رہا طرز کلام! تو اسی طرح کا کلام حج کی سعی کے متعلق بھی وارد ہوا ہے، فرماتے ہیں: **فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا** (سورۃ البقرۃ) جو شخص بیت اللہ کے حج کا ارادہ کرے، تو اس پر کچھ حرج نہیں کہ وہ صفا و مروہ کے درمیان طواف کرے۔ یہاں بھی فلا جناح کی تعبیر ہے، لیکن اس میں امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ طواف بین الصفا و المروہ، رخصت نہیں بلکہ رکن ہے۔

﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ : اس عبارت کے اوپر ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ کافرین جمع اور عداً واحد ہے، تو اسم اور خبر میں مطابقت نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ عداً کا اطلاق واحد، جمع، مذکر و مؤنث سب پر ہوتا ہے۔

وهذا جرى على عادة القرآن : آیت زیر تفسیر میں نماز خوف کا بیان ہے، اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے باسلوب خطاب بیان کیا ہے، اور خطاب ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ہے، اس سے بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ یہ حکم رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس کے ساتھ مختص ہے، اس شبہ سے تعرض کرتے ہوئے مفسر نے فرمایا کہ یہ خطاب آپ کی خصوصیت کے طور پر نہیں ہے، قرآن کریم میں اس طرح کے خطابات ہیں، اسی دستور کے مطابق یہاں آپ سے خطاب کیا گیا ہے، اس کا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، اس لئے اگر آپ موجود نہ ہوں تو جو کوئی امام عسکر ہوگا، وہ بھی

یہی عمل کرے گا۔

تتاخر طائفة: فوج کا ایک حصہ امام کے پیچھے نماز ادا کرے گا، اور دوسرا حصہ پیچھے رہ کر دشمنوں کے بالمقابل کھڑا ہوگا۔ قرآن کریم میں صرف پہلے حصہ کا تذکرہ ہے، اسی سے دوسرے حصے کا حال معلوم ہو گیا، پس اس کا ذکر نہیں کیا۔

فإذا سجدوا اٰم صلوا: سجدہ کریں کی تفسیر نماز پڑھنے سے مفسر نے کی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز شروع ہو جائے۔

فلیکونوا اٰم الطایفة الاخری: مفسر فرماتے ہیں کہ فلیکونوا میں جو ضمیر فاعلی ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز میں شریک نہیں ہیں، جب نماز شروع ہو جائے تو یہ گروہ جو نماز میں ابھی شریک نہیں ہوا ہے، وہ نماز کے پورا ہونے تک نگرانی اور پہرے داری کرتا رہے، جب نماز پوری ہو جائے گی، تو یہ فارغ شدہ گروہ حفاظت کے فریضہ میں مشغول ہوگا، اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں ادا کی ہے، وہ امام کے ساتھ آجائے گا، یہ امام کی دوسری مرتبہ نماز ہوگی اور اس حصہ فوج کی اصل نماز ہوگی۔ امام کے حق میں وہ نماز نفل ہوگی اور مقتدی کے حق میں وہ فرض ہوگی۔

یہ تشریح امام شافعی علیہ الرحمہ کے مذہب کے مطابق ہے، ان کے نزدیک امام نفل پڑھ رہا ہو تو فرض پڑھنے والا اس کی اقتداء کر سکتا ہے۔

احناف کے نزدیک اس آیت کی تفسیر و تشریح تھوڑی سی مختلف ہے، اور وہ الفاظ قرآنی سے اقرب ہے، اس کی تفسیر ہم حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی تفسیر ”بیان القرآن“ سے نقل کرتے ہیں:

”اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں (اور اسی طرح آپ کے بعد اور جو امام ہو) پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں (اور اندیشہ ہو کہ اگر سب نماز میں لگ جائیں گے تو دشمن موقع پا کر حملہ کر بیٹھے گا) تو (ایسی حالت میں) یوں چاہئے کہ (جماعت کے دو گروہ ہو جائیں پھر) ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ (نماز میں) کھڑے ہو جائیں (اور دوسرا گروہ نگہبانی کے لئے دشمن کے بالمقابل کھڑا ہو جائے، تاکہ دشمن کو دیکھتے رہیں) اور وہ لوگ (جو آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہیں، وہ بھی مختصر مختصر) ہتھیار لے لیں (یعنی نماز سے پہلے لے کر ہمراہ رکھیں، شاید مقابلہ کی ضرورت پڑ جائے تو ہتھیار لینے میں دیر نہ لگے، فوراً قتال کرنے لگیں، گو نماز ٹوٹ جائے گی لیکن گناہ نہیں) پھر جب یہ لوگ (آپ کے ساتھ) سجدہ کر چکیں (یعنی ایک رکعت پوری کر لیں) تو یہ لوگ (نگہبانی کے ارادے سے) تمہارے پیچھے ہو جائیں (یعنی رسول اللہ ﷺ کے، اور دوسرے گروہ کے جو کہ اب نماز میں شامل ہوں گے، جن کا بیان آگے آتا ہے، اور پہلا گروہ ان سب کے پیچھے ہو جائے) اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی (یعنی شروع

بھی نہیں کی وہ بجائے پہلے گروہ کے امام کے قریب) آجاوے اور آپ کے ساتھ نماز کی (ایک رکعت جو باقی رہی ہے اس کو) پڑھ لیں۔

مفسر کی تفسیر سے یہ تفسیر جہاں مختلف ہوئی ہے، اس پر ہم نے خط کھینچ دیا ہے، ذرا غور کرنے سے بات واضح ہو جائے گی کہ مفسر کی تفسیر کے مطابق امام دونوں گروہوں کو ایک ایک رکعت پڑھائے، پہلا گروہ امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھ کر پیچھے ہٹ جائے گا، وہ نماز ہی میں ہوگا، پھر دوسرا گروہ امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھے گا، یہ دوسرا گروہ مسبوق ہوگا۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ ایک رکعت پوری کر کے نماز سے فارغ ہو جائے گا، اس کے بعد پہلا گروہ جو لاحق ہے ایک رکعت پڑھ کر فارغ ہوگا۔

(نوٹ) صلوٰۃ خوف کے بارے میں حدیثیں مختلف ہیں، اور نو عینیں علیحدہ علیحدہ ہیں، فقہ شافعیہ و حنفیہ کی کتابوں میں تفصیل مذکور ہے۔

بیطن نخل رواہ الشیخان: امام نووی المجموع میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ مذکورہ طریقہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو دو رکعت نماز پڑھائی، تو ان کی دو رکعتیں ہوئیں اور آپ کی چار رکعتیں، یہ روایت ابوداؤد شریف کی ہے۔ (حدیث: ۱۲۴۸) امام نووی فرماتے ہیں کہ بخاری و مسلم میں بھی حضرت جابر سے اسی معنی میں روایت ہے۔ مسلم میں صلوٰۃ الخوف (حدیث: ۱۹۴۹) میں، اور بخاری میں کتاب المغازی (حدیث: ۴۱۳۶) میں۔ بطن نخل غطفان کے علاقہ میں ارض نجد میں ایک مقام ہے۔

(المجموع شرح المہذب، ج: ۴، ص: ۴۰۶)

ونزل لما بعث صلی اللہ علیہ وسلم طائفة الخ: یہ تذکرہ غزوہ حراء الاسد کا ہے، مشرکین مکہ جب غزوہ احد سے پلٹ کر جا رہے تھے، تو انھیں خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، مسلمان اس وقت شکست خوردہ بھی ہیں اور دل شکستہ بھی! زخموں سے چور بھی ہیں، اس وقت اگر ان پر دوبارہ حملہ کر دیا جائے، تو بالکل ہی ٹوٹ جائیں گے، پھر ایک جگہ رک کر اس کے لئے تجویزیں سوچنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، تو آپ نے اپنے فدائیوں میں اعلان کر دیا کہ کل ہم دشمنوں کی طرف خود پیش قدمی کریں گے، جو لوگ کل ہمارے ساتھ جنگ میں تھے صرف وہی ہمارے ساتھ چلیں، کل کے غازی زخموں سے چور تھے، انھوں نے اپنے زخموں کا تذکرہ کیا، خود رسالتما صلی اللہ علیہ وسلم بھی کم زخمی نہ تھے، فرق اقدس اور چہرہ انور دونوں زخمی تھے، لیکن آپ کا حوصلہ تھا اور اسی کے سہارے سب کا حوصلہ تھا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، کہ تمہیں دشمنوں کے تعاقب میں کوئی سستی نہیں کرنی ہے، اگر تم زخمی ہو تو وہ بھی زخم خوردہ ہیں، تم تکلیف میں ہو تو وہ بھی تکلیف میں ہیں، اور تم کو امید ثواب ہے، اور انھیں کیا ہے؟ پھر وہ لڑنے کے لئے تیار ہوں اور تم جہاد کے لئے تیار نہ ہو، ایسا کیونکر ہے؟ تمہارا حوصلہ تو ان سے بدرجہا بلند ہونا چاہئے، چنانچہ آپ نے ان کا

تعاقب کیا، اور وہ بھاگ گئے، مقام حمراء الاسد تک آپ پہنچے تھے، جب ان کے بھاگنے کی اطلاع ملی تو آپ واپس تشریف لے آئے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

سفر کی حالت میں قصر کرنے، اور جنگ کی حالت میں خاص طریقے پر نماز ادا کرنے کا حکم ان آیات میں ہے، اسے صلوٰۃ خوف کہتے ہیں، اس کا طریقہ آیات کی تشریح میں لکھا جا چکا ہے، نیز اس بات کا حکم ہے کہ نماز اوقات کی تقسیم اور پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، نماز میں قصر یہ ہے کہ چار رکعت والی فرض نماز میں دو رکعت ہو جاتی ہے، دو اور تین رکعت میں قصر نہیں ہے۔ نمازوں کا قصر اس دور میں مشروع ہوا تھا جب جنگ کی حالت تھی، مگر اس حال کے خاتمہ پر بھی سفر کی سہولت کے لئے اسے باقی رکھا گیا، حضور ﷺ فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے صدقہ ہے، اسے قبول کرو۔ ہاں سفر کی ایک مقدار و مسافت ہے، اس سے کم سفر نہیں ہے، اور نہ نمازوں میں قصر ہے، اور اگر سفر کے ساتھ جنگ کی حالت ہو اور قصر اطمینان سے نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا بھی ایک آسان طریقہ حق تعالیٰ نے بیان فرمادیا ہے، مگر نماز نہیں چھوڑنی ہے، بلکہ جماعت بھی نہیں چھوڑنی ہے، عین جنگ کی حالت میں جو طریقہ نماز کا بتایا گیا ہے وہ جماعت کی نماز ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نماز مسلمانوں کے لئے ایک ایسا عمل ہے جس سے کسی حال میں غفلت جائز نہیں، حتیٰ کہ عین جنگ کی حالت میں بھی۔

آخر میں فرمایا کتاباً موقوتاً، یعنی نماز بقید وقت فرض کی گئی ہے، وقت سے ادھر ادھر کرنا سے ضائع کرنا ہے، وقت کے بعد قضا ہے، اور وقت سے پہلے ہوگی ہی نہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک بعض شرائط کے ساتھ جمع بین الصلوٰتین تقدیماً اور تاخیراً جائز ہے، مگر امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، کتاباً موقوتاً کا تقاضا یہی ہے، اس کو منسوخ کرنے کے لئے خبر واحد کافی نہیں۔

مقاصد کی راہ میں تکلیفیں اور محنتیں مومن کو بھی پیش آتی ہیں اور کافر کو بھی، لیکن مومن کے لئے ان کا جھیلنا سہل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے سامنے ایسی امیدیں رکھتا ہے جو کافر کو میسر نہیں، وہ یقین رکھتا ہے کہ میں جو کچھ جھیل رہا ہوں، حق کی راہ میں ہے اور میرے لئے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی، پھر افسوس اس مومن پر ہے جو مقاصد کی راہ میں اتنا بھی نہ کر سکے جتنا ایک کافر ظلم و فساد کی راہ میں کرتا ہے۔



وَسَرَقَ طُعْمَةَ بَنِ أَبِي رِقٍ دَرَعًا خَبَأَهَا عِنْدَ يَهُودَى فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ، فَرَمَاهُ طُعْمَةً بَهَا
 وَحَلَفَ أَنَّهُ مَاسَرَقَهَا، فَسَالَ قَوْمَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَن يَجَادِلَ عَنْهُ وَيَبْرَأَهُ، فَنَزَلَ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
 الْكِتَابَ﴾ الْقُرْآنَ ﴿بِالْحَقِّ﴾ مَتَعَلِّقًا بِأَنْزَلْنَا ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ﴾ أَعْلَمَكَ

﴿اللَّهُ فِيهِ﴾ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ ﴿كُطْعَمَةً﴾ خَصِيمًا ﴿مَخَاصِمًا عَنْهُمْ﴾. ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ﴾
 مِمَّا هَمَمْتَ بِهِ ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ﴿يَخُونُونَهَا بِالْمَعَاصِي لِأَنَّ وَبَالَ خِيانتِهِمْ عَلَيْهِمْ﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا ﴿كَثِيرَ الْخِيَانَةِ﴾
 ﴿أَثِيمًا﴾ اِمْرِي يَعَاقِبُهُ ﴿يَسْتَحْفُونَ﴾ أَيُّ طُعْمَةً وَقَوْمَهُ حِيَاءً ﴿مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ﴾
 وَهُوَ مَعَهُمْ ﴿بِعِلْمِهِ﴾ إِذْ يَبْتِئُونَ ﴿يَضْمُرُونَ﴾ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ﴿مَنْ عَزَمَهُمْ عَلَى﴾
 الْحَلْفِ عَلَى نَفْيِ السَّرْقَةِ وَرَمَى الْيَهُودِيَّ بِهَا ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾ عَلِمًا ﴿هَا﴾
 أَنْتُمْ ﴿يَا هَؤُلَاءِ﴾ خُطَابٌ لِقَوْمِ طُعْمَةَ ﴿جَادَلْتُمْ﴾ خَاصِمْتُمْ ﴿عَنْهُمْ﴾ أَيُّ عَنْ طُعْمَةَ
 وَذَوِيهِ وَقَرِيءٍ "عَنْهُ" ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ إِذَا عَذَّبَهُمْ ﴿أُمَّ﴾
 مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ﴿تَوَلَّى أَمْرَهُمْ وَيَذِبُ عَنْهُمْ؟﴾ أَيُّ لِأَحَدٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ﴾
 سُوءًا ﴿ذَنْبًا يَسُوءُ بِهِ غَيْرَهُ كَرَمَى طُعْمَةَ الْيَهُودِيَّ﴾ أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ﴿بِعَمَلِ ذَنْبٍ قَاصِرٍ عَلَيْهِ﴾
 ﴿ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ﴾ مِنْهُ أَيُّ: يَتُبُّ ﴿يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا﴾ لَهُ ﴿رَحِيمًا﴾ بِهِ ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا﴾
 ذَنْبًا ﴿فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ لِأَنَّ وَبَالَهَا عَلَيْهَا لَا يَضُرُّ غَيْرَهُ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ فِي
 صَنْعِهِ. ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً﴾ ذَنْبًا صَغِيرًا ﴿أَوْ إِثْمًا﴾ ذَنْبًا كَبِيرًا ﴿ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا﴾ مِنْهُ
 ﴿فَقَدْ احْتَمَلَ﴾ تَحْمَلُ ﴿بُهْتَانًا﴾ بِرَمِيهِ ﴿وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ بَيْنَنَا بِكَسْبِهِ

ترجمہ

طعمہ بن ابیرق نامی ایک آدمی نے ایک زرہ چرائی اور اسے ایک یہودی کے پاس چھپا دیا، تلاش کے بعد وہ یہودی کے پاس جب ملی تو طعمہ نے اس پر چوری کی تہمت لگائی، اور اپنے بارے میں قسم کھائی کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، اس پر اس کی قوم نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ آپ طعمہ کی طرف سے دفاع کریں، اور اس کی برأت ظاہر فرمائیں، اس پر یہ آیتیں اتریں۔

(بے شک ہم نے تمہارے اوپر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے) یعنی قرآن کو، بالحق کا تعلق انزلنا سے ہے (تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو، جو اللہ نے تمہیں) اس میں (دکھایا) یعنی سکھایا (ہے، اور خیانت کرنے والوں) جیسے طعمہ (کے لئے خصم) یعنی اس کی طرف سے دفاع کرنے والے (مت بنو، اور اللہ سے مغفرت چاہو) اس بات کی جس کا تم نے ارادہ کر لیا تھا (بلاشبہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں) اور ان لوگوں کی طرف سے دفاع نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں) یہ خیانت گناہ کر کے ہوتی ہے، کیونکہ ان کی خیانت کا وبال انہیں پر پڑتا ہے، پس وہ گویا اپنے ہی ساتھ خیانت کرتے ہیں (بے شک اللہ تعالیٰ کسی خائن گنہگار

سے محبت نہیں کرتے) خَوَّان کے معنی کثیر الخیانة ہے، لایحِب کا مطلب یہ ہے کہ اسے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں (وہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں) یعنی طعمہ اور اس کی قوم حیاء کی وجہ سے چھپتے ہیں (اور اللہ سے نہیں چھپتے، اور وہ تو ان کے ساتھ ہیں) یعنی اللہ کو خوب علم ہے (جب وہ اس بات کو چھپاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہیں) انہوں نے عزم کیا تھا کہ طعمہ سے چوری کی نفی پر قسم کھالیں گے، اور تہمت یہودی پر ڈال دیں گے (اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں) علم کے اعتبار سے (اللہ تعالیٰ اس کو محیط ہیں ۵ سنو! تم لوگ..... اے لوگو.....) طعمہ کی قوم کو خطاب ہے (تم نے ان..... خائون..... کی طرف سے دفاع کیا) یعنی اور اس کے شرکاء کی طرف سے، اور ایک شاذ قرأت میں عنہ کی قرأت ہے (دنیوی زندگی میں، تو کون اللہ کے حضور میں قیامت کے دن ان سے دفاع کرے گا) جب وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے (یا کون ان کے اوپر وکیل ہوگا) جو ان کے کام کا ذمہ دار ہو، اور ان سے دفاع کرے، یعنی کوئی ایسا نہ ہوگا (اور جو کوئی برائی کرے) یعنی ایسا گناہ کرے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو جیسے کہ طعمہ نے یہودی کو تہمت لگائی (یا اپنے اوپر ظلم کرے) یعنی ایسا گناہ کرے جس کا اثر اسی تک محدود ہے (پھر) اس کی (اللہ سے معافی چاہے) یعنی توبہ کر لے (تو وہ اللہ کو) اس کے لئے (غفور) اور اس پر (رحیم) پائے گا ۵ اور جو کوئی گناہ کا کسب کرے، تو وہ اسے اپنے اوپر کسب کرتا ہے) کیونکہ اس کا وبال اسی پر ہوگا، دوسرے کا اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا (اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں ۵ اور جو کوئی غلطی کرے) یعنی چھوٹا گناہ کرے (یا) بڑا (گناہ کرے، پھر اس کی تہمت دوسرے بے قصور کو لگا دے، تو اس نے بہتان اور بڑا گناہ اپنے اوپر لادا)

تشریحات

وسرق طعمۃ الخ : طعمہ میں طاء پر تینوں حرکتیں منقول ہیں، لیکن کسرہ مشہور تر ہے، یعنی طِعْمَہ، اور اُبْرِقٌ، ابرق کی تصغیر ہے، ہمزہ پر ضمہ، باء پر فتح، یا ساکن، راء مکسور، یہ دونوں الفاظ غیر منصرف ہیں۔ یہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر کا ایک فرد تھا، اس نے اپنے پڑوسی حضرت قنادہ کے گھر سے ایک زرہ چوری کی، وہ زرہ آٹے کی ایک بوری میں تھی، اس میں آٹا تھا یا بھوسی تھی، وہ بوری کچھ پھٹی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے آٹا راستہ میں بکھرتا رہا، صبح کو جب اس کی تلاش ہوئی تو طعمہ نے ایک یہودی پر الزام رکھ دیا، اس نے چوری کر کے اسی یہودی کے پاس بطور امانت کے وہ زرہ رکھ دی تھی، خود اپنے لاعلم ہونے کی اس نے قسم کھالی، آٹا راستے میں گرا ہوا تھا، اس کے واسطے سے لوگ اس یہودی کے گھر جا پہنچے، اس نے بتایا کہ طعمہ نے اس کے پاس بطور امانت کے رکھی ہے، طعمہ کی قوم نے طعمہ کی تائید کی، پھر طعمہ کے قبیلہ کے کچھ لوگوں نے سوچا کہ چل کر رسول اللہ ﷺ کے یہاں ہم لوگ گواہی دیدیں کہ چور یہی یہودی ہے، تاکہ ہم لوگوں کی رسوائی نہ ہو، چنانچہ ان لوگوں نے ایسا کر ڈالا، اس گواہی کو حضور نے مان لیا اور ارادہ کیا کہ یہودی کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کر دیں، تب اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی صحیح صورت حال سے مطلع

فرمایا، اب آپ کا فیصلہ طعمہ کے خلاف ہوا، تو وہ مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا، وہاں اس نے ایک گھر میں نقب لگائی اور ابھی گھسا ہی تھا کہ گھر والے اس پر پل پڑے اور اسے مار ڈالا۔ نعوذ باللہ من غضبه و غضب رسولہ۔

خبأها عنہ یہودی: ضمیر مونث درع کی جانب راجع ہے، درع بمعنی لوہے کی زرہ مونث معنوی ہے، اور درع بمعنی عورت کا کرتا مذکر ہے، یہودی کو بطور ودیعت کے دیا تھا۔

یخونونہا بالمعاصی: اپنے آپ سے خیانت کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، تو اس کا وبال چونکہ اسی پر پڑتا ہے، اس لئے اسے خیانت سے تعبیر کیا۔

امے یعاقبه: إن الله لا یحب من کان خوَّاناً اثیماً کی تشریح مفسر نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سزا دیتے ہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے بندوں کی دو ہی حالتیں ہیں، تیسری کوئی حالت نہیں ہے، یا تو وہ فرمانبردار ہوگا یا نافرمان! تابع فرمان ہوگا تو اللہ کی محبت کا مستحق ہوگا، نافرمانی کی صورت میں غضب کا مستحق ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ نہ فرمانبردار ہو اور نہ نافرمان! یعنی اس سے بے تعلق ہو، لیکن حق تعالیٰ کی جناب میں بندوں کا یہ حال محال ہے، لہذا جب اللہ کو کسی بندے سے محبت نہ ہوگی تو لازم ہے کہ اس سے بغض ہوگا، اس پر ان کا غضب ہوگا، پس وہ مستحق عقاب ہوگا۔

ذنباً یسوء بہ غیرہ الخ: سوء ایسا گناہ ہے، جس سے دوسروں کو ضرر ہو، اور ظلم ایسا گناہ ہے جو اپنی ذات تک محدود ہو۔

ای یتب: یتب بمعنی توبہ کی تشریح میں توبہ کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ استغفار کے لئے توبہ لازم ہے، پس استغفار کا مفہوم یہ ہے کہ سچی توبہ کی جائے، اور سچی توبہ اس وقت ہوگی جب دل میں ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، تو اس کی تلافی کا طریقہ اختیار کرے، خواہ اس حق کو ادا کر کے، خواہ معافی مانگ کر، اور اگر حقوق اللہ میں ہو تو اس کی تلافی کرے، جیسے نماز چھوڑی ہو، یا روزہ نہ رکھا ہو، تو قضا کرے، اور اللہ سے معافی بھی مانگے، اس سے معلوم ہوا کہ گناہ خواہ کوئی بھی ہو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اللہ نے کتاب اتاری، اور اس میں زندگی کے دستور و قانون بیان کئے، تاکہ ان کی روشنی میں معاملات و نزاعات کا فیصلہ ہو، اس کتاب کے مخاطب اول حضور اکرم ﷺ ہیں، پھر آپ کے ناسبین اور امت کے افراد! کسی بھی معاملہ کو قانون الہی کی روشنی میں دیکھنے اور اس کا فیصلہ کرنے میں اجتہاد و تفقہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اجتہاد بھی عطیہ الہی ہوتا ہے۔ پیغمبر سے فرمایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے فہم و اجتہاد کی جو قوت آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کے واسطے سے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں، اور ایسا نہ ہو کہ خیانت کرنے والے خواہ وہ کسی جماعت

کے ہوں آپ سے مدد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، آج اگر خائوں کی مدد کردی بھی گئی تو کل جب وہ اللہ کے یہاں گرفتار مواخذہ ہوں گے، تو کون ان کی مدد کو آسکے گا، یہ حکم قاضی کے لئے بھی ہے، خائن کے طرفداروں اور جانبداروں کے لئے بھی! ہونا تو یہ چاہئے کہ غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، حق تعالیٰ معاف کرتے ہی ہیں، آدمی کا گناہ خود اس پر وبال ہے، اگر کسی بے گناہ کے ذمے وہ گناہ لگائے گا، تو یہ دوسرا بڑا گناہ، بہتان کا ہوگا۔



﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ ﴿۱﴾ وَرَحْمَتُهُ ﴿۲﴾ بِالْعَصْمَةِ ﴿۳﴾ لَهَمَّتْ ﴿۴﴾ أَضْمَرْتِ ﴿۵﴾ طَائِفَةً مِنْهُمْ ﴿۶﴾ مِنْ قَوْمِ طَعْمَةٍ ﴿۷﴾ أَنْ يُضْلُوكَ ﴿۸﴾ عَنِ الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ بِتَلْبِيسِهِمْ عَلَيْكَ ﴿۹﴾ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ ﴿۱۰﴾ زَائِدَةٍ ﴿۱۱﴾ شَيْءٍ ﴿۱۲﴾ لَانَ وَبَالَ إِضْلَالِهِمْ عَلَيْهِمْ ﴿۱۳﴾ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴿۱۴﴾ الْقُرْآنَ ﴿۱۵﴾ وَالْحِكْمَةَ ﴿۱۶﴾ مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ ﴿۱۷﴾ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ﴿۱۸﴾ مِنْ أَحْكَامِ الْغَيْبِ ﴿۱۹﴾ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ ﴿۲۰﴾ بِذَلِكَ وَغَيْرِهِ ﴿۲۱﴾ عَظِيمًا ﴿۲۲﴾ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ ﴿۲۳﴾ أَيُّ النَّاسِ أَى مَا يَتَنَاجَوْنَ فِيهِ وَيَتَحَدَّثُونَ ﴿۲۴﴾ إِلَّا ﴿۲۵﴾ نَجْوَى ﴿۲۶﴾ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ ﴿۲۷﴾ عَمَلٍ بَرٍّ ﴿۲۸﴾ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴿۲۹﴾ الْمَذْكُورَ ﴿۳۰﴾ ابْتِغَاءً ﴿۳۱﴾ طَلَبَ ﴿۳۲﴾ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴿۳۳﴾ لَا غَيْرَهُ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا ﴿۳۴﴾ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ ﴿۳۵﴾ بِالنُّونِ وَالْيَاءِ أَى اللَّهُ ﴿۳۶﴾ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۷﴾ وَمَنْ يُشَاقِقِ ﴿۳۸﴾ يَخَالَفِ ﴿۳۹﴾ الرَّسُولَ ﴿۴۰﴾ فِيمَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْحَقِّ ﴿۴۱﴾ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ﴿۴۲﴾ الْهُدَى ﴿۴۳﴾ ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ بِالْمَعْجَزَاتِ ﴿۴۴﴾ وَيَتَّبِعِ ﴿۴۵﴾ طَرِيقًا ﴿۴۶﴾ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۷﴾ أَى طَرِيقَهُمُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ بَأَنْ يَكْفُرَ ﴿۴۸﴾ نُوْلَهُ مَا تَوَلَّى ﴿۴۹﴾ نَجْعَلُهُ وَالْيَا لَمَا تَوَلَّاهُ مِنَ الضَّلَالِ بَأَنْ يَخْلِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا ﴿۵۰﴾ وَنُضَلِّهِ ﴿۵۱﴾ نَدْخُلُهُ فِي الْآخِرَةِ ﴿۵۲﴾ جَهَنَّمَ ﴿۵۳﴾ فَيَحْتَرِقُ فِيهَا ﴿۵۴﴾ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿۵۵﴾ مَرْجَعًا هَى

﴿ترجمہ﴾

اے محمد! (اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی) کہ تمہاری حفاظت کا انتظام موجود ہے (تو ان میں) یعنی طعمہ کی قوم میں (سے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا) یہ بات ٹھان لی تھی (کہ تم کو) اپنی تلبیس اور دھاندلی کے ذریعے حق کے فیصلے سے (بھٹکا دیں گے، اور وہ اپنے ہی کو بھٹکائیں گے اور تمہیں کچھ نقصان نہیں پہونچا سکیں گے) من شیء میں من زائد ہے، کیونکہ ان کے گمراہ کرنے کا وبال خود انہیں پر ہے (اور اللہ نے تم پر کتاب) قرآن (نازل کی، اور حکمت) یعنی جو اس میں احکام ہیں (اور تم کو وہ باتیں) احکام کی اور غیب کی خبروں

کی (بتائیں جن کا تمہیں علم نہ تھا، اور اللہ کا فضل) یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی (تم پر بڑا ہے) لوگوں کی بکثرت سرگوشیوں میں) یعنی ان باتوں میں جو وہ باہم چپکے چپکے بطور کا نا پھوسی کے کرتے ہیں (کوئی خیر نہیں ہے، مگر ہاں وہ شخص) یعنی اس شخص کی سرگوشی (جو صدقہ کا یا بھلے کام کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو کوئی) یہ کام جو ذکر کیا گیا (اللہ کی رضامندی کی غرض سے کرتا ہے) اس کے علاوہ اور کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا (تو ہم اسے اجر عظیم دیں گے) نوتیہ میں ایک قرأت یا سے بھی ہے، یعنی یوتیہ، اس کا فاعل اللہ کی ضمیر ہے (اور جو کوئی رسول سے کشمکش کرتا ہے) یعنی جو کچھ وہ لائے ہیں اس میں وہ مخالفت کرتا ہے (بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت ظاہر ہو چکی ہے) یعنی معجزات کے ذریعے حق ظاہر ہو چکا ہے (اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ) دوسرا راستہ (اختیار کرتا ہے) یعنی دین کے اس راستے کے علاوہ جس پر وہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کفر کا راستہ ہے (تو ہم اس کو اسی راہ کے حوالے کر دیتے ہیں جس کو اس نے اختیار کیا ہے) یعنی ہم اس کو اس گمراہی کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں، جس پر وہ چلا ہے، اور دنیا میں اسی پر چھوڑ دیتے ہیں (اور) آخرت میں (اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے) جہاں وہ آگ میں جلے گا (اور وہ برا ٹھکانہ ہے) یعنی لوٹنے کی بری جگہ ہے۔

تشریحات

ولولا فضل اللہ علیک الخ: لولا کا جواب لہمت ہے، مگر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر لہمت اس کا جواب ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو یہ لوگ تمہیں گمراہ کر لینے کا ارادہ کر لیتے، اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ حق تعالیٰ کا فضل شامل حال تھا، اس لئے انھوں نے ارادہ ہی نہیں کیا، حالانکہ انھوں نے فیصلہ حق سے ہٹانے کا نہ صرف ارادہ کیا، بلکہ اس کی کوشش بھی کر ڈالی تھی۔ جواب یہ ہے کہ یہاں ارادہ اضلال منفی نہیں ہے بلکہ اس ارادہ کا اثر منہشی ہے، یعنی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو وہ گمراہ کر دیتے، مگر فضل الہی کی موجودگی میں وہ گمراہ نہ کر سکے۔

بالعصمة: عصمت کے معنی بچاؤ اور حفاظت کے ہیں، نبوت کے مرتبہ کو اللہ نے نافرمانی اور گمراہی سے بچا رکھا ہے، اس کا خدائی انتظام موجود ہے۔

من قوم طعمہ: طعمہ کی طرف داری کرنے والے قوم کے بعض افراد تھے، پوری قوم نہیں۔

من زائدة: شیئاً مفعول مطلق ہے، یعنی شیئاً من الضرر لا قليلاً ولا كثيراً، اسی مفعول مطلق پر من داخل ہے، اور وہ زائد ہے۔

الناس: نجواہم میں ضمیر جمع کی تفسیر الناس سے کر کے واضح کر دیا کہ یہ آیت محض طعمہ کی قوم سے متعلق نہیں ہے بلکہ سب لوگوں کیلئے عام ہے۔

مایتنا جون فیہ ویتحدثون : یہ عطف تفسیری ہے۔

﴿إِلَّا﴾ نجوی ﴿من امر﴾ الخ : من امر سے پہلے نجوی مضاف ہے، مفسر نے اسے اس لئے مقدر مانا ہے، تاکہ یہ استثنا متصل ہو، اگر اسے مقدر نہ مانا جائے تو استثنا منقطع ہوگا، کیونکہ نجوی مصدر ہے، اور من افراد ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ استثنا منقطع ہے، لیکن مفسر نے اسے استثنا متصل قرار دیا ہے۔
نجدلہ والیا : والی بمعنی متولی ہے، یعنی اس گمراہی کے ارتکاب کی ذمہ داری اسی پر ہے، اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہوگی۔

مرجعاً ہی : ہی مخصوص بالذم ہے، اور مصیراً تمیز ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

حق و صداقت کی حکومت کے ساتھ اس دنیائے اسباب و عمل میں مخالفت کی آزمائش بھی ناگزیر ہے، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، حق تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، کوشش کرنے والے انھیں لاکھ راستے سے ہٹانا چاہیں، مگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت انھیں محفوظ رکھتی ہے، پیغمبر تو معصوم ہیں، لیکن جو ان کے مخلصین ہوتے ہیں ان پر بھی یہ برکت ظاہر ہوتی ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام پر تو خصوصی اور بڑا فضل و کرم ہوتا ہے۔

لوگ جو آپس میں کانا پھوسیاں اور باتیں کرتے ہیں، ان کا بڑا حصہ خیر سے خالی ہوتا ہے، البتہ اگر کوئی بھلائی کا حکم کرتا ہے، صدقہ دینے کی ترغیب دیتا ہے، یا لوگوں کے درمیان ہو جانے والی کدورتوں اور ناچاقیوں کا تصفیہ کراتا ہے، اس کی بات سراسر خیر ہے، اور جو کوئی یہ کار خیر کرے گا، اللہ کی طرف سے اسے بہت بڑا اجر ملے گا۔

حق و صداقت کے نمایاں ہو جانے کے بعد اگر کوئی رسول سے کشمکش کرے کہ ان کی بات مانوں یا نہ مانوں، اور اہل ایمان، اطاعت رسول اور عقائد و اعمال کی جس راہ پر چل رہے ہیں، اگر اس سے انحراف کر کے دوسرا کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، تو حق تعالیٰ اسے اس کی اختیار کی ہوئی راہ کے حوالے کر دیتے ہیں، کہ اسی میں پڑا رہے، پھر اسے آخرت میں جہنم کے حوالے کر دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔

اس آیت سے مسلمانوں کے کسی مسئلہ پر اجماع کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کہ اہل ایمان کا اجماع حق ہے، اس کے خلاف راستہ اختیار کرنا باطل ہے۔



﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ عن الحق ﴿إِنْ﴾ ما ﴿يَدْعُونَ﴾ يعبد المشركون ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أى الله، أى غيره ﴿إِلَّا إِنَانَا﴾ أصناماً مونة كاللوات والعزى ومناة ﴿وَأِنْ﴾ ما ﴿يَدْعُونَ﴾

یعبدون بعبادتها ﴿إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا﴾ خارجاً عن الطاعة لطاعتهم له فيها وهو ابليس ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ أبعده عن رحمته ﴿وَقَالَ﴾ ای الشیطان ﴿لَا تَخِدَنَّ﴾ لا جعلن لی ﴿مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا﴾ حظاً ﴿مَفْرُوضًا﴾ مقطوعاً أدعوهم إلى طاعتي ﴿وَلَا ضَلَّاهُمْ﴾ عن الحق بالوسوسة ﴿وَلَا مَنِينَهُمْ﴾ ألقى فی قلوبهم طول الحياة وأن لا بعث و حساب ﴿وَلَا مَرَنَّهُمْ فَلْيَبْتَئَنَّ﴾ يقطعن ﴿آذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ قد فعل ذلك بالبحائر ﴿وَلَا مَرَنَّهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ دينه ، بالكفر ، وإحلال ما حرم الله وتحريم ما أحل ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا﴾ يتولاه ويطيعه ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ای غيره ﴿فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ بیّنًا ، لمصيره الى النار المؤبدة عليه ﴿يَعْدُهُمْ﴾ طول العمر ﴿وَيَمَنِّيهِمْ﴾ نيل الآمال فی الدنيا وأن لا بعث ولا جزاء ﴿وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ﴾ بذلك ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾ باطلا ﴿أُولَئِكَ مَا أُوْهُمُ جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾ مَعْدَلًا ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا﴾ ای وعدهم الله ذلك وعداً وحقه حقاً ﴿وَمَنْ﴾ ای لا أحد ﴿أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ قولاً۔

ونزل لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب ﴿لَيْسَ﴾ الامر منوطاً ﴿بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ بل بالعمل الصالح ﴿مَنْ يَعْمَلْ سَوَاءً يُجْزَبْهُ﴾ إمافى الآخرة أو فى الدنيا بالبلاء والمحن كما ورد فى الحديث ﴿وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ای غيره ﴿وَلِيًّا﴾ يحفظه ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ يمنعه منه ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ﴾ شيئاً ﴿مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ﴾ بالبناء للمفعول والفاعل ﴿الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ قدر نقرۃ النواة ﴿وَمَنْ﴾ ای لا أحد ﴿أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ﴾ ای انقاد وأخلص عمله ﴿لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ موحد ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ الموافقة لملة الاسلام ﴿حَنِيفًا﴾ حال امره مائلاً عن الأديان كلها الى الدين القيم ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ صفيًا خالص المحبة له ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ملكاً وخلقاً وعبيداً ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا﴾ علماً و قدرةً ای لم يزل متصفاً بذلك

ترجمہ

(اللہ یہ بات بخشنے والا نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ جسے چاہے بخش دے، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو وہ بھٹک کر) حق سے (بہت دور جا پڑا

ہے، یہ) مشرکین (اللہ کے ماسوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو) یعنی ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو عورت کے مجسمے ہیں، جیسے لات و منات اور عزی (اور نہیں پکارتے مگر شیطان مردود کو) یعنی دیویوں کی عبادت جو کرتے ہیں، تو اس کے واسطے سے درحقیقت شیطان مردود کی عبادت کرتے ہیں، جو کہ طاعت سے برکنار ہے، کیونکہ اس بارے میں وہ اسی کی طاعت کرتے ہیں، اور شیطان مرید ابلیس ہے (جس پر اللہ نے لعنت کی ہے) یعنی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے (اور) شیطان نے (کہا میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا) جنہیں میں اپنی طاعت کی جانب دعوت دوں گا (اور ضرور انہیں بہکاؤں گا) یعنی حق سے انہیں وسوسہ میں مبتلا کر کے ہٹاؤں گا (اور ضرور انہیں جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کروں گا) یعنی ان کے دلوں میں لمبی زندگی کی توقع ڈالوں گا، اور یہ کہ نہ دوبارہ زندہ ہونا ہے اور نہ حساب کا کوئی مسئلہ ہے (اور میں البتہ انہیں ضرور حکم دوں گا، پس وہ جانوروں کے کان ضرور چیریں گے) چنانچہ بحائر کے ساتھ یہ حرکت کی گئی (اور میں انہیں حکم دوں گا، پس وہ خدا کی خلقت میں ضرور رد و بدل کریں گے) یعنی اللہ کے دین میں کفر کر کے، اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر کے تبدیلی و ترمیم کریں گے (اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق و مددگار بناتا ہے) اس کی دوستی اور اطاعت کا دم بھرتا ہے (تو یقیناً وہ تباہی میں پڑ گیا، ایسی تباہی میں جو کھلی تباہی ہے) کیونکہ اس کا انجام جہنم ہے، جو ہمیشہ اس پر مسلط رہے گی (وہ ان سے) طولِ عمر کا (وعدہ کرتا ہے اور انہیں آرزوؤں میں ڈالتا ہے) کہ دنیا میں ان کی تمنائیں پوری ہوں گی، اور دوبارہ زندہ ہونا اور آخرت میں بدلہ پانا کچھ نہیں ہے (اور شیطان ان سے جو یہ سب وعدے کرتا ہے وہ محض فریب ہے) باطل ہے (یہی وہ لوگ ہیں جن کا بالآخر ٹھکانا دوزخ ہو اور وہ لوگ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے) اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام انجام دئے، ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ انہیں باغوں میں رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ حق ہے (یعنی اللہ نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور سچا وعدہ کیا ہے) اور اللہ سے بڑھ کر بات کہنے میں سچا اور کون ہو سکتا ہے (یعنی کوئی نہیں ہو سکتا۔

اور اگلی آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں اور اہل کتاب نے باہم مفاخرت کی (معاملہ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر) وہ تو عمل صالح پر موقوف ہے (جو کوئی برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا) یا تو آخرت میں یا دنیا میں بلاء و مصیبت کی صورت میں، جیسا کہ حدیث میں ہے (اور اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اسے ملے گا) جو اس کی حفاظت کرے (اور نہ مددگار) جو اسے اس بدلہ سے بچالے (اور جو کوئی اچھے کام کرے گا، خواہ مرد ہو خواہ عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے) (بدخلون میں فعل معروف اور مجہول دونوں طرح قرأت ہے) (اور رائی کے دانے کے برابر بھی ان

کے ساتھ بے انصافی نہ ہوگی) کھجور کی کٹھلی کی پشت پر ایک بہت مختصر سا گڈھا ہوتا ہے فقیر کہتے ہیں (اور اس آدمی سے بہتر دین رکھنے والا کون ہو سکتا ہے) یعنی کوئی نہیں (جس نے اللہ کے آگے سراطاعت جھکا دیا) یعنی اطاعت کی اور عمل میں اخلاص اختیار کیا (اور وہ حسن عمل والا بھی ہے) یعنی توحید پر قائم ہے (اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی ہے جو) تمام مذہبی گروہ بندیوں سے الگ ہو کر دینِ قیم کے لئے (یکسو ہو رہا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا تھا) یعنی مخلص دوست جو محبت میں بالکل خالص تھا (اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب) ملکیت، خلقت اور غلامی کے اعتبار سے (اللہ ہی کے لئے ہے، اور اللہ) اپنے علم و قدرت سے (ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہیں) اور اس کے ساتھ وہ دائماً متصف ہیں۔

﴿تشریحات﴾

یعبد المشرکون : ان یدعون میں ان نافیہ ہے، یدعون بمعنی یعبدون ہے، قرآن کریم میں جہاں غیر اللہ کو پکارنے کا ذکر ہے، اس سے مراد عبادت ہے۔

أصناماً موشاة : اہل عرب بلکہ تمام دنیا کے مشرکین پوجا کرنے کے لئے جو بت بناتے ہیں، زیادہ تر وہ عورت ہی کے بت ہیں، اہل عرب کا خیال و اعتقاد ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں..... نعوذ باللہ..... جیسے لات و منات اور عزیٰ وغیرہ۔

لطاعتهم له فیہا : یہ ان یدعون إلا شیطاناً مریداً کی تعلیل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہاں بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ یہ کفار و مشرکین مومن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو ایک واقعہ ہے، مگر یہ کہ وہ شیطان مردود کی پوجا کرتے ہیں، تو نظر بہ ظاہر خلاف واقعہ ہے، کیونکہ شیطان کی پوجا کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، جواب یہ ہے کہ وہ بتوں کی جو عبادت کرتے تھے، وہ درحقیقت شیطان ہی حکم کی تعمیل کرتے تھے، پس وہ انھیں کے پجاری تھے، بت تو پوجا کے صرف نشان تھے۔

بالوسوسة: شیطان، جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ دل میں ایک خیال ڈالتا ہے جسے وسوسہ کہتے ہیں، پھر اس کو انسان اپنے دل میں پختہ کرتا ہے اور غلط راہ پر ہو لیتا ہے، وہ کوئی زور زبردستی سے گمراہ نہیں کرتا، چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا قول نقل کیا ہے، جب قیامت کے دن سب فیصلے جہنم اور جنت کے ہو چکے ہوں گے، اور اہل جہنم اس کے سامنے اپنی مصیبت کی فریاد لے جائیں تو وہ کہے گا: إِنَّ اللَّهَ وَعَدُّكُمْ وَعَدَّ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ (سورہ ابراہیم: ۲۲) بلاشبہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ (اور وہ پورا ہو کر رہا) اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، مگر اسے پورا نہ کیا، مجھے تم پر کسی طرح تسلط نہ

تھا (کہ تم میری پیروی پر مجبور ہو گئے ہو) جو کچھ پیش آیا، وہ صرف یہ ہے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میرا بلاوا قبول کر لیا۔

اس کا بلانا کیا ہے؟ وہ یہی دل میں خیال ڈالنا، وسوسہ پیدا کرنا! باقی آگے سب کام آدمی کا ہے۔

أَلْقَىٰ فِي قُلُوبِهِم طُولَ الْحَيَاةِ: حق سے گمراہ کرنے کے لئے جن وسوسوں کو وہ استعمال کرتا ہے، اس کی تفصیل وہ خود بیان کر رہا ہے، وہ یہ کہ انسانوں کو بہت دن تک جینے کا فریب دیتا ہے، اور یہ بھی سمجھاتا ہے، کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر اور کوئی زندگی نہیں، اور نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب! بس جو کچھ ہے یہیں ہے، انسان کی گمراہی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، زندگی بس اتنی ہی ہے آگے کچھ نہیں ہے، تو پھر کیوں کوئی پابندی قبول کی جائے، نفس کو جو ہوس ہو اسے پورا کیا جائے، اور اگر فطری تقاضے سے کسی کی عبادت کرنی ہی ہو تو بس ایسے معبود کی، جس کا نہ کوئی امر ہو، نہ نہی، ہم اس کے تابع نہ ہوں وہ خود ہمارا تابع ہو۔ بس مشرکین کی عبادت یہی ہے۔

عبادت کے نام پر اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جانور کے کان چیر کر ان بتوں کے نام پر آزاد کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں حلال اور جسے چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں۔
بالبحائر: بحائر جمع ہے بحیرة کی، بحیرة وہ اونٹنی ہے جو چار مرتبہ بچہ جننے کے بعد پانچویں مرتبہ میں مادہ بچہ جنتی ہے، اس کا کان بطور علامت کے چیر کر بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے تھے، پھر نہ اس پر سوار ہوتے اور نہ اس کا دودھ استعمال کرتے، وہ بتوں کے نام پر چڑھاوا ہوتی۔

دینہ: خلق اللہ کی تفسیر مفسر نے دین سے کی ہے، یعنی شیطان انھیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے دین کو اس کی اپنی حالت پر نہ رکھیں، اس میں حسب منشا ضرورت کے مطابق ترمیم و تبدیل کرتے رہو، چنانچہ بدعات و رسومات یہ سب انغوائے شیطان ہی کے نتائج بد ہیں۔

یتولاه ویطیعه: حق تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ جو شیطان کو اپنا دوست اور رفیق و مددگار بنائے گا، وہ پوری تباہی میں پڑے گا، اس سے خیال ہوتا ہے کہ ایسا کون ہوگا، جو شیطان کو اپنا دوست اور رفیق و مددگار بنائے، اسے تو سب برا جانتے اور کہتے ہیں۔ مفسر نے فرمایا کہ شیطان کی دوستی اس کے وسوسوں کی تعمیل اور حکم الہی سے روگردانی کا نام ہے۔

وعدہم اللہ ذلک وعداً وحقہ حقاً: یہ تفسیری عبارت بتا رہی ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد وعد اللہ مفعول مطلق ہے، تاکید کے لئے، تقدیر یہ ہے: وعد اللہ وعداً، فعل کو حذف کر کے اسے فاعل کی طرف مضاف کر دیا گیا ہے، اور حقاً کا فعل حق محذوف ہے۔

قولاً: قیلاً کی تفسیر قولاً سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیلاً بھی مصدر ہے، جیسے کہ قول اور قال مصدر ہیں، ابن السکیت کا قول ہے کہ قال اور قیل اسم مصدر ہیں، اور تمیز ہونے کی بنا پر یہاں منصوب ہیں۔

ونزل لما افتخر المسلمون الخ: مفسر آیت لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب الخ کا سبب نزول بتا رہے ہیں، بعض اہل اسلام اور بعض اہل کتاب میں مکالمہ ہوا، اہل کتاب نے کہا کہ ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے، اور ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے ہیں، تو ہم اللہ کے زیادہ نزدیک ہیں، ہم تم سے افضل ہیں، اور مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، اور ہماری کتاب تمام کتابوں کے لئے ناسخ ہے، نیز ہم تمہاری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمہارا ایمان ہماری کتاب پر نہیں ہے، اس لئے ہم تم سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اہل کتاب: یہود و نصاریٰ۔

الامر منوطاً: ثواب اور اللہ کے قرب کا معاملہ، کسی کی آرزو اور گمان و خیال پر مبنی نہیں۔ بامانیکم کا تعلق منوطاً سے ہے، یعنی ان آرزوؤں پر مدار کار نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔

أمانی: جمع ہے أمنية کی، یہ تمنا سے ماخوذ ہے، آدمی اپنے دل میں آرزو باندھتا ہے، امید کرتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں چیز حاصل ہوگی، مثلاً آدمی کوئی عمل کرتا ہے اور خیال باندھتا ہے کہ اس کے عوض میں مجھے اتنا اتنا ثواب ملے گا، اس خیال پر جب اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہ ہو تو اسے أمنية کہتے ہیں، اور اگر کسی طرف سے وعدہ ہو، اور اس کی دلیل موجود ہو تو اسے رجاء کہتے ہیں۔

من يعمل سوءً یجز به إمامی الآخرة الخ: جو کوئی عمل بد کرے گا، خواہ وہ اہل کتاب ہو یا اہل ایمان، اسے اس کی سزا ملے گی، یعنی سزا کا مستحق ہوگا، یا تو آخرت میں، کافر ہو تو یقیناً، اور مومن ہو تو اس وقت جب اس نے توبہ نہ کی ہو، یا مغفرت کا اور کوئی سبب نہ ہو، یا دنیا میں آفات اور بلاؤں کی صورت میں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، چنانچہ ترمذی شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون ایسا ہوگا جس سے کوئی عمل بد نہ ہو، تو کیا ہر برے عمل پر ہمیں سزا ملے گی؟ آپ نے فرمایا: تم لوگ جو اصحاب ایمان ہو تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں دیا جائے گا، یہاں تک کہ تم اللہ کے حضور اس حالت میں پہنچو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا، اور دوسرے لوگوں کی ساری معصیتیں اکٹھا رہیں گی، انھیں قیامت کے دن سب کا بدلہ مل جائے گا۔

تفسیر ابی السعد میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، تب کس کو نجات ہوگی؟ یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کیا تم بیمار نہیں ہوتے، کیا تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی، عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا

بس یہ بدلہ ہی ہے۔

شیئاً: اس لفظ سے اشارہ ہے کہ من الصالحات میں من تبعیضیہ ہے، کیونکہ تمام اعمال صالحہ بجالانے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔

وہو مومن: عمل صالح آخرت میں اسی وقت نافع ہوگا جب اس کی منشا و مصدر ایمان ہو۔

قدر نقرۃ النواة: کھجور کی کٹھلی کی پشت پر ایک ذرا سا گڈھا جیسا ہوتا ہے، اسی کو نقیر کہتے ہیں، نقر (ن) کے معنی کھودنے کے ہیں۔

أسلم وجهہ انقاد: وجہ کے معنی چہرے کے ہیں، وجہ بول کر ذات مراد لیا ہے، کیونکہ ذات انسانی میں اشرف حصہ چہرہ ہے، مطلب یہ ہے کہ مطیع و فرمانبردار ہو۔

حال امے مائلا عن الادیان: حنیفاً ترکیب میں حال ہے، ذوالحال میں تین احتمال ہے، اتباع کی ضمیر فاعل ذوالحال ہو، یا ملة ابراهیم ذوالحال ہو، یا خود ابراهیم، حنیف کے معنی ہر طرف سے یکسو ہو کر ایک خدا کا ہو رہنے والا۔

لم یزل متصفاً بذلک: اللہ تعالیٰ کا ارشاد و کان اللہ بکل شیء محیطاً (اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ میں لئے ہوئے تھا) سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ ماضی میں محیط تھا، اب یہ احاطہ ختم ہو گیا ہے، اس کا جواب مفسر نے دیا کہ یہ کان انقطاع کے لئے نہیں ہے، بلکہ دوام کے لئے ہے، تو جیسے پہلے محیط تھا اب بھی محیط ہے، اور آئندہ بھی محیط رہے گا۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اوپر ذکر تھا کہ رسول کی مخالفت کرنے والا، اور اہل ایمان کی راہ سے الگ راہ اختیار کرنے والا، اسی طرف جائے گا، جو راہ اس نے اختیار کی ہے، اس کی مزید توضیح فرماتے ہیں کہ راستہ صحیح ہو تو غلطیاں قابل درگزر ہیں، لیکن اگر پوری راہ ہی بدل گئی یعنی آدمی نے ایمان کو چھوڑ کر شرک کی راہ اختیار کر لی، تو اس نے معافی اور درگزر کی گنجائش ختم کر لی، اب وہ گمراہی میں دور سے دور تر ہوتا چلا جائے گا، لیکن سوچنا چاہئے کہ یہ مشرکین خدا کو چھوڑ کر کس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، عورتوں کے سامنے! اور عورت بھی واقعی عورت نہیں، عورت کے جسم سے اور بت کے سامنے! بلکہ عورت بھی نہیں وہ شیطان کو پوجتے ہیں، کیونکہ عورتوں کو پوجنا شیطان ہی کے حکم سے ہے، پس درحقیقت وہ شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں، انسان گمراہ ہوتا ہے تو کن گہرائیوں میں گرتا ہے، شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور بھاگا ہوا ہے، جو کوئی اس کا حکم مانے گا، وہ بھی رحمت الہی سے دور ہوگا، شیطان تو روز اول کہہ رہا تھا کہ خدایا! میں آپ کے بندوں میں اپنا حصہ بھی نکالوں گا، انہیں راہ سے ہٹاؤں گا، انہیں جھوٹی

آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، ان سے کہوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں اور دین الہی کو بدل ڈالیں، اب ظاہر ہے کہ جو کوئی اس ظالم کی بات مانے گا وہ پورا تباہ ہو کر رہے گا، اور جہنم کی قید میں ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا، اس کے برخلاف جو ایمان اور عمل و صالح کی راہ پر ہوں گے، ان کے لئے جنت ہے، یہ خدا کا وعدہ برحق ہے اور خدا سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ جنت کا حصول اور جہنم سے نجات کسی کی ذاتی اور نفسانی خواہشات اور تمناؤں پر مبنی نہیں ہے، برا کام جو بھی کرے گا اس کی سزا کا مستحق ہوگا، اور کوئی چاہے کہ اللہ کے سوا اسے کوئی حامی و ناصر مل جائے تو ایسا نہ ہوگا۔ اور جو کوئی ایمان پر ثابت قدم رہ کر اچھے اعمال کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ ضرور جنت میں پہنچے گا، اور بندوں پر کسی طرح کی بے انصافی کا کام نہ ہوگا۔

اچھا دین تو بس یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے سراطاعت جھکا دے، اور توحید پر وہ قائم ہو، اور طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اختیار کرے، جیسے وہ سب سے یکسو ہو کر اللہ کے ہور ہے تھے ایسا ہی کرے، اور براہیم کو تو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا تھا، پھر جو ان کے طریقے پر ہوگا وہ بھی انھیں کے زمرے میں ہوگا، اور زمین و آسمان کی ہر چیز بس خدا ہی کی ملکیت میں ہے، وہی خالق و معبود ہے، اور سب کچھ اسی کے احاطہ علم و قدرت میں ہے، بس انھیں کا ہور ہنا ضروری ہے۔



﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ ﴿يَطْلُبُونَ مِنْكَ الْفَتْوَى﴾ ﴿فِي﴾ ﴿شَأْنِ﴾ ﴿النِّسَاءِ﴾ ﴿وَمِيرَاثِهِنَّ﴾ ﴿قُلْ﴾ ﴿لَهُمْ﴾ ﴿اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾ ﴿فِيهِنَّ﴾ ﴿وَمَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ ﴿الْقُرْآنَ﴾ ﴿مَنْ آيَةِ الْمِيرَاثِ وَيَفْتِيكُمْ﴾ ﴿أَيْضًا﴾ ﴿فِي يَتَمَىٰ النِّسَاءِ﴾ ﴿الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كَتَبَ﴾ ﴿فَرَضَ﴾ ﴿لَهُنَّ﴾ ﴿مِنَ الْمِيرَاثِ﴾ ﴿وَتَرْغَبُونَ﴾ ﴿أَيْهَا الْوَالِيَاءِ﴾ ﴿عَنْ﴾ ﴿أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ ﴿لِدَمَامَتِهِنَّ﴾ ﴿وَتَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ طَمَعًا﴾ ﴿فِي مِيرَاثِهِنَّ﴾ ﴿أَمْ يَفْتِيكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ﴾ ﴿و﴾ ﴿فِي﴾ ﴿الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ ﴿الصِّغَارِ﴾ ﴿مِنَ الْوَالِدَانِ﴾ ﴿أَنْ تَعْطُوهُمْ حَقُّوهُمْ﴾ ﴿و﴾ ﴿يَأْمُرُكُمْ﴾ ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ﴾ ﴿بِالْعَدْلِ﴾ ﴿فِي الْمِيرَاثِ وَالْمَهْرِ﴾ ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ ﴿فِي جَازِيكُمْ بِهِ﴾ ﴿وَإِنْ أَمْرًا﴾ ﴿مَرْفُوعٍ بِفَعْلٍ يَفْسِرُهُ﴾ ﴿خَافَتْ﴾ ﴿تَوَقَّعَتْ﴾ ﴿مِنْ بَعْلِهَا﴾ ﴿زَوْجَهَا﴾ ﴿نُشُوزًا﴾ ﴿تَرْفَعًا عَلَيْهَا﴾ ﴿بِتَرْكِ مَضَاجِعِهَا وَالتَّقْصِيرِ فِي نَفَقَتِهَا لِبُغْضِهَا وَطَمُوحِ عَيْنِهِ إِلَىٰ أَجْمَلِ مِنْهَا﴾ ﴿أَوْ إِعْرَاضًا﴾ ﴿عَنْهَا بِوَجْهِهِ﴾ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا﴾ ﴿فِيهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الصَّلِّ فِي الصَّادِ وَفِي قِرَاءَةِ يُصْلِحَا مِنْ أَصْلَحَ﴾ ﴿بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ ﴿فِي الْقِسْمِ وَالنَّفَقَةِ بَانَ تَتْرَكَ لَهُ شَيْئًا طَلَبًا لِبَقَاءِ الصَّحْبَةِ فَإِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُوْفِيَهَا حَقَّهَا أَوْ يَفَارِقَهَا﴾ ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ ﴿مِنَ الْفِرْقَةِ﴾

والنشوز والإعراض . قال تعالى في بيان ما جبل عليه الانسان ﴿ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴾ شدة البخل أى جبلت عليه فكأنها حاضرته لا تغيب عنه، المعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها والرجل لا يكاد يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها ﴿ وَإِنْ تَحْسَنُوا ﴾ عشرة النساء ﴿ وَتَتَّقُوا ﴾ الجور عليهن ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ فيجازيكم به ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا ﴾ تسووا ﴿ بَيْنَ النِّسَاءِ ﴾ فى المحبة ﴿ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ على ذلك ﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ ﴾ إلى التى تحبونها فى القسم والنفقة ﴿ فَتَذَرُوهَا ﴾ أى تتركوا الممّال عليها ﴿ كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ التى لاهى أيم ولاهى ذات بعل ﴿ وَإِنْ تَصَلِحُوا ﴾ بالعدل بالقسم ﴿ وَتَتَّقُوا ﴾ الجور ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا ﴾ لما فى قلوبكم من الميل ﴿ رَحِيمًا ﴾ بكم فى ذلك ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا ﴾ أى الزوجان بالطلاق ﴿ يُغْنِ اللَّهُ كَلًّا ﴾ عن صاحبه ﴿ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ أى فضله بأن يرزقها زوجها غيره ويرزقه غيرها ﴿ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا ﴾ لخلقه فى الفضل ﴿ حَكِيمًا ﴾ فيما دبره لهم. ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِمَعْنَى الْكِتَابِ ﴾ من قبلكم ﴿ اى اليهود والنصارى ﴾ ﴿ وَإِيَّاكُمْ ﴾ يا اهل القرآن ﴿ أَنْ ﴾ أى بأن ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ خافوا عقابه بأن تطيعوه ﴿ وَ ﴾ قلنا لهم ولكم ﴿ إِنْ تَكْفُرُوا ﴾ بما وصيتم ﴿ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ملكاً وخلقاً وعبداً فلا يضره كفركم ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا ﴾ عن خلقه وعبادتهم ﴿ حَمِيدًا ﴾ محموداً فى صنعه بهم ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ كرهه تأكيداً لتقرير موجب التقوى ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ شهيداً بأن مافيهما له ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ ﴾ يا أيها الناس وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ﴿ بَدَلَكُمْ ﴾ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ﴾ بعمله ﴿ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ لمن أرادہ لا عند غيره فلم يطلب أحدهما إلا خس وهلا طلب الاعلى باخلاصه له حيث كان مطلبه لا يوجد إلا عنده ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

ترجمہ

(اور تم سے عورتوں) اور ان کی میراث (کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم) ان سے (کہو کہ اللہ بھی اور جو کچھ کتاب) یعنی قرآن (میں تم کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ بھی ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، ان یتیم عورتوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا) میراث میں (واجبی حصہ نہیں دیتے اور) اے اولیاء (تم ان کے ساتھ نکاح کرنے سے) ان کی بد صورتی کی وجہ سے (بے رغبت ہوتے ہو) اور ان کی میراث میں حرص کی وجہ سے ان کے نکاح میں

رکاوٹ ڈالتے ہو، اس کے متعلق اللہ کا بھی اور کتاب اللہ کا بھی فتویٰ ہے کہ ایسا نہ کرو (اور) نیز (ان کمزور لڑکوں کی نسبت بھی) فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے حقوق تم انھیں ادا کر دیا کرو (اور) حکم دیتے ہیں کہ (یتیموں کی نگہداشت) میراث اور مہر کے بارے میں (انصاف سے کیا کرو، اور جو کچھ بھی تم بھلا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتے ہیں اور اگر کسی عورت کو) امرأۃ مرفوع ہے، اس سے پہلے اس کا فعل محذوف ہے، جس کی تفسیر بعد والا فعل کرتا ہے (اپنے شوہر کی طرف سے سرکشی کا یعنی ترک مضاجعت اور نفقہ میں کوتاہی کا) اندیشہ ہو) اس لئے کہ وہ عورت اسے ناپسند ہے، اور اس سے خوبصورت کسی اور عورت پر اس کی نگاہ لگی ہوئی ہے (یا اس سے کنارہ کشی کا) اندیشہ ہو، تو (ان دونوں پر کچھ گناہ نہ ہوگا کہ وہ باہم مصالحت کر لیں) اَنْ يَّصَالَحَا میں تاء تفاعل کا صا میں ادغام ہے، اور ایک قرأت میں یُصلحا ہے باب افعال سے، یہ مصالحت باری مقرر کرنے اور نفقہ میں ہو سکتی ہے، اس طرح کہ اپنا کچھ حصہ چھوڑ دے تاکہ باہمی تعلق برقرار رہے، پس اگر وہ اس پر راضی ہو جاتی ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کا حق پورا کرے، یا اس سے جدائی اختیار کرے (اور صلح) تفریق، سرکشی اور کنارہ کشی سے (بہتر ہے) پھر اللہ نے انسان کی وہ فطرت بیان کی جو اس کی جبلت ہے (اور نفس انسانی تو ”شخ“ شدت بخل و حرص (پر جما ہوا ہے) یعنی اس پر اس کی تخلیق ہوئی ہے، گویا اس پر ہمہ وقت حاضر رہتا ہے، کبھی اس سے غائب نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے حصہ اور حق کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو، ایسا لگتا نہیں، اور شوہر بھی جب دوسرے کو چاہتا ہے تو لگتا نہیں کہ اسے اپنی ذات پر گوارا کرے گا (اور اگر تم) عورتوں کے معاملہ میں (اچھا سلوک کرو اور) ان پر سخت گیری سے (بچو تو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والے ہیں) وہ تمہیں اس کی جزا دیں گے (اور یہ بات تمہاری طاقت سے باہر ہے کہ عورتوں کے درمیان تم) محبت کرنے میں (برابری کر سکو، اگرچہ تم اس کے خواہش مند ہو، پس ایسا نہ کرو کہ تم) اس عورت کی طرف جس سے تمہیں زیادہ محبت ہے، باری مقرر کرنے اور نفقہ دینے میں (پوری طرح جھک پڑو، پس اس کو) یعنی جس پر دوسرے کو ترجیح دی جاتی ہے (اس طرح چھوڑ بیٹھو جیسے معلقہ ہے) یعنی ایسی ہے کہ نہ تو وہ بے شوہر کی ہے اور نہ شوہر والی ہے (اور اگر تم) عورتوں کی باری میں انصاف سے کام لے کر (معاملہ درست رکھو، اور) بے انصافی سے (بچو تو اللہ تعالیٰ) جو کچھ تمہارے دلوں میں ایک طرف میلان ہے اسے (بخشنے والے) تم پر اس مسئلے میں (رحم فرمانے والے ہیں، اور اگر وہ دونوں) (یعنی زوجین طلاق کو اختیار کر کے) جدا ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی) روزی کی (کشائش سے ہر ایک کو) دوسرے سے (بے نیاز کر دیں گے) عورت کو دوسرا شوہر عطا فرما دیں گے، اور شوہر کو دوسری بیوی دیدیں گے (اور اللہ تعالیٰ) اپنی مخلوق کے لئے فضل کرنے میں (بہت وسعت والے) اور ان کے لئے تدبیر و انتظام میں (حکمت والے ہیں) اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اللہ ہی کے لئے ہے اور ہم نے

یقیناً ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب (مراد کتابیں ہیں) (دی گئی) یعنی یہود و نصاریٰ کو (اور خود تم کو بھی) اے اہل قرآن (تاکید ہے کہ اللہ) کے عقاب (سے ڈرو) اور ان کی اطاعت کرو (اور) ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ (اگر تم) ان کا حکم (نہ مانو گے تو آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب) ملکیت اور خلقت اور بندگی کے لحاظ سے (اللہ ہی کے لئے ہے) پس تمہارے کفر سے ان کو تو کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے (اور اللہ تعالیٰ) اپنی مخلوق سے اور ان کی عبادتوں سے (بے نیاز قابل حمد ہیں) یعنی مخلوق میں جو بھی تصرف کریں ہر حال میں محمود ہیں (اور اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے) یہ مضمون دوبارہ اس لئے ذکر کیا تاکہ تقویٰ کے سبب اور داعیہ کی تاکید ہو (اور اللہ تعالیٰ) اس بات پر (وکیل) یعنی گواہ (ہونے کے لئے کافی ہیں) کہ جو کچھ ان دونوں میں ہے ان سب کے مالک وہی ہیں) اگر وہ چاہیں تو اے لوگو! تمہیں ہٹا دیں اور تمہاری جگہ پر (دوسروں کو لے آئیں، اور اللہ ایسا کرنے پر قادر ہیں) جو کوئی) اپنے عمل سے (دنیا کا ثواب چاہتا ہے) تو اسے معلوم ہونا چاہئے کہ (اللہ ہی کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا ثواب ہے) جس کو وہ دینا چاہے، دوسرے کسی کے پاس نہیں ہے، پس ادنیٰ درجے کا ثواب کیوں چاہتا ہے، اللہ کے لئے اخلاص اختیار کر کے اعلیٰ درجے کے ثواب کا امیدوار کیوں نہیں ہوتا، جب کہ اس کا مقصد ان کے علاوہ اور کہیں نہیں حاصل ہو سکتا (اور وہ سب کچھ سننے والے دیکھنے والے ہیں)

﴿تشریحات﴾

ومیراثهن: یہ سوال عورتوں کے عام حقوق کے متعلق ہے، مگر خصوصیت سے انہیں میراث دینے کی بات پوچھنی تھی۔

آیة المیراث: اس سے مراد یو صیکم اللہ فی اولادکم والی آیت ہے (سورۃ النساء: ۱۲/۱۱)

وترغبون ایہا الاولیاء عن الخ: حضرت مفسر نے وترغبون کا صلہ عن مقدر مانا ہے، مطلب یہ ہے کہ یتیم بچی ہے مگر وہ بد صورت ہے، اس کی بد صورتی کی وجہ سے اس کا سر پرست، جس کی پرورش میں وہ باپ کے مرنے کے بعد رہی ہے، اور وہ اس کا محرم نہیں ہے، مثلاً چچا زاد بھائی، وہ اس کو اپنے نکاح میں لانا نہیں چاہتا، مگر دوسری جگہ نکاح کرے گا تو وہ اپنا مال وراثت لے کر چلی جائے گی، اس ڈر سے وہ اس کے نکاح میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور خود اپنے نکاح میں بھی نہیں لاتا، اس طرح وہ اس یتیم بچی کو تنگ کرتا ہے، یہ مفسر کی تفسیر کا حاصل ہوا۔

ایک اور طرح سے بھی اس کی تفسیر ہے، وہ یہ کہ ترغبون کا صلہ فی ہو، یعنی تم اے سرپرستو! ان کو اپنے نکاح میں اس لئے لانا چاہتے ہو کہ ان کا مال میراث تمہاری ہی طرف آجائے، اور چونکہ وہ تمہارے اختیار میں ہیں، اس لئے مہر بہت کم دینا چاہتے ہو، ان دونوں تفسیروں کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت

سے ہوتی ہے، جسے امام مسلم نے نقل کیا ہے، انھوں نے فرمایا کہ:

”یہ آیت اس یتیم خاتون کے بارے میں نازل ہوئی، جو اپنے ولی کی سرپرستی میں ہے، اور وہ اس کے مال اور جمال کی وجہ سے اس سے نکاح کی رغبت رکھتا ہے، اور چاہتا ہے کہ مہر گھٹا کر دے، تو انھیں اس طرح کے نکاح سے منع کیا گیا، کہ یا تو مہر پوری دو ورنہ دوسری جگہ نکاح کر دو، فرماتی ہیں کہ لوگوں نے اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا، تب یہ آیت اتری، اور وہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ یتیم عورت کبھی مال و جمال میں کم ہوتی تھی تو اس سے ولی نہ نکاح کرتا تھا اور نہ دوسرے سے نکاح کرنے دیتا تھا۔ (مسلم شریف: کتاب التفسیر)

ان دونوں تفسیروں سے مجموعی طور پر معلوم ہوا کہ مال کی خواہش میں اپنے زیر سرپرستی یتیم عورتوں سے اس لئے نکاح کرنا کہ مہر میں کمی کر دی جائے، یا اگر وہ بد صورت ہیں تو اس سے خود نکاح نہ کرنا، اور دوسروں سے بھی نکاح نہ کرنے دینا کہ وہ مال لے کر چلی جائے گی، یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔

لدمامتھن: دم باب ضرب اور سمع سے ہے، اور ایک لغت میں باب کرم سے بھی ہے، دمامة بالفتح بد صورت ہونا اور قد اور جسامت کا کم ہونا، غالباً یہ دِمَّة سے ماخوذ ہے جس کے معنی چیونٹی کے ہیں۔

امے یفتیکم أن لاتفعلوا ذلک: یعنی وہ سب کام جو پہلے ذکر کئے گئے، یعنی میراث کا نہ دینا، نکاح سے اعراض کرنا، نکاح میں رکاوٹ ڈالنا، انھیں مت کرو۔

مرفوع بفعل یفسره خافت: وإن امرأةٌ میں امرأةٌ فاعل ہے، اس کا فعل محذوف واجب الحذف ہے، کیونکہ اس کی تفسیر کے لئے بعد میں خافت موجود ہے، امرأةٌ کو مبتدا نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ إن حرف شرط ہے، وہ بہر حال فعل پر داخل ہوتا ہے اسم پر نہیں، پس وہاں خافت مقدر ہے، اور إن کا مدخول وہی ہے۔
ترفعاً علیہا: یہ نشوز اگی تفسیر ہے، یعنی عورت پر سرکشی کرنا۔

بترک مضاجعتہا: یہ نشوز اور اعراض کی صورت بتائی ہے، کہ عورت کے ساتھ سونا چھوڑ دے، اس کے نفقے میں تنگی کرے، اسے ناپسند کرے، کوئی اور عورت نگاہ میں چڑھی ہوئی ہو۔

فیہ ادغام الناء: یہ لفظ باب تفاعل سے ہے، کبھی تفاعل کی تا کا فاعل میں ادغام کر دیا جاتا ہے جبکہ فاعل کلمہ صاد، ضاد، طاء، طاء، ہو، صاحب منشعب نے اسے ایک مستقل باب شمار کیا ہے، افاعل۔ مفسر کی قرأت یصلحاً ہے، دوسری قرأت یصلحاً ہے، باب افعال ہے۔

فی القسم والنفقة بان تترک له شیئاً: شوہر اور بیوی میں مصالحت کی صورت یہ ہے کہ عورت اپنے کسی حق سے دستبرداری اختیار کر لے، اس میں کچھ کمی کر دے، مثلاً اس کے پاس شوہر کے رہنے کی جو باری از روئے شرع انصاف کی ہے، اسے چھوڑ دے دے یا اس میں کمی کر دے، اور یہ حق پورا یا کچھ دوسری بیوی کے لئے

چھوڑ دے، یا نفقہ میں کمی کر دے، یا بالکل ہی مطالبہ نہ کرے تاکہ نکاح کا تعلق باقی رہے، اس پر شوہر راضی ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اپنا حق نہ چھوڑے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کا حق ادا کرے یا طلاق دے کر جدائی اختیار کر لے۔

الشح: انسانی طبیعت کا وہ رذیلہ ہے جو شدت حرص اور شدت بخل دونوں کا مجموعہ ہے، شحیح وہ آدمی ہے جو بے حد حرص اور نہایت بخیل ہو، انسانی طبیعت میں یہ مادہ گویا گندھا ہوا ہے، اور نفس اس پر ہمہ وقت جما ہوا اور ڈٹا ہوا رہتا ہے، کبھی اس سے غائب نہیں ہوتا، تاہم نفس انسانی اصلاح کو قبول کرتا ہے، اس لئے اس جذبہ کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے۔

المعنى أن المرأة لا تكاد الخ: ”شخ“ کے اس مادہ کی وجہ سے عورت شاید اپنا حق چھوڑنا گوارا نہ کرے، اور شوہر بھی اس کا حق دینے پر راضی نہ ہو۔

لمافی قلوبکم من المیل: کئی بیویاں ہوں تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان خرچ دینے میں اور ان کے ساتھ وقت گزارنے میں مساوات کا برتاؤ کرے، اس میں کوتاہی کرے گا تو گناہگار ہوگا، الا یہ کہ کوئی عورت اپنے کسی حق سے یا اس کے کسی جز سے دستبردار ہو جائے، لیکن دل کی محبت اور لگاؤ میں برابری آدمی کی استطاعت سے باہر ہے، اس لئے اس میں کمی بیشی قابل درگزر ہے۔

بمعنى الكتب: کتاب اسم جنس ہے، اس سے تمام اہل کتاب مراد ہیں، اور آسمان سے چونکہ متعدد کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس لئے فرمایا کہ کتاب بمعنی کتب ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

عورتوں سے متعلق مسائل شروع میں بیان کئے جا چکے، بعض چیزیں رسول اللہ ﷺ سے اور پوچھی گئیں، جن میں یتیم لڑکیوں اور ان کی میراث کے مسئلے سے متعلق سوال تھا، وہ یہ کہ بسا اوقات یتیم لڑکیاں جن اولیاء کی سرپرستی میں پرورش پا رہی ہوتی ہیں، جب ان کے نکاح کا مسئلہ آتا تو ولی کبھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی وراثت کا مال کہیں اور نہ جائے، اس لئے وہ نکاح میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، یا اگر خود اس ولی کا نکاح اس یتیم سے درست ہوتا ہے، تو کم مہر پر نکاح کرنا چاہتا ہے، کہ گھر کی پٹی ہوئی لڑکی ہے، یا خود نہیں پسند کرتا، تو دوسرے سے نکاح نہیں کرنے دینا چاہتا کہ یہ اپنا مال وراثت سمیٹ کر شوہر کے یہاں چلی جائے گی۔ اس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا تو آپ کی طرف سے حق تعالیٰ نے خود جواب مرحمت فرمایا، اور عدل و انصاف کا رہتی دنیا تک کے لئے قانون بنا دیا۔

وہ یہ کہ یتیموں کی نگہداشت میں خواہ میراث کا مسئلہ ہو یا مہر کا، عدل و انصاف اور حسن نیت اور خیر خواہی

کا جذبہ اس میں کارفرما ہونا چاہئے، کوئی معاملہ زیادتی کا نہیں ہونا چاہئے، جو کچھ بھی ہوگا، اچھا یا برا سلوک وہ حق تعالیٰ کے علم و آگہی سے باہر نہ ہوگا، اس لئے جواب دہی کے احساس کو دھیان میں رکھتے ہوئے معاملہ کرو۔

پھر اگر بیوی کو اندیشہ ہو کہ شوہر اس کی حق تلفی کرے گا، یا اس سے کنارہ کش ہی ہو جائے گا، اور عورت چاہتی ہے کہ اسی شوہر کے ساتھ نباہ ہو تو آپس میں کوئی مناسب راستہ ٹھہرا کر مصالحت کر لیں، تو نہ شوہر پر کچھ گناہ ہوگا نہ بیوی پر، مثلاً یہ کہ عورت اپنے حق اور مطالبہ میں کچھ کمی کر دے، یا کسی حق کو بالکل ہی ساقط کر دے، اگر مصالحت ہو جائے، تو حق تلفی یا مفارقت سے بہتر ہے، لیکن اگر عورت اپنے کسی حق سے دستبردار ہونے یا کمی کرنے پر راضی نہیں ہے، تب دو ہی راستہ ہے، یا تو شوہر اس کا حق پورا ادا کرے یا اس سے کامل جدائی اختیار کر لے۔

نفس انسانی اپنی جبلت کے اعتبار سے حریص اور بخیل واقع ہوا ہے، اس لئے خلاف طبع اس طرح کی مصالحت گراں تو ہوگی لیکن اگر شوہر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کرے، اور عورتوں پر زیادتی کرنے سے باز رہے، تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دیں گے، حق تعالیٰ کو سب کچھ خبر ہے۔ دو بیویوں کے درمیان جہاں تک عدل و مساوات کا مسئلہ ہے، تو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ معاملات، نفقہ اور باری میں یہ مساوات ضروری ہے، لیکن دل کی محبت اور اس کے میلان میں اگر آدمی چاہے تب بھی برابری نہیں کر سکے گا، اس لئے یہ قابل درگزر ہے۔

اور اگر مجبوری دونوں کو علیحدگی ہی اختیار کرنی پڑی تو کچھ پریشانی کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دیں گے، مرد کا الگ انتظام ہو جائے گا، عورت کا الگ! اللہ تعالیٰ کے یہاں بجد وسعت ہے، اور وہ بڑے صاحب حکمت ہیں، مخلوق کے حق میں ہر تدبیر حکمت سے معمور ہوتی ہے۔

بیان احکام کے بعد تذکیر و موعظت کے پہلو پر زور دیا گیا کہ اصل شے احکام حق کی تعمیل اور استقامت و اخلاص ہے، تم سے پہلے کتنی ہی امتیں بد عملی و نافرمانی کی وجہ سے مٹ گئیں، اگر اللہ چاہے تو تمہیں بھی زندگی کے میدان سے ہٹا دے، اور تمہاری جگہ دوسروں کو کر دے، پس نافرمانی اور بد عملی سے بچو اور راہ حق میں مستقیم ہو جاؤ، دنیا و آخرت کی کامیابی اور ثواب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، جو کچھ چاہئے اسی کی رضا و خوشنودی میں تلاش کرو، اور ادنیٰ چیز کی خواہش کیوں کرو، جو اعلیٰ ہے اس کی طلب میں کوشش کرو۔



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ﴾ قَائِمِينَ ﴿بِالْقِسْطِ﴾ بِالْعَدْلِ ﴿شُهَدَاءَ﴾ بِالْحَقِّ ﴿لِللَّهِ﴾ وَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ ﴿عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا بِأَنْ تَقْرُوا

بالحق ولا تكتموه ﴿أَوْ﴾ على ﴿الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ﴾ المشهود عليه ﴿غَنِيًّا أَوْ
 فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ منكم وأعلم بمصالحهما ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ﴾ في شهادتكم بأن
 تحابوا الغنى لرضاه أو الفقير رحمة له ل ﴿أَنْ﴾ لا ﴿تَعْدِلُوا﴾ تميلوا عن الحق ﴿وَأِنْ
 تَلَّوْا﴾ تحرفوا الشهادة وفي قراءة بحذف الواو الاولى تخفيفاً ﴿أَوْ تُعْرَضُوا﴾ عن أدائها
 ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ فيجازيكم به ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا﴾ داوموا على
 الايمان ﴿بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ﴾ محمد وهو القرآن ﴿وَالْكِتَابِ
 الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾ على الرسل بمعنى الكتب وفي قراءة بالبناء للفاعل في الفعلين ﴿وَمَنْ
 يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ عن الحق ﴿إِنَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا﴾ بموسى وهم اليهود ﴿ثُمَّ كَفَرُوا﴾ بعبادة العجل ﴿ثُمَّ آمَنُوا﴾ بعده ﴿ثُمَّ كَفَرُوا﴾
 بعيسى ﴿ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا﴾ بمحمد ﷺ ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ﴾ ما أقاموا عليه
 ﴿وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ طريقاً إلى الجنة ﴿بَشِّرِ﴾ أخبري يا محمد ﴿الْمُنْفِقِينَ بَأَنَّ لَهُمْ
 عَذَابًا أَلِيمًا﴾ مؤلماً هو عذاب النار ﴿الَّذِينَ﴾ بدل أو نعت للمنافقين ﴿يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ
 أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لما يتوهمون فيهم من القوة ﴿أَيَّتَّغُونَ﴾ يطلبون ﴿عِنْدَهُمْ
 الْعِزَّةَ﴾ استفهام انكار أى لا يجدونها عندهم ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ فى الدنيا والآخرة
 ولا ينالها إلا أولياؤه ﴿وَقَدْ نَزَّلَ﴾ بالبناء للفاعل والمفعول ﴿عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ القرآن فى
 سورة الانعام ﴿أَنْ﴾ مخففة واسمها محذوف أى أنه ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ القرآن
 ﴿يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ﴾ أى الكافرين والمستهزئين ﴿حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي
 حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا﴾ ان قعدتم معهم ﴿مِثْلَهُمْ﴾ فى الاثم ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ
 وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ كما اجتمعوا فى الدنيا على الكفر والاستهزاء ﴿الَّذِينَ﴾
 بدل من "الذين" قبله ﴿يَتَرَبَّصُونَ﴾ ينتظرون ﴿بِكُمْ﴾ الدوائر ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ﴾ ظفر
 وغنيمة ﴿مِنَ اللَّهِ قَالُوا﴾ لكم ﴿أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ﴾ فى الدين والجهاد فأعطونا من الغنيمة
 ﴿وَأِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ﴾ من الظفر عليكم ﴿قَالُوا﴾ لهم ﴿أَلَمْ نَسْتَحِذْ﴾ نستول
 ﴿عَلَيْكُمْ﴾ ونقدر على أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم ﴿وَأَلَمْ﴾ ﴿نَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
 أن يظفروا بكم بتخذيهم ومراسلتكم بأخبارهم فلنا عليكم المنة قال تعالى ﴿فَاللَّهُ يُحْكُمُ
 بَيْنَكُمْ﴾ وبينهم ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ بأن يدخلكم الجنة ويدخلهم النار ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿﴾ طریقاً بالاستیصال۔

ترجمہ

(اے مسلمانو! ایسے ہو جاؤ کہ انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لئے) سچی (گواہی دینے والے ہو، گو کہ) وہ گواہی (خود تمہارے خلاف ہو) تب بھی سچی گواہی دو، یعنی اعترافِ حق کر لو، اور اسے مت چھپاؤ (یا والدین کے خلاف ہو یا قرابت داروں کے خلاف، اگر وہ) شخص جس کے خلاف تمہیں گواہی دینی ہے (مال دار ہے یا محتاج ہے تو اللہ) تم سے زیادہ (ان پر مہربانی فرمانے والے ہیں) اور تم سے زیادہ ان کی مصلحتوں کی خبر رکھتے ہیں (پس) شہادت دینے میں (ہوئے نفس کی پیروی مت کرو) کہ مالدار کی رضامندی کے خیال سے اس کی جانب داری کرنے لگو، یا غریب کی غربت پر ترس کھا کر اس کی رعایت کرنے لگو ایسا نہ ہو (کہ حق سے منحرف ہو جاؤ، اور اگر تم گواہی دینے میں گول مول بات کرو گے) یعنی تحریف کرو گے، ایک قرأت میں تلو واپہلے واو کے حذف کے ساتھ ہے (یا) اس کی ادائیگی سے (پہلو تہی کرو گے، تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والے ہیں ۵ مسلمانو! اللہ پر ایمان لاؤ) یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو (اور اس کے رسول پر) ایمان لاؤ (اور ان کی کتاب پر) ایمان لاؤ (جو ان کے رسول) محمد ﷺ (پر نازل کی گئی) جو کہ قرآن ہے (نیز ان کتابوں پر جو اس سے پہلے) دوسرے رسولوں پر (نازل کی گئیں) کتاب بمعنی کتب ہے، اور ایک قرأت میں دونوں فعل، فعل معروف ہیں (اور جس کسی نے انکار کیا، اور ان کے فرشتوں اور ان کی کتابوں اور ان کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھا، تو وہ بھٹک کر حق کی راہ سے) بہت دور جا پڑا ۵ بے شک وہ لوگ جو) موسیٰ علیہ السلام پر (ایمان لائے) اور وہ یہود ہیں (پھر) کچھڑے کی عبادت کر کے (کافر ہوئے، پھر) اس کے بعد (ایمان لائے، پھر) عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ (کفر کیا، پھر) حضرت محمد ﷺ کا انکار کر کے (کفر میں بڑھتے گئے، تو) جب وہ اس پر قائم ہیں (اللہ تعالیٰ انھیں بخشنے والے نہیں، اور نہ انھیں کوئی راستہ دکھائیں گے) مراد حق کا راستہ ہے، اے محمد! (تم منافقوں کو خوش خبری سنادو) یعنی خبر دے دو (کہ بلاشبہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے) الیم بمعنی مولم، وہ آگ کا عذاب ہے (وہ جو) الذین یا تو منافقین سے بدل ہے یا اس کی صفت ہے (مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور مددگار بناتے ہیں) اس خیال سے کہ انھیں طاقت و شوکت حاصل ہے (کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس عزت ملے) یہ استفہام انکاری ہے، یعنی عزت ان کے پاس نہیں پائیں گے، وہ اگر ایسا سوچتے ہیں (تو) سن لیں کہ (جتنی بھی عزت ہے سب اللہ ہی کے لئے ہے) دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ انھیں کو ملے گی جو اللہ کے اولیاء ہیں (اور اللہ تم پر کتاب میں) یعنی قرآن میں سورہ انعام کے اندر (نازل کر چکے ہیں کہ جب تم سنو) اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ فِيْ اَنْ مَّخْفٍ هُوَ، اور اس کا اسم محذوف ہے یعنی اَنْہ (کہ

اللہ کی آیات) یعنی قرآن (کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، تو تم ان کے ساتھ) یعنی کافروں اور ہنسی اڑانے والوں کے ساتھ (مت بیٹھو، جب تک وہ اس کے علاوہ دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں) اگر تم ان کے ساتھ بیٹھا کرو گے (تو تم بھی) گنہگاری میں (انہیں کی طرح ہو جاؤ گے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں اکٹھا کریں گے (جیسا کہ وہ دنیا میں کفر پر اور استہزاء پر مجتمع ہیں) (وہ لوگ) یہ الذین ما قبل کے الذین سے بدل ہے (جو تمہارے اوپر) گردش زمانہ کا (انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہارے حق میں اللہ کی طرف سے فتح) کامیابی (ہوتی ہے) اور مالِ غنیمت ملتا ہے (تو کہتے ہیں کہ کیا ہم) دین میں اور جہاد میں (تمہارے ساتھ نہ تھے) تو ہمیں مالِ غنیمت میں حصہ ملنا چاہئے (اور اگر کافروں کے لئے) تم پر فتح و ظفر کا (کوئی حصہ ہوتا ہے، تو) ان سے (کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں آچکے تھے) اور ہم تم کو پکڑنے اور قتل کرنے پر کیا قدرت نہیں پاچکے تھے، مگر کیا ہم نے تم پر رحم نہیں کیا (اور کیا تم کو مسلمانوں سے بچا نہیں لیا) یعنی ان کی مدد ترک کر کے، اور تمہارے پاس ان کی خبریں پہنچا کر انہیں کامیاب ہونے نہ دیا، اور تمہیں بچالیا، پس ہمارا تم پر احسان ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں (بس اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان) اور ان کے درمیان (قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے) کہ تم کو جنت میں اور ان کو جہنم میں داخل کریں گے (اللہ تعالیٰ کافروں کو اہل ایمان کے خلاف) انہیں بالکل ہی ختم کر دینے کا (کوئی راستہ نہ دیں گے)

﴿ تشریحات ﴾

قائمین: قواماً مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی انصاف کا ہمیشہ اہتمام رکھو، جو ایک یا دو مرتبہ انصاف کا معاملہ کر دے، اسے قوام نہیں کہا جائے گا، قوام بالقسط وہ ہے جو اس صفت کے ساتھ مسلسل متصف ہے۔

ولو كانت الشهادة: ولو علیٰ أنفسکم میں مصنف نے ذکر کیا ہے کہ کان فعل ناقص اور اس کا اسم محذوف ہے، کیونکہ حرف شرط ہے، اور حرف شرط کے لئے فعل درکار ہے، اور اس شرط کا جواب محذوف ہے جسے مفسر نے اپنی عبارت میں بیان کیا ہے، فاشہدوا علیہا۔

بأن تقرؤا: اپنے خلاف گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر جو دوسرے کا حق ہے اس کا اعتراف کرے، اور اسے نہ چھپائے۔

بأن تحابوا الغنی: کبھی آدمی سرمایہ دار کے خلاف گواہی دینے سے اس لئے ہچکچاتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا، اس کی خوشامد میں آدمی سچی گواہی سے پہلو تہی کرتا ہے، اور کبھی غریب آدمی کے خلاف گواہی دینے سے اس کی غربت و بے چارگی پر ترس کھا کر ہچکچاتا ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی ہو، اللہ اس پر تم سے زیادہ مہربان ہے، بس جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسے پورا کرو۔

تحر فوا : وإن تلوا، لوی یلوی لیاً کے معنی مروڑنے اور موڑنے کے ہیں، یعنی شہادت ادا کرنے میں اگر زبان کو مروڑو گے، یہ کنایہ ہے بات بدلنے سے، اسی کو مفسر نے تحر فوا کہا ہے، یعنی شہادت دینے میں صحیح بات کو بگاڑو گے۔

داوموا : مسلمانوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جانا بظاہر یہ تحصیل حاصل ہے؟ مفسر نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پر دوام اختیار کرو، اس میں رخنہ اور فتور نہ آئے۔

بموسیٰ و ہم الیہود : آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے، وہ یہود ہیں، اولاد وہ ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، پھر پچھڑے کی پوجا کر کے کفر میں جا گئے، پھر توبہ کر کے ایمان میں داخل ہوئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تو ان کے منکر ہو کر کافر ہوئے، اور اب جب کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کا دور آیا تو کفر میں مزید آگے بڑھ گئے، تو جب تک اس کفر پر جمے رہیں گے، حق تعالیٰ کی مغفرت اور ہدایت سے محروم رہیں گے، مفسر نے اس آیت کا مصداق یہود کو قرار دیا ہے، لیکن دوسرے مفسرین نے اس کا مصداق منافقین کو بتایا ہے کہ یہ اولاً اپنی قوم کو ایمان لاتا دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے، پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمانوں کا غلبہ دیکھ کر ایمان ظاہر کیا، اس کے بعد کفر پر خاتمہ ہوا، تو اس حال میں ان کی بخشش نہیں ہے، مرنے سے پہلے یہ لوگ دین کو کھیل تماشا بنائے ہوئے تھے، اس لئے حق کی راہ سے محرومی ہی ان کا نصیب ہے۔

أخبر : بشر میں خوش خبری کا مفہوم ہے، مفسر نے أخبر سے اس کی تفسیر کر کے بتایا ہے یہ مطلق خبر کے معنی میں ہے، بلکہ اس میں انذار کا معنی ہے، اسے بشارت بطور تہکم کے کہا گیا ہے۔

فی سورة الانعام : وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (آیت: ۶۸)

الدوائر : دائرہ کی جمع ہے، وہ مصائب و تکالیف جو زمانہ میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، شارح کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین مسلمانوں کے اوپر حوادث و آفات کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ مضمون فی الجملہ درست ہے، مگر قرآن کریم نے جو تفصیل بیان کی ہے کہ اگر مسلمانوں کو کامیابی ہوتی ہے، تو ادھر آجاتے ہیں، اگر کسی قدر کفار کے حق میں پانسہ پلٹتا ہے تو اس طرف ڈھلک جاتے ہیں، اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مطلق حالات کے منتظر رہتے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، فتح مند ہوتے ہیں یا ناکام!

من الظفر علیکم : کافروں کی مراد حاصل ہوتی ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ نے ”نصیب“ سے تعبیر کیا ہے، جس کی تفسیر میں من الظفر علیکم کہا گیا، یعنی کامیابی کا کچھ حصہ، من تبعیضیہ ہے، اور مسلمانوں کے لئے ”فتح“ فرمایا، کیونکہ فتح و ظفر مطلقاً دنیا و آخرت میں اہل ایمان ہی کا حصہ ہے، اور کفار کی کامیابی ایک جزوی اور عارضی

ہوتی ہے، جس کے لئے بقاء نہیں ہے۔

ألم ﴿نمنعکم﴾ : نمنعکم کا عطف نستحوذ پر ہے، اسی لئے وہ بھی مجزوم ہے، مفسر نے (ألم) کا اضافہ کر کے اس کی صراحت کر دی ہے۔

طریقاً بالاستیصال : یہ عبارت ایک اشکال کا جواب ہے، جو بظاہر آیت پر وارد ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے کفار کے غلبہ کی مطلقاً نفی فرمادی ہے، حالانکہ بسا اوقات کفار کا مسلمانوں پر تسلط ہوتا ہے، مفسر نے فرمایا کہ سبب لگی جو نفی کی ہے، اس سے مراد بالکل ختم کر دینے کی سبیل ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کفار کو ایسا غلبہ مومنین پر حاصل ہو جائے کہ ان کا بالکل خاتمہ ہو جائے۔

اس سلسلے میں ایک قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے، وہ یہ کہ اس سے مراد قیامت کے دن کا غلبہ ہے، اور اس کا قرینہ سیاق آیت ہے: فرمایا: فاللہ یحکم بینکم یوم القیمة اس کے بعد فرمایا: لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سببلاً، یعنی قیامت کے دن ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ کفار کو مسلمانوں پر ذرا بھی فوقیت اور ترجیح حاصل ہو جائے۔

أبقینا علیکم : ترس کھانا، رحم کرنا۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ تم قوم بالقسط رہو، یعنی حق و انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور گواہی محض اللہ ہی کی خوشنودی کے لئے، اللہ کی ہدایت کے مطابق ادا کرو، دنیا کی کوئی چیز تمہیں سچی گواہی سے روک نہ سکے خواہ کسی معاملے میں خود اپنے خلاف یا والدین کے خلاف، یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے، کسی کے نفع کا خیال کر کے غلط گواہی نہ دو، خواہ صاحب معاملہ صاحب ثروت ہو یا تنگ دست فقیر ہو، اللہ سب کے حال پر مہربان ہیں، مگر جو قانون ہے سچی گواہی کا، اس میں کسی کی کوئی حالت مانع نہیں ہونی چاہئے، نہ امیر کی دولت نہ فقیر کی غربت!

اور جب گواہی دینی ہو تو صاف صاف سچائی کو ظاہر کرو، بات کو توڑ مروڑ کر نہ بیان کرو کہ حقیقت مشتبہ ہو جائے، اور نہ گواہی دینے میں پہلو تہی اور سستی کرو۔

ایمانی اخلاق و اعمال پر زور دینے کے بعد حق تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح کی کہ ان اخلاق و اعمال کی بنیاد اور ان کا سرچشمہ ایمان پر استقامت ہو، آدمی اس پر مضبوطی سے جمار ہے، غیبی حقائق پر ایمان، اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، قرآن کریم پر، اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں پر! ان کا انکار کرنے والا کبھی راہ یاب نہیں ہو سکتا، وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہی رہے گا۔

اور جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک بار ایمان لائے، پھر پلٹ گئے، پھر ایمان کا اظہار کیا، اور پھر پلٹ گئے، اور کفر میں آگے ہی بڑھتے گئے، وہ اللہ کی مغفرت اور ہدایت سے محروم ہیں، ان سے مراد یا تو یہود ہیں یا منافقین ہیں، انھوں نے دین و ایمان کو کھیل بنا لیا، اس لئے محرومی ان کی قسمت ہو گئی۔

منافقین کے دلوں میں چونکہ ایمان نہیں ہے، اس لئے انھیں مسلمانوں کی کامیابی پر اعتماد نہیں ہے، پس وہ کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں کہ جب ان کا غلبہ ہوگا، تو یہ منافقین بھی غلبہ و عزت میں شریک ہوں گے، انھیں بتادو کہ ان کے لئے دردناک عذاب تیار ہے۔

پھر مسلمانوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس قسم کے لوگ اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی تعلیم اور وعدہ و وعید کا مذاق اڑاتے ہیں، تو جب اس طرح کی باتیں سنو، تو ان کے پاس نہ بیٹھو، اور اگر پہلے سے اس مجلس میں موجود ہو تو اٹھ جاؤ، اگر اس طرح کی مجلسوں میں تم بھی شریک رہے تو گناہ گاری میں انھیں کے شریک حال ہو جاؤ گے، ہاں جب وہ دوسری باتوں میں لگیں تو بیٹھ سکتے ہو، ان نام کے مسلمانوں اور دل کے کافروں کو اور کھلم کھلا کافروں کو حق تعالیٰ جہنم میں یکجا کر دیں گے۔

وہ الگ تھلگ رہ کر واقعات کی رفتار دیکھتے ہیں، اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، تو فتح کے فائدوں میں حصہ دار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور کفار کو کسی قدر کامیابی میں حصہ مل جاتا ہے تو ان سے جاملتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر لڑائی میں ہم تمہارے ساتھ نہ ہوتے اور تمہیں نہ بچاتے تو مسلمان تمہارا خاتمہ ہی کر دیتے۔

خیر جو چاہیں کریں، قیامت کے دن سب فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ کفار مسلمانوں پر بالکل ہی غالب آجائیں، اللہ تعالیٰ ایسا موقع نہ دیں گے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں!



﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ﴾ باظہارہم خلاف ما ابطنوہ من الکفر لیدفعوا عنہم احکامہ الدنیویۃ ﴿وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ مجاز یہم علیٰ خداعہم فیفتضحون فی الدنیا باطلاع اللہ نبیہ علی ما ابطنوہ و یعاقبون فی الآخرة ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ﴾ مع المؤمنین ﴿قَامُوا كَسَالِي﴾ متشاقلین ﴿يُرَآؤْنَ النَّاسَ﴾ بصلاتہم ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ﴾ یصلون ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ ریاء ﴿مُذَبِّبِينَ﴾ مترددین ﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾ الکفر والایمان ﴿لَا﴾ منسوبین ﴿إِلَى هَوْلَاءِ﴾ ای الکفار ﴿وَلَا إِلَى هَوْلَاءِ﴾ ای المؤمنین ﴿وَمَنْ يُضِلِّ﴾ ہ ﴿اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ طریقاً إلى الحق ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا

لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ ﴿۱۰﴾ بِمَوَالِيهِمْ ﴿۱۱﴾ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿۱۲﴾ بَرَهَانًا بَيِّنًا عَلَىٰ نِفَاقِكُمْ ﴿۱۳﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ ﴿۱۴﴾ الْمَكَانِ ﴿۱۵﴾ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴿۱۶﴾ وَهُوَ قَعْرُهَا ﴿۱۷﴾ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿۱۸﴾ مَانِعًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿۱۹﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴿۲۰﴾ مِنَ النِّفَاقِ ﴿۲۱﴾ وَأَصْلَحُوا ﴿۲۲﴾ عَمَلُهُمْ ﴿۲۳﴾ وَاعْتَصَمُوا ﴿۲۴﴾ وَثَقُوا ﴿۲۵﴾ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ ﴿۲۶﴾ لِلّٰهِ ﴿۲۷﴾ مِنَ الرِّبَاءِ ﴿۲۸﴾ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۹﴾ فِيمَا يُوْتَوْنَهُ ﴿۳۰﴾ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۱﴾ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْجَنَّةُ ﴿۳۲﴾ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ ﴿۳۳﴾ نِعْمَهُ ﴿۳۴﴾ وَآمَنْتُمْ بِهِ ﴿۳۵﴾ وَالاسْتَفْهَامَ بِمَعْنَى النِّفَى ، أَى لَا يَعَذِّبُكُمْ ﴿۳۶﴾ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا ﴿۳۷﴾ لِأَعْمَالِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْإِثَابَةِ ﴿۳۸﴾ عَلِيمًا ﴿۳۹﴾ بِخَلْقِهِ

﴿لَا يَحِبُّ اللّٰهُ﴾ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ﴿۱﴾ مِنْ أَحَدٍ أَى يَعَاقِبُهُ عَلَيْهِ ﴿۲﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ﴿۳﴾ فَلَا يُوَ أَخِذَهُ بِالْجَهْرِ بِهِ بَأَن يَخْبَرَ عَنِ ظَلَمِ ظَالِمِهِ وَيَدْعُو عَلَيْهِ ﴿۴﴾ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا ﴿۵﴾ لَمَّا يُقَالُ ﴿۶﴾ عَلِيمًا ﴿۷﴾ بِمَا يُفْعَلُ ﴿۸﴾ إِنَّ تَبَدُّوا ﴿۹﴾ تَظَهَّرُوا ﴿۱۰﴾ خَيْرًا ﴿۱۱﴾ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ ﴿۱۲﴾ أَوْ تَخَفُوهُ ﴿۱۳﴾ تَعْمَلُوهُ سِرًّا ﴿۱۴﴾ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ ﴿۱۵﴾ ظَلَمَ ﴿۱۶﴾ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ﴿۱۷﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ ﴿۱۸﴾ بَأَن يُؤْمِنُوا بِهِ دُونَهُمْ ﴿۱۹﴾ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ الرِّسَالِ ﴿۲۰﴾ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ مِنْهُمْ ﴿۲۱﴾ وَيُرِيدُونَ أَن يُتَّخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ ﴿۲۲﴾ الْكُفْرَ وَالْإِيمَانَ ﴿۲۳﴾ سَبِيلًا ﴿۲۴﴾ طَرِيقًا يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ ﴿۲۵﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا ﴿۲۶﴾ مَصْدَرٌ مُّؤَكَّدٌ لِمُضْمَرِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ ﴿۲۷﴾ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿۲۸﴾ ذَا إِهَانَةٍ ، وَهُوَ عَذَابُ النَّارِ ﴿۲۹﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ﴿۳۰﴾ كُلَّهُمْ ﴿۳۱﴾ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ ﴿۳۲﴾ بِالْبَيِّاتِ وَالنَّوْنِ ﴿۳۳﴾ أَجُورَهُمْ ﴿۳۴﴾ ثَوَابِ أَعْمَالِهِمْ ﴿۳۵﴾ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا ﴿۳۶﴾ لِأَوْلِيَاءِ ﴿۳۷﴾ رَحِيمًا ﴿۳۸﴾ بِأَهْلِ طَاعَتِهِ

﴿ترجمہ﴾

(بلاشبہ منافقین) اپنے دل میں کفر کو چھپا کر، جو اس مقصد سے ایمان ظاہر کرتے ہیں کہ ان پر کفر کے دنیوی احکام لاگو نہ ہوں، تو ایسا کر کے وہ (اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ انہیں دھوکہ میں مبتلا کئے ہوئے ہے) یعنی ان کی فریب دہی کے عوض میں انہیں اس کی سزا دے رہے ہیں، تو ان کی اس وقت دنیا میں ہی رسوائی ہوگی، جب کہ ان کے دل کے چھپے ہوئے چور پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اطلاع بخش دیں گے، اور اس وقت بھی رسوائی ہوگی، جب آخرت میں مبتلائے عذاب ہوں گے (اور جب وہ) اہل ایمان کے ساتھ (نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی) اور سستی (کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور محض لوگوں کو) اپنی نماز کا (دکھاوا کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر برائے نام) یعنی بہت تھوڑی نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی ریاکاری کی (یہ

اس (کفر اور ایمان) کے درمیان تردد میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ان (کفار) کی طرف ہیں اور نہ ان (مومنین) کی طرف، اور جو کوئی ایسا ہو کہ اللہ ہی اسے گمراہی میں ڈال دے، اس کے لئے تم ہرگز (ہدایت کا) راستہ نہ پاؤ گے۔ اے ایمان والو! مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق و مددگار نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ دلی تعلق رکھ کر (اللہ کا صریح الزام اپنے اوپر لے لو) یعنی اپنے نفاق پر صریح دلیل پیش کر دینا چاہتے ہو (بلاشبہ! منافقوں کا ٹولہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا) وہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے (اور ان کا مددگار کسی کو بھی نہ پاؤ گے) یعنی عذاب سے بچانے والا (مگر ہاں جن لوگوں نے) نفاق سے (توبہ کر لی، اور) اپنے عمل کو (درست کر لیا، اور اللہ پر مضبوط اعتماد کر لیا اور اپنے دین کو) ریا اور دکھاوا سے (خالص کر لیا، تو) جو کچھ ملے گا، اس میں (وہ اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے) اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں (آخرت میں اور وہ جنت ہے) (اگر تم) اللہ کی نعمتوں کا (شکر کرو اور ان پر ایمان رکھو تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے) یہ استفہام نفی کے معنی میں ہے، یعنی تمہیں عذاب نہیں دیں گے (اللہ تعالیٰ) اہل ایمان کو ثواب عطا فرما کر ان کے کاموں کی (قدر کرنے والے) اپنی مخلوق کا (علم رکھنے والے ہیں) اللہ کو پسند نہیں کہ کسی کی طرف سے (برائی کو پکار کر کہا جائے، مگر یہ کہ کسی پر ظلم کیا جائے) تو اس کو پکار کر کہنے کا مضائقہ نہیں، کہ ظالم کے ظلم کو بتائے، اور اس کو بددعا کرے (اور) جو کچھ کہا اور کیا جاتا ہے اسے (اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں) اگر تم) نیک اعمال میں سے (کسی خیر کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ) یعنی پوشیدہ طور پر کرو (یا کسی برائی) ظلم سے (درگزر کرو، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے قدرت والے ہیں) بے شک وہ جو اللہ کا اور ان کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور ان کے رسولوں کے درمیان تفرقہ کریں) کہ اللہ پر ایمان لائیں، اور رسولوں کا انکار کریں (اور کہتے ہیں کہ ہم) ان میں سے (بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے) یعنی کفر اور ایمان کے (درمیان کوئی راہ اختیار کریں) جس پر چلیں (تو ایسے ہی لوگ یقیناً کافر ہیں) حقاً ماقبل کے مضمون جملہ کی تاکید کے لئے مصدر یعنی مفعول مطلق ہے (اور ہم نے کافروں کے واسطے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے) وہ آگ کا عذاب ہے (اور جو لوگ اللہ پر اور ان کے) تمام (رسولوں پر) ایمان لائے، اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی، تو یہی لوگ ہیں کہ عنقریب ہم انھیں ان کا اجر) یعنی ان کے اعمال کا ثواب (عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ) اپنے اولیاء کی (مغفرت کرنے والے) اپنے اہل طاعت پر (رحم کرنے والے ہیں)

تشریحات

بإظهارهم خلاف ما أبطنوه : سوال: کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ یہاں یخادعون اللہ فرما دیا گیا؟

جواب: اللہ کو کوئی دھوکہ دے، یہ تو ممکن نہیں، لیکن ایسی کوئی حرکت کی جائے جیسے دھوکہ دینے میں کی جاتی ہے، تو اس کو دھوکہ دینے سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، منافقین کی حرکت ایسی ہے، جیسے وہ دھوکہ دینا چاہتے ہوں، اسی کو مفسر نے فرمایا باظہار ہم الخ یعنی جو کچھ انھوں نے دل میں چھپا رکھا ہے زبان سے اس کے خلاف ظاہر کرتے ہیں، اور آدمی دھوکہ کسی کو اسی طرح دیتا ہے کہ اس سے کہتا کچھ ہے اور دل میں کچھ اور رکھ کر دوسرا ہی معاملہ کرتا ہے۔

لیدفعوا عنہم احکامہ الدنیویۃ: منافقین ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ کا معاملہ کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ماحول اور معاشرہ میں رہتے ہیں، اگر یہاں وہ کھلم کھلا کفر ظاہر کریں تو قانون اسلام کی رو سے ان کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ کیا جائے گا، اس طرح وہ اپنے ماحول و معاشرہ سے کٹ کر رہ جائیں گے، اور اگر کل مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، جس کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو پھر یہ کہیں کے نہ رہیں گے، اس لئے مسلمانوں میں ملے جلے رہنا چاہتے ہیں۔

مجازیہم علیٰ خدا عہم: بظاہر خدا عہم پر بھی اشکال ہوتا ہے، کہ دھوکے کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کی گئی؟ مفسر نے فرمایا یہ درحقیقت ان کے دھوکے کی سزا ہے، اسے بھی بطور مشاکلت کے وہی نام دے دیا گیا، جو جرم کا نام تھا، جیسے فرمایا گیا ہے: وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی ہے، اسی جیسی! ظاہر ہے کہ برائی کے بدلہ میں جو سزا دی جاتی ہے، وہ برائی نہیں ہوتی، لیکن برائی کی ہم شکل ضرور ہوتی ہے، اسی لئے اس کو برائی سے تعبیر کر دیتے ہیں، اسی طرح ان کے دھوکے کے بدلے میں جو سزا دی گئی ہے، وہ خود دھوکہ نہیں ہے، مگر اس کے ہم شکل ضرور ہے، کیونکہ انھیں ابھی مہلت دی جا رہی ہے، اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن جب نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ ان کی اندرونی حالت کی اطلاع بخشیں گے تو ان کی بڑی رسوائی ہوگی، اور آخرت میں جب درکِ اسفل میں گریں گے تو اس وقت بھی ہوگی اور جسمانی و روحانی عذاب بھی ہوگا۔ تو بظاہر ان کے حق میں دھوکہ ہی کی شکل ہے کہ آج مطمئن ہیں مگر کل معلوم ہوگا کہ ان کا مطمئن ہونا دھوکا تھا۔

فائدہ: صاحب فتوحاتِ الہیہ نے منافق کی وجہ تسمیہ لکھی ہے، وہ قابل ملاحظہ ہے، لکھتے ہیں:

”منافق کو منافق اس لئے کہتے ہیں کہ یہ لفظ نافع الیربوع سے ماخوذ ہے، جنگلی چوہے کی

بل، یہ چوہا اپنی بل میں دو سوراخ رکھتا ہے، ایک سے داخل ہوتا ہے، تو دوسرے سے نکل جاتا ہے، اسی طرح منافق بھی اہل ایمان میں یہ کہہ کر گھس جاتا ہے کہ میں بھی صاحب ایمان ہوں، اور کفار کی طرف نکل جاتا ہے یہ کہہ کر کہ میں بھی تمہیں لوگوں کے ساتھ ہوں۔

جنگلی چوہے کے بل کے نام تین ہیں۔ نافع۔ سامیاء۔ دامیاء۔ سامیاء وہ بل ہے جس میں

چوہا بچے دیتی ہے۔ دامیاء وہ ہے جس میں چوہا رہتا ہے۔ اور نافع وہ ہے جس میں دونوں رہتے ہیں۔

متشاقلین: کسالی، کسل سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سستی اور کاہلی کے ہیں، گسلی کی جمع کسالی ہے، متشاقل، ثقل سے مشتق ہے، بوجھل ہونا کہ زمین سے اٹھ نہ سکے، وہی سستی کا مفہوم ہے۔

یصلون: لایذکرون اللہ کی تفسیر میں لایصلون لاکر اشارہ کیا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، نماز ذکر کا فرد اعظم ہے۔

وهو قعرها: درک اسفل جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے، جہنم کے سات طبقات ہے۔ پہلا طبقہ جہنم کے نام سے موسوم ہے، یہ گنہگار اہل ایمان کیلئے ہے۔ دوسرا ”لظی“ ہے، نصاریٰ کا ٹھکانا۔ تیسرا ”حطمہ“ ہے، یہود کے لئے۔ چوتھا ”سعیر“ صائبین کے لئے۔ پانچواں ”سقر“ ہے، مجوس کے لئے چھٹا ”جحیم“ مشرکین کے لئے۔ ساتواں ”ہاویۃ“ منافقین کے لئے۔ (من الخازن فی سورة الحجر)

من أحد: لایحب اللہ الجہر بالسوء من القول، جہر مصدر ہے، اس کے لئے ایک فاعل چاہئے، مفسر نے اسی فاعل کو ”من أحد“ کہہ کر بیان کیا ہے، اور بالسوء، جہر کا مفعول ہے، اور من القول اس کا حال ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کی برائی علی الاعلان پکارے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ہاں البتہ مظلوم، اپنے اوپر کئے گئے ظلم کو پکار کر کہہ سکتا ہے، منافقین کے مظالم جو مسلمانوں کے حق میں ہوتے تھے، عام قانون تو یہی ہے کہ لوگوں کی برائی کا چرچا نہ کیا جائے، لیکن مسلمان مظلوم تھے، انہیں حق تھا کہ ان کے ظلم و ستم کو بیان کرتے، لیکن اس پر بھی ترغیب یہی ہے کہ درگزر کر جائیں، تو بہتر ہے، کہ اللہ تعالیٰ بھی درگزر کو پسند کرتے ہیں۔

یدعو علیہ: مظلوم آدمی ظالم کی شکایت بر ملا کر سکتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی وارد نہیں ہے، اسی طرح اگر وہ ظالم پر بددعا کرے تو یہ بھی روا ہے، لیکن بددعا اتنی ہی روا ہے جیسا ظلم ہے، ایسا جائز نہیں کہ ظلم تو ہلکا ہو اور بددعا بہت سخت ہو، مثلاً اگر کسی نے کچھ مال چھین لیا ہے، تو اس پر یہ بددعا کرنا کہ اس کا گھر بار ہلاک ہو جائے، صحیح نہیں ہے۔

مصدر مؤکد: یہ مفعول مطلق، ماقبل کے مضمون جملہ یعنی مذکورہ لوگوں کے کافر ہونے کو موکد کرنے کے لئے ہے، اس کا عامل واجب الحذف ہے، تقدیر عبارت یہ ہے اِحِقُّ ذٰلِكَ حَقًّا۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

حق تعالیٰ منافقین کی دورنگی بیان کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے اس منافقانہ طرز عمل سے اللہ کو دھوکا دینا چاہ رہے ہیں، یعنی دل میں کفر کو چھپا کر اور زبان سے اسلام ظاہر کر کے اپنے اوپر سے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو ہٹا رہے ہیں، جو کافروں پر نافذ ہوتا ہے، اس طرح وہ قانون الہی کو اور جو اس کو نافذ کرنے والے ہیں، یعنی رسول اور اہل ایمان! انہیں دھوکہ میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اور خود دھوکے میں ہیں، اللہ نے ان کے

ظاہر کی رعایت کرتے ہوئے، اہل اسلام کے ہاتھوں سے اور ان کی طاقت سے انھیں محفوظ رکھا ہے لیکن بالآخر ان کی رسوائی ہو کر رہے گی دنیا میں بھی، جب ان کا راز کھول دیا جائے گا، اور آخرت میں بھی، جب وہ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔

ان کا حال یہ ہے کہ نماز میں آتے تو ہیں مگر مارے باندھے، سستی اور بے دلی کے ساتھ، اور پڑھتے بھی ہیں تو بہت کم، نہ ذکر نہ قرأت نہ خشوع و خضوع! ان کے تمام احوال اسی رنگ میں ہیں کہ گویا ایک قدم کفر میں ہے ایک ایمان میں، دونوں کے درمیان متردد کھڑے ہیں، نہ پوری طرح کفر کا ساتھ دیتے اور نہ پوری طرح ایمان کا، درمیان درمیان میں رہنا چاہتے ہیں۔

تو ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ منافقوں والا طریقہ نہ اختیار کریں، یکسو ہو کر، کافروں سے الگ ہو کر صرف اہل ایمان سے قلبی لگاؤ رکھیں، اگر ایسا نہ کریں گے تو حق تعالیٰ کے قانون کی گرفت میں صراحۃً آجائیں گے۔

منافقین جو چالاکی سے دونوں طرف اپنی ہوا جمائے رکھنا چاہتے ہیں، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہاں انھیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، البتہ جن لوگوں نے ان حرکات سے توبہ کر لی اور اپنے احوال درست کر لئے، اور اللہ پر بھروسہ کر لیا، اور خلوص کے ساتھ دین حق کو اختیار کر لیا، تو یہ اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ انھیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔

دیکھو! اگر تم لوگ اللہ کے شکر گزار رہے اور ایمان پر قائم رہے، تو اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے کیا لینا ہے، اللہ تعالیٰ تو اعمال کے قدر شناس اور سب کچھ خبر رکھنے والے ہیں۔

خیر منافقین برے سہی، لیکن برائی اور عیبوں کی تشہیر بغیر ضرورت کے پسندیدہ حق تعالیٰ نہیں ہے، ہاں اگر کوئی مظلوم ہو تو وہ ظالم کے ظلم کے خلاف انسدادِ ظلم کے لئے آواز بلند کر سکتا ہے۔

بھلی بات ظاہر طور پر ہو یا پوشیدہ طور پر، یا کسی کی برائی سے درگزر کرنا ہو، یہ باتیں اللہ کو پسند ہیں، خود اللہ تعالیٰ بھی قدرت کے باوجود معاف ہی کر دیا کرتے ہیں۔

جو لوگ اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں کہ اللہ کو تو مانتے ہیں اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فلاں رسول کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں، اور چاہتے ہیں کہ کفر و ایمان کے درمیان کوئی تیسرا راستہ اختیار کریں، حالانکہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ لوگ یقیناً کافر ہیں، اور کافروں کے لئے بڑی رسوائی کا عذاب ہے، اور جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں پر بھی، اور ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ان کا پورا اجر انھیں ملے گا، اللہ تعالیٰ مغفرت و رحمت فرمانے والے ہیں۔

﴿يَسْئَلُكَ﴾ يا محمد ﴿أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ اليهود ﴿أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ﴾
جملة كما أنزل على موسى تعنتاً فإن استكبرت ذلك ﴿فَقَدْ سَأَلُوا﴾ اى آباؤهم ﴿مُوسَى﴾
أَكْبَرَ ﴿أَعْظَمَ﴾ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ﴿عَيَانًا﴾ ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّاعِقَةَ﴾ الموت عقاباً
لَهُمْ ﴿بِظُلْمِهِمْ﴾ حيث تعنتوا فى السؤال ﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ﴾ إلهاً ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ﴾
الْبَيِّنَاتُ ﴿المعجزات على وحدانية الله﴾ ﴿فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ﴾ ولم نستأصلهم ﴿وَآتَيْنَا﴾
مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿تسلطاً بيناً ظاهراً عليهم حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأتاهوه﴾
﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ﴾ الجبل ﴿بِمِيثَاقِهِمْ﴾ بسبب أخذ الميثاق عليهم ليخافوا فيقبلوا
﴿وَقُلْنَا لَهُمْ﴾ وهو مظل عليهم ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ﴾ باب القرية ﴿سُجَّدًا﴾ سجود انحناء ﴿وَقُلْنَا﴾
لَهُمْ لَا تَعْدُوا ﴿وفى قرأة بفتح العين وتشديد الدال (تعدوا) وفيه ادغام التاء فى الاصل فى
الدال اى لا تعتدوا﴾ ﴿فِي السَّبْتِ﴾ باصطياد الحيتان فيه ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾
ذَلِكَ فَانقُضُوهُ ﴿فَبِمَا نَقَضْتُمْ﴾ ما زائدة والباء للسببية، متعلقة بمحذوف ، اى لعناهم
بسبب نقضهم ﴿مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ﴾ للنبي ^{صلى الله عليه وسلم}
﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ لا تعى كلامك ﴿بَلْ طَبَعَ﴾ ختم ﴿اللَّهُ عَلَيْهَا كُفْرَهُمْ﴾ فلا تعى وعظماً
﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه ﴿وَبِكُفْرِهِمْ﴾ ثانياً بعيسى وكرّر
الباء للفصل بينه وبين ما عطف عليه ﴿وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرِيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾ حيث رموها بالزنا
﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ فى زعمهم اى بمجموع ذلك
عذبناهم قال تعالى تكذيباً لهم فى قتله ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ المقتول
والمصلوب وهو صاحبهم، بعيسى، ألقى الله عليه شبهه فظنوه اياه ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ﴾
فى عيسى ﴿لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ﴾ من قتله حيث قال بعضهم لما رأوا المقتول: الوجه وجهه
عيسى والجسد ليس بجسده فليس به وقال آخرون: بل هو هو ﴿مَا لَهُمْ بِهِ﴾ بقتله ﴿مِنْ﴾
عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ﴿استثناء منقطع اى لكن يتبعون فيه الظن الذى تخيلوه﴾ ﴿وَمَا قَتَلُوهُ﴾
يَقِينًا ﴿حال مؤكدة لنفى القتل﴾ ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا﴾ فى ملكه ﴿حَكِيمًا﴾ فى
صنعه ﴿وَإِنْ﴾ ما ﴿مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ أحد ﴿إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ﴾ بعيسى ﴿قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ اى
الكتابى حين يعاين ملائكة الموت فلا ينفعه إيمانه ، أو قبل موت عيسى لما ينزل قرب
الساعة كما ورد فى حديث ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ﴾ عيسى ﴿عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ بما فعلوه لما

بَعَثَ إِلَيْهِمْ ﴿فَبِظُلْمٍ﴾ أَى بِسَبَبِ ظُلْمٍ ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ هُمُ الْيَهُودُ ﴿حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ هِىَ التَّى فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (حَرَمْنَا كُلَّ ذِى ظُفْرِ الْخَنَازِيرِ) ﴿وَبَصَدِهِمْ﴾ النَّاسَ ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ صَدًّا ﴿كَثِيرًا﴾ وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوَا وَقَدْ نُهُوَا عَنْهُ ﴿فِى التَّوْرَةِ﴾ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴿بِالرُّشَا فِى الْحُكْمِ﴾ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿مَوْلَمَا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ﴾ الثَّابِتُونَ ﴿فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ﴾ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ الْمَهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ﴿يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ مِنَ الْكُتُبِ ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾ نَصَبَ عَلَى الْمَدْحِ وَقُرَى بِالرَّفْعِ ﴿وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ﴾ بِالنُّونِ وَالْيَاءِ ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ هُوَ الْجَنَّةُ

ترجمہ

اے محمد! (تم سے اہل کتاب) یہود (درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب) پوری (اترادو) جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ان کا یہ سوال ازراہ سرکشی ہے، اگر تم اس درخواست کو بھاری چیز سمجھ رہے ہو (تویہ) یعنی ان کے آباء و اجداد (موسیٰ سے اس سے بڑا سوال کر چکے ہیں، چنانچہ انھوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا دیدار آنکھوں سے کر دیجئے، تب ان کو موت کی بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے) بطور سزا کے (آن پکڑا) کیونکہ انھوں نے سوال میں زیادتی کی تھی (پھر انھوں نے پچھڑے کو) معبود (بنالیا، یہ ان کے پاس واضح دلائل آجانے کے بعد ہوا) یعنی اللہ کی وحدانیت پر معجزات کے آجانے کے بعد (پھر ہم نے اس سے درگزر کیا) اور ہم نے انھیں جڑ بنیاد سے ختم نہیں کیا (اور ہم نے موسیٰ کو) ان کے اوپر (کھلا ہوا تسلط اور غلبہ عطا فرمایا) چنانچہ انھیں توبہ میں ایک دوسرے کو آپس میں قتل کرنے کا حکم دیا، اور وہ سرتابی نہ کر سکے (اور ہم نے ان کے اوپر طور) پہاڑ (کو) ان سے عہد و پیمان کے لئے (اٹھایا) تاکہ وہ ڈریں اور عہد و پیمان قبول کریں (اور ہم نے ان سے کہا) اس حال میں کہ پہاڑ اوپر سے سایہ فگن تھا (کہ) آبادی کے (دروازے میں سجدے کی حالت میں) یعنی سر جھکا کر (داخل ہوؤ، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ سینچر کے دن) مچھلیوں کا شکار کر کے (زیادتی نہ کرو) ایک قرأت میں لا تعدوا میں عین کو فتح اور دال کو تشدید ہے یعنی لا تعدوا، یہ اصل میں لا تعدوا ہے، تاء افتعال کو دال سے بدل کر دال میں ادغام کر دیا ہے (اور) اس پر (ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا) لیکن انھوں نے اسے توڑ دیا (پس ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی) فبما میں مازند ہے، اور باء سمیت کے لئے ہے، جو ایک فعل محذوف کے متعلق ہے، یعنی لعناہم بسبب نقضہم (اور اللہ کی آیات کے انکار اور انبیاء کے ناحق قتل اور ان کے اس قول کی وجہ سے) نبی ﷺ سے (کہ ہمارے قلوب غلاف میں بند ہیں) آپ کی بات ہمارے دل میں

جاگزیں نہیں ہوتی (بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر، ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے) اس لئے کوئی نصیحت دل میں نہیں اترتی (اس لئے بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لاتے ہیں) جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی (اور نیز ان کے انکار کی وجہ سے) معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فصل کی وجہ سے باء کو مکرر ذکر کیا (اور ان کے مریم کے اوپر بہتان عظیم باندھنے کی وجہ سے) کیونکہ انھوں نے ان پر زنا کی تہمت لگائی (اور ان کے) بطور فخر کے (یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے) ان کا یہ قول ان کے خیال کے مطابق ہے، یعنی ان سب مجموعی جرائم کی وجہ سے ہم نے انھیں مبتلائے عذاب کیا، اللہ تعالیٰ نے دعویٰ قتل کے سلسلے میں ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا کہ (انھوں نے نہ انھیں قتل کیا ہے، نہ پھانسی دی ہے، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا) کہ مقتول و مصلوب جو کہ ان کا ساتھی تھا، اس کا اشتباہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھی پر حضرت عیسیٰ کی مشابہت ڈال دی، پس انھوں نے اسے عیسیٰ سمجھ لیا (اور بلاشبہ جن لوگوں نے ان کے بارے میں) یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں (اختلاف کیا وہ اس کے بارے میں) یعنی ان کے قتل کئے جانے کے بارے میں (شک میں ہیں) چنانچہ بعضوں نے جب مقتول کو دیکھا تو بولے چہرہ تو حضرت عیسیٰ کا ہے، لیکن بدن ان کا نہیں ہے، پس وہ نہیں ہیں، اور دوسرے بعضوں نے کہا کہ نہیں! وہی ہیں (انھیں اس کا) یعنی ان کے قتل کا (بجز ایک پیروی گمان کے کوئی علم نہیں) إلا اتباع الظن استثنائے منقطع ہے، یعنی لیکن یہ اس سلسلے میں اس گمان کی پیروی کر رہے ہیں جس کا انھوں نے خیال جمالیایا ہے (اور یہ یقینی بات ہے کہ انھوں نے انھیں قتل نہیں کیا) یقیناً، نفی قتل کے لئے حال موکدہ ہے (بلکہ اللہ نے انھیں اپنے پاس اٹھالیا، اور اللہ تعالیٰ) اپنی حکومت میں (غلبہ رکھتے ہیں) اور اپنے کام میں (حکمت والے ہیں) اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ان پر) یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر (ایمان نہ لائے) قبل موتہ میں ضمیر غائب اہل کتاب کے لئے ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ موت کے فرشتوں کو رو برو دیکھ لے گا، لیکن اس وقت کا ایمان اسے نافع نہ ہوگا، یا یہ کہ قبل موتہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہے، تب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں زمین پر اتریں گے جیسا کہ حدیث میں ہے، اس وقت حضرت کی وفات سے پہلے سب اہل کتاب ان پر ایمان لا کر ملت واحدہ بن جائیں گے (اور قیامت کے دن وہ) یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام (ان کے اوپر) ان کے کاموں کی (شہادت دینے والے ہوں گے) جو انھوں نے ان کی بعثت کے وقت ان کے ساتھ کیا (الغرض ہم نے یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے کئی ایک اچھی ان پر حرام کر دیں جو ان کے لئے حلال تھیں) ان چیزوں کا تذکرہ آیت و علی الدین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر (سورہ انعام: ۱۲۶) میں ہے (اور اس وجہ سے بھی کہ وہ) لوگوں کو (اللہ کے راستے) یعنی دین (سے بہت زیادہ روکتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے، حالانکہ

انہیں) توریت میں (اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کے مال کو غلط طریقے) رشوت وغیرہ (سے کھاتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کے لئے جو ان میں کافر ہوئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے) لیکن وہ لوگ جو ان میں علم میں پختہ ہیں (جیسے عبداللہ بن سلام (اور مسلمان) یعنی مہاجرین و انصار (وہ اس) کتاب) پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو تمہارے اوپر نازل ہوئی، اور ان) کتابوں (پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئیں، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں) المقیمین کا نصب بر بنائے مدح ہے، اور اسے رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے (اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا کریں گے) وہ جنت ہے۔

﴿ تشریحات ﴾

جملة كما انزل موسى: رسول اللہ ﷺ پر قرآن کریم کا نزول ضرورت کے مطابق بار بار ہوتا رہتا تھا، اس پر یہود کے احبار نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لکھی لکھائی کتاب اتری، آپ پر بھی اترے تو قبول کریں گے (ابن کثیر) ان کا یہ سوال ازراہ ہدایت طلبی نہ تھا، بلکہ ازراہ تعنت تھا یعنی مشکل میں مبتلا کرنے کی غرض سے تھا، فرمایا کہ اگر تم نے اس کو بڑا اور گستاخانہ سمجھا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے بھی زیادہ گستاخانہ سوال حضرت موسیٰ سے کر چکے ہیں، یعنی ان کے آباء و اجداد۔

عیاناً: جہراً بمعنی عیاناً، یعنی انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کو ہماری آنکھوں سے دکھائیے، چنانچہ سورۃ البقرۃ میں ہے: **وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ**، اور وہ بھی ایک وقت تھا، جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہاری بات نہ مانیں گے جب تک ہمیں اللہ کو آنکھوں سے نہ دکھا دو، اس پر موت کی کڑک نے تمہیں پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ مزید تفصیل سورہ اعراف میں آرہی ہے۔

تعنتاً: عنت کے معنی مشقت میں پڑنا، تعنت دشواری میں ڈالنا، مشکل میں پھنسانا۔

ای آباؤہم: قرآن کہتا ہے کہ ان اہل کتاب نے موسیٰ سے اس سے بڑھ کر سوال کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے کب کہ سوال کرتے، مفسر نے جواب دیا کہ سوال کرنے والے ان کے باپ دادا تھے، امت ایک ہی ہے، اس لئے یہ سوال مجموعی اعتبار سے پوری امت یہود کی طرف منسوب ہے، بس یہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔

الہا: اتخذ متعدی بدو مفعول ہے، ایک مفعول العجل ہے، دوسرا مفعول الہا ہے جو کہ محذوف ہے۔

تسلطاً ظاہراً: سلطناً مصدر ہے، اس لئے اس کا ترجمہ تسلط سے کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر

زبردست پکڑ حاصل تھی، اسی لئے جب پچھڑے کی پوجا کی پاداش میں انھیں خود باہم ایک دوسرے کے قتل کا انھوں نے حکم دیا کہ ان کے اس جرم عظیم کی تلافی اسی سے ہو سکتی ہے، تو وہ کچھ چون و چرا نہ کر سکے، حالانکہ اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام پر غرار ہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے رعب و دبدبہ کے آگے دم نہ مار سکے۔

بسبب أخذ الميثاق عليهم: بميثاقہم میں باء سبب کے لئے ہے، ہم نے طور پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کر بنی اسرائیل کے سروں پر معلق کیا تھا، وہ ان سے ایمان و اطاعت کے قول و قرار کے لئے کیا، اس وقت ان کی سرکشی کا حال یہ تھا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی، اور وہ اسے لے کر قوم کے پاس آئے، اور اس کے احکام سنائے تو انھوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، پھر کسی طرح وہ اسے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہوئے، کئی حیلے بہانے کئے، بالآخر ان کے سر پر جب پہاڑ لٹکا یا گیا تو خوف کے مارے مجبوراً اقرار کیا۔

وہو مظل: جس وقت پہاڑ ان کے سروں پر سایہ لگن تھا، اسی وقت ہم نے کہا، علامہ جمل فرماتے ہیں وہو مظل کی قید سبقت قلم کا نتیجہ ہے، ورنہ سر پر پہاڑ لٹکانا نزول توریت کے بعد ہوا ہے، اور قریہ میں داخلہ کا حکم ایک مدت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا ہے۔

باب القرية: القرية سے مراد یا تو بیت المقدس ہے، یا شہر اریحاء ہے جو بیت المقدس کے قریب تھا۔ سجود انحناء: سجدہ سے مراد وہ سجدہ نہیں ہے جو نماز میں ادا کیا جاتا ہے، ورنہ سجدہ کرتے ہوئے کیسے داخلہ ہوتا، اس سے مراد جھک کر سر جھکا کر ادب و تواضع سے داخل ہونا ہے، انحناء کے معنی جھکنا۔

باصطياد الحيتان: یوم سبت (سینچر کے روز) زیادتی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال کا مفسر نے باصطياد الحيتان سے دیا کہ اس روز مچھلیوں کا شکار کرنا زیادتی کی بات تھی، کیونکہ وہ ممنوع تھا۔

لعناہم: فبما نقضہم میں باء حرف جر کسی نہ کسی فعل سے متعلق ہوگا، مفسر نے فرمایا وہ لعناہم محذوف سے متعلق ہے، اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں اسی مضمون کے بیان میں صراحتاً یہی لفظ وارد ہوا ہے، فرمایا: فبما نقضہم ميثاقہم لعناہم۔

غلف لا تعی کلامک: وعی یعنی کے معنی محفوظ کرنا، جمع کرنا۔ غلف، أغلف کی جمع ہے، جس پر غلاف چڑھا ہوا ہو، وہ کہتے تھے کہ ہمارے قلوب غلاف میں بند ہیں، تمہاری بات نہ ان میں گھستی نہ محفوظ رہتی ہے۔

ثانیاً بعیسیٰ وکررا لباء: ان کا پہلا کفر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت سے متعلق تھا۔ دوسرا کفر اس وقت ظاہر ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، و بکفرہم کا عطف فبما نقضہم پر ہے، چونکہ معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان اجنبی سے فصل ہو گیا ہے، اس لئے اس پر باء کو مکرر لائے۔

فی زعمهم: اس کا تعلق قتلنا سے ہے، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو رسول اللہ کہا، وہ اپنے ایمان و اعتقاد کے اعتبار سے نہیں کہا، بلکہ بطور طنز و استہزاء کے کہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ تو ایک گرے پڑے آدمی ہیں، لیکن خود کو رسول کہتے ہیں، تو اس رسول کو ہم نے مار ڈالا، ان کا یہ قول فخر کے طور پر تھا۔

ای لمجموع ذلک عذبناہم: اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اب تک باء حرف جر برائے سبیت کے تحت سات مجرور آچکے ہیں۔ (۱) فبما نقضہم (۲) و کفرہم (۳) قتلہم (۴) و قولہم (۵) و بکفرہم (۶) و قولہم (۷) و قولہم۔ ان سب کے مجموعے کی وجہ سے ہم نے انہیں گرفتار عذاب اور بتلائے لعنت کیا، شروع میں لعنا کہا تھا، یہاں عذبنا کہا، دونوں کا حاصل ایک ہے۔

المقتول والمصلوب: شبہ میں ضمیر مستتر نائب فاعل ہے، المقتول والمصلوب اسی سے بدل ہے، شبہ کی ضمیر ”مقتول“ کی جانب راجع ہے، جو قتلنا کے ضمن میں مفہوم ہوتا ہے، یہ ضمیر المسیح کی طرف راجع نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت مسیح مشبہ نہیں بلکہ مشبہ بہ ہیں، یعنی اس مقتول پر حضرت مسیح کی شبیہ ڈال دی گئی، وہ ان کے مشابہ ہو گیا، یہ نہیں ہوا کہ حضرت مسیح اسی مقتول کے مشابہ ہو گئے ہوں، پس ناگزیر ہے کہ شبہ کی ضمیر ”مقتول“ کی طرف راجع ہو، اور اس سے المقتول والمصلوب بدل ہو۔

بعیسی: یہ شبہ سے متعلق ہے۔

ألقى الله عليه شبهه: علیہ کی ضمیر صاحب کے لئے ہے۔

﴿لفی شک منہ﴾ من قتلہ: ان الذین اختلفوا فیہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہودی یا عیسائی؟ کسی نے یہود کو کہا، اور کسی نے عیسائیوں کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے دونوں فریق مراد ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے، یہ دونوں فریق مختلف الرائے ہیں، یہودی انہیں رسول تو کیا، ایک عام بشر جیسا بھی ماننے کے لئے تیار نہیں، اور عیسائی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، دونوں فریق غلط راہوں پر جا رہے ہیں، اور ان دونوں کو ان قتل کے بارے میں تردد ہے، یہودیوں کو یہ تردد تھا کہ مقتول کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ ہی کا ہے، مگر بدن ان کا نہیں ہے، پس عیسیٰ نہیں ہیں، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ ہی ہیں، اور عیسائی تو انہیں خدا مان رہے ہیں، کیا خدا بھی مقتول ہو سکتا ہے؟ پھر دروازہ کارتاویلیں کرتے ہیں، ان کا شک بہت دور تک گیا ہے۔

﴿إلا اتباع الظن﴾ استثناء منقطع: اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کئے جانے کے سلسلے میں یہود و نصاریٰ کے علم کی نفی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کے پاس کوئی یقین اور کوئی دلیل نہیں ہے، محض وہم و گمان ہے، اور وہم و گمان ہی کو انہوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے۔ إلا اتباع الظن استثناء منقطع ہے، کیونکہ ظن، علم.....

جو کہ مستثنیٰ منہ ہے..... کے افراد میں شامل نہیں ہے، اسی لئے الا کا ترجمہ مفسر نے لکن سے کیا ہے،
 حال موكدة لنفى القتل : وما قتلوه يقيناً میں يقيناً حال ہے، جو نفی قتل کی تاکید کے لئے آیا ہے، یعنی
 انتفى قتلهم له نفيًا يقيناً۔

الكتابى حين يعاين الخ : قبل موته کی ضمیر غائب اہل کتاب کی طرف راجع ہے، ان کا ایمان اس وقت
 ہوگا جب موت کے فرشتے روبرو آجائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان نافع نہ ہوگا۔

اور ایک قول یہ ہے کہ ضمیر حضرت عیسیٰ عليه السلام کی طرف راجع ہے، جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ
عليه السلام آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے، تو ضرب و قتل کے بعد جو بچ جائیں گے وہ تمام اہل کتاب ان پر
 ایمان لائیں گے۔

ای فبسبب ظلم : فبظلم میں باء سبب کے لئے ہے، اور یہ باء، آگے آنے والے لفظ حرمنا سے متعلق ہے،
 متعلق کو مقدم اس لئے کیا تا کہ اس کی شناخت ابتداء ہی سے نظر میں آجائے۔

﴿صداً﴾ كثيراً : وبصدهم عن سبيل الله كثيراً میں كثيراً مفعول مطلق ہے، اصل میں مفعول مطلق
 صداً ہے، اور كثيراً اس کی صفت ہے، موصوف کو حذف کر کے صفت کو اس کے قائم مقام بنا دیا ہے۔

نصب على المدح : والمقيمین الصلوة میں سیاق و سباق کی عبارت کا تقاضا ہے کہ اسے بھی مرفوع پڑھا
 جائے، چنانچہ قرأت شاذہ اس پر وارد بھی ہے، مگر اسے نصب بر بنائے مدح پڑھا گیا ہے، یعنی وأمدح
 المقيمین الصلوة۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

بیان کا رخ اب یہودیوں کی طرف پھر رہا ہے، کیونکہ مدینے کے منافقوں میں زیادہ تر یہودی ہی تھے،
 یہودی کہتے تھے کہ اگر پیغمبر اسلام سچے ہیں، تو کیوں ان پر آسمان سے ایک کتاب اس طرح نازل نہیں ہو جاتی کہ
 ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ فرمایا: اس سے بھی بڑی فرمائش یہ حضرت موسیٰ عليه السلام سے کر چکے ہیں، کہ خدا کو اپنی
 آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا، کہ آسمان سے موت کا کڑکا آیا اور یہ مطالبہ کرنے والے فنا کے گھاٹ
 اتر گئے، پھر مزید گستاخی اس وقت کی جب تمام دلائل و معجزات دیکھنے کے باوجود کچھڑا بنا کر پوجنے لگے، مگر ہم نے
 پھر بھی درگزر کیا، پھر اتنے پر بس نہیں، حضرت موسیٰ جب توریت لے کر آئے تو ان کی سرکشی اور تمرد نے پھر سر اٹھایا
 اور اس کے تسلیم کرنے سے آمادہ انکار ہو گئے، تب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کر ان پر
 سائبان کی طرح لٹکا دیا کہ مانتے ہو یا تم پر اسے گرا دیا جائے؟ پھر ایک وقت آیا کہ تمہیں بیت المقدس میں داخل
 ہونے کا حق تعالیٰ نے موقع دیا، اور ان سے فرمایا کہ سر جھکا کر تواضع سے دروازہ شہر میں داخل ہو، انھیں یہ بھی حکم

دیا گیا تھا کہ سپنچر کے مقدس دن میں حدود سے تجاوز نہ کرو، ان سب باتوں کا بہت تاکید حکم تھا، مگر انہوں نے کچھ پروا نہ کی، عہد و پیمان توڑا، احکام و آیات کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، مزید سرکشی یہ کہ اب وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، تمہاری بات اس کے اندر جا ہی نہیں سکتی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے کفر و انکار کی وجہ سے مہر لگی ہوئی ہے، اس لئے ان میں ایمان لانے والے کم ہی ہیں، پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور حضرت مریم پر بہتان عظیم باندھا، مزید ظلم یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا دعویٰ کیا، اور اس پر انہوں نے فخر کیا، ان سب سرکشیوں اور طغیانوں کی وجہ سے ہماری لعنت ان پر برسی۔

حقیقت یہ ہے کہ ان کا دعویٰ قتل قطعاً غلط ہے، انہیں نہ وہ قتل کر سکے ہیں، نہ پھانسی دے سکے ہیں بلکہ حقیقت حال ان پر مشتبہ ہوگئی، اب وہ اس باب میں بھی اختلاف کر رہے ہیں، مگر یہ یقینی ہے کہ وہ انہیں قتل نہیں کر سکے ہیں، وہ محض شک اور اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور گمان و خیال کو عقیدہ بنائے ہوئے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ سلامت آسمان پر اٹھالیا ہے، اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہیں، اور یہ اہل کتاب کی بد نصیبی ہے کہ ان کے مرنے سے پہلے، ان پر حقیقت کھلے گی، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، مگر بے فائدہ! کیونکہ موت کے فرشتوں کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوتا، یا یہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جب ہوگی تو اس سے پہلے تمام موجود اہل کتاب ایمان لا چکے ہوں گے، ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، اس وقت وفات ہوگی جب تمام اہل کتاب ایمان لا چکے ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔

یہود کے ظلم اور ان کی سرکشی و تمرد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی چیزیں جو حلال تھیں، ان پر حرام کر دی تھیں، چنانچہ ان کے مظالم یہ تھے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بکثرت روکتے تھے، اور باوجود حرام کئے جانے کے وہ سود لیتے اور لوگوں کے مال نا جائز طور پر رکھتے تھے، ان کافروں کے لئے دردناک عذاب تیار ہے۔

لیکن وہ جو علم میں پختہ ہیں اور مومن ہیں، ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے، اور اگلی آسمانی کتابوں پر بھی، وہ نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ان کو بڑا اجر ملے گا، یعنی جنت ملے گی۔



﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ﴾ كما ﴿أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ إِبْنِهِ ﴿وَيَعْقُوبَ﴾ ابْنِ إِسْحَاقَ ﴿وَالْأَسْبَاطِ﴾ أَوْلَادِهِ ﴿وَعِيسَىٰ وَيُؤُوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا أَبَاهُ﴾ دَاوُدَ زُبُورًا ﴿بِالْفَتْحِ اسْمًا لِّلْكِتَابِ الْمُؤْتَىٰ وَالضَّمُّ مَصْدَرٌ بِمَعْنَىٰ مَزُبُورًا أَيْ مَكْتُوبًا﴾ وَ﴿أَرْسَلْنَا﴾ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ

عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْضُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴿١﴾ روى أنه تعالى بعث ثمانية آلاف نبي ، أربعة آلاف من اسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس قاله الشيخ فى سورة غافر ﴿٢﴾ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ ﴿٣﴾ بِأَوْسَطِ بَلَدِ مَدْيَنَ ﴿٤﴾ تَكْلِيمًا ﴿٥﴾ رُسُلًا ﴿٦﴾ بَدَلَ مِنْ "رُسُلًا" قَبْلَهُ ﴿٧﴾ مُبَشِّرِينَ ﴿٨﴾ بِالثَّوَابِ مِنْ آمَنَ ﴿٩﴾ وَمُنذِرِينَ ﴿١٠﴾ بِالْعِقَابِ مِنْ كَفَرَ أَرْسَلْنَاهُمْ ﴿١١﴾ لِنَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً ﴿١٢﴾ تَقَالِ ﴿١٣﴾ بَعْدَ ﴿١٤﴾ إِرْسَالِ ﴿١٥﴾ الرُّسُلِ ﴿١٦﴾ إِلَيْهِمْ فَيَقُولُوا: رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَبَعَثْنَاهُمْ لِقَطْعِ عِزِّهِمْ ﴿١٧﴾ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا ﴿١٨﴾ فِي مَلِكِهِ ﴿١٩﴾ حَكِيمًا ﴿٢٠﴾ فِي صَنْعِهِ ، وَنَزَلَ لَمَّا سَأَلَ الْيَهُودَ عَنْ نُبُوته عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَنْكَرُوهُ ﴿٢١﴾ لَكِنَّ اللَّهَ يُشْهِدُ ﴿٢٢﴾ بَيْنَ نَبِيِّكَ ﴿٢٣﴾ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ ﴿٢٤﴾ مِنَ الْقُرْآنِ الْمِعْجَزِ ﴿٢٥﴾ أَنْزَلَهُ ﴿٢٦﴾ مَتَلْبَسًا ﴿٢٧﴾ بِعِلْمِهِ ﴿٢٨﴾ أَمَّ عَالِمًا بِهِ أَوْ فِيهِ عِلْمُهُ ﴿٢٩﴾ وَالْمَلَكَةُ يُشْهِدُونَ ﴿٣٠﴾ لَكَ أَيْضًا ﴿٣١﴾ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٣٢﴾ عَلَىٰ ذَلِكَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿٣٤﴾ بِاللَّهِ ﴿٣٥﴾ وَصَدُّوا ﴿٣٦﴾ النَّاسَ ﴿٣٧﴾ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٣٨﴾ دِينَ الْإِسْلَامِ ، بِكُتْمِهِمْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُمْ الْيَهُودُ ﴿٣٩﴾ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٤٠﴾ عَنِ الْحَقِّ ﴿٤١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿٤٢﴾ بِاللَّهِ ﴿٤٣﴾ وَظَلَمُوا ﴿٤٤﴾ نَبِيَهُ بِكُتْمَانِ نَعْتِهِ ﴿٤٥﴾ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿٤٦﴾ مِنَ الطَّرِيقِ ﴿٤٧﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ ﴿٤٨﴾ أَى الطَّرِيقِ الْمُوَدَّىٰ إِلَيْهَا ﴿٤٩﴾ خَلْدِينَ ﴿٥٠﴾ مُقَدِّرِينَ الْخُلُودِ ﴿٥١﴾ فِيهَا ﴿٥٢﴾ إِذَا دَخَلُوهَا ﴿٥٣﴾ أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٥٤﴾ هِينًا ﴿٥٥﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴿٥٦﴾ أَى أَهْلِ مَكَّةَ ﴿٥٧﴾ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ ﴿٥٨﴾ مُحَمَّدٌ ﴿٥٩﴾ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا ﴿٦٠﴾ بِهِ وَاقْصِدُوا ﴿٦١﴾ خَيْرًا لَكُمْ ﴿٦٢﴾ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ ﴿٦٣﴾ وَإِنْ تَكْفُرُوا ﴿٦٤﴾ بِهِ ﴿٦٥﴾ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿٦٦﴾ مَلَكًا وَخَلْقًا وَعِبَادًا فَلَا يُضِرُّهُ كُفْرُكُمْ ﴿٦٧﴾ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴿٦٨﴾ بِخَلْقِهِ ﴿٦٩﴾ حَكِيمًا ﴿٧٠﴾ فِي صَنْعِهِ بِهِمْ ﴿٧١﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴿٧٢﴾ الْإِنْجِيلِ ﴿٧٣﴾ لَا تَغْلُوا ﴿٧٤﴾ تَتَجَاوَزُ الْحَدَّ ﴿٧٥﴾ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْقَوْلَ ﴿٧٦﴾ الْحَقَّ ﴿٧٧﴾ مِنْ تَنْزِيهِهِ عَنِ الشَّرِيكِ وَالْوَالِدِ ﴿٧٨﴾ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا ﴿٧٩﴾ أَوْصَلَهَا ﴿٨٠﴾ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ ﴿٨١﴾ ذُو رُوحٍ ﴿٨٢﴾ مِنْهُ ﴿٨٣﴾ أَضِيفَ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ تَشْرِيفًا لَهُ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمْتُمْ: ابْنُ اللَّهِ أَوْ إِلَهًا مَعَهُ أَوْ ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ لِأَنَّ ذَا الرُّوحِ مَرْكَبٌ وَالْإِلَهَ مَنْزَهُ عَنِ التَّرْكِيْبِ وَعَنْ نِسْبَةِ الْمَرْكَبِ إِلَيْهِ ﴿٨٤﴾ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا الْإِلَهَةُ ثَلَاثَةٌ ﴿٨٥﴾ اللَّهُ وَعِيسَىٰ وَأُمُّهُ ﴿٨٦﴾ انْتَهَوْا ﴿٨٧﴾ عَنِ ذَلِكَ وَأَتُوا ﴿٨٨﴾ خَيْرًا لَكُمْ ﴿٨٩﴾ مِنْهُ وَهُوَ التَّوْحِيدُ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ ﴿٩١﴾ تَنْزِيهًا لَهُ عَنْ ﴿٩٢﴾ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿٩٣﴾ خَلْقًا وَمَلَكًا وَالْمَلَكِيَّةُ تَنَافَىٰ الْبُنُوَّةَ ﴿٩٤﴾ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٩٥﴾ شَهِيدًا عَلَىٰ ذَلِكَ ﴿٩٦﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ ﴿٩٧﴾ يَتَكَبَّرُ وَيَأْنِفُ ﴿٩٨﴾ الْمَسِيحُ ﴿٩٩﴾ الَّذِى زَعَمْتُمْ أَنَّهُ إِلَهٌ عَنْ ﴿١٠٠﴾ أَنْ يَكُونَ

عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلِكَةَ الْمُقْرَبُونَ ﴿۱﴾ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَسْتَنْكِفُونَ أَنْ يَكُونُوا عِبِيدًا وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ
الاستطراد، ذکر للرد علی من زعم أنها آلهة أو بنات الله كما رد بما قبله علی النصارى
الزاعمين ذلك، المقصود خطابهم ﴿۱﴾ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ
إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿۲﴾ فِي الْآخِرَةِ ﴿۳﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ﴿۴﴾ ثَوَاب
أَعْمَالِهِمْ ﴿۵﴾ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴿۶﴾ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ﴿۷﴾ وَأَمَّا
الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا ﴿۸﴾ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴿۹﴾ فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۱۰﴾ مَوْلَمَا هُوَ عَذَابُ النَّارِ
﴿۱۱﴾ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿۱۲﴾ أَى غَيْرِهِ ﴿۱۳﴾ وَلِيًّا ﴿۱۴﴾ يَدْفَعُهُ عَنْهُمْ ﴿۱۵﴾ وَلَا نَصِيرًا ﴿۱۶﴾ يَمْنَعُهُمْ مِنْهُ ﴿۱۷﴾ يَا
أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ ﴿۱۸﴾ حُجَّةٌ ﴿۱۹﴾ مِنْ رَبِّكُمْ ﴿۲۰﴾ عَلَيْكُمْ وَهُوَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿۲۱﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ
نُورًا مُبِينًا ﴿۲۲﴾ بَيْنَا وَهُوَ الْقُرْآنُ ﴿۲۳﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ
وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ ﴿۲۴﴾ طَرِيقًا ﴿۲۵﴾ مُسْتَقِيمًا ﴿۲۶﴾ هُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ

ترجمہ

(بے شک ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد دوسرے انبیاء
کے پاس وحی بھیجی تھی، اور) جیسا کہ (ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق) یہ دونوں ابراہیم کے بیٹے تھے (یعقوب
اور) ان کی (اولاد، عیسیٰ اور ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے) ان کے والد (داؤد کو
زبور عطا کی) زبور فتح کے ساتھ، اس کتاب کا نام ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور ضمہ کے ساتھ مصدر
ہے، جو اسم مفعول مزبور یعنی مکتوب کے معنی میں ہے (اور) ہم نے (کئی رسول ایسے) بھیجے (ہیں، جن کے
حالات ہم نے اس سے پہلے تم سے بیان کئے، اور کئی رسول ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے نہیں بیان
کئے) مروی ہے کہ آٹھ ہزار انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، جن میں چار ہزار صرف بنی اسرائیل میں تھے اور باقی لوگوں
میں چار ہزار، شیخ نے سورہ غافر میں یہی لکھا ہے (اور اللہ نے موسیٰ سے) بلا واسطہ (کلام فرمایا، ایسے رسول) ما قبل
کے رسلاً سے بدل ہے (جو بشارت دینے والے تھے) ایمان والوں کو ثواب کی (اور ڈرانے والے تھے)
کافروں کو عذاب سے، ہم نے ان کو اس لئے بھیجا تھا (تا کہ لوگوں کے لئے) ان کے پاس (رسولوں کے) بھیجے
جانے کے (بعد اللہ پر کچھ معذرت کی گنجائش نہ رہے) کہ وہ یہ عذر کریں کہ رَبَّنَا لَوْلَا أُرْسِلَتْ إِلَيْنَا رَسُولًا
فَتَنْبَعِ آيَاتِكَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (اے ہمارے رب آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ
ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے، اور مؤمنین میں ہوتے) ہم نے پیغمبروں کو بھیجا تا کہ ان کا عذر منقطع ہو جائے
(اور اللہ) اپنے ملک میں (غالب) اور اپنے کاموں میں (صاحب حکمت ہیں)

یہود سے نبی اکرم ﷺ کی نبوت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انھوں نے انکار کیا، اس پر یہ آیت اتری (لیکن اللہ اس) قرآن معجز (کی گواہی دیتے ہیں جو تمہارے پاس اتر ہے) یعنی تمہاری نبوت کو بیان کرتے ہیں (اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے) یعنی اس حال میں کہ اللہ سے جانتے ہیں، یا یہ کہ اس میں اللہ کا علم ہے (اور فرشتے بھی) تمہارے حق میں (گواہی دیتے ہیں اور) اس بات پر (اللہ کی گواہی کافی ہے) بے شک (جن لوگوں نے) اللہ کے ساتھ (کفر کیا اور) لوگوں کو (اللہ کے راستے سے) یعنی دین اسلام سے محمد ﷺ کے احوال و اوصاف کو پوشیدہ رکھ کر (روکا) اور یہ یہود ہیں (وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے) یعنی حق سے دور ہو گئے (جنہوں نے) اللہ کے ساتھ (کفر کیا اور) اپنے نبی پر ان کے اوصاف کو چھپا کر (ظلم کیا، اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں، اور نہ انھیں کوئی راہ دکھانے والا ہے سوائے جہنم کی راہ کے) یعنی وہ راستہ جو جہنم میں لے جانے والا ہے، اس میں جب وہ داخل ہوں گے تو (وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے) خالداً دین حال مقدرہ ہے یعنی مقدرین الخلود (اور اللہ کے اوپر یہ بات آسان ہے) اے لوگو! اے اہل مکہ (تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق و صداقت لے کر رسول آ گیا ہے) یعنی محمد ﷺ (پس) اس پر (ایمان لاؤ اور) اپنے لئے اس سے (بہتر کا قصد کرو) جس پر تم ہو (اور اگر تم) اس کا (انکار کرو گے تو جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب) ملکیت، مخلوقیت اور بندہ ہونے کے اعتبار سے (اللہ ہی کا ہے) تو تمہارا کفر انھیں کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتا (اور اللہ) اپنی مخلوق کو (جاننے والے) اور ان کے اندر تصرف کرنے میں (حکمت والے ہیں) اے اہل کتاب (یعنی اہل انجیل) (اپنے دین میں غلو نہ کرو) یعنی حد سے تجاوز نہ کرو (اور اللہ پر بجز قول حق کے اور کچھ نہ کہو) یعنی یہ کہ اللہ شریک سے بھی اور اولاد سے بھی منزہ ہیں (مسیح عیسیٰ بن مریم، اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے کلمہ ہیں، جسے اللہ نے مریم کے پاس القاء کیا) یعنی پہنچایا (اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں) یعنی ذی روح ہیں، اللہ کی طرف ان کی نسبت ان کے شرف کے اظہار کے لئے ہے، وہ بات نہیں ہے جس کا تم نے گمان کر رکھا ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ کے ساتھ معبود ہیں، یا تین میں سے تیسرے ہیں، کیونکہ روح والا مرکب ہے اور الہ ترکیب سے بھی اور مرکب کی نسبت سے پاک ہے (پس اللہ پر، ان کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور مت کہو کہ) معبود (تین ہیں) اللہ اور عیسیٰ اور ان کی ماں، اس سے (باز آؤ، اور اپنے لئے) اس سے (بہتر کو اختیار کرو) اور وہ توحید ہے (حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ ہی ایک معبود ہے، وہ ذات پاک ہے) اس بات سے (کہ ان کے لئے کوئی بیٹا ہو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے) مخلوق و مملوک اور غلام ہونے میں (سب ان کے ہیں) اور ملکیت بیٹا ہونے کے منافی ہے (اور وکیل) یعنی گواہ (ہونے کے لئے اللہ کافی ہیں) (مسیح کو) جن کو تم نے معبود سمجھ رکھا ہے، ہرگز اس سے عار نہیں) یعنی وہ ہرگز تکبر نہیں کرتے (کہ وہ اللہ کے بندے

ہوں، اور نہ فرشتوں کو جو) اللہ کے نزدیک (مقرب ہیں) کوئی عار ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، یہ ایک بہتر استطراد ہے، جسے ان مشرکین کی تردید کے لئے ذکر کیا گیا ہے، جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ فرشتے بھی معبود ہیں، یا اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ان نصاریٰ کی تردید ہے جن کا خیال حضرت عیسیٰ کے بارے میں اسی طرح کا ہے، اور مقصود انھیں سے خطاب ہے (اور جو کوئی اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو عنقریب وہ سب کو اپنے پاس جمع کر لائیں گے) آخرت میں (تو جو لوگ ایمان لائے، اور نیک عمل کئے، ان کو ان کے اجر) یعنی ان کے اعمال کے ثواب (عطا فرمائیں گے، اور اپنے فضل سے مزید) اتنا (عطا فرمائیں گے) جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے قلب میں اس کا خیال گزرا (اور رہے وہ لوگ جنہوں نے) ان کی عبادت سے (عار محسوس کی اور تکبر کیا، تو انھیں حق تعالیٰ دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے) الیم بمعنی مو لم، وہ آگ کا عذاب ہے (اور وہ اپنے واسطے اللہ کے ماسوا نہ کسی کو حمایتی پائیں گے) جو عذاب کو ان سے دفع کرے (اور نہ مددگار) جو اس سے انھیں بچالے (اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے) تم پر (برہان) یعنی حجت (آگئی) اور وہ نبی ﷺ ہیں (اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتارا ہے) مبین بمعنی بین ہے، اور وہ قرآن کریم ہے (تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اور اس کا سہارا مضبوط پکڑ لیا، تو عنقریب انھیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے، اور اپنی جانب سیدھی راہ کی ہدایت دیں گے) جو کہ دین اسلام ہے۔

تشریحات

إبنیہ: حضرت اسمعیل و اسحاق علیہما السلام، یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادگان تھے۔

اولادہ: اسباط سبط کی جمع ہے، اس کے معنی اولاد کے ہیں، اس کا اطلاق بیٹوں پر بھی ہے، پوتوں اور نواسوں پر بھی، اور اس کا استعمال قبیلہ کے مترادف بھی ہے، حضرت اسمعیل علیہ السلام کی نسل میں جو معنی قبیلہ کا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں وہی ”اسباط“ کا معنی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں بہت انبیاء ہوئے۔

روی أنه تعالیٰ الخ: علامہ سیوطی نے شیخ محلی کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ کل انبیاء آٹھ ہزار ہیں، چار ہزار بنی اسرائیل میں اور چار ہزار باقی لوگوں میں، لیکن یہ بات مشہور قول کے خلاف ہے، مشہور قول میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کی تعداد ہے، جن میں تین سو تیرہ رسول ہیں، باقی حضرات نبی! علامہ طیبی نے فرمایا: صحیح وہ ہے جسے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ حضرات انبیاء کی تعداد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار، ان میں ۳۱۵ رسول ہیں، یہ حضرات ایک جم غفیر ہیں (جمل: سورہ غافر)

بلا واسطۃ: یعنی فرشتے کے واسطے کے بغیر۔

ونزل لما سئل اليهود عن نبوتہ الخ : آیت کریمہ کا آغاز لکن سے ہوا ہے، اور معلوم ہے کہ لکن استدراک کے لئے آتا ہے، تو اس سے پہلے کوئی ایسا جملہ ہونا چاہئے جس سے کسی غلط فہمی کا احتمال ہو، جس سے استدراک اس آیت میں کیا گیا ہو۔

اسی اشکال کو مفسر نے نزل لما سئل اليهود الخ کے ذریعے حل کیا ہے، بات یہ ہے کہ یہود کی ایک جماعت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ جملہ جس سے استدراک کیا گیا ہے، اس طرح ہوگا: ان اليهود وإن لم يشهدوا أن القرآن أنزل الله عليك لکن الله يشهد الخ، یہ یہود اگرچہ تمہارے بارے میں لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں اور قرآن کے کتاب اللہ ہونے کی گواہی سے گریز کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ تو گواہی دیتے ہیں اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔

متلبساً بعلمہ ﴿﴾ اے عالماً بہ اوفیہ علمہ : أنزلہ بعلمہ کا کیا مطلب ہے؟ اور ما قبل کے جملے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب مفسر نے اختصار و ایجاز کے ساتھ دیا ہے، پہلے سوال کا جواب عالماً بہ کہہ کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کتاب کو اپنے علم خاص سے اتارا ہے جو کسی دوسرے کے بس میں نہیں، چنانچہ اس کی معجزانہ فصاحت و بلاغت، اُسلوب اور غیبی علوم، یہ سب علم الہی کا خاصہ ہے، مفسر کا ارشاد عالماً بہ کی ایک وضاحت یہ ہے جو مذکور ہوئی، اس کی وضاحت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ حق تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ کس پر یہ کتاب اتر رہی ہے، اس کی استعداد اور صلاحیت کیسی ہونی چاہئے، اور کیا وہ اتارے جانے کے معیار پر پورا اترتا ہے؟ اس علم کے ساتھ حق تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے۔

أوفیہ علمہ کہہ کہ پہلے سوال کا دوسرا جواب دے رہے ہیں، یعنی بعلمہ کا معنی فیہ علمہ ہے، مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ نے اتارا ہے، اس طرح کی اس میں علوم الہیہ ہیں، علم بمعنی معلوم ہے۔ دوسرے سوال کا جواب مفسر نے بالتصریح نہیں دیا ہے، مگر وہ ان کے کلام سے ظاہر ہے کہ أنزلہ بعلمہ کا جملہ يشهد بما أنزلہ کی تفسیر و توضیح ہے یعنی یہ جملہ مفسرہ ہے۔

سوال: اللہ کی گواہی کیا ہے؟ اور اس کا قائل منکرین کو کیسے کیا جائے؟

جواب: اللہ کی گواہی خود قرآن کریم ہے، قولاً بھی کہ اللہ خود اپنی گواہی کا ذکر کرتے ہیں اور عملاً بھی کہ ایک امی پر ایسا معجزانہ، حکیمانہ، عالمانہ اور حقائق و دلائل سے لبریز کلام اتر رہا ہے، جس کے مثل لانے سے ساری انسانیت عاجز ہے، یہ عملی گواہی ہے کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہے، بلکہ خالق انسان کا ہے، یہ گواہی بڑے سے بڑے

منکر پر ناطق ہے۔

دین الاسلام بکتہم الخ: یہود اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یہ راستہ دین اسلام ہے، اور ان کا روکنا یہ تھا، کہ رسول اللہ ﷺ کے متعلق جو پیشین گوئیاں اور آپ کی علامتیں جو اگلی آسمانی کتابوں میں تفصیل سے بیان کی گئی تھیں، انھیں وہ اپنے عوام سے پوشیدہ رکھتے تھے، اور کھل جانے کے بعد بھی تاویلوں سے انھیں چھپانے کی کوشش کرتے تھے، اس طرح عوام کو بلکہ بے پڑھے لکھے خواص کو بھی آپ کی طرف سے اندھیرے میں رکھتے تھے۔

بکتمان نعتہ: اس آیت میں مراد یہودی ہیں۔

مقدرین الخلود: خالدین فیہا، حال مقدرہ ہے، حال مقدرہ وہ حال ہے جس میں بذات خود حال بننے کی صلاحیت نہ ہو، کیونکہ حال کے لئے شرط ہے کہ اس کے عامل اور خود حال دونوں کا زمانہ ایک ہو، اگر زمانہ میں تقدم و تاخر ہوا، تو اس میں حال بننے کی گنجائش نہیں ہے، اب اس عبارت میں ملاحظہ فرمائیے کہ خالدین کو اگر حال قرار دیا جائے تو اس کا ذوالحال یہدیہم کی ضمیر جمع ہوگی، جو کہ مفعول بہ ہے، اور ان دونوں کا عامل یہدی ہے، اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ ہدایت کا تعلق دنیا سے ہے، اور خلود کا تعلق آخرت سے ہے، اور دونوں کے زمانے میں بون بعید ہے۔ ایسے موقع پر خالدین مثلاً اصل حال نہیں ہے بلکہ یوں ہے کہ ہدایت ہی کے زمانے میں خلود فی النار مانا جاتا ہے، مان لینا بمعنی تقدیر ہے، یعنی مقدرین الخلود فیہا یہ اصل حال ہے، چونکہ خلود تقدیراً مانا گیا ہے، اس لئے اسے ”حال مقدرہ“ کہتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ حال کا زمانہ، عامل کے زمانہ کے بعد ہو تو اسے حال مقدرہ کہتے ہیں، وہاں ”تقدیر“ کے کسی مشتق کو مقدر ماننا پڑتا ہے۔

﴿فامنوا﴾ بہ واقصدوا: آیت شریفہ میں آمنوا کا صلہ بہ ہے، یعنی رسول پر ایمان لاؤ، اور خیراً ایک فعل محذوف کا مفعول ہے، کیونکہ خیراً کا عامل آمنوا نہیں ہو سکتا، پس یہاں اقصدوا عامل محذوف ہے، جیسے کہا جاتا ہے: علفتها تبناً و ماءاً، علفتها کا مفعول تبناً تو ہے مگر ماءاً اس کا مفعول نہیں ہو سکتا، اس لئے وہاں سقیتها مقدر ماننا ہوگا۔

مما أنتم فیہ: اس عبارت کو ذکر کر کے مفسر نے بتایا کہ خیراً اسم تفضیل ہے، وہ رسول اللہ ﷺ کے منکر تھے، انھیں کہا گیا کہ اس حالت سے بہتر حالت کا قصد کرو، اور وہ ایمان ہے۔

تتجاوز الحد: غلو کے معنی حد سے تجاوز کرنا، دین کی جو حدیں متعین ہیں، ان سے آگے بڑھ جانا۔ اہل کتاب کی ایک بڑی گمراہی دین میں غلو ہے، یعنی حقیقت و اعتدال سے متجاوز ہو کر بہت دور تک چلے گئے، اگر کسی کی تعظیم پر اتر آئے تو اسے خدا کے درجے تک پہنچا دیا، مخالفت پر آئے تو اس کی صداقت ہی سے انکار کر دیا، اگر زہد

و عبادت کی راہ اختیار کی تو رہبانیت میں جا پڑے، اگر دنیا کے پیچھے پڑے تو اتنے چھوٹ گئے کہ نیک و بد کی تمیز اٹھادی، یہود و نصاریٰ اسی گمراہی کے شکار ہوئے۔ یہاں خطاب عیسائیوں سے ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں اس قدر غلو کیا کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، اور ایک خدا کی جگہ تین خداؤں کا اعتقاد پیدا کر لیا، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔

من تنزیہہ عن الشریک والولد : اللہ کے متعلق قول حق وہی ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے، یا اپنے نبی کی زبان سے ظاہر فرمایا۔ عیسائیوں نے اللہ کی الوہیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کو شریک کیا، اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہ قول حق کے قطعاً منافی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت وہ ہے، جو اگلی آیت میں بیان کی گئی ہے، یعنی وہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے کلمہ ہیں، ان کی طرف سے ایک روح ہیں۔

أوصلها الله : حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہیں، یہ کلمہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم تک پہنچا، چنانچہ حضرت جبرئیل نے ان سے کہا اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا (سورہ مریم) میں صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تاکہ تمہیں ایک صاف ستھرا بچہ بخش دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کلمہ ”کُن“ سے پیدا ہوئے ہیں، اس لئے وہ کلمۃ اللہ ہیں۔

ذو روح منه : حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری صفت روح ہے، مفسر نے فرمایا کہ وہ روح ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں چونکہ والد کی جسمانی نہیں ہے، بلکہ فرشتے کی طرف سے ڈالی ہوئی روحانیت ہے، اس لئے ان کی جسمانی مغلوب کا عدم ہے، اور ان کی روحانیت بہت زیادہ غالب ہے، اسی روحانیت کے غلبے کی وجہ سے انہیں آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہیں ایک طویل مدت کے لئے روک لئے گئے، اور زمانہ آخر میں اتارے جائیں گے۔ جب روحانیت کا یہ غلبہ ہے، تو انہیں مطلق ”روح“ کہا گیا ورنہ وہ حقیقت میں ذی روح ہیں۔

الآلهة ﴿ثلاثة﴾ : آیت کریمہ میں ”ثلاثة“ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف الآلهة ہے۔ عیسائی تین معبود قرار دیتے ہیں، اللہ، عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم۔

وأتوا خيراً لكم : انتھو اے بعد خیراً لكم ! ظاہر ہے کہ وہ انتھو کا مفعول نہیں ہے، بلکہ ایتوا فعل امر کا مفعول ہے۔

شہیداً علیٰ ذلک : وکیل بمعنی ”ذمہ دار“ اور کاموں کا ”نگراں“ ہوتا ہے، یعنی جس کے سپرد کوئی کام کر دیا جائے، اور وہ اس کی ذمہ داری کونبا ہے، اور شہید کے معنی بھی نگراں کے ہیں، اس کے معنی گواہ اور موجود و حاضر

کے بھی ہیں، مفسر نے وکیل کا ترجمہ ”شہید“ سے کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی تمام باتیں اللہ کی نگرانی میں ہیں، اور اس کے لئے وہی کافی ہیں، اس کے لئے انھیں معاون کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹے اور شریک کی گنجائش نکل سکے۔

لا یستنکفون أن یكونوا عبیداً : یہ عبارت لا کر اشارہ کیا ہے کہ الملائکة کی خبر محذوف ہے، اور ما قبل کا جملہ اس پر دلالت کرتا ہے، اور الملائکة، المسیح کا معطوف نہیں ہے، کیونکہ عبداً واحد ہے وہ الملائکة کی خبر نہیں بن سکتا، پس عبارت یوں ہوگی، ولا الملائکة المقربون یستنکفون أن یكونوا عبیداً اللہ۔

وهذا من أحسن الاستطراد : استطراد کے معنی ہیں، کسی مناسبت سے کلام کے اندر ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہونا جو کہ مقصود نہ تھا، لیکن اس کو سابق معنی مقصود سے مناسبت ہے، یہاں مقصد تو عیسائیوں کے اس عقیدہ کی تردید ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو خود خدا ہوگا، یا خدا کا بیٹا ہوگا، اس کے لئے یہ سخت عیب اور باعث ننگ و عار ہے کہ اسے بندہ اور غلام کہا جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ مسیح کو بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے، معلوم ہوا کہ وہ خدا نہیں، پھر اسی تذکرے میں مشرکین مکہ کی تردید فرمائی، کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، فرمایا کہ جو مقرب سے مقرب فرشتہ ہے، وہ بھی بندگی میں کوئی عار نہیں محسوس کرتا، پھر وہ اولاد کیسے ہو سکتا ہے۔

بَيْنَا : مُبِينٌ ، أَبَانٌ يُبِينُ سے مشتق ہے، اس کے معنی ظاہر ہونا ہے، اسی لئے اس کی تفسیر بَيْنٌ سے کی ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

وحدتِ دین ساری انسانیت کے لئے ایک اصل عظیم ہے، حضرت نوح عليه السلام سے لے کر حضور جناب نبی کریم ﷺ تک تمام پیغمبرانِ دین، ایک ہی دین و مذہب کے داعی ہیں، اور سب کو دین و مذہب کی تعلیمات بذریعہ وحی ملی ہیں، قرآن کریم نے بعض پیغمبروں کا ذکر کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا ہے، لیکن اس کا حکم ہے کہ سب کی تصدیق کرو اور سب پر ایمان لاؤ، یہ پیغمبر اس لئے بھیجے گئے کہ سب کے سامنے سچی بات آجائے، اور کسی کو مجالِ گفتگو نہ رہے کہ ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ ہمیں کس راہ پر چلنا ہے۔

یہود آپ کی صداقت و حقانیت کو خوب جانتے تھے، صرف عناد اور حسد کی وجہ سے سچائی کی شہادت دینے سے انکار کرتے تھے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ گواہی نہ دیں مگر اللہ تعالیٰ تو گواہی دیتے ہیں کہ انھوں نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں، اور اللہ کی گواہی بہت کافی ہے، واقعہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، اور اپنی غلط حرکتوں سے نبی ﷺ کے اوصاف و احوال کو چھپا کر لوگوں کو اللہ کے راستے سے باز رکھا، وہ خود راستے سے بہت دور جا پڑے ہیں، ان کافروں اور ظالموں کی نہ حق تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے

اور نہ سوائے جہنم کی راہ کے اور کوئی راستہ دکھائیں گے، اس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔

پھر فرمایا، اے لوگو! تمہارے رب کی جانب سے حق آچکا ہے، اس پر ایمان لاؤ، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی وسیع حکومت میں کچھ نقصان نہ پہونچا سکو گے۔

اے اہل کتاب! اپنے دین میں حدود سے تجاوز نہ کرو، اور اللہ پر جو کہنا ہو، حق کے سوا نہ کہو، عیسیٰ مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں، وہ اس کے سوا اور کیا ہیں کہ اللہ کے ایک رسول ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں، جو حضرت مریم کے واسطے سے عالم شہود میں آئے، نہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، تو تم اللہ پر اور ان کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ بالکل نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس عقیدے سے توبہ کرو، تاکہ تمہارے لئے خیر ہو، معبود تو صرف ایک اللہ ہے، وہ ان سب کمزوریوں سے پاک ہیں کہ ان کے کوئی بیٹا ہو، دنیا کی ہر چیز ان کی ملکیت ہے، وہ اکیلے سب کے وکیل ہیں اور کافی ہیں۔

حضرت عیسیٰ مسیح بایں جلالت شان ذرا بھی انھیں عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے کہلائیں، اور نہ مقرب فرشتوں کو بندہ کہلانے میں کوئی عار و استنکاف ہے، اور اگر کوئی اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرے گا، وہ بالآخر خدا کے پاس حاضر کیا جائے گا، تو وہاں ایمان اور عمل صالح سے جو لوگ آراستہ ہوں گے، انھیں اجر بھی ہوگا، اور مزید فضل بھی، اور جن کو تکبر اور عار ہوا ہوگا، انھیں دردناک عذاب ہوگا اور انھیں کوئی مددگار نہ ملے گا۔ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک حجت اور دلیل محمد ﷺ کی شکل میں آچکی ہے اور ہدایت کی روشنی قرآن کریم کی صورت میں نازل ہو چکی ہے، تو جو لوگ اللہ کو مان لیں گے اور اس پر پختگی سے جم جائیں گے وہ رحمت اور فضل اور ہدایت سے سرفراز ہوں گے۔



﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ فِي الْكَلَالَةِ ﴿قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا مَرْفُوعًا بِفَعْلٍ يَفْسِرُهُ﴾ هَلَكَ ﴿مَاتَ﴾ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ﴿أَيُّ وَلَا وَالِدٍ وَهُوَ الْكَلَالَةُ﴾ وَلَهُ أُخْتُ ﴿مِنْ أَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ﴾ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ وَهُوَ ﴿أَيُّ الْإِخْوَةِ﴾ كَذَلِكَ ﴿يَرِثُهَا﴾ جَمِيعُ مَاتَرَكَ ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرَ فَلَاشَيْءُ لَهُ، أَوْ انْثَىٰ فَلَهُ مَا فَضَّلَ عَنْ نَصِيبِهَا، وَلَوْ كَانَتْ الْإِخْتُ أَوْ الْإِخْ مِنْ أُمَّ فَفَرَضُهُ السُّدُسُ كَمَا تَقْدِمُ أَوَّلُ السُّورَةِ ﴿فَإِنْ كَانَتْ﴾ أَيُّ الْإِخْتَانِ ﴿اِثْنَتَيْنِ﴾ أَيُّ فَصَاعِدًا لِأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي جَابِرٍ وَقَدْ مَاتَ عَنْ أُخْوَاتٍ ﴿فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ الْإِخْ ﴿وَإِنْ كَانُوا﴾ أَيُّ الْوَرِثَةِ ﴿إِخْوَةٌ رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ﴾ مِنْهُمْ ﴿مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ شَرَائِعَ دِينِكُمْ لَ ﴿أَنْ﴾ لَا ﴿تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ وَمِنْهُ الْمِيرَاثُ، رَوَى

الشیخان عن البراءؓ أنها آخر آية نزلت ، أی من الفرائض۔

ترجمہ

(تم سے) کلالہ کے متعلق (فتویٰ پوچھتے ہیں، تم کہہ دو کہ اللہ تم کو کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، اگر کوئی شخص) امرؤ ایک ایسے فعل کا فاعل ہے جس کی تفسیر بعد میں آنے والا فعل کر رہا ہے یعنی ہلک (فوت ہو جس کی اولاد نہ ہو) اور اس کا باپ بھی نہ ہو، یہی آدمی کلالہ ہے (اور اس کی) سگی یا علاتی (بہن ہو، تو اس کے لئے ترکہ کا نصف ہے، اور وہ) یعنی ایسا بھائی (اس کا) یعنی کلالہ بہن کے تمام ترکہ کا (وارث ہوگا، اگر اس کے اولاد نہ ہو) اور اگر اس کی اولاد ذکر وراثت ہو، تو بھائی کے لئے کچھ نہیں ہے، اور اگر اولاد اناث ہو تو اس کے حصے سے جو بچ رہے گا، وہ اسے مل جائے گا، اور اگر اخیانی بہن یا بھائی ہو، تو اس کا حصہ سدس ہے، جیسا کہ ابتداء سورہ میں گزرا (پس اگر دو) بہنیں (ہوں) یا زیادہ، کیونکہ یہ آیت حضرت جابرؓ کے بارے میں اتری ہے، جن کی وفات کے بعد کئی بہنیں وارث تھیں (تو ان دونوں کے لئے) بھائی کے (ترکہ کا دو تہائی ہے، اور اگر) ورثہ (کئی بھائی اور بہن ہوں تو) ان میں سے (مرد کے لئے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے، اللہ تمہارے لئے) اپنے دین کے احکام (پیان کرتے ہیں کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں) اور انھیں چیزوں میں میراث بھی ہے، شیخین نے روایت کی ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی، یعنی فرائض (میراث) کے متعلق۔

تشریحات

الكلالة: وہ مرد یا عورت جس کے نہ کوئی اولاد ہو، اور نہ ماں باپ موجود ہوں۔

مرفوع بفعلٍ يفسره هلك : امرؤ، ما ضمير عامله على شريطة التفسير ہے، اس کا عامل ہلک محذوف ہے، بعد والا ہلک اس کا قرینہ اور تفسیر ہے۔

من أبوين : یہاں بہن سے مراد سگی بہن، یا علاتی یعنی والد ایک ہو، والدہ مختلف ہو۔

الاخ كذلك : اور ایسا ہی بھائی جیسی بہن تھی، یعنی سگی بھائی یا علاتی بھائی۔

أو انشىٰ فله ما فضل : اگر اس کے بیٹی ہو، تو پہلے بیٹی اپنا حصہ لے گی، اگر ایک ہے تو نصف اور ایک سے زائد ہوں تو دو ثلث، پھر باقی بھائی کے حصہ میں بطور عصبہ کے ہوگا۔

وقدمت عن أخواتٍ : بظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر کا انتقال ہوا، اور ان کی بہنیں ہی صرف وارث تھیں، اور اسی پر یہ آیت اتری، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا انتقال دو ربوی میں ہی ہوا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، ان کا انتقال تو وفات نبوی کے بعد بہت بعد ہوا، البتہ زمانہ نبوت میں ان کی صورت حال یہی تھی،

ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کے بعد سب ان کی بہنیں ہی تھیں، ابھی نکاح بھی نہ ہوا تھا کہ اولاد ہوتی۔

﴿أَنْ لَا تَضْلُوا﴾: یہ مفعول لہ ہے، اور لاء محذوف ہے، اور کشاف میں ہے کہ اس کا معنی کراہۃ أَنْ تَضْلُوا ہے، اور یہی راجح ہے، کیونکہ اس طرح کے مواقع پر لاء کے مقابلے میں مضاف کا حذف زیادہ عام اور شائع ہے۔

﴿مضامین آیات و تفسیر﴾

سورت کی ابتداء قرابت داروں کے حقوق و احکام سے ہوئی تھی، پھر درمیان میں بھی سلسلہ بیان اسی طرف پھر گیا تھا، اب سورہ کا خاتمہ بھی اسی پر ہے، کلا لہ کے بھائی بہنوں کی تین صورتیں ہیں، سگے ہوں، اخیافی یعنی ماں شریک ہوں، علاقائی یعنی باپ شریک ہوں، آیت: ۱۲ میں اخیافی بھائی بہن کا تذکرہ ہے، اور یہاں سگے اور علاقائی بھائی بہن کا ذکر ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کلا لہ کے ایک بہن ہو تو نصف ترکہ پائے گی، اور اگر ایک سے زیادہ بہن ہو تو دو تہائی کی سب مل کر حصہ دار ہوں گی، اور اگر بھائی بہن دونوں ہوں، تو سب میراث لالذکر مثل حظ الانثیین کے اصول پر تقسیم ہوگی، اور اگر کلا لہ کا صرف ایک بھائی ہو تو وہ کل میراث لے لے گا۔

مَلَّتْ مَلَّتْ مَلَّتْ مَلَّتْ مَلَّتْ

جلداول تمام ہوئی

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

اعجاز احمد اعظمی

۹ صفر ۱۴۳۰ھ مطابق ۵ فروری ۲۰۰۹ء یوم الخمیس (جمعرات)

